

ردّ قادیانیت

رسائل

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود رحمۃ اللہ علیہ

احتساب قادیانیت

جلد ۲۴

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

مضوری باغ روڈ، ملتان - فون: 4514122

ردِ قادیانیت

رسائل

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود

احسب قادیانیت

۲۲

عالمی مجلس تحفظ احقر نبوت

بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ (م ۱۱ مئی ۲۰۰۳ء) ڈسکہ کے رہائشی تھے۔ جامعہ مدینہ ڈسکہ کے مہتمم حضرت مولانا محمد فیروز خان فاضل دیوبند کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ دورہ حدیث آپ نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ اور جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا رسول خانؒ کے شاگرد رشید تھے۔ بیعت کا تعلق حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحبؒ سے تھا۔ ایسے نابغہ روزگار شخصیات کی صحبتوں نے آپ کو چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا تھا۔ صرف ونحو پر مکمل دسترس تھی۔ ذی استعداد عالم دین تھے۔ قدرت نے آپ کو خوبیوں کا مرقعہ بنا دیا تھا۔ عمر بھر بڑی مستعدی سے عسرویہ میں تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ تمام بے دین فتنوں کے خلاف آپ کے پاس معلومات کا قابل قدر و قابل فخر ذخیرہ تھا۔ اخلاص وللہیت فقر و استغناء کا پیکر تھے۔ ان کو دیکھ کر اکابر علمائے اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ طبیعت میں وقار تھا۔ مزاج میں مسکنت تھی۔ سراپا اخلاص تھے۔ نام و نمود دکھاوہ اور ریا سے کوسوں دور تھے۔ عمر بھر رزق حلال کما کر دین کی فی سبیل اللہ تبلیغ کرتے رہے۔ شان ابو ذریؓ کا پر تو تھے۔ قادیانیت و عیسائیت پر بھرپور گرفت رکھتے تھے۔ ان کا لٹریچر آپ کو ازبر تھا۔ برصغیر میں اس وقت عیسائیت کے لٹریچر پر گہری نظر رکھنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قادیانیت و عیسائیت کے خلاف متعدد و قیع کتب اور عام رسائل تالیف کئے۔ آپ کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے والہانہ تعلق تھا۔ چناب نگر کے سالانہ رد قادیانیت کورس کے افتتاح پر تشریف لاتے اور اختتامی دعاء کے بعد رخصت ہوتے۔ ان گنت خوبیوں کے مالک تھے۔ کئی بار مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ لیکن اتنے مضبوط اعصاب کے انسان تھے کہ ہر دفعہ بیماریوں کو شکست دے کر شیر ہو جاتے تھے۔ یہ ان پر رب کریم کا کرم تھا۔ احکام شرع پر مداومت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ وفات کے روز شام تین بجے جنازہ ہوا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان جالندھری نے نماز جنازہ پڑھایا۔

مولانا عبداللطیف مسعود صاحب کو ردِ عیسائیت پر خصوصی دسترس حاصل تھی۔ تحریف بائبل، بزبان بائبل اور اس کا ”مقدمہ“ ردِ عیسائیت پر یہ آپ کی گرانقدر تصنیفات ہیں۔

مولانا مرحوم کو ردِ قادیانیت پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے ردِ قادیانیت پر متعدد کتب و رسائل و اشتہار شائع کئے جو ہمیں میسر آئے وہ یہ ہیں۔

- .....۱ رفع و نزول و حیات مسیح علیہ السلام
- .....۲ حقیقت مرزائیت
- .....۳ مرزا قادیانی کی سچی باتیں
- .....۴ بدترین دجل و فریب
- .....۵ ایک مسجد کی حالت زار
- .....۶ قادیان کے الہامی چکر
- .....۷ قادیانیت کی حقیقت
- .....۸ معرکہ حق و باطل
- .....۹ مرزا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی
- .....۱۰ پنجابی نبوت کے کرشمے
- .....۱۱ مرزائیوں کو احمدی کہنا زبردست کفر ہے
- .....۱۲ عدالتی فیصلہ
- .....۱۳ وہ عہد کا رسول
- .....۱۴ آئینہ قادیانی
- .....۱۵ مسلم ذرا ہوشیار باش



۱۶..... مرزا غلام احمد قادیانی کے ساٹھ (60) شاہکار جھوٹ

۱۷..... مرزائیت کا الہامی ہیڈ کوارٹر

۱۸..... مرزا قادیانی کے رنگ برنگے شیطانی الہامات

۱۹..... مرزا قادیانی کے بائیس (22) جھوٹ

مقدم الذکر نمبر: مستقل کتاب ہے۔ حال ہی میں شائع ہوئی۔ عام طور پر مل جاتی ہے۔ احتساب قادیانیت کی اس جلد چوبیس (۲۴) میں وہ شامل نہیں کی۔ باقی اٹھارہ کتب و رسائل تمام اس جلد میں شامل ہیں۔ مؤخر الذکر تین نمبر ۱۷، ۱۸، ۱۹۔ یہ رد قادیانیت پر آپ کے اشتہارات ہیں۔ ان کو بھی اس جلد میں شامل کر دیا گیا۔ حق تعالیٰ، مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ قارئین لیجئے احتساب قادیانیت کی ۲۴ ویں جلد پیش خدمت ہے۔ ۲۵، ۲۶ پر کام شروع ہے۔ حق تعالیٰ کو منظور ہے تو وہ بھی جلد پیش خدمت ہوں گی۔

اس جلد کی تیاری میں بہت سارے احباب مولانا عزیز الرحمن ثانی مبلغ لاہور، مولانا مفتی محمد راشد مدنی مبلغ رحیم یار خان، مولانا عبدالحکیم نعمانی مبلغ ساہیوال، مولانا غلام رسول دین پوری دفتر مرکزی، مولانا عبدالستار حیدری مبلغ میانوالی، بھکر، مولانا عبدالرشید سیال مبلغ مظفر گڑھ، جناب عزیز الرحمن رحمانی دفتر مرکزیہ اور دیگر جن دوستوں نے معاونت کی وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت قبول فرمائی اور کتاب طبع ہو رہی ہے۔

فَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا!

محتاج دعاء: فقیر اللہ وسایا

۱۴/۱۲/۱۴۲۹ھ، بمطابق ۱۳/۱۲/۲۰۰۸ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

## ۱۔ جمالی فہرست ..... احتساب قادیانیت جلد ۲۴

۷	۱..... حقیقت مرزائیت
۳۳	۲..... مرزا قادیانی کی سچی باتیں
۶۵	۳..... بدترین دجل و فریب
۷۷	۴..... ایک مسجد کی حالت زار
۸۵	۵..... قادیان کے الہامی چکر
۱۲۳	۶..... قادیانیت کی حقیقت
۱۶۳	۷..... معرکہ حق و باطل
۲۲۱	۸..... مرزا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی
۳۱۹	۹..... پنجابی نبوت کے کرشمے
۳۳۱	۱۰..... مرزائیوں کو احمدی کہنا زبردست کفر ہے
۳۸۵	۱۱..... عدالتی فیصلہ
۴۷۵	۱۲..... وہ عہد کا رسول
۵۲۳	۱۳..... آئینہ قادیانی
۶۱۵	۱۴..... مسلم ذرا ہوشیار باش
۶۲۹	۱۵..... مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ (60) شاہکار جھوٹ
۶۵۳	۱۶..... مرزائیت کا الہامی ہیڈ کوارٹر
۶۶۵	۱۷..... مرزا قادیانی کے رنگ برنگے شیطانی الہامات
۶۶۹	۱۸..... مرزا قادیانی کے بائیس (22) جھوٹ

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

# حقیقت مرزائیت

دجل و فریب، کذب و افتراء، حماقت و جہالت

مع رسالہ

## علامات مسیح حقانی بزبان مسیح قادریانی

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود<sup>رح</sup>

## حقیقت مرزائیت

کذب و افتراء، دجل و فریب، حماقت و جہالت (۱۰ اقادیانی اصولوں کی روشنی میں) ضلع گورداسپور تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غداران ملت و ملک کا ایک قدیم خاندان رہائش پذیر تھا۔ جس کا سربراہ مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ اس خاندان نے جہاں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے دوران اپنے آقا انگریز کا حق نمک ادا کرتے ہوئے مجاہدین وطن و ملت کے خون سے خوب ہاتھ رنگے۔ ہاں اس کے آئندہ اخلاف بھی اسی ڈگر پر چلنے کا عزم لے کر دنیا میں وجود پذیر ہوتے چلے آئے ہیں۔ اسی غدار ملت کے گھر ۱۸۳۹ء، ۱۹۲۰ء کے دوران ایک فرزند تولد ہوا۔ جس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ یہ فرزند ابتدائی عمر میں کسی نمایاں پوزیشن کا مالک نہ تھا۔ اس کے باپ نے خود اور چند دیگر افراد کے ذریعے اس کی ادھوری سی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کیا۔ آخر یہ عالم شباب (۲۵ سال کی عمر میں) ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر سیالکوٹ کچہری میں معمولی سی تنخواہ مبلغ ۱۰ روپیہ پر ۴ سال تک تعینات رہا۔ پھر وہاں سے اگلے مرحلہ کے لئے ایک خاص مقصد کے تحت گھر واپس آ گیا اور مختلف اہل مذاہب کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ جس میں ہمیشہ ناکام ہی رہا۔ آخر پلان کے مطابق ۱۸۸۰ء کے لگ بھگ براہین احمدیہ نامی ایک کتاب حمایت اسلام کے سلسلہ میں شائع کرنے کے لئے اشتہار بازی شروع کر دی۔ جس پر اس کی حرص زرا ندوزی کی خوب آبیاری ہوئی۔ اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں مہدویت اور مجددیت کا دعویٰ کر کے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا اور دو سال بعد ۱۸۹۱ء میں مثیل مسیح اور پھر مسیح موعود کا دعویٰ داغ دیا اور مختلف قسم کے الہامات اور پیش گوئیاں شائع کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ مختلف تصانیف بھی لکھیں جن میں دعویٰ مسیحیت، نبوت بھی کر دیا۔ نیز قرآن و حدیث میں غلو و تحریف کا بھی باز ارگرم کر دیا۔ توہین انبیاء و صلحاء کا محاذ بھی کھول دیا۔ جس کے رد عمل میں علمائے حقانی نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے ہر دعویٰ اور تحریف و توسیل کا تار پور بکھیر دیا۔ تمام مکاتب فکر کے جمیع علماء نے اس پر فتویٰ کفر لگا دیا۔ جس سے بوکھلا کر یہ دجال نہایت گندی ذہنیت پر اتر آیا۔ اس کے بعد اس نے ۱۹۰۱ء میں دعویٰ نبوت کر دیا اور نہایت زور شور سے اپنے کفر و الحاد کی اشاعت میں مصروف رہا۔ ادھر علمائے حق نے بھی اس کا ناک میں دم کر دیا۔ چنانچہ اسے کبھی بھی آمنے سامنے بحث و مناظرہ کی جرأت نہ ہو سکی۔ محض اپنے گھر بیٹھ کر ہی ہرزہ سرائی کرتا رہتا۔ متعدد مناظرے بھی کئے، مگر سب تحریری تھے۔ تقریری ایک بھی نہ کر سکا۔ بالآخر اسی گہما گہمی میں



۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو نہایت ہی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر کر واصل جہنم ہوا۔ اس نے پچاس کتب اور تین صد اشتہارات اپنا طحانہ ترکہ چھوڑا۔ جن میں ہر قسم کا کذب و افتراء، مکرو فریب، جہالت و حماقت بھری ہوئی ہے۔ کوئی صحیح اور معقول بات ہر گز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بقول خود خدا کا فرستادہ نہیں بلکہ ملکہ برطانیہ کے زیر اثر مبعوث ہوا تھا۔ انگریز کا ہی لگایا ہوا پودا تھا۔ یہ حقیقت سو فیصد صحیح اور درست ہے کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو خدا، رسول اور دین و مذہب سے رتی برابر واسطہ نہیں ہے۔ یہ محض ایک تخریبی صیہونیت اور استعاریت کا آلہ کار گروہ ہے۔ ان کے قلوب واذاہان میں خدا رسول اور دین و مذہب کا رتی برابر تقدس یا عقیدت نہیں ہے۔ یہ لوگ چند مذہبی مباحث کو محض آڑ بنا کر اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہتے ہیں اور ہم بھی محض اس لئے ان کے ساتھ مذہبی مباحثہ کرتے ہیں تاکہ عوام الناس میں یہ تاثر پیدا نہ ہو سکے کہ ہمارے علماء کو ان کے مسائل کا جواب نہیں آتا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو اوپر واضح کر دی گئی ہے۔ بھلا دین و ایمان اور جھوٹ میں کیا رابطہ ہے۔ ایمان اور دجل و فریب کا کیا جوڑ ہے؟

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں صرف دس وہ اصول اور ضابطے پیش کئے جاتے ہیں جو کہ خود مرزا قادیانی کی ذاتی کتب اور تحریرات سے لئے گئے ہیں۔ پھر ان اصولوں پر مرزا کی سیرت، شخصیت اور کردار کو پرکھا گیا ہے کہ مرزا کسی بھی قسم کے شرف و فضل یا اکرام و اعزاز کا مستحق یا کسی بھی سطح پر قابل ذکر اور توجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ہر منفی وصف کا منبع و مرکز اور پلندہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ چہ جائیکہ اسے کسی بھی اعزاز یا منصب و عہدہ کا مستحق قرار دیا جائے۔

اب ذیل میں وہ اصول و ضوابط اور ان پر شخصیت مرزا کی فٹنگ ملاحظہ فرمائیے۔

### مرزا قادیانی کی اصلی پوزیشن (شرافت یا رذالت؟)

مرزا قادیانی خود بھی اور اس کے چیلے چانٹے مرزا کے کئی کمالات بیان کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب ہم اہل حق ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں مرزا کے کردار پر بحث کا عنوان پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی مرزائی اس پر بحث کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ کسی شخصیت کے دعویٰ اور تعلیمات کی صحت و عدم صحت معلوم کرنے کے لئے اس کے ذاتی کردار پر بحث از حد ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ خود رب العالمین نے اپنے حبیب کریم خاتم الانبیاء ﷺ کی حقانیت کے اثبات میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔ ”فقد لبشت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون (یونس: ۱۶)“ ﴿اعلان نبوت﴾ بلاشبہ میں تم میں اس دعویٰ رسالت سے پیشتر عمر کا کافی حصہ

(جالیس برس) گزار چکا ہوں۔ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے یا وعدہ خلافی کرتے دیکھا یا سنا ہے؟ (یہ کبھی نہیں ہوا تو سوچ لو کہ میرا دعویٰ نبوت کتنا صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے) ﴿

اسی طرح حدیث پاک میں بھی مذکور ہے کہ جب آپؐ نے کفار مکہ کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سب کو بلا کر اکٹھا فرمایا اور پھر فرمایا ”ھل وجد تمونسی صادقاً او کاذباً“ کہ کیا تم نے مجھے آج سے قبل ہر بات و معاملہ میں سچا پایا ہے یا اس کے خلاف غلط بیانی سے کام لینے والا پایا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر پکارا کہ ”ما جربنا علیک الا صدقاً“ (بخاری ج ۲ ص ۷۰۲، باب و انذر لمشرک المعربین) کہ ہم نے ہر موقعہ پر آپؐ کو راست باز اور سچا ہی پایا ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے ان کے سامنے اعلان حق فرمایا۔

مگر ان حقائق کے برعکس قادیانیت کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ مرزا قادیانی کا ذاتی کردار ہر پہلو سے داغ دار اور منفی ہے۔ انسانیت کے خصائل و صفات سے بالکل عاری ہے۔ حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے واضح طور پر اس کا منفی کردار اظہر من الشمس ہے۔ ذیل میں اس حقیقت پر شواہد پیش خدمت ہیں۔ ان کو بغور مطالعہ فرما کر بائی قادیانیت کی صحیح پوزیشن اور کردار معلوم کر لیں کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ وہ کسی روحانی عہدے پر فائز ہو۔

۱..... مرزا قادیانی کی اپنی پوزیشن کے متعلق وضاحت لکھتے ہیں کہ:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۷)

بتلائے ایسی شخصیت کو کیا تسلیم کریں؟

۲..... اصول

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ:

..... ”کسی سچے اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں اتنا تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔“ (ست بجن ص ۳۰، خزائن ج ۱ ص ۱۴۲)

۳..... ”ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریقے سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“ (ست بجن ص ۳۱، خزائن ج ۱ ص ۱۴۳)

۳..... ”تلك كلم متناقضته متها فتة لا ينطق بها الا الذي ضلت

هواسه، وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين“

(انجام آتھم ص ۸۳، خزائن ج ۱۱ ص ۸۳)

مندرجہ بالا تینوں قادیانی عبارات اور حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح الدماغ انسان کے کلام میں تناقض اور مخالفت (کہیں ایک بات لکھے اور دوسری اس کے خلاف اور بات لکھ دے) نہیں ہو سکتی۔ ہاں پاگل، منافق، مجبوظ الحواس اور گمراہ کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ذیل میں جناب مرزا قادیانی کی شہادت اور اقرار سنئے۔ لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”(میں نے) ان دو متناقض باتوں (حیات مسیح اور وفات مسیح، نقل) کو

(اعجاز احمدی ص ۸، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۴)

براہین میں جمع کر دیا۔“

۲..... ”رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں تناقض کیوں پیدا ہو گیا۔ سو

اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو کہ یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسا براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگا۔ مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہوں۔ اس تناقض کا سبب بھی یہی تھا۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۴۸، ۱۴۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲، ۱۵۳)

۳..... ”اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ

پورا دینے کے کئے ہیں۔ جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں۔ مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں وہ میری غلطی ہے..... میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا ان الہامات کے منشاء سے جو براہین احمدیہ میں درج ہیں۔ صریح نفیض پڑا ہوا ہے۔“

(ایام الصلح ص ۴۱، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۲، ۲۷۱)

ف..... یہ سراسر کذب و دجل ہے۔ اس نے (براہین ص ۳۹۹، ۵۰۵، خزائن ج ۱

ص ۵۹۳، ۶۰۱) پر قرآنی آیات کے حوالہ سے نزول مسیح کا اقرار کیا ہے۔ ایسے ہی (شہادت القرآن

ص ۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸) نیز (ازالہ اوہام ص ۵۵، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰) پر اس نے حیات مسیح کے عقیدہ

کو قرآن و حدیث اور اجماع امت کے حوالہ سے اجماعی اور اتفاقی تسلیم کیا ہے۔ اب اس سے

انکار کر رہا ہے۔ محض اپنے الہامات کی بناء پر، تو کیا اس کے الہام قرآن مجید اور اجماع امت اور

بے شمار احادیث سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! بالقرض اس کے الہامات قطعی

بھی مان لئے جائیں تو اور خرابی لازم آئے گی کہ خدا کے کلام میں تناقض لازم آئے گا جو کہ

از روئے قرآن مجید بھی سراسر محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے صداقت قرآن پر عدم تناقض کو دلیل بنایا

ہے۔ پھر اس میں تناقض کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ قرآن برحق ہے۔ مگر الہامات مرزا محض دسراوس ابلیسیہ ہیں۔

۳..... اصول

مرزا قادیانی بقلم خود لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۵۶ حاشیہ)

۲..... ”کلف سے جھوٹ بولنا گوہ کھانا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۹، خزائن ج ۱۱ ص ۳۴۳)

۳..... ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر

اور بد ذات آدمی کا کام ہے۔“ (آریہ دھرم ص ۱۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۳)

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، مرتد ہونا ہے، غلاظت خوری ہے، شرارت اور بد ذاتی ہے۔ مگر اس اقرار کے باوجود مرزا نے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ دھڑلے سے بولے، سرعادت بھی بولے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

پہلا عدالتی جھوٹ

۱..... ”پیش گوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے ہاویہ یا ذلت کا

وعدہ تھا، ایک گروہ مراد ہے۔ جو اس بحث سے تعلق رکھتا ہے۔ خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون

یا حامی یا سرکردہ تھا۔“ (انوار الاسلام ص ۲، ۸، خزائن ج ۹ ص ۱۵۷ ایضاً)

۲..... ”یہ تو مسٹر عبداللہ آتھم کا حال ہوا۔ مگر اس کے باقی رفیق بھی جو فریق

بحث کے لفظ میں داخل تھے..... ان میں سے کوئی بھی اثر ہاویہ سے خالی نہ رہا اور ان سب نے اس

میعاد کے اندر اپنی اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا مزہ چکھ لیا..... ڈاکٹر مارٹن کلا رک اور ویسے ہی

اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیزوں اور ماتحتوں کو سخت صدمہ پہنچا۔“

(انوار الاسلام ص ۸، خزائن ج ۹ ص ۱۵۷ ایضاً)

اور کتاب البریہ میں جو ۱۸۹۷ء میں بیان عدالت میں دیا بالکل اس کی ضد ہے اور ہے

بھی وہ بیان بعد تالیف انوار الاسلام کے۔

۳..... ”ہم نے کبھی پیش گوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلا رک مرجائیں گے..... عبداللہ

آتھم صاحب درخواست پر پیش گوئی صرف اس کے واسطے کی تھی۔ کل متعلقین مباحث کی بابت



پیش گوئی نہ تھی۔“ (کتاب البریہ ص ۲۸۲، خزائن ج ۱۳ ص ۳۰۰) دیکھئے کتنی جلد مکر گیا ہے۔

۴..... ”ڈاکٹر کلارک صاحب کی بابت یہ پیش گوئی نہ تھی اور نہ وہ اس پیش گوئی میں شامل تھا۔ فریق سے مراد آتھم ہے۔ جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ فریق اور شخص کے ایک ہی معنی ہیں..... میں نے کوئی پیش گوئی نہ اشارتاً نہ کنایہ، ڈاکٹر صاحب کی بابت کی۔“

(کتاب البریہ ص ۲۶۱، ۲۶۲، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۹، ۲۸۰)

یہی صاحب انجام آتھم میں لکھ چکے ہیں کہ فریق سے مراد تمام افراد فریق مخالف ہیں۔ ایک بھی باہر نہیں۔ (دیکھئے انجام آتھم ص ۶۷، خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۵) اور اب شخص اور فریق کو ایک بنا رہا ہے۔ دیکھا کبھی ایسا نوسر باز؟

دوسرا عدالتی جھوٹ

۱۸۹۷ء میں کتاب انجام آتھم کے ضمیمہ میں لکھا کہ میرے مریدوں کو تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہے اور جب انکم ٹیکس کا مقدمہ ۱۸۹۸ء میں دائر ہوا تو اس وقت اپنے مریدوں کی تعداد صرف ۳۱۸ تسلیم کی۔ گویا ایک سال بعد تمام مریدوں کو طاعون چاٹ گئی۔ حوالہ جات سنئے:

”مباہلہ سے پیشتر میرے ساتھ شائد تین چار سو آدمی ہوں گے اور اب آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ میں جاں فشاں ہیں۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۶، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۰)

”مرزا غلام احمد قادیانی ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا..... اس فرقہ میں حسب

فہرست منسلکہ ہذا ۳۱۸ آدمی ہیں۔“ (ضرورت الامام ص ۴۳، خزائن ج ۱۳ ص ۵۱۴)

”اس جگہ محنت اور تفتیش منشی تاج دین صاحب تحصیل دار پر گنہ گار قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صحیحہ کو آئینہ کی طرح حکام بالادست کو دکھادیا۔“ (ضرورت الامام ص ۴۲، خزائن ج ۳ ص ۵۱۳)

یہ بیان جو داخل عدالت ہوا وہ ایک تحصیل دار صاحب کا بیان تھا۔ جس کی تائید و تصدیق خود مرزا قادیانی نے بھی کر دی۔

تیسرا جھوٹ

”مجدد صاحب سرہندی نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۹۰، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶)

یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ مجدد صاحب نے تو لفظ محدث لکھا ہے، یہ نبی بنا بیٹھا۔ چنانچہ یہی لفظ محدث اس سے قبل مرزا قادیانی نقل کر بھی چکے ہیں۔ دیکھئے (براہین احمدیہ ص ۵۳۷، خزائن ج ۱ ص ۶۵۵ حاشیہ در حاشیہ) نیز (تخفہ بغداد ص ۱۷ حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۲۱) اور (ازالہ اوہام ص ۴۵۲، خزائن ج ۳ ص ۳۴۱) میں بھی صرف محدث ہی نقل کیا ہے۔ مگر یہاں رگ دجالیت نے جوش مارا تو محدث کی بجائے نبی لکھ مارا۔

سچ ہے۔ ”ان الشیاطین لیو حون الی اولیئہم“

۴..... اصول

جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”وہ شخص بد ذات اور حرام زادہ ہے جو مقدس اور راست بازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے۔“ (آریہ دھرم ص ۵۵، خزائن ج ۱ ص ۶۲) نیز یہ بات اور کتب میں بھی مندرج ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے خود اس جرم کا دل کھول کر ارتکاب کیا ہے۔ لہذا یہ فتویٰ خود اس پر عائد ہوگا۔ سنئے:

۱..... ”اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا..... یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔“ (کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

۲..... نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ شرمناک بہتان لگایا کہ: ”عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“

(کشتی نوح ص ۶۷ حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

۳..... نیز لکھا ہے کہ: ”یحییٰ نبی کو اس (مسیح علیہ السلام) پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوٹھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ نبی کا نام حضور رکھا۔ مگر مسیح کا نام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔“

(دافع البلاء ص ۴ حاشیہ، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰)

مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے حضرت حسین اور مسیح کے حق میں زبان درازی کی ہے۔ اعجاز احمدی میں لکھا ہے کہ: ”میں نے اس قصیدہ میں جو امام حسین کی نسبت لکھا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے۔ یہ انسانی کاروائی نہیں۔ غبیث ہے وہ انسان جو اپنے

نفس سے کاموں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۸، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹)  
 گویا آپ نے خود یہ زبان درازی نہیں کی۔ بلکہ اس کی شیطانی وحی نے کرائی ہے۔ کیونکہ رحمانی  
 وحی میں اس قسم کی ہرزہ سرائی نہیں ہو سکتی۔“

حضرت داؤد علیہ السلام پر تہمت، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:  
 ”اور ایک نانی یسوع صاحب کی جو ایک رشتہ سے دادی بھی تھی بہت سیح (صحیح بہت  
 سیح) کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دیکھو ۲  
 سموئیل ۲: ۱۱ (یہ حوالہ بھی غلط صحیح ۵: ۴ ہے)“

حضرت الیسع اور مسیح، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام پر مسمریزم کی تہمت  
 ۱..... ”اور اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح بن  
 مریم باذن و حکم الہی الیسع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے..... اگر یہ عاجز اس عمل کو  
 مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید تو ی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمایوں  
 میں ابن مریم سے کم نہ رہتا۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۰۸ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۲۵۷، ۲۵۸)

۲..... ”پھر وہ ایک اور وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ  
 بعض مردے زندہ ہو گئے۔ جیسے وہ مردہ جس کا خون بنی اسرائیل نے چھپا دیا تھا۔ جس کا ذکر اس  
 آیت میں ہے۔ واذ قتلتم نفسا فادارء تم فیہا واللہ مخرج ماکنتم تکتمون“ اس کا  
 جواب یہ ہے کہ: یہ طریق علم عمل الترب مسمریزم کا ایک شعبہ تھا۔ جس کے بعض خواص میں سے یہ  
 بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ بہ حرکت حیوانات پیدا ہو کر اس سے بعض  
 مشتبہ اور مجہول امور کا پتہ لگ سکتا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۱، خزائن ج ۳ ص ۵۰۴)

۳..... ”اور یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان  
 کے اجزاء متفرقہ یعنی جدا جدا کر کے چار پہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ بلانے سے آگئے تھے۔  
 یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۴، خزائن ج ۳ ص ۵۰۶)

سید کائنات ﷺ کی تحقیر  
 ”جب آنحضرت ﷺ کی بیبیوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ماپنے شروع کئے تھے تو  
 آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔“

(ازالہ ص ۳۶، خزائن ج ۳ ص ۳۹۶)  
 مندرجہ بالا اقتباسات سے واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے ضابطہ تو ٹھیک بنایا ہے۔ مگر

اس میں خود بری طرح پھنسا ہے۔ دیکھئے ان اقتباسات کی رو سے آریہ دھرم ص ۵۵ میں ذکر کردہ تمام القاب کا واحد مستحق ٹھہرے گا۔

## ۵..... مرزائی اصول

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

”اسی طرح انسان کو چاہئے کہ جب کوئی شریہ گالی دے تو مؤمن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کت پن کی مثال صادق آئے گی۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۲ ص ۸۰)

لہذا اس حوالہ کی رو سے اگرچہ بالفرض مرزا قادیانی نے جواباً ہی گالیاں دی ہوں تو بھی اس پر اپنے بیان کردہ کت پن کی مثال تو لازماً صادق آئے گی۔ ادھر آنجناب کی گالیوں اور گندہ دہنی کی طویل فہرست محتاج بیان نہیں ہے۔

## ۶..... قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

”اخفاء کرنا لیمون کا کام ہے۔“ الاخفاء معصیتہ عندی ومن سیر اللئام  
(الاستنباط ص ۳۶ ملحقہ حقیقت الوحی، خزائن ج ۲۲ ص ۶۵۷)

مرزا کا اعتراف اخفاء..... لکھتا ہے کہ:

”واللہ قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت المسيح ابن مريم  
وانى نازل فى منزلته ولكنى اخفيتہ..... وتوقفت فى الاظهار عشر سنين“  
(آئینہ مکالات ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ۵۵۱)

مندرجہ بالا اقتباس کی رو سے بتلائیے مرزا قادیانی لیم ہوایا نہیں؟

## ۷..... قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:

”ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو  
ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۲۶، خزائن ج ۲۱ ص ۲۹۲)

اب دیکھئے مرزا قادیانی خود ہی اس دفعہ کا سنگین مجرم اور ان القابات کا صحیح مستحق بننا  
ہے۔ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا اور اس الہام کو موکد بقسم کیا تھا  
دیکھئے لکھتا ہے کہ:



”یَسْئَلُونَكَ احِقَ قُلُوبُ اِي وَرَبِّیْ اِنَّهٗ لِحَقٌّ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ زَوْجِنَا  
 كَهَا لَا مَبْدَلَ بِكَلِمَاتِی“ (آسمانی فیصلہ ص ۴۰، خزائن ج ۳ ص ۳۵۰)

لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ (آسمانی نکاح) حق ہے تو کہہ دے کہ ہاں  
 میرے رب کی قسم وہ یقیناً حق ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے  
 میرے کلام کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔

خود اس نے یہ اصول تحریر کیا ہے کہ: ”والقسم یدل علی ان الخبر محمول  
 علی الظاهر لا تاویل فیہ ولا استثناء والا فای فائدہ کانت فی ذکر القسم“  
 (حماۃ البشری ص ۱۲، حاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

پھر یہ حقیقت واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے کبھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا  
 کہ مرزا نے جھوٹ موٹ محمدی بیگم کے والدین کو مرعوب کرنے کے لئے یہ بڑھانکی تھی کہ یہ خدائی  
 الہام ہے۔ تو صاف طور پر مرزا قادیانی مندرجہ بالا القابات کا مستحق ہو گیا۔ لہذا اس کا دامن چھوڑ کر  
 سیدھے سادے مسلمان ہو جاؤ۔

۲..... اسی طرح براہین کے متعلق لکھتا ہے کہ: ”میں نے اسے ملہم و مامور ہو کر لکھا  
 ہے۔“ (دیکھو اس کی کتاب سرمہ چشم آریہ، اشتہار واجب الاظہار خزائن ج ۲ ص ۴۸)  
 اور اسی براہین میں دو جگہ پر حیات و نزول مسیح کو آیات قرآنی سے ثابت کیا ہے۔

(براہین احمدیہ ص ۴۹۹، ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳، ۶۰۱)  
 جس مسئلہ کے قادیانی غلط اور قبل از الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس نے بقول  
 خود ملہم و مامور ہو کر لکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ مرزا کو وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ محض منہ زور ہو کر دعویٰ  
 الہام کرتا پھرتا ہے۔ لہذا وہ بقول خود سور اور بندروں سے بھی بدتر ہوا۔ ایسے ہی ہم مرزا کے بقایا  
 الہامات کو بھی شیطانی سمجھتے ہیں۔ لہذا جناب مرزا بقول خود بد ذات، کتوں، بندروں اور سوروں  
 سے بدتر ہوا۔ (اللہ پناہ دے)

۸..... قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”یونہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے  
 موافق بنا کر پیش کرنا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ جو سخت شریر اور بدمعاش اور غنڈے کہلاتے ہیں۔“  
 (چشمہ معرفت ص ۱۹۵، خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۳، ۲۰۴)

دوسری جگہ لکھا ہے کہ: ”اگر ہم بے باک اور کذاب ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے

افتراؤں سے نہ ڈریں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سوراچھے ہیں۔“

(نشان آسمانی ص ۲، خزائن ج ۴ ص ۳۶۲)

نتیجہ: ۱..... مرزا قادیانی نے یہ تمام حرکات بدکی ہیں۔ جیسا کہ سابقہ نمبروں میں یہ سب چیزیں ذکر ہو چکی ہیں۔ مرزا قادیانی نے جھوٹ بھی سیر ہو کر بولے ہیں۔ جھوٹے افتراء بھی خدا کے ذمے باندھے ہیں۔ آیات کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ دیکھئے حیات مسیح کا عقیدہ کس طرح مختلف آیات کا غلط مطلب لے کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے متعلق خوب ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی تو میرے ۲۲ جھوٹ مرزا اور اس کے حواریوں کی گردن پر فرض ہیں۔ بلکہ اس کے بعد مزید ۴۵ جھوٹوں کا پلندہ ان کو بھیج چکا ہوں۔ جن میں سے ایک کا بھی جواب ان کی طرف سے موصول نہیں ہوا۔

۲..... مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی ﷺ سے ختم نبوت کو ثابت کیا اور اس کے منکر کو واضح طور پر کافر کہا۔ مگر مرزا کا بیٹا بشیر الدین محمود اپنی کتاب حقیقت النبوة میں لکھتا ہے کہ میرے ابا نے یہ غلطی کی ہے اور ان تمام عبارتوں کو جو مرزا نے ختم نبوت کے لئے لکھی ہیں اور وہ ۱۹۰۰ء سے پہلی کی ہیں وہ منسوخ سمجھو۔

(حقیقت النبوة ص ۱۲۱)

”معلوم ہوا کہ نبوة کا مسئلہ آپ (مرزا قادیانی) پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے اور چونکہ کتاب ”ایک غلطی کا ازالہ“ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوتی ہے۔ جس میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے..... (یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے) یہی بات مرزا محمود نے بالصراحت (حقیقت النبوة ص ۲۸۶) پر بھی لکھی ہے۔

۳..... مرزا قادیانی نے اپنی مسیحیت کے اثبات کے لئے سورہ تحریم کی آخری آیت کو نہایت ہی گھناؤنے طریقے پر توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔

لکھتا ہے کہ: ”اور اسی واقعہ کو سورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریم کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔“

(کشتی نوح ص ۴۵، ۴۶، خزائن ج ۱۹ ص ۴۸، ۴۹)

دیکھئے جن باتوں کا سورہ تحریم میں اشارہ تک نہیں اور نہ ہی آج تک کسی محدث، مفسر، مجدد و ملہم اور مجتہد نے ظاہر کیا ہے۔ اسے یہ دجال لکھتا ہے کہ کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے۔ العیاذ باللہ! ”قد صدق النبی من قال فی القرآن براہیہ فلیتبتوا مقعدہ من النار (مشکوٰۃ ص ۳۵، کتاب العلم)“

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”اور منجملہ ان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے ”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ جو اس لئے نکالی گئی ہوتا کہ تم تمام دجالوں اور دجال معبود کے فتنہ کو فرو کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بھی دجال معبود بھی آتا ہے اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے ایک مقام پر الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ ”خلق السموات والارض اکبر من خلق الناس“ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار و عجائبات پر ہیں۔ دجال معبود کی طبائع کی بناوٹ اس کے برابر نہیں۔“ (تخفہ گولڑیہ ص ۲۱، خزائن ج ۱ ص ۱۲۰)

ناظرین! فرمائیے، مندرجہ بالا مفہوم آج تک کسی صحابی تابعی یا کسی مجتہد، مفسر مجدد اور محدث و ملہم نے لیا ہے؟ جو یہ دجال اعظم نکال رہا ہے۔

اس طرح اس مثیل دجال نے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین کی تفسیر، آکاش، سورج، قمر، زمین کیا ہے۔ (نسیم دعوت ص ۵۱۲۳، ۸۱۲۵۷، خزائن ج ۱۹ ص ۳۱۳ تا ۳۱۵) دجال قادیانی کے حوالہ جات بکثرت ملتے ہیں۔ آپ صرف انہی پر اکتفاء فرمائیں۔

۹..... قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”اور اس میں کوئی لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فریق کی کسر شان لازم آئے اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خبیث عظیم سمجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امر کو پر لے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔“

(براہین احمدیہ ص ۱۰۱، خزائن ج ۱ ص ۹۰، ۹۱)

مرزا قادیانی نے اس اپنے تسلیم کردہ ضابطے کی قدم قدم پر خود دھجیاں بکھیری ہیں۔ اس نے کسی بھی مذہب و ملت کے پیشوا اور اکابر کو معاف نہیں کیا۔ حتیٰ کہ خود سید المرسلین ﷺ، صحابہ کرام، اکابرین امت کی زبردست توہین کی ہے۔ حضرت مسیح کی توہین و تنقیص کے بارہ میں تمام

حدود کو پھلانگ گیا ہے۔

کتاب ”مغلظات مرزا“ مشہور معروف ہے۔ اس کا مطالعہ آپ کو مرزا قادیانی کی شرافت و دیانت سے خوب متعارف کرا دے گا۔

۱۰..... قادیانی ضابطہ

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:

۱..... ”مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جھوٹ بولنا ایک شیطان اور لعنتی کا کام ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۸)

۲..... ”وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔“ (شخص حق ص ۶۰، خزائن ج ۲ ص ۳۸۶)

۳..... ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۲۱، خزائن ج ۷ ص ۴۰۷، حاشیہ، ضمیمہ تحفہ گلزدیہ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۵۶)

۴..... ”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵، ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۳۳، خزائن ج ۱۱ ص ۵۹)

۵..... ”جھوٹ ام النجاشی ہے۔“ (تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۲۸)

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا حوالہ جات اور فتاویٰ سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ مگر مرزا قادیانی خود اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ خدا کے ذمے، رسول ﷺ کے ذمے، قرآن و حدیث اور دیگر تمام امور کے متعلق جھوٹ ہی جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ خود بندہ نے اس کے ۶۵ جھوٹ کا مجموعہ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ مگر آج تک وہ کسی کی تردید نہیں کر سکے۔ لہذا اوپر درج کردہ تمام القابات اور فتوؤں کا مستحق خود ہی بن گیا۔

ضمیمہ

مندرجہ بالا شواہد کے علاوہ دو مزید بنیادی قسم کے ضابطے مزید سماعت فرمائیے۔ مسئلہ ختم نبوت، مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

”ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین“ (جماعۃ البشری ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

مجھے کب حق پہنچا ہے کہ دعویٰ نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو کر کافروں میں جا ملوں۔ اس جیسے مرزا قادیانی کے بے شمار اقوال اس کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ دیکھئے اس

میں دعویٰ نبوت کو خدو ج من الاسلام اور کفر قرار دیا ہے۔ مگر اس کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا اور برملا کر دیا۔ حتیٰ کہ قادیانی ٹولہ اس کی تائید کے لئے قرآن و حدیث کی نصوص میں باطل تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ: ”عدم نبوت کے حوالہ جات سے منسوخ ہیں۔“

(حقیقت النبوۃ ص ۱۲۰)

مگر کوئی قادیانی جیالا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلے کوئی بات کفر ہو اور پھر وہ عین اسلام بن جائے۔ ”ہل من مبارز“ بتلائیے جناب قادیانی بقول خود ہی اسلام سے نکل کر کافروں میں جا نہیں ملا؟

### مسئلہ حیات و نزول مسیح حقانی علیہ السلام

مرزا قادیانی قبل از ارتداد و زندہ اسی چیز کا قائل تھا کہ حضرت مسیح از روئے قرآن و حدیث اور اجماع امت بصورت جسد غصری اتریں گے اور دین اسلام کو تمام دنیا میں غالب کر دیں گے۔ (دیکھئے حوالہ جات برائین احمدیہ ص ۳۹۸، ۳۹۹، ص ۵۰۵، شہادۃ القرآن ص ۹، ۴، ازالہ اوہام ص ۵۵۷، ۲۱۱) وغیرہ چنانچہ ازالہ اوہام میں لکھتا ہے کہ: ”یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن ثابت نہیں ہوتی۔ تو اتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

اس کے بعد اس مسئلہ کو شرک قرار دے کر قادیانیت کی بنیاد اسی کو قرار دیا ہے تو بتلائیے مرزا قادیانی بقول خود کو رباطن اور حق شناسی سے اندھا قرار نہ پایا؟

ناظرین کرام! بندہ نے مرزا قادیانی کی ذاتی تحریرات سے اس کی ذات اور شخصیت کو پہچاننے کے لئے صرف دس شواہد بمع ضمیمہ پیش کئے ہیں۔ جن کے تحت مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل صفات و خصوصیات معلوم ہوتی ہے۔

۱..... مرزا آدم زاد ہی نہیں۔ ۲..... وہ بشر کی جائے نفرت (شرمگاہ) ہے۔ ۳..... متناقض الکلام ہونے کی بناء پر۔ ۴..... وہ پاگل۔ ۵..... مجنوں اور۔ ۶..... منافق ہے۔ ۷..... بوجہ کذب بیانی وہ مرتد اور گندگی خور نیز ولد الزنا اور کنجر وہ راست باز نہیں، راست بازوں پر تہمت لگانے کی وجہ سے

۱۰۔..... بدذات اور۔..... ۱۱۔..... حرام زادہ ہے۔..... ۱۲۔..... کت پن کا عادی۔..... ۱۳۔..... لیم یعنی کمینہ۔  
 ۱۳۔..... بدذات۔..... ۱۴۔..... کتے۔..... ۱۵۔..... سور اور بندروں سے بھی بدتر کذاب و مفتری۔..... ۱۸۔.....  
 سور، بندر، شریر اور غنڈا۔..... ۲۰، ۲۱۔..... شریر انفس۔..... ۲۲۔..... شیطان۔..... ۲۳۔..... لعنتی۔

ملاحظہ فرمائیں مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے حوالہ جات سے اس کی صرف ۲۳ صفات اور خصلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک شخص (مسلم، غیر مسلم) سرسری نظر سے ہی مطالعہ کر کے فیصلہ کرے کہ ان تیس اقراری صفات کی موجودگی کی صورت میں ہم مرزا قادیانی کو کیا مانیں۔ مجدد، ملہم، مسیح موعود، نبی، رسول، بزرگ، ایک مسلمان، ایک انسان یا ہم اسے پکا شیطان، لعین، دجال و کذاب، منبع شر و ضلالت اور جو کچھ اس نے خود کہا، خدا را کچھ تو انصاف سے کام لیجئے۔ آخر ایک دن مرگ قبر میں جانا ہے۔ خدا کے حضور جواب دہی کے لئے پیش ہونا ہے۔ بتلائیے ایسی صفات کے مالک شخص کے پیچھے لگ کر کیا تمہارا انجام ہوگا۔ ”واللہ۔ بواللہ۔ تلالہ“ بندہ کو مرزا قادیانی یا اس کے ماننے والوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ محض انسانی ہمدردی کے تحت یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ خدا را سوچئے پھر سوچئے بندہ نے کوئی مرزا قادیانی پر الزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں باندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے پیش کیا ہے۔ بندہ تو ابلیس لعین پر بھی جھوٹا الزام لگانا گناہ عظیم اور حرام سمجھتا ہے۔ لہذا میری خیر خواہی کو ذہن و قلب میں جگہ دے کر اس ضلالت کی دلدل سے نکل کر سابقہ اسلام کے صراط مستقیم پر آجائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین!

### مرزا قادیانی اور علامات مسیح بن مریم علیہ السلام

یا اخوة الاسلام، یہ ایک دو ٹوک اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مرزائیوں کو حق و صداقت اور مذہب سے رتی بھر تعلق نہیں ہے۔ یہ محض ایک پولیٹیکل اور تخریب کار ٹولہ ہے جو ہر سطح پر ملک و ملت کا کٹر دشمن ہے۔ مرزا قادیانی کے جملہ دعوے اور اعلان محض دجل و فریب اور کذب و افتراء تھا۔ ان میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ بات مرزا کی مجموعی پوزیشن سے بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے تفصیلی کردار، جدوجہد اور کتب و تحریرات سے بھی اس کی تمام تحریرات اور دعوے تضاد اور تناقض کا ملغوبہ اور گورکھ دھندہ ہیں۔ اس کا ایک ایک نظر یہ اور دعویٰ تناقض اور نہایت پیچ دار اور پہلو دار ہے۔ ایک ایک بات چار چار پانچ پانچ متخالف عنوانات پر مشتمل ہے۔ کہیں ایک بات کا اقرار و اعتراف اور پھر دوسری جگہ اسی کا انکار ملے گا۔ مثلاً اس کا دعویٰ نبوت ہی ملاحظہ فرمائیے کہ:

ابتداء میں اس کا بکلی انکار کر کے مدعی نبوت کو کافر و کذاب تک کہتا ہے۔ لیکن پھر ظلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ پھر غیر تشریع نبوت کا اعلان حتیٰ کہ دے لفظوں میں حقیقی اور تشریحی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے سے نہ چوکا۔ جس کی تشریح و وضاحت بعد میں اس کے فرزند دلہند مرزا بشیر احمد اور بشیر الدین محمود نے نہایت تفصیل سے کی ہے۔ (دیکھئے حقیقت النبوة وغیرہ)

ایسے ہی دعویٰ مجددیت اور مسیحیت کا چکر ہے کہ پہلے ملہم اور مجدد و مہدی ہونے کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع کی۔ مسیحیت سے بھی انکار تھا۔ بلکہ اس مسئلہ میں جملہ اہل اسلام کے بکلی ہمہوا۔ (دیکھئے شہادت القرآن ص ۴۹، ازالہ اوہام ص ۵۵، طبع لاہور)

اس کے بعد مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور دعویٰ مسیحیت کو افتراء اور کم فہمی قرار دیا ہے۔

(ازالہ ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

ازاں بعد یحییٰ مسیح بن مریم ہونے کا دعویٰ اور اعلان اور مسلسل الہامات کا چکر پھر ایک نئی یہ بات بتائی کہ اسلامی لٹریچر میں جو شخص مذکور ہیں۔ مہدیؑ اور مسیح علیہ السلام وہ دونوں ایک ہی ہستی کا نام ہے۔ بلکہ مجدد بھی وہی ہے۔ حتیٰ کہ نبوت بھی اس میں جمع ہے۔ کیونکہ احادیث میں مذکور مسیح کو نبی بھی کہا گیا ہے۔ اس بناء پر اس نے مندرہ بالا تمام دعوے علی الاطلاق داغ دیئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام عنوانات تقریباً الگ الگ ہیں۔

.....۱ مجدد تو ہر صدی اور زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک ایک دودھ بھی اور اس سے بڑھ کر بھی، مگر مرزا قادیانی کی طرح کسی نے اس کا دعویٰ نہیں فرمایا اور نہ ہی کوئی الگ پارٹی بنائی اور نہ بیعت کا ڈھونگ رچایا۔

.....۲ اسی طرح احادیث کی رو سے مہدی الگ شخصیت ہے اور مسیح الگ الگ قائم کئے گئے ہیں۔ دونوں کی علامات اور کوائف بھی الگ الگ ہیں۔ مگر یہ بات یہاں بھی واضح ہے کہ نہ تو مہدی نے آ کر دعویٰ نبوت کر کے بھی الگ پارٹی بنانا ہے اور نہ ہی مسیح نے آ کر اپنی مسیحیت کا اعلان کر کے اور دوسروں کو کافر قرار دے کر اپنی الگ ٹولی بنانا ہے۔

محض تبلیغ و تجدید اسلام ہی کریں گے۔ سب لوگ ان کے عقیدہ تمند اور فرمانبردار ہوں گے۔ کوئی مخالفت اور تکفیر نہ کرے گا۔ دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ بخلاف مرزا کے کہ اس نے آ کر ہر منصب کا الگ الگ اعلان و دعویٰ بھی کیا۔ نہ ماننے والوں کو منکر اور کافر بھی کہا اور اسے نہ تو نمایاں کامیابی ہوئی اور نہ ہی دین اسلام کو عالمی غلبہ نصیب ہوا۔

غرض یہ کہ اسلامی مجدد، مہدی اور مسیح والی کوئی بھی بات مرزا میں ثابت نہیں ہوئی۔ یہ محض



وہی حقیقت ہے جسے مسیح نے کہا تھا کہ بہتیرے ہیں میرے نام سے آ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (انجیل متی: ۲۴) اور آنحضرت ﷺ نے تم میں جھوٹے مدعیان نبوت کی جزدی۔ ہر فرد انسانی پر یہ بات ملحوظ خاطر رکھے کہ ہمارے خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کسی بھی منصب کا دعویٰ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی حق پرست نے کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کرے گا۔ حتیٰ کہ خدائے پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ بھی آ کر یہ اعلان یا دعویٰ نہ کریں گے کہ میں نیا نبی ہوں۔ اس لئے کہ ان کی آمد کی خبر خود سید دو عالم ﷺ نے بمع علامات پہلے ہی دے دی ہے۔ تو جب وہ تشریف لاویں گے تو تمام امت مسلمہ بسر و چشم ان کو پہچان کر قریع ہو جاویں گے۔ کوئی جھگڑا کوئی اختلاف کوئی تکفیر اور پارٹی بازی کا چکر نہیں چلے گا۔ وہ آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ وہ کوئی الگ مسجد یا عبادت خانہ نہ بنائیں گے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچھے لگے اور کوئی الگ رہے اور مناظرہ بازی کا چکر چل جائے۔ وہ تو آتے ہی نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مصروف ہو جائیں گے اور تھوڑی ہی مدت میں دجال کو قتل کر کے یہ فریضہ پورا کر لیں گے۔ پھر نہ کوئی قادیانی رہے گا نہ کوئی عیسائی نہ یہودی نہ کوئی ہندو اور دھریہ وغیرہ۔ سب کے سب خاتم الانبیاء ﷺ کے جھنڈے تلے آ کر ”ورافعنالك ذکرك“ کی پر نور فضاء قائم کر دیں گے۔ ہر طرف توحید خالص اور رسالت آخر الزماں ﷺ ہی کا سلسلہ چلے گا۔ اب ذیل میں ہم حسب تحریرات مرزا قادیانی چند علامات مسیح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے واضح کریں گے کہ وہ علامات خود مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتیں۔ لہذا مرزا کا مسیحیت یا مہدویت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس سے الگ اور بیخ کر رہنے ہی میں سلامتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے!

**علامت اول**

یہ ہے آنے والے مسیح علیہ السلام کے متعلق خود سید دو عالم ﷺ نے مؤکد بقسم یہ اعلان فرمایا ہے کہ: ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوٰۃ ص ۴۷۹، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“ یعنی اس ذات عالی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں مریم کے بیٹے (عیسیٰ) نازل ہوں گے۔ الخ!

اب یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔

۱..... آنحضرت ﷺ نے نزول مسیح کی قسم کھا کر بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ”جو بات قسم کھا کر بیان ہو اس میں تاویل استثناء نہیں ہوتا کہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ ہے۔ بلکہ بعینہ اس کا ظاہری مصداق مراد لیا جائے گا۔“ (حماۃ البشری ص ۱۴، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

تو جب یہ اعلان مؤکد بقسم ہے تو اس میں بیان کردہ ابن مریم علیہ السلام سے مراد بھی

وہی عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ دوسرا کوئی فرد نہ ہوگا۔

۲..... یہ فرمان نبوی ﷺ نزول مسیح کے سلسلہ میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے نصوص میں تاویل کرنے کو الحاح قرار دیا ہے۔ (انجام آقہم ص ۱۲۹، خزائن ج ۱۱ ص ۱۲۹) اور دوسری جگہ کہا ہے۔ ”تحمل النصوص علی ظواہر“

(ازالہ اوہام ص ۴۰۹، خزائن ج ۳ ص ۳۱۲)

تو چونکہ یہ ذات دجل و فریب، نہ اسرائیلی ہے نہ ہی اس کو خدا نے یہودیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ نہ ہی اس کا ماں کا نام مریم ہے۔ لہذا اسے اصلی مسیح علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض سینہ زوری سے دعویٰ مسیحیت داغ رہا ہے۔ جب کہ حقیقی اور سچا مسیح دوبارہ آ کر کوئی دعویٰ وغیرہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنی پیش گوئیوں اور الہامات کا چکر اور گورکھ دھندہ شروع کریں گے۔ نیز کوئی مسلمان بھی ان سے الگ نہ رہے گا۔ بلکہ تمام مسلمان ان کے زیر فرمان ہوں گے۔ بلکہ تمام انسان اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مرزائی نہ رہے گا نہ کوئی عیسائی یہودی۔

علامت دوم

خاتم الانبیاء ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے کہ: ”ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب دجال بھی کفر و دجل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا۔ کیونکہ بموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا..... آخر ایک گروہ دجال کا ایمان لا کر حج کرے گا۔ سو دجال کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے۔ وہی دن ہمارے حج کے بھی ہوں گے۔“ (ایام الصلح ص ۱۶۸، ۱۶۹، خزائن ج ۱۳ ص ۴۱۶، ۴۱۷)

مندرجہ بالا اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کر لیا ہے کہ از روئے حدیث صحیح مسیح موعود کا حج کرنا ضروری ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے مرتے دم تک حج نہ کیا۔ اس لئے اس میں یہ علامت نہ پائی گئی تو یہ مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟..... لہذا مرزا اس علامت میں قیل ہو گیا۔

علامت سوم

مسیح بن مریم کے زمانہ میں تمام مذاہب ختم ہو کر صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ ہر طرف عملی طور پر اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

”نفخ فی الصور فجمعنا ہم جمعا“ تب ہم تمام فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے..... اور ایسے زمانہ میں صور پھونک کر تمام فرقوں کو دین اسلام پر جمع کیا جائے گا.....

اور ایک آسمان مصلح آئے گا۔ درحقیقت اسی مصلح کا نام مسیح موعود (وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے) (شہادۃ القرآن ص ۱۵، ۱۶، خزائن ج ۶ ص ۳۱۱، ۳۱۲)

اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ از روئے قرآن مسیح موعود کی علامت یہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں صرف ایک ہی مذہب اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھئے یہ علامت مرزا قادیانی میں بالکل موجود نہیں۔ لہذا مرزا فیل۔

مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ: ”وقد اتى زمان تهلك فيه الا باطليل ولا تبغى الزور والظلام وتقضى الملل كلها الا الاسلام“ (اعجاز المسح ص ۸۳، خزائن ج ۱۸ ص ۸۵) نیز مزید لکھا ہے کہ ”ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا“ یعنی آخری زمانہ میں ہر ایک قوم کو آزادی دیں گے۔ تاکہ اپنے مذہب کی خوبی دوسری قوم کے سامنے پیش کرے۔۔۔۔۔ ایک مدت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ پھر قرآن میں ایک آواز پھونک دی جائے گی۔ تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنادیں گے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔“

(چشمہ معرفت ص ۶۷، حاشیہ، خزائن ج ۲۳ ص ۷۵، شہادت القرآن ص ۱۵، ۱۶، خزائن ج ۶ ص ۳۱۲، ۳۱۱) تبصرہ و نتیجہ: مندرجہ بالا تینوں اقتباسات سے بالوضاحت معلوم ہوا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں تمام مذاہب ختم ہو کر صرف ایک ہی مذہب یعنی اسلام رہ جائے گا۔ اب چونکہ یہ علامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔ لہذا مرزا قادیانی اس میں بھی ناکام اور فیل۔

### علامت چہارم

مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ مسیح موعود کا زمانہ امن و صلح کا دور ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ: ”ويضع الله الحرب وتقع الامنة على الارض وتنزل السكينة والصلح فى جذور القلوب“ (خطبہ الہامیہ ص ۳۲۲، خزائن ج ۱۶ ص ۳۲۲) اور اللہ تعالیٰ جنگ و جدال کو موقوف کر دے گا۔ زمین پر امن و صلح ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں اطمینان و سکون اور صلح و صفائی پیدا ہو جائے گی۔

چونکہ یہ علامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔ لہذا مرزا فیل۔

### علامت پنجم

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”مسیح موعود کے زمانہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو جائے گی۔“ مگر مرزا کی اس پیش گوئی کا اثر یہ ہوا کہ حرمین میں ریل کی تیاری شروع ہو کر پھر رہ گئی۔ مرزا قادیانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ: ”ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے

لئے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے..... حدیث ”یترو القلاص یسعی علیہا“ اس کے گواہ ہے۔ پس یہ کس قدر بھاری پیش گوئی ہے۔ جو مسیح کے زمانہ کے لئے اور مسیح موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت تھی۔ ریل کی تیاری سے پوری ہو گئی۔“

(تحفہ گلزدیہ ص ۴۶، خزائن ج ۱ ص ۱۹۴، ۱۹۵، اربعین نمبر ص ۲۷ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۳۷۵)

تبصرہ و نتیجہ: حدیث میں ایسی کسی علامت کا تذکرہ نہیں۔ مرزا قادیانی نے خود ایک چیز کو دیکھ کر جھوٹ یترو القلاص کی تاویل کر کے اپنے اوپر فٹ کر لی۔ لہذا خدا نے اس کی تذلیل و تکذیب کے لئے اس شروع کردہ کارروائی کو روک دیا۔ چنانچہ آج تک وہ منصوبہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکا۔ اگرچہ اس کی پیش گوئی کے قبل اس منصوبہ کی تیاری شروع تھی۔ خود ہندوستان سے بھی اس کے لئے فنڈ فراہم کیا گیا۔ چنانچہ اس فراہمی فنڈ کا تذکرہ مرزا قادیانی نے خود بھی کیا ہے۔ (الحکم ج ۷ ص ۱۲، مورخہ ۲ جنوری ۱۸۹۰ء) چونکہ یہ ریل آج تک نہیں چل سکی۔ بلکہ اس کی پٹری بھی تیار نہ ہو سکی۔ لہذا مرزا قادیانی فیل۔

علامت ششم

مسیح موعود کسی کا شاگرد نہ ہوگا۔

چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”ہمارے نبی ﷺ نے اپنوں کی طرح ظاہری علوم کی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھے تھے۔ (بالکل غلط اور بکواس) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے تمام توراۃ پڑھی تھی..... سو آنے والے کا نام مہدی رکھا گیا۔ (بالکل جھوٹ کسی حدیث میں نہیں) سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علوم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا اور قرآن حدیث میں وہ کسی کا شاگرد نہ ہوگا..... سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔“

(ایام الصلاح ص ۱۳۷، خزائن ج ۱ ص ۳۹۴)

مندرجہ بالا اقتباسات میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔

۱..... حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے یہ ذمے جھوٹ کہ وہ مکتب میں بیٹھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توراۃ ایک یہودی استاد سے پڑھی تھی۔ یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے۔ جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ جب مرزا قادیانی نے پہلے یہ کہہ لیا کہ ہمارے نبی ﷺ نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی سے نہیں پڑھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پڑھا تھا۔ گویا خود مرزا قادیانی کے کلام میں تناقض پیدا ہو جاتا ہے جو اس منافقت اور پاگل پن کی علامت ہے۔

۲۔ دوسری یہ بات کہ مرزا قادیانی نے کسی انسان سے قرآن وحدیث کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا۔ یہ بھی بالکل جھوٹ اور ہڈیان ہے۔ کیونکہ خود اس کی ذاتی تحریرات میں یہ حقیقت موجود ہے کہ ”میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں۔“ (کتاب البریہ ص ۱۶۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۱۸۰)

دوسری جگہ لکھا ہے کہ: ”لم یتفق لی التوغل فی علم الحدیث والاصول والفقه الا کطل من الوبل“ (آئینہ کمالات ص ۵۳۵، خزائن ج ۵ ص ۵۳۵)

یعنی مجھے علوم حدیث، اصول اور فقہ میں مشغول ہونے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا ہے۔ جیسے موسلا دھار بارش کے مقابلہ میں معمولی پھوار، اثبات جزئی سے دعویٰ کلیت منہدم ہو جاتا ہے۔ دیکھئے اس حوالہ میں تینوں علوم میں تعلیم کا اقرار و اعتراف پایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کی پوزیشن نیم ملا کی تھی۔ اس لئے ہر علم میں کچا اور ناقص تھا۔ جس کی بناء پر ہر جگہ شیطانی تاویلات، غلط تاویلات اور منفی مفہوم پیش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مصنفین کتب کے صحیح نام بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ تفصیل میرے دوسری مضمون میں بخوبی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جس کا عنوان میں نے ”مرزا قادیانی کی پوزیشن“ قائم کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے استاد یہ لوگ تھے۔ فضل الہی، فضل احمد، گل علی شیعہ، غلام مرتضیٰ حکیم۔ اب دیکھئے اس علامت میں بھی مرزا قادیانی نے تناقض اور تضاد بیانی سے کام لیا ہے۔ حالانکہ سچا مسیح علیہ السلام کسی سے پڑھا ہوا نہ ہوگا۔ نیز وہ اس قسم کے ڈھینگیس مارنے کا بھی عادی نہ ہوگا۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں بھی ناکام اور فیل۔

علامت ہفتم  
مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ مسیح موعود آ کر صلیب کو توڑے گا۔ البدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء۔ چنانچہ آنجہانی لکھتا ہے کہ:

”باوجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت وعظمت اور شان کو دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی مجھ سے ظاہر نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں

نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی معبود کو کرنا تھا تو پھر میں سچا ہوں۔ اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں۔ (واقعی ہم گواہ ہیں کہ کذاب و دجال تھا) کہ میں جھوٹا ہوں۔“ (بالکل ایسا ہی ہے) (قادیانی اخبار بدر بابت ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

اب غلبہ اسلام اور غلبہ عیسائیت کا مفہوم بھی اس سے سن لیجئے۔ اسی اخبار میں لکھتا ہے کہ: ”میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔“ (بدر ۲۰ ستمبر ۱۹۰۶ء پھر لکھا ہے کہ: ”اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے مطابق غالب کرے۔“ (اخبار مذکورہ بالا ص ۹، ۱۰) مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ یہ ہے کہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ لہذا اب اسلام کا غلبہ یوں ہو گا کہ عیسائی مسلمان ہو جائیں۔ جیسے کہ احادیث میں سچے مسیح علیہ السلام کی علامات میں مذکور ہے کہ کوئی یہودی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ تو جب مرزا کے بقول اس کے زمانہ میں مسلمان ہی عیسائی ہو رہے ہیں تو مسیح کی علامت اسلام کا غلبہ تو نہ ظاہر ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس صلیب کو ترقی و غلبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ اسی ادبار کے دور میں بڑے بڑے عالم بھی لالچ دنیوی میں آ کر مرتد ہو گئے اور پادری بن گئے۔ جیسے پادری صفدر، عماد الدین، پادری احمد شاہ، حافظ قائم الدین، پادری سلطان محمد پال وغیرہ خذلیم اللہ! تو یہ علامت مرزا قادیانی کے صریح خلاف ہو کر اس کی دجالیت پر مہر لگا رہی ہے کہ واقعی یہ جھوٹا مسیح اور کاذب مدعی نبوت تھا۔ مزید ایک قادیانی رپورٹ..... قادیانی خود لکھتا ہے کہ:

”ابھی کلکتہ میں جو پادری ہیکر صاحب نے اندازہ کر شان (عیسائی ہونے والے) شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس بات ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں۔ جو پچاس سال پہلے تمام ہندوستان میں کر شان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی۔ اس پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جو ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گئی ہے۔“ (براہین احمدیہ تحت عنوان عرض ضروری بحالت مجبوری ص ۷، ذرائع ج ۱ ص ۲۸، ۲۹) قبل از مقدمہ کتاب دوسری جگہ ہے کہ: ”دیکھو! اس قدر لوگ عیسائی ہو گئے ہیں۔ جن کی تعداد بیس لاکھ تک پہنچی ہے۔ میں نے ایک ہشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ہم بیس لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۲۷، ریویو آف ریلیجنز بابت ماہ نومبر، دسمبر ۱۹۰۳ء نمبر ۴۲) میں لکھا ہے کہ: ۲۹ لاکھ لوگ عیسائی ہو کر مرتد ہو گئے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی

حقانیت کی دلیل ہے..... عیسائیت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ (پیغام صلح ۶ مارچ ۱۹۲۸ء)  
 دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود مرزا قادیانی کے ضلع گورداسپور کی رپورٹ ہی ملاحظہ کر لیں۔  
 ۱۸۹۱ء میں عیسائی تعداد صرف ۲۴۰۰ تھی۔

۱۹۰۱ء میں عیسائی تعداد برکت مرزا، ۴۳۷۱ ہو گئی۔

۱۹۱۱ء میں عیسائی تعداد برکت قادیانی ۲۳۳۶۵ ہو گئی۔

۱۹۲۱ء میں عیسائی تعداد برکت قادیانی ۳۲۸۳۲ تک پہنچ گئی۔

۱۹۳۱ء میں عیسائی تعداد برکت قادیانی ۴۳۲۴۳ تک پہنچ گئی تھی۔

اب ۱۹۳۱ء سے ۱۹۹۴ء تک مزید ۵۳ سالوں میں یہ تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ تعداد کا از خود اندازہ لگالیں اور مرزا قادیانی کا اعتراف پڑھیں کہ: ”اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سچے موعود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“  
 (بدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

کسی نے سچ کہا ہے۔

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا  
 نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا

(بحوالہ محمدیہ پاکٹ بک ص ۳۵۰)

مبارک ہیں وہ لوگ جو مرزا کی ناکامی اور نامرادی پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں کذاب و دجال سمجھ کر اس پر تین حرف (ل ع ن) بھیج کر اپنی عاقبت سنوارتے ہیں۔  
 علامت ہشتم

سچا مسیح شادی کرے گا اور اس کی اولاد بھی ہوگی۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”اس (محمدی بیگم کے نکاح والی) پیش گوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ ”یتزوج ویولد له“ یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا۔ نیز صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے۔ جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی ہے۔ اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شہادت کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور ہوں گی۔“ (ضمیمہ انجام آقہم ص ۵۳ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷)

اس پیش گوئی کے متعلق مزید سنئے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

”یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی۔ (نکاح) تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمقو! یہ انسان کا افتراء نہیں۔ یہ کسی خبیث و مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

تبصرہ، ملاحظہ فرمائیے۔ کسی بے باکی سے حدیث رسول ﷺ کو اپنی پیش گوئی بنا رہا ہے اور پھر اس کی صداقت پر اتنا زور دے رہا ہے۔ گویا کہ یہ کبھی ٹل ہی نہیں سکتی۔ مگر خدائے برحق نے اس کو خوب ذلیل فرمایا کہ نہ وہ نکاح ہوا اور نہ ہی آگے اولاد کا مسئلہ بنا۔ یہ ”افتراء علی اللہ و علی الرسول“ کی سزا تھی۔ اس تفصیل کے مطابق مرزا قادیانی اس علامت میں بھی فیل ہوئے۔

ف..... مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے بعد بہت سی تاویلات کیں کہ یہ مشروط تھی۔ مگر جس حدیث کو اپنی تائید میں پیش کر رہا ہے۔ اس میں کسی شرط یا تاویل کا اشارہ تک نہیں۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کی آخری بڑھک میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں سو فیصد ناکام اور فیل ہوا۔

”فلعنة الله على الكاذبين والمفترين الف لعنة الى يوم الحساب“

علامت نہم

سچے مسیح دنیا میں ۴۵ برس رہیں گے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

..... ”میرا یہ دعویٰ تو نہیں..... کہ کوئی مثیل مسیح پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کر دمشق میں کوئی مثیل مسیح پیدا ہو جائے۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۲، ۷۳، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۳۸)

۲..... ”ہاں اس بات سے انکار نہیں کہ شاید پیش گوئی کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح موعود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۶۱، خزائن ج ۳ ص ۲۳۱)

تبصرہ، مرزا قادیانی نزول سے مراد پیدائش بتلاتے ہیں۔ لہذا مرزا کو صرف ۴۵ برس زندہ رہنا چاہئے تھا۔ مگر یہ ۶۸ برس تک پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ مسیح برحق نہیں بلکہ مسیح کاذب ہے تو اس علامت کے بھی نہ پائے جانے کی بناء پر مرزا ناکام اور فیل ہوا۔

علامت دہم

سچے مسیح علیہ السلام کا روضہ رسول ﷺ میں مدفون ہونا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:



”اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں۔ (وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ انصوص نخل علی ظواہر) اور حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی ہو جو آنحضرت ﷺ کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔“  
(دیکھئے ازالہ اوہام ص ۴۷۰، خزائن ج ۳ ص ۳۵۲)

نیز مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔  
مگر جناب قادیانی نہ مکہ نہ مدینہ جاسکتا نہ حج نصیب ہوا۔ مرنا تو دور کی بات ہے اسی طرح روضہ رسول ﷺ میں مدفون ہونا تو وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ لہذا قادیانی اس نمبر میں بھی ناکام اور فیل ہوئے۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالا حوالہ جات سے آپ سچے مسیح علیہ السلام کی از روئے حدیث رسول اللہ ﷺ اور از روئے تحریرات مرزا ۱۰ علامات ملاحظہ فرمائیں۔ جن میں سے ایک بھی اس میں نہ پائی گئی۔ حالانکہ ایک دو کا پایا جاتا بھی اس کے صدق کی دلیل نہ بن سکتی تھی۔ مگر خدائے ذوالجلال والانتقام ایسے کذابوں اور دجالوں کو علی رؤس الاشہاد سو فیصد ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ اس کی مخلوق کے کسی بھی فرد کو ذرا بھی اشتباہ نہ ہو سکے کہ اس میں یہ ایک یا دو علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باقی بھی شاید پوری ہو جائیں۔ اس شک اور اشتباہ کو بالکل ختم کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ ”یحییٰ من حی عن بینة ویہلک من ہلک عن بینة“ آخر میں ہر فرد بشر (قادیانی یا غیر قادیانی) سے استدعا ہے کہ ایسے راندگان درگاہ الہی سے بالکل مجتنب رہ کر اپنی سلامتی کا سامان کریں اور جو افراد اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں وہ خصوصی طور پر اس مسئلہ میں غور و فکر سے کام لے کر سچے مسلمان بنیں اور سعادت اخروی کو حاصل کریں۔ ”وما توفیقی الا باللہ وهو یدہی السبیل . اللہم انا نعوذک من فتنۃ الدجال . آمین“

ف..... یاد رہے کہ مرزا قادیان ہر بات میں فیل ہی فیل ہے۔ اپنی علمی تربیت میں بھی بوجہ عدم تکمیل کے فیل، بعدہ مختاری کا امتحان دیا اس میں بھی فیل، اپنی پیش گوئیوں میں فیل۔ آتھم وغیرہ کے مناظرہ میں فیل، مباحثہ میں فیل، محمدی بیگم کے نکاح میں فیل، اپنے ہر دعویٰ میں فیل، عربی تفسیر لکھنے کے چیلنج میں فیل۔ غرضیکہ ہر معاملہ میں فیل جب دوسرا نکاح کیا تو اس وقت بھی فیل، مرزا فیل ہی فیل۔ لہذا قادیانیوں کی خدمت میں پرزور اپیل ہے کہ اپنے اس سو فیصد فیل گرو سے جان چھڑا کر سابقہ سچے دین اسلام سے وابستہ ہو جائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 علیہ السلام

# مرزا قادیانی کی سچی باتیں

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ

## مرزا صاحب کی سچی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم!

کوئی چیز چاہے کتنی ہی ناپسندیدہ اور ناگوار ہو، مگر پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز سراسر شر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خیر ہر قسم کے شر سے خالی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان چاہے کتنا ہی کذاب، مفتری، مکار و دجال ہو، وہ کبھی کبھی کوئی سچ بھی بول جاتا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی سو کذاب و مکار اور دجال ہوں، مگر کبھی کبھی کچھ باتیں انہوں نے سچی بھی کی ہیں۔ اس لئے دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آجنگاہ کے اس پہلو کو بھی نمایاں کیا جائے اور صرف ان کا منفی پہلو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ چنانچہ ذیل میں اسی حق ادائی کے پیش نظر بندہ خادم، جناب مرزا قادیانی کی کچھ سچائیاں پیش کر کے عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ تاکہ ”اعدلوا هو اقرب للتقویٰ (مائتہ: ۸)“ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔

ہرزمانہ میں بنیادی اسلامی تعلیمات کی شہرت

مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

۱..... ”مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے

ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے۔ وہ ہرزمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہیں۔“

(کرامات الصادقین ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۶۲)

۲..... ”یہ کلام (قرآن مجید) ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے

والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے..... بلکہ اس جگہ مع حفاظت

ظاہری حفاظت فوائد و تاثیرات قرآنی مراد ہیں۔“ (شہادت القرآن ص ۴۲، خزائن ج ۶ ص ۳۲۸)

۳..... ”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون“ کے تحت لکھتے ہیں

کہ۔ ”حالانکہ ذکر کا لفظ بھی صریح گواہی دے رہا ہے کہ قرآن بحیثیت ذکر ہونے کے قیامت تک

محفوظ رہے گا اور اس کے حقیقی ذکر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے..... کوئی حصہ تعلیم قرآن کا برباد اور

ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا، یہی سلسلہ قیامت تک

جاری رہے گا۔“ (شہادت القرآن ص ۵۵، ۵۴، خزائن ج ۶ ص ۳۵۰، ۳۵۱)

۴..... ”دوسرے ایسے آئمہ اور اکابر کے ذریعہ سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم

قرآن عطاء ہوا ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ ﷺ کی مدد

سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔“

(ایام، ص ۵۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا چاروں اقتباسات میں واضح طور پر مرزا قادیانی گواہی دے رہے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ و حروف روز اول سے آج تک اور ہمیشہ تک محفوظ اور باقی رہیں گے۔ اسی طرح اس کے مطالب و مفاہیم بھی محفوظ رہیں گے۔ نیز ہر نظریہ اور عقیدہ اور دیگر اصول و احکام بھی من و عن روز اول سے آخر تک برابر یکساں طور پر واضح اور مشہور رہیں گے۔ مسئلہ توحید ہو یا مسئلہ ختم نبوت یا مسئلہ نزول و حیات مسیح وغیرہ۔ تمام امور برابر اور مسلسل ہر دور میں یکساں اور واضح طور پر افراد امت کے اذہان و قلوب میں راسخ اور جاگزین رہے ہیں۔ کسی بھی زمانہ اور دور میں یہ امور مخفی، اجمالی اور غیر واضح نہیں رہے۔ لہذا اب کوئی اگر یہ کہنے لگے کہ ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ مستقل نبی نہیں آ سکتا، مگر ظلی آ سکتا ہے تو یہ بالکل الحاد ہوگا۔ گمراہی ہوگی، یا کوئی کہے تو فی مسیح کا یہ مطلب ہے، رفع و نزول کا یہ مفہوم ہے تو یہ محض زندقہ اور گمراہی ہوگی۔ بلکہ اصول بالا کے تحت ان کا وہی مفہوم ہوگا۔ جس کو ہر دور میں آئمہ امت کی تفہیم سے افراد امت حرجان بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے۔ ”من یشاقق الرسول من بعد ما تبیین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساعت مصیرا (نساء: ۱۱۵)“

ختم نبوت

اس ضمن میں مرزا غلام احمد قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

..... ”اے اہل عرب تمہیں یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی حضرت آدم سے شروع فرما کر اس نبی معظم ﷺ پر ختم فرمادی جو کہ تم میں سے ہوئے۔ تمہارے ہی خطے، وطن اور علاقے سے مبعوث ہوئے۔“

(آئینہ کمالات ص ۳۲۰، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

..... ”اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ وہ ہمارے نبی معظم خاتم النبیین ﷺ

کے بعد اور کوئی بھی بھیج دے اور نہ ہی یہ بات اس کے لائق شان ہے کہ وہ دوبارہ سلسلہ نبوت جاری کر دے۔ اس کے بعد کہ وہ اسے منقطع کر چکا ہے۔“

(آئینہ کمالات ص ۳۷۷، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

..... ”اللہ وہ ذات ہے کہ جو رب العالمین اور رحمن اور رحیم ہے۔ جس نے

زمین اور آسمان کو چھ دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے

آخر حضرت محمد ﷺ کو پیدا کیا۔ جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۴۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۵)

۴..... ”اے مخاطب، تو مدعی نبوت بن کر خدا تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے بعد نبی بننے بنانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب فرقان حمید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو کہ تمام سابقہ کتب سے افضل ہے اور نہ ہی شریعت محمدیہ کے بعد مزید کوئی شریعت ہوگی۔“

(ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۶۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۸، ۶۸۹)

۵..... ”کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت ﷺ کے بعد رسول اور نبی ہوں؟“ (انجام آتھم ص ۲۷ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

آگے لکھا کہ ”پس بلاشبہ وہ مسلمان کذاب کا بھائی ہے۔ اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ ایسے خبیث کو کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے۔“

(انجام آتھم ص ۲۸، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

۶..... ”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایسے بدیہی طور پر سچا ہے کہ اگر تمام کفار روئے زمین دعاء کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا۔ مگر نہ اس لئے کہ سب سے میں ہی بہتر ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رسول ﷺ پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۹، ۳۴۰)

۷..... ”فضل والے مہربان پروردگار نے ہمارے نبی کریم ﷺ کا نام بلا استثناء خاتم الانبیاء رکھا اور نبی کریم ﷺ نے اس کی تفسیر اپنے فرمان ”لا نبی بعدی“ میں واضح فرمادی۔ تو اگر ہم آنحضور ﷺ کے بعد کسی کے ظہور کو جائز قرار دے دیں۔ گویا ہم نے وحی نبوت کے دروازہ کو بند ہونے کے بعد دوبارہ کھل جانا جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ خاتم الانبیاء ﷺ کی وفات کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا ہے۔“

(حماۃ البشری ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

۸..... ”لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص محمد ﷺ کو آخری نبی اور خاتم الرسل ﷺ نہیں مانتا۔ جب کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ الزام محض

من گھڑت اور تحریف ہے۔ سبحان اللہ! میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ محض جھوٹ ہے اور یہ لوگ دجال ہیں۔“

۹..... ”ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔“ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔“

(استہار مندرجہ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۹۷)

۱۰..... آیت ”ماکان محمد“ کا ترجمہ ”یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ

نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۱۲، خزائن ج ۳ ص ۴۳۱)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا تمام اقتباسات بالکل صحیح اور درست ہیں۔ ان کا قائل بالکل

صادق ہے کہ آنحضرت ﷺ قرآن وحدیث کے مطابق خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی

قسم کا ظلی یا بروزی وغیرہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ ہی بلا استثناء آخری رسول ہیں۔

آپ کے بعد باب نبوت بالکل بند ہے۔ اس میں کسی بھی ظلی یا بروزی یا غیر مستقل نبوت کی قطعاً

کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے سید الانبیاء ﷺ نے فرمایا کہ ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت

فلا رسول بعدی ولا نبی (جامع ترمذی ج ۲ ص ۵۳، باب زہبت النبوة وبقیة

المبشرات)“ بالکل اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی بالوضاحت اقرار کیا ہے کہ: ”سلسلہ نبوت

منقطع ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۷۷، خزائن ج ۵ ص ۱۵۷)

ہم مندرجہ بالا حوالہ جات کو شرح صدر سے صحیح تسلیم کر سکتے ہیں اور مرزا قادیانی کو سچی

بات کہنے پر داد دیتے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام پیش کرتے ہیں۔

مزید حقائق سماعت فرمائیے۔

قادیانی گماشتے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ نبیوں کا مصدق اور

افضل النبیین ہے۔ مگر مرزا قادیانی ان کے متفق نہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ: ”ختم نبوت کے متعلق

میں پھر کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے

کر آنحضرت ﷺ پر ختم کر دیا اور نبوت ختم ہو گئی۔“ (دیکھئے ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۲۱، طبع لاہور)

۲..... ”اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں۔ جیسے کہ پہلے

تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے

آخری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سید رسول اللہ ﷺ کا وجود تھا۔ کمال کو پہنچ گئیں۔“

(اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵۳، خزائن ج ۱ ص ۳۶۷، ست بچن ص ۱۴۹، خزائن ج ۱ ص ۲۷۳)

- ۴..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ”قد قال رسول اللہ ﷺ لا نبی بعدی وسماء اللہ تعالیٰ خاتم الانبیاء فمن این یشہر نبی بعده“ (تحدید اوصاف ۲۸، خزائن ج ۷ ص ۳۲)
- ۵..... ”اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ تھی، وہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔“ (سرمہ چشم آریہ ص ۱۹۸، خزائن ج ۲ ص ۲۳۶)
- ۶..... ”ہمارے نبی کریم آخِر زمانے کے نبی تھے..... چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ آخِر الزمان ﷺ تھے۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۸۲)
- ۷..... ”الیوم اکملت لکم دینکم“ اور آیت ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ میں صریح نبوت کو آنحضرت ﷺ پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا کہ آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ جیسے کہ فرماتا ہے۔ ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ (تحدید گولڑویہ ص ۵۱، خزائن ج ۱ ص ۱۷۴)
- ۸..... ”آپ نے ”لا نبی بعدی“ کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔“ (ایام الصلح ص ۱۵۲، خزائن ج ۱۳ ص ۴۰۰)
- ۹..... ”والنبوة قد انقطعت بعد نبینا ﷺ ولا کتاب بعد الفرقان الذی هو خیر الصحف السابقة..... وان رسولنا خاتم النبیین علیہ انقطعت سلسلۃ المرسلین فلیس حق احد ان یدعی النبوة بعد رسولنا المصطفیٰ ﷺ علی الطریقة المستقلة“ (ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۶۴، خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۹، ۶۸۸)
- ۱۰..... ”ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ نے مسیح بن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔“ (از الدواہام ص ۶۴، خزائن ج ۳ ص ۴۴۸)
- ۱۱..... ”اس میں حکمت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام خاتم المخلوقات ہیں۔“ (تحدید گولڑویہ ص ۹۸، خزائن ج ۱ ص ۲۵۷)
- ۱۲..... ”کما کان عیسیٰ علیہ السلام خاتم خلفاء السلسلۃ الکلیمۃ وکان لها کآخر اللبنة وخاتم المرسلین“ (رسالہ الفرق بین آدم و اسح لمحقہ خطبہ الہامیہ، خزائن ج ۱ ص ۳۰۹)
- ۱۳..... ”یہ صرف اسی خدا نے ہی خبر دی۔ جس نے ہمارے نبی ﷺ کو سب نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ تا تمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔“ (تتمہ حقیقت الوحی ص ۴۴، خزائن ج ۲۲ ص ۴۷۷)

۱۴..... ”اذ اخذ الله ميثاق النبيين..... الخ!“ یاد کر جب خدا نے تمام

رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر آخر زمانہ میں تمہارے پاس یہ الرسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳)

۱۵..... ”یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی

وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن سے تو اردہی رکھتی ہو، پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔“

(ازالہ ص ۵۸۳، خزائن ج ۳ ص ۳۱۴)

دیکھئے! مندرجہ بالا کثیر مقامات پر مرزا قادیانی نے نہایت وضاحت سے اصل عقیدہ ختم نبوت کی شاندار طریقے پر وضاحت کر دی۔ اب کسی کو ہرگز اس کے خلاف کچھ بھی کہنے کا قطعاً حق نہیں۔ حتیٰ کہ اگر مرزا قادیانی بھی ایک نقطہ یا شوشہ کا فرق کریں تو وہ بھی ان کے لئے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ وہ انحراف اور ارتداد ہی ہوگا۔ کہہ مکرئی ہوگی۔ لہذا اصل مسئلہ واضح اور مستحکم ہو گیا۔ اس کے خلاف ایک حرف بھی کہنا اسلام سے انحراف کہلائے گا۔

قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی حفاظت

۱..... ”قرآن مجید کے حروف و الفاظ کی طرح اس کا مفہوم بھی ہر زمانہ میں

موجود اور محفوظ رہا ہے۔“ ”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون“ کے بموجب خدا نے ہر زمانہ میں قرآن مجید کے الفاظ و معانی اور مفہوم کی حفاظت علی وجہ الکمال کرائی ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۵۴، ۵۵، خزائن ج ۶ ص ۳۳۸، ۳۵۰، ایام الصلح ص ۵۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸)

۲..... ”مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کو قبول کرنے اور ماننے سے ایک

فحش مسلمان کہلا سکتا ہے۔ وہ ہر زمانہ میں برابر شائع ہوتی رہیں۔“

(کرامات الصادقین ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۶۲)

تفسیر بالرائے اور خدا پر افتراء

۱..... ”مؤمن کا کام نہیں کہ تفسیر بالرائے کرے۔ من فسر القرآن براهیہ

فهو لین بمؤمن بل هواخ الشيطان“

(اتمام الحجۃ ص ۴، خزائن ج ۸ ص ۲۷۶، ازالہ ص ۱۳۷، خزائن ج ۳ ص ۱۷۰)

۲..... ”یونہی کسی آیت کا سرچیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش



کرنا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے۔ جو سخت شریہ اور بد معاش اور غنڈے کہلاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت ص ۱۹۵، خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵)

۳..... ”اگر ہم بے باک اور کذاب ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتراؤں سے نہ ڈریں تو ہزار درجے ہم سے کتے اور سوراچھے ہیں۔“ (نشان آسمانی ص ۲، خزائن ج ۴ ص ۳۶۲)

۴..... ”ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے..... اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین ص ۱۲۶، خزائن ج ۲۱ ص ۲۹۲)

۵..... ”مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جھوٹ بولنا ایک شیطان اور لعنتی کا کام ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۸)

کلام میں تناقض ہونا

۱..... ”کسی پجیر اور عقل مند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملاتا جائے تو اس کا کلام بے شکل تناقض ہو جاتا ہے۔“

(ست پہن ص ۳۰، خزائن ج ۱ ص ۱۴۲)

۲..... انشاء کرنا چھپانا لیموں کا کام ہے۔ (الاستقاء ص ۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۶۵۷)

قرآن مجید کی تفسیر کا ضابطہ

۱..... ”قرآن مجید کے وہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے جن کی تائید قرآن شریف ہی سے ہوتی ہو۔ (یعنی شواہد قرآن)“

(برکات الدعاء ص ۱۸، خزائن ج ۶ ص ایضاً)

۲..... ”دوسرا معیار تفسیر رسول اللہ ﷺ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ حضرت محمد ﷺ تھے۔ پس اگر آنحضرت ﷺ سے تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا غدغہ قبول کرے۔ نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہے۔“ (برکات ص ۱۸، خزائن ج ۶ ص ایضاً)

۳..... ”تیسرا معیار صحابہؓ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ آنحضرت ﷺ کے نوروں کے حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا کا ان پر بڑا فضل تھا اور نصرت الہی ان کی قوت مدد کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا نہ صرف قال (ظاہر) تھا۔ بلکہ حال بھی تھا۔“

(برکات ص ۱۸، خزائن ج ۶ ص ایضاً)

۴..... ”پھر اگر کسی وقت کلام اللہ اور حدیث رسول کے سمجھنے میں اختلاف رونما ہو جائے اور عاقبت گمراہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہر صدی میں ایسے علماء ربانی پیدا فرمانے کا انتظام فرما رکھا ہے جو اختلافی مسائل کو خدا اور رسول کی منشاء کے مطابق واضح کرتے رہتے ہیں۔“

۵..... ”(مسلمہ مفہوم کے علاوہ) ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا (جیسے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے بجائے افضل لینا اور توفی کا معنی موت کرنا۔ مؤلف) بھی تو الحاد و تحریف ہے۔ خدا مسلمانوں کو اس سے بچائے۔“ (ازالہ ص ۷۵، خزائن ج ۳ ص ۵۰۱)

۶..... ”نصوص (قرآن و حدیث کے واضح المفہوم الفاظ) کو ظاہری معنی پر محمول کرنے پر اجماع ہے۔“ (ازالہ ص ۴۰۹، خزائن ج ۳ ص ۳۱۲)

”النصوص يحمل على ظواهرها“ (ازالہ ص ۵۴۰، خزائن ج ۳ ص ۳۹۰)

مجددین کا کام

سید دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين“ (مشکوٰۃ ص ۳۶، کتاب العلم)

فرمایا ”ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة يجدد لها ديناً (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۲، باب ما يذكر في قدر المائة)“

نیز فرمایا ”لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك (مشکوٰۃ ص ۵۸۳، باب ثواب هذه الامة)“

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”مجدد لوگ دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ گمشدہ دین کو پھر دنوں میں قائم کرتے ہیں۔“ (شہادۃ القرآن ص ۴۸، خزائن ج ۶ ص ۳۴۴)

۲..... ”ایسے اکابر ائمہ کو فہم قرآن عطاء ہوتا ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف کو اجمالی مقامات کو احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔“ (ایام الصلح ص ۵۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸)

۳..... ”مجدد محملات کی تفسیر کرتا اور کتاب اللہ کے معارف بیان کرتا ہے۔“ (حملۃ البشریٰ ص ۷۵، خزائن ج ۷ ص ۲۹۰)

۴..... ”جو لوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں۔ وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے۔“

(فتح الاسلام ص ۹، خزائن ج ۳ ص ۷ حاشیہ)  
۵..... ”سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماننا ہی پڑتی ہیں۔“  
(ازالہ ص ۴۷، ۳۷، ۳۷، خزائن ج ۳ ص ۲۹۳)  
حدیث نبوی

۱..... ”پس حدیث کی قدر نہ کرنا گویا ایک عضو اسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں ایک ایسی حدیث جو قرآن و سنت کی نفیض ہے اور ایسی حدیث کی نفیض ہو جو قرآن کے مطابق یا مثلاً ایسی حدیث ہو جو صحیح بخاری کے مخالف ہے تو وہ حدیث قبول کے لائق نہ ہوگی۔“

(کشتی نوح ص ۵۸، خزائن ج ۱۹ ص ۶۲)  
۲..... ”اور اگر یہ کہو کہ کیوں جائز نہیں کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ ایسا خیال بھی سراسر ظلم ہے۔ کیونکہ یہ حدیثیں (نزل مسیح کی) ایسے تو اتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عند العقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواترات بدیہیات کے رنگ میں ہو جاتے ہیں۔“  
(ایام الصلح ص ۴۸، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۹)

انبیاء کرام اور اکابر قوم کا احترام

۱..... ”اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے۔“

(ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۸، خزائن ج ۲۳ ص ۳۹۰)  
۲..... ”وہ بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بد ذات ہے جو خدا کے برگزیدہ و مقدس لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔“

(البلاغ المبین ص ۱۹، لیکچر لاہور، بدرج ۷ نمبر ۲۵ ص ۸، مورخہ ۲۵ جون ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱ ص ۴۱۹)  
۳..... ”ہم مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پر لے درجے کی خباثت اور شرارت سمجھتے ہیں۔“ (براہین احمدیہ حصہ دوم ص ۱۰۲، خزائن ج ۱ ص ۹۲)

۴..... ”تیر بر معصوم سے بار د خبیث ..... آسماں راے سزد گر سنگ بارد بر زمیں“  
(فتح اسلام ص ۷۵، خزائن ج ۳ ص ۴۵)

۵..... ”جن نبیوں کا وجود عصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دونی

ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“  
(توضیح المرام ص ۳، خزائن ج ۳ ص ۵۲)

۶..... ”حضرت مسیح کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد ہے۔“  
(تحفہ قیسریہ ص ۲۳، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۵)

۷..... ”اس خدا کے دائمی پیارے اور دائمی محبوب اور دائمی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع ہے۔ یہودیوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو جائز رکھا۔“  
(تحفہ قیسریہ ص ۲۲، خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۴)

۸..... ”اور خدا نے اماموں کے لئے چاہا کہ وہ ذنوب ہوں تاکہ لوگوں کو ان کی کمی نسب کا تصور کر کے نفرت پیدا نہ ہو۔ اسی طرح خدا کی سنت اس کے نبیوں میں ہے۔ جو قدیم زمانے سے جاری ہے۔ پس ڈرو اور دیکھو۔“  
(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۹ ص ۱۸۳، ۱۸۴)  
۹..... ”شریر انسانوں کا طریق یہ ہے کہ بھوکے کی برائی کرنے کے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ لے آتے ہیں۔ گویا وہ منصف مزاج ہیں۔“

(ست بچن ص ۱۳، خزائن ج ۱۰ ص ۱۲۵، حاشیہ)  
۱۰..... ”خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔“  
(اعجاز احمدی ص ۳۸، خزائن ج ۹ ص ۱۳۹)

۱۱..... ”مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی ﷺ کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ یہ اثر پہنچایا گیا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے نبی ﷺ سے محبت رکھتے ہیں، ویسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔“  
(ضمیمہ نمبر ۳، تریاق القلوب، خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۱)  
۱۲..... ”بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی بدزبانی کے مقابل پر جو آنحضرت ﷺ کی شان میں کرتا ہے حضرت عیسیٰ کی نسبت سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔“

(مجموع فتاویٰ احمدیہ ج ۲ ص ۷۸، فتاویٰ مسیح موعود ص ۲۳۶)  
۱۳..... ”وہ شخص بھی اس سے کچھ کم بد ذات نہیں جو مقدس اور راست بازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے۔“  
(آریہ دھرم ص ۵۵، خزائن ج ۱۰ ص ۶۲)

۱۴..... ”اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کی کسر شان لازم آئے اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا نبی عظیم سمجھتے ہیں اور مرتکب

ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر انفس خیال کرتے ہیں۔“ (براین ص ۱۰۱، خزائن ج ۱ ص ۹۰)

۱۵..... ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں۔ بلکہ نہایت شریر

اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے۔“ (آریہ دھرم ص ۱۱، خزائن ج ۱ ص ۱۳)

۱۶..... ”اسی طرح انسان کو چاہئے کہ جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم

ہے کہ وہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کتھن کی مثال صادق آئے گی۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۱۰۳)

## صحیح عقائد

۱..... ”خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا

ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل

ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے

خارج سمجھتا ہوں اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائکہ کا منکر بھی نہیں۔ بخدا میں اسی طرح ملائکہ کو مانتا

ہوں۔ جیسا کہ شرع میں مانا گیا ہے۔ نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ

پھیرنے والا ہوں۔“ (آسانی فیصلہ ص ۳، خزائن ج ۴ ص ۳۱۳)

۲..... ”اے لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنو اور

خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنے

حاضر کئے جاؤ گے۔“ (آسانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۴ ص ۳۳۵)

۳..... ”گواہ رہو کہ میرا تمسک قرآن شریف سے ہے اور میں حدیث کی پیروی

کرتا ہوں جو چشمہ حق و معرفت ہے اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ جو خیر القرون میں باجماع

صحابہ صحیح قرار پاگئی۔ نہ ان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہ کی اور اسی اعتقاد پر میں زندہ ہوں اور اس

پر میرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جو شخص شریعت محمدی میں ذرہ برابر کمی بیشی کرے یا کسی عقیدہ اجماعی کا

انکار کرے، اس پر خدا، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔“

(انجام آتھم ص ۱۴۴، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

۴..... ”واللہ انسی لا ادعی النبوة ولا اجاوز الملة ولا اغترف

الامن فضالة خاتم النبیین واومن باللہ وملائکته وکتبه ورساله واصلی

واستقبل القبلة“ (المکتوب الی العلماء الحق ملحق بہ رسالہ السراخل خلاصہ ص ۸، خزائن ج ۸ ص ۴۲۲)

”اور خدا کی قسم میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے ملت اسلام سے

بغاوت کی ہے۔ میں تو خاتم النبیین ﷺ کے فیض سے ہی فیض یاب ہو رہا ہوں۔ میں اللہ پر اس

کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں۔ نماز کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی آلائش کفر کی نہیں۔“

۵..... ”تم نے مجھے دعویٰ نبوت کی طرف منسوب کیا اور تم لوگ اس بہتان بازی پر ذرا بھر خدا تعالیٰ سے نہ ڈرے اور نہ ہی تم ڈرنے والے ہو۔ تم لوگ میرے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔ تم نے میرے صاف شفاف چشمے کو کھارا سمجھ لیا، نہ تمہیں عقل ہی ہے۔ تم کیسے الہی اسرار کو سمجھ سکتے ہو۔ جب کہ تم نے تکبر کے کپڑے لٹکا رکھے ہیں۔ تم لوگ کینہ کے جذبات میں غرق ہو کر حق سے اعراض کر رہے ہو اور جہالت کی باتوں پر رنجھے ہوئے اور تم فضولیات میں غرق ہو اور اندھوں کی طرح صراطِ مستقیم سے منہ پھیر رہے ہو۔“ (المکتوب الی العلماء ملحق سر الخلافہ ص ۹۱، خزائن ج ۸ ص ۳۲۸)

عظمت صحابہ کرامؓ

مرزا قادیانی نے ایک رسالہ بنام سر الخلافہ خزائن ج ۸ (عربی) الہام خداوندی کی روشنی میں لکھا ہے۔ جس میں تمام صحابہ کرامؓ کی نہایت مدح و توصیف فرمائی۔ ان کو کجوارح رسول اللہ ﷺ قرار دے دیا اور ان کی صالحیت کو تسلیم کیا۔ ان کی ایذا کو ایذاء الہی قرار دیا اور ظلم و تعدی کرنے والا قرار دیا۔ ان کے سب و شتم کو انبیاء کا سب و شتم قرار دیا اور لکھا۔ ”واعطاهم مالم یوت احدا من العالمین“ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا اور انعامات و اعزازات سے نوازا کہ تمام جہان میں سے کسی کو بھی نہیں نوازا گیا۔ ان کے تمام افعال زندگی محض رضائے الہی کے لئے تھے۔

دوسری جگہ لکھا کہ ”گویا وہ سب آنحضرت ﷺ کی عکسی تصویریں تھیں۔“

(فتح اسلام ص ۳۶، خزائن ج ۳ ص ۲۱)

اس کے بعد مسئلہ خلافت میں صدیق و فاروقؓ کو آیت استخلاف کا حقیقی مصداق قرار دیا اور آیت مبارکہ کو انہی کے حق میں منحصر قرار دیا۔ اسی طرح صدیق اکبرؓ کو آیت ”انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین“ کا مصداق قرار دیا۔ خاص کر صدیق اکبرؓ کی مدح و توصیف میں خوب قلم چلایا۔ ان کو ہمزاج رسول اور خلیفہ رسول ﷺ، محسن امت، ممدوح امت قرار دیا۔ حتیٰ کہ اس سلسلہ میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے انعامی چیلنج اور مباہلہ تک اعلان کر دیا۔ صدیق اکبرؓ کو تمام صحابہؓ سے افضل، اعلیٰ، فضل و مدح کا مرکز قرار دیا۔ ان کے بے پناہ حسنات و برکات کا اظہار کیا۔ سید المرسلین ﷺ کا ہر مشکل میں رفیق حقیقی، خدا کا انتخاب اور رفیق ہجرت قرار دیا۔ ان کو اشجع الناس، محافظ امت مرحومہ، شفیق و رحیم کہا اور کہا سبحان اللہ کیا شان ہے۔ صدیق و فاروق

کی، ”لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لتمنیاھا غبطة ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنية“ یعنی ان کا مقام اتنا منفرد اور رفیع ہے کہ اگر موسیٰ وعیسیٰ زیدہ ہوتے تو وہ بھی ان کے مقام کے حصول کی تمنا کرتے۔ مگر حصول مقام صرف آرزو سے نہیں ہوتا۔ یہ تو رب رحیم کی رحمت ازلی کا نتیجہ ہے جو کہ انہیں کے ساتھ وابستہ ہے۔

روح صدیق اکبر جامع رجاء و خوف اور شوق و خشیت اور انس و محبت تھی۔ صفائی باطن میں بے مثال اور صرف درگاہ ربوبیت کی طرف متوجہ تھی۔ ایسی عظیم الشان اور منفرد ہستی کسی قسم کی زیادتی اور ظلم کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔

مرزا قادیانی نے مزید لکھا ”ایھا الناس لا تظنوا ظن السوء فی الصحابة ولا تهلکوا انفسکم فی بواہی الاسترابة“

صدیق اکبرؓ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کی گواہی دی۔ اسی کا ساتھ دیا اسی لئے علی المرتضیٰ نے ان دونوں کے دست اقدس پر رضا و رغبت سے بیعت کی۔ ان کے پیچھے بلا تکلف نماز پڑھتے رہے۔ انہی کے ساتھ ہر وقت ہر مشکل میں شامل مشورہ رہے۔ وہ ان کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت استخلاف کا مصداق ہے ہی خلافت صدیق اکبرؓ۔

پھر لکھا کہ صدیق اکبرؓ فرخ الاسلام والسلمین تھے۔ ان کا جو ہر فطرت رحمت عالم ﷺ کے قریب تھا۔ ”وکان اول المستعدين لقبول نفحات النبوة“ یہ فرداؤل تھے کہ جنہوں نے مثیل قیامت کا حشر روحانی ملاحظہ فرمایا تھا۔ ”وبدل الجلابیب المتدنسة بالملاحف المطهر قوضاھا الانبیاء فی اکثر سیر النبیین“

ہم قرآن عظیم میں ان کے تذکرہ کے سوا قطعاً کسی کا بھی تذکرہ نہیں پاتے۔ ”ومن عاداء فبینہ و بین الحق باب مسدود ینفخ ابدا الا بعد رجوعه الی سید الصدیقین“ اسی لئے ہم گروہ شیعہ میں کوئی اہل تقویٰ نہیں پاتے۔ کیونکہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں غیر پسندیدہ ہیں اور وہ صالحین سے عداوت رکھنے والے ہیں۔

نیز لکھا کہ آپؐ کی روح سید المرسلین ﷺ کی روح انور کے ساتھ ملحق ہے اور فیضان الہی میں ان کی روح مطہرہ کے ساتھ شامل ہے اور آپؐ فہم قرآن میں تمام امت سے ممتاز ہیں اور حب رسول ﷺ میں یکتا اور منفرد ہیں۔ حتیٰ کہ: ”انہ کان نسخة اجمالية من کتاب النبوة وکان امام ارباب الفضل والفتوة من بقية طین النبیین وکان کظل لرسولنا وسیدنا ﷺ فی جمیع الاداب وکانت له مناسبة ازلیة بحضرة

خبر البرية والذالك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل  
للاخرين في الازمنة المتطاولة والاقطار المنباعدة“

”اما الصديق فقد خلق منوجها الى مبدء الفيض ومقبلا على  
رسول الرحمان فلذاك كان احق الناس بحلول صفات النبوة واولى بان  
يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه ويوافقه باتم الوفاق.....  
ويكون الداخل في جوهر روحه صدقاً وصفاء وثباتاً واتقاءً . لو ارتد العالم  
كله لا يبالهم ولا يتاثر بل يقدم قدمه كل حين“

اسی لئے خالق کائنات نے نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ”فاولئك مع  
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين“ اور اس میں اشارہ ہے شان صدیق  
کی طرف۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ میں سے کسی کو بھی صدیق کے لقب سے نہیں نوازا۔ تاکہ  
آپ کا مقام ظاہر ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ بھی کمالات صدیق پر اکبر شواہد میں سے  
ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر ہی لسان رسالت سے صدیق کہلائے اور فرقان حمید نے ان کو انبیاء کے  
ساتھ ملا دیا۔ جیسا اہل نظر پر واضح ہے۔ یہ شان بھی صدیق اکبر ہی کی ہے جس میں وہ منفرد ہیں۔  
کوئی ان کا شریک و سہم نہیں ہے۔

تو ان حقائق بالا سے شان صدیق اکبر واضح ہو گئی کہ انبیاء کے بعد آپ کا ہی مقام  
افضل ہے۔ ”كان افضل الناس بعد الانبياء“ آپ کا شان اقدس میں کوئی بھی ہمسر نہیں  
ہے۔ مگر آپ نبی نہیں۔ نبوت کا مقام نہایت ہی اعلیٰ وارفع ہے اور وہ ہے بھی وہی۔ وہ ذاتی  
کمالات سے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ محض عطائے الہی سے ملتا ہے۔

اسی طرح مرزا قادیانی نے فاروق اعظم ﷺ کو بھی آغضو علیہ کا ظلی وجود قرار دیا  
ہے۔ (ایام صلح ص ۳۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۶۵) مگر اصدق الخلق نے صاف فرمادیا ”لو كان بعدی  
نبی لكان عمر (مشكوة ص ۵۵۸، باب مناقب عمر)“ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ  
عمر جیسا با کمال انسان ہوتا۔ مگر کیا کہتے باب نبوت کو تو اب تا قیامت تالا لگ گیا ہے۔ یعنی اب کسی  
بھی قسم کا کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی  
ولا نبی (جامع ترمذی ج ۲ ص ۵۳، باب ذہبت النبوة وبقیت المبشرات)“

صحابہ کرام عالم تھے، فقیہ تھے، متقی صالح سب کچھ تھے۔ قریب تھے کہ نبی ہو جائیں  
کیونکہ ان میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت تھی۔ مگر وہ اعلان الہی آڑے آیا کہ ”ماکان محمد



ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بكل شئ  
 علیما (احزاب: ۴۰) ”لہذا آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا تا قیامت کوئی امکان نہیں۔“ لا  
 نبی بعد ولا امة بعدکم (کنز العمال ج ۱۵ ص ۹۴۷، حدیث نمبر ۳۸ ۴۳)“  
 حیات و نزول مسیح علیہ السلام اور قرآن وحدیث  
 مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

۱..... وہ فرماتی ارشاد اس آیت میں ہے۔ ”هو الذی ارسل رسوله  
 بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر  
 حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ  
 غلبہ مسیح علیہ السلام کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا  
 میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔  
 (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، ۳۹۹؛ خزائن ج ۱ ص ۵۹۳ حاشیہ)

۲..... ”عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم  
 للکافرین حصیرا“ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے اور اگر تم  
 نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے  
 جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جلالی  
 طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفیق اور نرمی اور لطف، احسان کو قبول نہیں  
 کریں گے اور حق محض دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے تو وہ  
 زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور عصف اور قہر اور سختی کو استعمال  
 میں لائے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلاہت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور  
 سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کجی اور ناراستی کا نام و نشان نہ رہے گا اور جلال  
 الہی اپنی قہری تجلی سے نیست و نابود کر دے گا۔“ (براہین احمدیہ ص ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۶۰۲)

۳..... ”اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ  
 السلام کی طرف منسوب تھیں۔“ (براہین احمدیہ ج ۵ ص ۸۵، خزائن ج ۲ ص ۱۱۱)

۴..... ”سو واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح  
 موعود (عیسیٰ بن مریم علیہ السلام) کی کھلی کھلی پیش گوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس  
 پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور

یہ پیش گوئی بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے اور بالضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح موعود آنے والا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اکثر ہر حدیث اپنی ذات میں مرتبہ آحاد سے زیادہ نہیں۔ مگر اس میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس قدر طرق متفرقہ کی رو سے احادیث نبویہ اس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ ان سب کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے بلاشبہ اس قدر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور آنحضرت ﷺ نے مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے اور پھر جب ہم ان احادیث کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں ہیں، ان احادیث کو بھی ملاتے ہیں جو دوسرے فرقے اسلام کے مثلاً شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور بھی اس تو اثر کی قوت اور طاقت ثابت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ صد ہا کتابیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ پھر بعد اس کے جب ہم بیرونی طور پر اہل کتاب یعنی نصاریٰ کی کتابیں دیکھتے ہیں یہ خبر ان سے بھی ملتی ہے..... لیکن یہ خبر مسیح موعود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہر زمانہ میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تو اثر سے انکار کیا جائے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی رو سے یہ خبر سلسلہ وار شائع ہوتی چلی آئی ہے۔ صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جائیں تو ایسی کتابیں ہزار ہا سے کچھ کم نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ بات اس آدمی کو سمجھنا مشکل ہے جو اسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے۔ درحقیقت ایسے اعتراض کرنے والے اپنی بد قسمتی سے کچھ ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بصیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ کس قدر قوت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸)

۵..... ”اب اس تمہید کے بعد یہ بھی واضح ہو کہ مسیح موعود کے بارے میں جو احادیث میں پیش گوئی ہے۔ وہ ایسی نہیں کہ جس کو آئمہ حدیث نے چند روایتوں کی بناء پر لکھا ہو بس۔ بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیش گوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدر اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے، اس قدر اس پیش گوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں۔ کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے آتے تھے اور آئمہ حدیث امام بخاری وغیرہ نے اس پیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امر اپنی کوشش سے نکالا ہے تو صرف یہی ہے کہ جب اس کو کروڑ ہا مسلمانوں میں مشہور اور زبان زد پایا تو اپنے قاعدہ کے موافق مسلمانوں کے اس قولی تعامل کے لئے روایتی سند کو تلاش کر کے پیدا کیا اور روایات صحیحہ

مرفوعہ متصل سے جن کا ایک ذخیرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اسناد کو دکھایا۔“

(شہادۃ القرآن ص ۸، ۹، خزائن ج ۶ ص ۳۰۴، ۳۰۵)

ف..... واقعی اہل اسلام کی ہر کتاب حدیث میں اس مسئلہ پر متواتر احادیث موجود ہیں کہ عیسیٰ بن مریم صاحب انجیل لازماً نازل ہوں گے۔ پھر اکابر نے ہر تفسیر سے اسی عقیدہ کو نقل کیا۔ صد ہا تفسیر کے حوالہ جات اکٹھے کر دیئے گئے ہیں۔ اسی طرح نزول مسیح کی احادیث التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے مستقل کتاب میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ جس کے بعد اس عقیدہ سے انکار کی گنجائش نہیں اور نہ ہی کسی قسم کے اشتباہ کی گنجائش ہے۔ ہاں منکرین حق ہی اس میں شک و شبہات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم تمام اہل اسلام کو ان تمام وسوسوں سے محفوظ فرماویں۔

۶..... ”یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کو سب نے باتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی۔ اس لئے جو بات اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محالات اور ممقعات میں داخل کر لیتے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

۷..... ”اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تحلف ہو۔ اس لئے اس آیت ”هو الذي ارسل رسوله“ کی نسبت ان متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح ابن مریم کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔“

(چشمہ معرفت ص ۸۳، خزائن ج ۲۳ ص ۹۱)

مندرجہ بالا اقتباسات سے روشن ترین طور پر ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کی طرح احادیث رسول ﷺ میں بھی بالا ہتمام آمد مسیح علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز ابتداء ہی سے تمام افراد امت (عوام و خواص) کا اس پر کلی اتفاق ہے اور تمام امت اس نظریہ کو ایک عام بات کی طرح نہیں بلکہ بطور عقیدہ کے اس حقیقت کو اپنے قلب و جگر میں راسخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت مشاہدہ بھی اور بقول مرزا قادیانی بھی کتب تفسیر و حدیث، شروح حدیث، کتب

عقائد و تصوف میں بر ملا اور بالا ہتمام مذکور ہے۔ کتب شیعہ اور اہل کتاب بھی اس نظریہ حقہ کی مصدق اور مؤید ہیں۔ یہ ہے وہ سچائی، صداقت اور حقیقت جس کا مرزا قادیانی نے واضح ترین اظہار کر کے نظریہ اسلام کی سو فیصد تائید کر دی ہے۔ لہذا ہم صمیم قلب سے مرزا قادیانی کی اس تصدیق و تائید کے مشکور ہیں۔

اس ذخیرہ حدیث میں مذکور عیسیٰ بن مریم علیہا السلام سے مراد ان کا کوئی مثیل نہیں۔ بلکہ وہی فرزند مریم بتول اور صاحب انجیل عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو رسولا الی بنی اسرائیل تھے اور مبشر خاتم الانبیاء ﷺ تھے۔ جیسے کہ سطور بالا سے دو ٹوک انداز سے ثابت ہو گیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اس تاویل و تحریف کا ہمیشہ کے لئے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ضابطہ یہ طے کر دیا کہ جس بات پر قسم کھائی جائے، یعنی اسے حلفاً بیان کیا جائے۔ اس میں کوئی تاویل اور استثناء نہیں چل سکتے۔ چنانچہ مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں۔

”والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والا فای فائدة في ذكر القسم فتدبر كالمفتشين المحققين“

(حماۃ البشری ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲ حاشیہ)

”ذکر قسم اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خبر اور اطلاع کو ظاہر ہی پر تسلیم کریں گے۔ اس میں کوئی تاویل یا استثناء کی گنجائش نہ ہوگی۔ ورنہ ذکر قسم کا کیا فائدہ تھا؟ لہذا تم ایک مقتضی اور محقق کے اندر پر اس مسئلہ میں غور و فکر کرو۔ یعنی قسم کے ساتھ کوئی خبر، واقعہ یا اطلاع حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ ہے۔“ اب نزول مسیح کی خبر جو صحیح حدیث رسول ﷺ میں مذکور ہے اور مذکور بھی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے صادق و امین نبی معظم ﷺ فرماتے ہیں کہ:

..... ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم

(بخاری ج ۱ ص ۲۹۶، باب قتل الخنزیر، ۳۳۶، باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر، ۴۹۰، باب نزول عیسیٰ بن مریم)

..... ”والذی نفسی بیدہ لینزلن فیکم ابن مریم (مسلم شریف

ج ۱ ص ۸۷، باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام)

..... ”والذی نفسی بیدہ لیهلن ابن مریم بفع الروحاء حاجا

او معتمرا (مسلم ج ۱ ص ۴۰۸، باب جواز التمتع فی الحج والقرآن)

.....۴ ”والذی نفسی بیدہ لیقتلنہ ابن مریم بباب لد (مسند حمیدی ج ۲ ص ۳۶۵، حدیث نمبر ۸۲۸)“

یہ چار احادیث ہیں جن میں اصدق الخلق ﷺ نے آمد مسیح کو خلفا بیان فرمایا ہے۔ گویا اس خبر پر ایک نہیں چار قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم بھی اس ذات اقدس کی ہے جو بلا قسم بھی تمام مخلوقات سے زیادہ راست باز اور سچے ہیں۔ لہذا اس خبر اور پیش گوئی میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسیح سے مراد اس کا مثل ہے۔ آمد سے مراد یہ ہے، رفع یا نزول سے مراد یہ ہے، قتل خنزیر، کسر صلیب وغیرہ سے مراد یہ ہے یا وہ ہے۔ جب ایک قسم والی خبر میں یہ ایچ پیج نہیں چل سکتا تو چار قسموں والی خبر میں یہ ڈھکوسلے کیسے چل سکیں گے۔ لہذا از روئے قرآن وحدیث، اجماع امت اور بقول مرزا قادیانی، اہل اسلام کا نظریہ کہ آنے والے وہی مسیح ہیں جو کہ فرزند مریم صدیقہ اور صاحب انجیل تھے۔ دوسرا کوئی فرد ممکن نہیں ورنہ قسم کھا کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر امت کا ہر فرد جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ ہر کتاب میں مذکور ہے کہ وہ اسی اصلی انداز سے آمد مراد و مصداق ہے۔ آج تک کسی ایک فرد نے بھی اس کو تاویل اور شبلی انداز میں تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہمارا عقیدہ سو فیصد برحق ثابت ہوا اور منکرین (قادیانی یا دیگر ملحدین) کا عقیدہ باطل ہوا۔

ہمارے ہر ایک منفسر، محدث، ملہم، مجدد، متکلم، فقیہ، مجتہد، امام و ولی وغیرہ تمام کے تمام صراحتاً اس عقیدہ حقہ پر متفق ہیں۔ ایک فرد بھی دکھایا نہیں جاسکتا کہ فلاں نے اس کی یہ تاویل کی ہے۔ دنیا کا کوئی قادیانی، کوئی ملحد ایک ہی تحریر پیش کر کے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ ہل من مبارز؟

مرزا قادیانی کی علت غائی

”ہر ایک چیز اپنی علت غائی سے شناخت کی جاتی ہے۔“

(ازالہ ص ۵۵۳، خزائن ج ۳ ص ۳۹۸)

”میرے آنے کے دو مقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ وہ سچے مسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسر صلیب ہو، ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے، دنیا ان کو بھول جائے۔“

(اخبار الحکم ج ۹ نمبر ۲۵ ص ۱۰، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۵ء، ملفوظات ج ۸ ص ۱۴۸)

”اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہئے۔ (یعنی قیام تقویٰ اور کسر صلیب و تثلیث) تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان (دس لاکھ یا ہزار تو کجا رہے)

براہین بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی (غرض و مقصد) ظہور میں نہ آوے تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“ (مرزا قادیانی کا خط بنام قاضی نذر حسین مندرجہ اخبار بدر ج ۲ نمبر ۲۹ ص ۴، مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء، مکتوبات احمدیہ ج ۶ حصہ اول ص ۱۶۲)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا تمام تصریحات کو ہم بالکل درست اور صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ جناب مرزا قادیانی اس سچے اور مبنی بر حقیقت معیار پر پورے اترے یا نہیں؟ سو بات بالکل واضح ہے۔ مشاہدہ ہے کہ نہ تو مسلمان صحیح مسلمان اور متقی بنے بلکہ مزید عملی اور اعتقادی کمزوریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری بات کسر صلیب اور خاتمہ تثلیث (عیسائیت) کی اس سے بھی خراب اور بدتر حالت ہے۔ لہذا صاف واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی اپنی علت غائی میں بالکل ناکام بلکہ صفر ثابت ہوئے۔ چنانچہ آنجناب خود اپنی زبان اور قلم سے بھی اس حقیقت کا اظہار کر گئے ہیں۔ دیکھئے مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں۔

”مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کا حق بجا نہیں لاسکا جو میری مراد تھی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو میری تمنا تھی۔ میں اس درد کو ساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہئے تھا میں کر نہیں سکا۔ جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔“

(تتر حقیقت الوحی ص ۵۹، خزائن ج ۲۲ ص ۴۹۳)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا تحریرات کی روشنی میں فیصلہ اور نتیجہ بالکل واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی سال ہا سال اپنی آمد کے جو اغراض و مقاصد پیش کرتے رہے وہ مشاہدہ اور بقلم خود پورے نہیں کر سکے۔ لہذا انہی کی اس سچی بات کے مطابق (کہ اگر مجھ سے میری علت غائی ظہور میں نہ آوے تو پھر کروڑوں نشان بھی مجھ سے ظاہر ہوں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں) ہم اب بباگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی شہادت خود کذاب، دجال اور ناکام و نامراد ثابت ہو چکے۔ اس لئے قادیانیوں کا ان سے چٹے رہنا محض حماقت و جہالت اور کفر و ضلالت ہے۔

واسطہ وحی الہی

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

..... ”اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرئیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابعیاً مت منقطع ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۲)

۲..... ”کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دینی جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہوں۔ لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہر لگ گئی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۳۴، خزائن ج ۳ ص ۳۸۷)

۳..... ”اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ کو مضمون میں قرآن شریف سے تو اردر رکھتی ہو، پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو، وہ محال ہوتا ہے۔ قدر!“

(ازالہ اوہام ص ۵۸۳، خزائن ج ۳ ص ۴۱۴)

۴..... ”اور رسولوں کی تعلیم اور اعلام کے لئے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جو وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھائی جاتی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۸۴، خزائن ج ۳ ص ۴۱۵)

ف..... مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہو گیا کہ انبیاء و رسل پر وحی صرف بواسطہ جبرائیل نازل ہوتی ہے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اب وحی نبوت پر مکمل طور پر مہر لگ چکی ہے۔ یعنی رسالت و نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ یہ امر محال ہے کہ جبرائیل امین دوبارہ وحی رسالت لانا شروع کر دیں۔ اب کوئی کلام ربانی اگرچہ وہ قرآن سے تو اردر ہی رکھتا ہو، نازل نہیں ہو سکتا۔

لہذا اب قادیانی، جو مرزا قادیانی کا کلام مشتمل برآیات قرآنی جمع کئے بیٹھے ہیں، وہ سب من جانب اللہ نہیں ہے۔ بلکہ محض من گھڑت ہے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی ایسے کلام کا نزول اب محال ہے۔ باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امت کی تعلیم و تربیت کے ذرائع تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کچھ سکھادیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ”ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران: ۴۸)“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو کتاب و سنت کی تعلیم دے دی اور تورات و انجیل کی بھی۔

پہلی تعلیم امت آخر الزمان کے لئے اور تورات و انجیل کی تعلیم اصلاح یہود کے لئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روز حشر آپ کو بطور احسان جلائیں گے کہ ”واذ علمتک الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (المائدہ: ۱۱۰)“ اور یاد کیجئے جب کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی۔

اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جس کسی کو کسی منصب پر فائز کرے گا۔ اس کے متعلق تمام ضروریات پہلے ضرور فراہم فرماوے گا۔ ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی۔ جو کہ اللہ کریم کی

شان کے شایان نہیں۔ اسی لئے حضرت آدم کو جب خلافت کے منصب پر فائز فرمانا تھا تو اس سے قبل آپ کو تمام متعلقہ علوم و معارف سے روشناس کرا دیا گیا۔ ایسے ہی والذی قدر فہدی کے تحت تکوینی طور پر ہر فرد مخلوق کو اس کی ضروریات حیات کا حصول اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رب کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے بھیجا منظور تھا تو اس کے متعلقہ تمام ضروریات (علوم قرآن و سنت) بھی ان کو تعلیم فرمادی گئیں۔ لہذا اس قادیانی اشکال کی کوئی وقعت نہیں کہ ان پر دوبارہ وحی آئے گی یا وہ نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے۔ یہ سب قادیانی ڈھکوسلے ہیں کہ وہ احکام شرع کہاں سے اور کیسے اخذ کریں گے؟

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی نے ایک سچا اور صحیح ضابطہ بتا دیا کہ تاریخ رسالت میں وحی و اعلام صرف بواسطہ جبرائیل ہی چلتا آ رہا ہے۔ دیگر کوئی فرشتہ اس سے متعلق نہیں فرمایا گیا تو جب جبرائیل تا قیامت اس منصب سے موقف کر دیئے گئے ہیں تو آپ کے بعد دیگر کسی بھی فرد کا ادعائے نبوت بھی باطل ٹھہرا، اور یہ کہنا کہ میری یہ وحی ہے، یہ وحی ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہی ہو سکتے ہیں۔ وحی الہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ”وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم“ والی شیطانی وحی ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام عقیدہ حقہ کے مطابق بہر حال تشریف لائیں گے۔ نبوت سے معزول ہو کر نہیں بلکہ نبوت سے معمور ہوں گے۔ مگر ان کی نبوت نافذ نہ ہوگی۔ جیسا کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ”لو کان موسیٰ حیالما وسعہ الا اتباعی“ اور فرمایا ”لو اصبیح موسیٰ فتبعتموہ وترکتہمونی لضللتہم“ کہ اگر موسیٰ صاحب تورات بھی آجائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھئے جب موسیٰ کلیم اللہ کی اتباع باعث ضلالت ہے جو کہ مستقل صاحب کتاب نبی تھے تو اور کسی کا کیا مقام ہے؟ لہذا آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنا محال ہے۔ چاہے وہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ۔ اب کوئی دعویٰ وحی والہام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسیح بھی آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ”انسی رسول اللہ الیکم“ یعنی قطعاً دعویٰ نبوت والہام نہیں کریں گے۔ باقی سرور دو عالم ﷺ کے تعارف کے پیش نظر مسلمان ان کو بالکل جانتے پہچانتے ہوں گے۔ آتے ہی ان کو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کریں گے اور آ کر عذر کریں گے۔ کوئی مباحثہ، مباہلہ، حجت دلیل کی بات نہ ہوگی۔ ان کا تعارف ہمارے نبی ﷺ پہلے ہی ہمیں کروا دیا ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا پہلے ہی جزو ہیں۔ نئے سرے سے ان پر ایمان لانے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔



## خواب، کشف اور الہام کا سچا ہونا

۱..... ”بعض دفعہ فاسقوں اور غایت درجہ بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پرلے درجے کے بدمعاش اور شریر آدمی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کے فاسقہ عورت جو کنخریوں کے گروہ میں ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ برسر و آفتابہ برکام صدق ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی ہوتی ہے۔“ (توضیح المرام ص ۸۲، ۸۵، خزائن ج ۳ ص ۹۵)

۲..... دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں کہ: ”ممکن ہے کہ ایک خواب سچی بھی ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگرچہ شیطان بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن کبھی سچی بات بتلا کر دھوکا دیتا ہے تا ایمان چھین لے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱، خزائن ج ۲۲ ص ۳)

۳..... ”بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں..... انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵)

۴..... ”اس تقریر سے ہمارا مدعا یہ ہے..... کہ کسی شخص کا محض سچی خوابیں دیکھنا یا بعض سچے الہامات کا مشاہدہ کرنا یہ امر کسی کمال پر دلیل نہیں..... بلکہ یہ محض دماغ کی ہٹاؤٹ کا ایک نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے اس میں نیک یا راست ہونے کی شرط نہیں اور نہ ہی مومن اور مسلمان ہونا اس کے لئے ضروری ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۲)

۵..... ”اور ان کو بعض سچی خوابیں آ جاتی ہیں اور سچے کشف ظاہر ہوتے ہیں۔“

جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آثار نہیں ہوتے۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۰، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲)

۶..... ”اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھگن تھیں۔ جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کا تھا۔ انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کنجر جن کا دن

رات زنا کاری کا کام تھا۔ ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جو نجاست، شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کو جیسا کہ دیکھا گیا، ظہور میں آ گئیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا اچھے اقتباسات سے صاف معلوم ہو گیا کہ خواب، کشف اور الہام وغیرہ کوئی حق و صداقت کا معیار نہیں کیونکہ یہ تو کافروں، بد معاشوں، مشرکوں، زانیوں، دشمنان اسلام اور خاص کر بقول مرزا قادیانی سچی خواب کنجریوں اور زنا کار بدکار عورتوں کو بھی آ سکتا ہے۔ چوہڑیوں اور بھگتنوں کو بھی سچا خواب آ جاتا ہے تو پھر مرزائیوں کا مرزا قادیانی کے خوابوں، مکاشفوں اور الہامات کے پلندے شائع کرنے اور دکھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ حضرت صاحب کا یہ کشف صحیح نکل آیا۔ یہ خواب درست نکلا۔ دیکھئے مرزا قادیانی نے سچی بات کر دی کہ یہ کوئی معیار صدق نہیں۔ سچے خواب اور کشف تو کنجریوں اور بد معاشوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ سچے الہام شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی الہام یا کشف کا سچا ہو جانا کوئی خوبی یا کمال کی بات نہیں۔ یہ تو محض دماغی بناوٹ ہوتی ہے۔ اس کے لئے ایمان یا اسلام کی شرط نہیں تو جب ایمان و اسلام شرط نہیں تو ان کی بناء پر کسی کو مہدی، مجدد یا مسیح موعود کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ لہذا قادیانیوں کا مرزا قادیانی کے الہامات اور کشف کے مجموعے، تذکرہ اور البشری نامی پلندے چھاپنا اور ان کو مرزا قادیانی کی صداقت کی دلیل بنانا محض جہالت اور حماقت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کا کوئی منصب ثابت نہیں ہو سکتا۔

### الہام و وحی کا دوسرا معیار

مرزا قادیانی رحمانی الہام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ”اور نیز یاد رہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندر رکھتے ہیں اور چونکہ خدا سمیع و علیم اور رحیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے متقی اور راست باز اور وفادار بندوں کو ان کے معروضات کا جواب دیتا ہے اور یہ سوال جواب کئی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔“ ماسوا اس کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روانگی نہیں رکھتا اور گنگے کی طرح وہ فصیح اور کثیر المقدار باتوں پر قادر نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک بدبودار پیرایہ میں فقیر و فقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کہ ازل سے یہ توفیق ہی نہیں دی گئی کہ وہ لذیذ اور باشوکت کلام کرے..... اور نہ وہ بہت دیر تک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں تھک جاتا ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۳۹، ۱۴۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۴۳، ۱۴۴، البشری ص ۴، حصہ اول)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے مرزا قادیانی نے کتنی صحیح بات لکھی ہے۔ آپ نے شیطانی اور رحمانی الہام اور کلام میں کتنا واضح خط امتیاز کھینچ کر فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس معیار پر قادیانیوں کے شائع کردہ قادیانی الہامات اور کشف کو پرکھ لیں کہ آیا وہ رحمانی ہیں یا شیطانی۔ فرمائیے قادیانی (تذکرہ ص ۷۷) پر مذکور الہام ”تین استرے، عطر کی شیشی“ رحمانی ہو سکتا ہے؟ فرمائیے اس میں کون سی لذت اور طوالت ہے؟ ”امین الملک بے سنگھ بہادر“ (تذکرہ ص ۶۷) فرمائیے اس میں کتنی فصاحت و بلاغت سمٹی ہوئی ہے؟ ”شکار مرگ“ (البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۰) فرمائیے اس میں کون سی معنویت، افادیت اور کشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ الہامات اسی طرح کے کئے پھٹے اور مضحکہ خیز چیتھڑے ہیں۔ جن میں کسی قسم کی کوئی معنویت، کشش اور لذت نہیں ہے۔ جن پر کوئی غیر جانبدار آدمی اچھتی سی نظر ڈال کر بھی ان کی معقولیت کا قائل نہیں ہو سکتا۔

جناب مرزا قادیانی ضابطہ وحی کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”اور یہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

۲..... ”پس یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہے تو بسا اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

ناظرین کرام! واقعی مرزا قادیانی نے ٹھیک کہا ہے کہ ہر ملہم کو اس کی قومی زبان میں ہی الہام ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید یہی گواہی دیتا ہے۔ ”وہا ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ (ابزہیم)“ لیکن اس معیار پر جب ہم قادیانی کتب کو پرکھتے ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ان میں مرزا قادیانی کے الہامات ہر زبان میں ملتے ہیں۔ عربی، فارسی، پنجابی، اردو، انگلش، سنسکرت اور عبرانی وغیرہ۔ جن میں اکثر زبانوں کی ابجد سے بھی مرزا قادیانی واقف نہیں۔ لہذا اگر مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا دونوں اقتباسات صحیح ہیں تو ان کے خلاف ان کی تمام تحریرات لازماً غلط ہوں گی۔ ورنہ متناقض الکلام قہار پاکر مرزا قادیانی پاگل کہلائیں گے۔ جو کہ کسی قادیانی کو

قبول نہ ہوگا۔ لہذا معاملہ صاف ہے کہ قادیانیت کا تمام چکر ہی یک تماشا ہے۔ جس میں ذرہ برابر معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں مرزا قادیانی جھوٹے قرار پاتے ہیں اور دوسری صورت میں پاگل، اور تیسری صورت میں خالی۔ بتلائیے کون سی صورت منظور ہے؟

### مرزا قادیانی کی دینداری اور خدا و رسول سے عقیدت

۱..... ”سو مجھ سے پادریوں کے مقابلہ میں جو کچھ وقوع میں آیا۔ یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ کا بنادیا ہے۔ ۱..... اول والد مرحوم کے اثر نے۔ ۲..... اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔ ۳..... تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔“

(ضمیمہ ۳ ملحق کتاب تریاق القلوب ص ۱۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۹۱)

۲..... ”صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار، جاں نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیا میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔“ (درخواست بخضر نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبال ملحق بہ کتاب البر یہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۳۵۰، تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۹، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۱)

۳..... ”اور میں سلطنت انگریزی کے ماتحت مبعوث کیا گیا۔“

(اشتہار واجب الاظہار ملحق بہ تریاق القلوب ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۵۲۳)

۴..... ”انہوں نے (میرے خاندان نے) ۱۸۵۷ء کے مفدہ (جنگ

آزادی) کے وقت اپنی تھوڑی سے حیثیت کے ساتھ پچاس گھوڑے مع پچاس جوانوں کے اس محسن گورنمنٹ کی امداد کے لئے دیئے اور ہر وقت امداد اور خدمت کے لئے کمر بستہ رہے۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گئے۔“ (عاجز اندر درخواست ص ۱۱، خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۸)

۵..... ”سکھوں کا زمانہ ایک آتش تہوار تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا

(روئیداد جلسہ دعا ص ۱۶، خزائن ج ۱۵ ص ۶۰۸)

قدم تھا۔“

۶..... ”اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب، مصر، شام، کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے تمام مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں..... میں بیس برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا۔“  
(تزیان القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵، ۱۵۶)

یعنی کوئی دینی خدمت پیش نہیں، محض انگریزی آکھٹی مقصود رہا۔

۷..... ”سو اس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جو مسیح موعود کے آنے کی نسبت تھا۔ آسمان سے مجھے بھیجا ہے تا میں اس مرد خدا کے انگ میں ہو کر جو بیت اللحم میں پیدا ہوا (مسیح علیہ السلام) اور ناصرہ (بستی) میں پرورش پائی، حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت میں مشغول ہوں۔ اس نے مجھے بے انتہاء برکتوں کے ساتھ جوڑا اور اپنا مسیح بنایا۔ تا وہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کو خود آسمان سے مدد دے۔“  
(ستارہ قیصریہ ص ۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۶)

۸..... ”اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکا جاتا ہے۔ اس لئے تیرے عہد سلطنت کے سوا کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو۔ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا اور تاریکی تاریکی کو کھینچتی ہے۔ اے مبارک اور با اقبال ملکہ زمان، جن کتابوں میں مسیح موعود کا آنا لکھا ہے۔ ان کتابوں میں صریح تیرے پر امن عہد کی طرف بشارات پائے جاتے ہیں۔“  
(ستارہ قیصریہ ص ۶، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۷)

۹..... ”سو یہ مسیح موعود دنیا میں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور سچی ہمدردی ایک نتیجہ ہے۔ خدا نے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے دردمندروں کو یاد کیا اور آسمان سے اپنے مسیح کو بھیجا اور وہ تیرے ہی ملک میں اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا۔ تا دنیا کے

لئے یہ ایک گواہی ہو کہ تیری زمین کے سلسلہ عدل نے آسمان کے سلسلہ عدل کو اپنی طرف کھینچا اور تیرے رحم کے سلسلہ نے آسمان پر ایک سلسلہ رحم پکایا اور چونکہ اس مسیح کا پیدا ہونا حق اور باطل کی تفریق کے لئے دنیا پر ایک آخری حکم ہے۔ جس کی رو سے مسیح موعود حکم کہلاتا ہے۔ اس لئے ناصرہ کی طرح جس میں تازگی اور سرسبزی کے زمانہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس مسیح کے گاؤں کا نام اسلام پور قاضی ماجھی رکھا۔ تا قاضی کے لفظ سے خدا کے اس آخری حکم کی طرف اشارہ ہو۔“

(ستارہ قیسریہ ص ۸، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۸، ۱۱۹)

۱۰..... ”بد ذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔ اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لغافی سے اس بات کو ظاہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں۔“

(ستارہ قیسریہ ص ۹، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۹)

۱۱..... ”اے بابرکت قیسرہ ہند، تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیرا ہاتھ ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا کہ تا پرہیز گاری اور پاک اخلاق اور صلح کاری کی راہوں کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۹، خزائن ج ۱۵ ص ۱۲۰)

۱۲..... ”غرض ہماری ملکہ معظمہ کی نیک نیتی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آسمان سے

یہ اسباب پیدا کر دیئے ہیں کہ دونوں قوموں عیسائیوں اور مسلمانوں میں وہ اتحاد پیدا ہو جائے کہ پھر ان کو دو قوم نہ کیا جائے۔“

(ستارہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۲۳)

۱۳..... مرزا قادیانی اپنا مقصد تحریک بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

”مسلمانوں میں یہ دو مسئلے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار کے جہاد کو اپنے مذہب کا ایک رکن سمجھتے ہیں۔ دوسرا عیب ہماری قوم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جو ان کے زعم میں زمین کو خون سے بھر دے گا۔ حالانکہ خیال سراسر غلط ہے..... مگر مجھے خدا نے اس لئے بھیجا کہ ان غلطیوں کو دور کر دوں۔“

(ستارہ ص ۱۰۹، خزائن ج ۱۵ ص ۱۲۰، ۱۲۱)

۱۴..... ”اور اگر انگریزی سلطنت کی تلوار کا خوف نہ ہوتا تو لوگ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔“

(نور الحق ص ۴، خزائن ج ۸ ص ۶)

۱۵..... پھر اس کے مقابلہ میں اقرار کیا کہ: ”اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کے لئے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچا دے۔“  
(نور الحق ص ۳۳، خزائن ج ۸ ص ۴۵)

### تبصرہ و تجزیہ

ناظرین کرام! مندرجہ بالا کثیر اقتباسات میں جناب قادیانی نے اپنی اصل حقیقت کو بالکل الم نشرح فرمادیا۔ کوئی خفا اور پردہ نہیں رکھا کہ میں کوئی دینی اور مذہبی آدمی نہیں ہوں۔ نہ ہی میری تمام تک و دو دین اسلام کی حمایت اور اشاعت و ترویج کے لئے ہو رہی ہے۔ بلکہ میں تو اپنے خاندانی غدارانہ اثرات کے تحت انگریزی گورنمنٹ کا مخلص ٹاؤٹ ہوں۔ لہذا جب کوئی اسلام کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، کوئی منہ پھٹ پادری اسلام، قرآن یا سید المرسلین ﷺ کی ذات اقدس پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے ایمانی جذبات اور اشتعال کو دبانے کے لئے بظاہر ان کا حمایتی بن کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پادریوں کو جواب دیتا ہوں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں حالانکہ میں تو گورنمنٹ کا اوّل نمبر کا خیر خواہ ہوں۔ ان کے اقتدار کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کو اپنی حکمت عملی سے ٹھنڈا کر دیتا ہوں تاکہ گورنمنٹ کے لئے کوئی نقص امن کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ورنہ میں تو ایک سکہ بند انگریزی ایجنٹ ہوں۔ مجھے انگریز نے ہی کھڑا کیا ہے کہ تو نبوت و مسیحیت کا ڈرامہ رچا کر ملت اسلامیہ کے عقائد میں شک و شبہات پیدا کر دے۔ جذبہ جہاد کو سرد کر دے تاکہ ہماری حکومت مستحکم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اسی خدمت کی ادائیگی کے لئے مسلم معاشرہ میں بے پناہ لٹریچر پھیلا کر حق خدمت ادا کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ یہ گورنمنٹ بالکل منصف اور عادل ہے۔ کسی مسلم کو اس کے خلاف اٹھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسی نے مجھے نبی، مجدد، مسیح کے دعوے کرنے کے اشارے دے کر کھڑا کیا ہے۔ لہذا اس کی اطاعت فرض ہے۔ الغرض یہ گورنمنٹ میری محافظ ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ ہمارا باہمی گٹھ جوڑ ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے جناب مرزا قادیانی باوجود کذاب و مکار ہونے کے کس طرح صحیح اور کھری بات علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نبی نہ مسیح اور مجدد وغیرہ ہوں۔ میں تو ایک سرکاری ٹاؤٹ ہوں۔ یہ دھندہ محض پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے شروع کیا ہے۔ لہذا تم میرے دامت فریب میں نہ آنا۔ دیکھو میں نے صحیح اسلامی عقائد و تعلیمات کے متعلق دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ صحیح اسلامی اصول اور تعلیمات شروع سے مسلسل کھلم کھلا مشہور اور شائع رہی ہیں۔

کسی بھی زمانہ میں کوئی عقیدہ مجمل یا مبہم نہیں رہا کہ بعد میں واضح ہوا ہو۔ عقیدہ ختم نبوت ہو، نزول و حیات مسیح، امام مہدی کا نظریہ ہو یا جہاد کا، سب حقائق من و عن صحیح صحیح طور پر وہی درست ہیں جو روزِ اوّل سے برابر مسلم چلے آ رہے ہیں۔ ان میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔ لہذا ان حقائق میں شک و شبہات پیدا کرنے والے سب بے دین اور لٹھ ہیں۔

جھوٹ اور کذاب و افتراء کے متعلق مرزا قادیانی کی پر حقیقت وضاحت  
مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

.....۱ ”بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔“

(تحفہ غزنویہ ص ۵، خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۶)

.....۲ ”اے بے باک لوگو، جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵، ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۵، خزائن ج ۱۱ ص ۳۰۹ مفہوم)

.....۳ ”لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی

جناب میں۔“ (براہین ج ۵ ص ۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۱)

.....۴ ”وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے شر ماتے ہیں۔“

(شخصہ حق ص ۴۶، خزائن ج ۲ ص ۲۸۶)

.....۵ ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(اربعین ج ۳ ص ۲۰، خزائن ج ۱۷ ص ۴۰۷، حاشیہ، تحفہ گوڑویہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۵۶۶ حاشیہ)

.....۶ ”ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا

ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوتی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں

اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۱۲۶، خزائن ج ۲۱ ص ۲۹۲)

.....۷ ”جھوٹ ام النجاست ہے۔“

(تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۲۸، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۱)

.....۸ ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں

بھی اس پر اعتماد نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

ناظرین کرام! کتنی صاف بات ہے جو جناب مرزا قادیانی نے ظاہر کر دی کہ جھوٹ کسی بھی مذہب و ملت اور معاشرہ میں اچھی چیز نہیں۔ حتیٰ کہ برے سے برا آدمی بھی اس کو غلط اور



نتیجہ ہی سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جھوٹے پر قرآن مجید میں لعنت فرمائی گئی ہے اور پھر عام معاشرہ میں بھی غلط بیانی کرنے والے کا اعتماد نہیں رہتا۔ ہم ان حقائق کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً جھوٹ ایسی ہی بری شے ہے۔ لہذا جب سابقہ صفحات میں مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات و نزول مسیح وغیرہ قرآن و حدیث کے حوالہ سے اور نہایت تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے مطابق صاف تحریر فرمادیئے تو اس کے بعد کوئی تجربہ یا بیان، چاہے وہ مرزا قادیانی کا یا ان کے کسی خلیفہ یا مرید کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب جھوٹ اور خبائث ہی ہوگا۔ کیونکہ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ دو متناقض بیان صحیح نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ خود قادیانی صاحب نے متناقض الکلام کو پاگل قرار دیا ہے۔ پھر عقائد اور واقعات میں تلخ اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر صورت میں صحیح بات ایک ہی ہوگی۔ دوسری سراسر غلط اور خرافات ہوگی۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور سچ قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ بیانات کو کوئی مجبوری قرار دے کر مرزا قادیانی کو پاگل پن سے مبرا سمجھیں گے اور اسی بناء پر ہم تمام قادیانیوں کو بھی اسی حقیقت کی دعوت پیش کر کے الدین النصیحہ کے تحت ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔

### آخری بات

ناظرین کرام! بندہ نے نہایت محنت سے مرزا قادیانی کے صحیح اور پر حقیقت اعتراضات کو جمع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنجہانی نے ہر بات میں اصل حقیقت واضح کر دی ہے۔ اب اس کے خلاف دوسری تحریرات محض کذب و افتراء، گپ اور دفع الوقتی ہوں گی۔ مرزا قادیانی کی اصل باتوں کو ہی قبول کریں۔ الٹی سیدھی باتیں ہرگز نہ سنیں۔ کیونکہ ان کے تسلیم کرنے کی صورت میں پھر مرزا قادیانی یا پاگل اور مخبوط الحواس کہلائیں گے یا کذاب و دجال۔

اب فیصلہ قادیانیوں کی مرضی پر موقوف ہے کہ کون سی صورت کو وہ منظور کرتے ہیں یا تو ان باتوں کو تسلیم کر کے اس کو صحیح الدماغ تسلیم کروالیں اور باقی باتوں کو ردی قرار دیں۔ یا اس کے برعکس باتوں کو تسلیم کر کے اس کو مخبوط الحواس اور پاگل تسلیم کرالیں۔ یا پھر ان باتوں کو چھوڑ کر دوسری باتیں تسلیم کر کے اس کو کذاب و دجال اور مفتری علی اللہ، غنڈے، بد معاش، شریر، کتا، سور وغیرہ القابات سے مزین تسلیم کروالیں۔ جو بھی صورت منظور ہو۔ جلد از جلد اس کا اعلان کریں تاکہ لوگ اس مخمضے سے چھوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
سیدنا محمد بن عبد اللہ بن عبد الوہاب  
رحمۃ اللہ علیہ

قادیانی خواتین کا حیران کن فراڈ  
سچ کے روپ میں

بدترین دھل و فریب

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود<sup>رح</sup>

## اے مسلم ذرا ہوشیار باش

مرزائی ٹولی کا ہر فرد چاہے وہ بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، کاروباری ہو۔ ملازم ہو۔ بوڑھا ہو یا جوان۔ غرضیکہ ہر فرد اپنے مشن کے کام میں ہمہ تن مصروف ہے۔ پانچ سال کے بچے سے لے کر تارگ وہ ہر حالت میں مصروف کار ہے۔ ہر سطح کے افراد کی علمی یا عملی ٹریننگ کر کے اسے مشنری بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے کچھ شعبے درج ذیل ہیں:

اطفال احمدیہ

یہ ان کے پانچ سال سے تیرہ سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔

خدام احمدیہ

یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے۔

لجنۃ اماء اللہ

یہ لڑکیوں اور عورتوں کی ایک فعال تنظیم ہے۔

واقفات

یہ لڑکیوں اور خواتین کی وہ تنظیم ہے جو کہ جزوقتی طور پر قادیانیت کی تبلیغ کے لئے مشنری سطح پر مسلمان معاشرہ میں گھوم پھر کر انہیں ہر طریقہ سے قادیانیت کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ ہر روز ربوہ وغیرہ سے ٹولیوں کی ٹولیاں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کا ہر دورہ خدمت ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا اس سے زیادہ بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ ان کو یہ لوگ عارضی واقفات کا نام بھی دیتے ہیں اور بعینہ عیسائی زمانہ تنظیموں کی طرح طریقہ کار ہے۔ زیر نظر مضمون بھی اطفال احمدیہ کی تربیت کے لئے نصاب کے بارہ میں ہے کہ قادیانی زمانہ تنظیم یعنی (لجنۃ اماء اللہ) کراچی (جن کی کراچی میں ۱۴ یونٹس ہیں) کے لئے سلیمہ میر کا مرتب کردہ ہے جو کہ بالتفصیل اس طرح ہے کہ:

..... ۱۔ پانچ سے سات سال کے بچوں کے لئے قاعدہ کا نام کوئیل ہے۔ اس میں سوال جواب پہلے اسلامیات کو بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ قادیانیت کی اصل فطرت و جل و فریب چابک دستی سے برقرار رہے۔ بعد میں احمدیت کے عنوان سے نہایت ہوشیاری سے مرزائیت کو پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں سلسلہ نظم بھی ہے۔ اندرون نائٹل بیچ پر قادیانی گروؤں مثلاً مرزا

غلام احمد قادیانی، نور دین، خلیفہ محمود، ناصر احمد اور طاہر کے ان ال پیش کئے گئے ہیں۔ جن میں جھوٹ کی خوب مذمت کی گئی ہے۔ اس طرح یہ پہلا ترتیبی رسالہ ٹائٹل کے علاوہ ۱۶ صفحات پر مشتمل ہے۔

۲..... دوسرا رسالہ غنچہ ہے جو اسی ترتیب سے مرتب ہے اور یہ ۷۲ صفحات پر مشتمل ہے اور یہ بھی پانچ سال سے سات سال کے بچوں کے لئے ہے۔ اس کے اور بعد کے رسائل کے ٹائٹل بیچ پر قادیانی پروہتوں کے پرفریب اقوال درج ہیں۔

۳..... تیسرے نمبر پر ”گل“ ہے جو بہترین ٹائٹل کے علاوہ حسب ترتیب ۱۰۰ صفحات پر مشتمل ہے اور یہ سات سے دس سال کے بچوں کی تربیت کے لئے ہے۔

۴..... چوتھا رسالہ ”گلدستہ“ ہے اور حسب ترتیب کہ پہلے اسلامیات پھر آخر میں قادیانیت کی زہرناک اور پرفریب تعلیم دی گئی ہے اور یہ ۱۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی مصنف بشری داؤد ہے۔ غرض کہ بہترین ٹائٹل کے ساتھ اور ترتیب وار عنوان کے ساتھ کونیل، غنچہ، گل، گلدستہ، نہایت ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ ترتیب دیئے گئے ہیں اور نام نہند برعکس کافور کے مصداق ہیں۔ یہ تین صد صفحات پر مشتمل قادیانی مواد دجل و فریب کا انتہائی جدید مرقع ہے اور قادیانی مزاج (دجل و فریب) کا قابل داد اور عمدہ عکاس ہے۔

اہل اسلام کو باخبر کرنے کے لئے بندہ نے یہ مختصر سا تعارف مرتب کر کے مفت روزہ ختم نبوت میں شائع کرایا ہے اور اب علیحدہ طور پر اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔ تاکہ قرب و جوار کے مسلمان اس سے متعارف ہو کر قادیانیت کے مزاج (دجل و فریب) سے واقف ہوں۔

ناظرین! یہ قادیانیت کا ایک جدید اور گھمبیر طریق واردات ہے۔ اس لئے اس کا بغور مطالعہ فرما کر اپنے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اس طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرینڈ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کریں۔ اللہ کریم آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

**جھوٹ کے متعلق قادیانیوں کا علم بغاوت و نفرت**

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیانیت کی فطرت اور خمیر ہی جھوٹ پر استوار ہے۔ اس کی بنیاد مکرو فریب اور جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ چنانچہ قادیانیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہر نظریے اور مسئلہ میں بڑی جرأت سے جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ قرآن مجید ہو یا حدیث رسول، صحابہ کرام ہوں یا بعد کے آئمہ ہدیٰ، مجددین امت ہوں یا

اولیائے عظام، مرزا قادیانی حسب مزاج ان کے متعلق بے دھڑک جھوٹ بولنے اور بہتان بازی کے عادی تھے۔ ان کی ہر کتاب اور رسالہ ان کے جملہ ملفوظات و مکتوبات ان کے ہر اشتہار اور ٹریکٹ اس ام النجاشی سے خالی نہیں ملیں گے۔ غرضیکہ مرزا قادیانی کا ظاہر و باطن ان کا قلم و لسان غلط بیانی، کذب و اختراء اور دجل و فریب کی نجاست و خباثت سے لتھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اگرچہ آجنگاہ نے عوام الناس کو دھوکہ و فریب دینے کے لئے خود بھی اپنی تحریرات میں کئی مقامات پر جھوٹ کی زبردست مذمت کی ہے۔ مگر بالکل بے نتیجہ۔ کیونکہ مرزا قادیانی اسی آڑ میں خوب اس خباثت کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسا کہ علمائے حق نے اس مسئلہ کے متعلق کئی رسائل مرتب کر کے قادیانی اور اس کی ذریت کو اس قول و فعل کے تضاد کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نیز بندہ خادم نے بھی اس موضوع پر متعدد تحریرات شائع کر کے قادیانیوں تک پہنچائی ہیں۔ چنانچہ حال میں مرزا قادیانی کے ۶۰ شاہکار جھوٹ کے عنوان سے ایک انعامی کتابچہ شائع کیا گیا ہے۔ مگر قادیانیوں کی طرف سے کسی بھی تحریر یا رسالہ کا جواب نہیں مل سکا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔

تحریک جدید، ہاں اب قادیانیوں کی رسوائی زمانہ تحریک لجنۃ اہل اللہ کی جناب سے جھوٹ کے خلاف ایک زبردست مہم اور تحریک چلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ جس کے متعلق انہوں نے مرزا قادیانی کا نام تو نہیں لیا، شاید وہ آپ کے قول و فعل کے تضاد کا خوب تجربہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ لہذا انہوں نے جھوٹ کے متعلق اپنے خلیفہ اول حکیم نور الدین اور خلیفہ دوم بشیر الدین محمود اور دیگر افراد گروہ کے اقوال و ہدایات اور تاکیدات نقل کر کے تمام قادیانیوں کو ”ترک جھوٹ“ مہم چلانے کی اپیل کی ہے۔ اللہ کرے یہ شاید صنف نازک واقعہ اب سے جھوٹ کے خلاف مخلص ہو کر علم بغاوت و نفرت بلند کر رہی ہیں یا اپنے پیشوا کا رول ہی ادا کر رہی ہیں۔

ذرا توجہ فرمائیے! اب ذیل میں مرزا قادیانی کے سابقہ حوالہ جات کے علاوہ مزید صرف دو اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ جناب والا فرماتے ہیں:

۱..... ”خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لئے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔“ (اربعین نمبر ۳، ص ۱۲، خزائن ج ۷ ص ۳۹۸)

۲..... ”جھوٹ کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ صدق کو اختیار کرو۔“ (غنیہ اندرون نائل)

۳..... جناب حکیم نور الدین خلیفہ اول کا فرمان!

”پس معلوم ہو کہ جب تک جڑ زمین میں مضبوطی کے ساتھ نہ گڑ جائے اس وقت اکھڑنا آسان ہے اور جڑ مضبوط ہو جانے کے بعد دشوار۔ عادات و عقائد بھی درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ بری عادت کا اب اکھڑنا آسان ہے۔ لیکن جڑ پکڑ جانے کے بعد انہیں اکھڑنا یعنی ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شروع ہی سے اسے دور نہ کر دے تو پھر اس کا دور ہونا مشکل ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو بچپن میں جھوٹ کی عادت پڑ گئی پھر عالم فاضل ہو کر بھی ان سے جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔“

(اخبار بدرج ۸ نمبر ۱۴ ص ۲۸، ۲۹ جنوری ۱۹۰۸ء بحوالہ قادیانی کتابچہ کوئٹہ اندرون ٹائل بیچ)

خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود کا فرمان

۴..... ”بہترین اخلاق جن کا پیدا کرنا کسی قوم کی زندگی میں نہایت ضروری ہے وہ سچ اور دیانت ہے جن کا فقدان ہی کسی قوم کو غلام بنا دیتا ہے۔“ (کتابچہ غنچہ اندرون ٹائل بیچ)

۵..... مرزا ناصر احمد کا قوم کے نام پیغام!

”آج کل الرجیز کا زمانہ ہے۔ یعنی الرجیز دریافت ہو رہی ہیں۔ بڑی بری چیز ہے الرجی۔ مگر ایک الرجی اگر آپ حاصل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہوگی الرجی۔ جھوٹ کے خلاف الرجی اختیار کریں۔ جھوٹ کی الرجی (نفرت) کی دعا مانگیں۔ تاکہ معاشرے کو پاک کریں جھوٹ سے۔ جھوٹ کی بیخ کنی کی کوشش کریں۔ یہ جہاد گھروں سے شروع کریں۔ گھروں کی اصلاح کا یونٹ بننا چاہئے۔ جس تک یہ آواز پہنچے خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو یا بچے ہوں۔ ان کو جھوٹ کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دینا چاہئے۔ جہاد کا علم دینی تعلیم و تربیت سے بلند ہو سکتا ہے۔ اسی جذبے سے یہ نصاب مرتب کیا گیا ہے۔“ (غنچہ ص اتعارف)

۶..... ”آپ کے لئے ان (مرزا طاہر) کا پیغام آیا ہے کہ آپ بالکل

جھوٹ نہ بولیں۔“ (جلنتہ کا مرتب کردہ کتابچہ نمبر ۴ گلدستہ ص ۸۴)

۷..... ”اس طرح روزنامہ جنگ لندن کی خبر کے متعلق مرزا طاہر نے جرمن

کے قادیانیوں کو نصیحت فرمائی کہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں نے ابھی جھوٹ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ ایسے تمام لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جھوٹ سے توبہ کریں۔“

(جنگ لندن مورخہ ۲ جون ۱۹۹۶ء بحوالہ ماہنامہ الفاروق کراچی، جہادی الثانی ۱۷۱ھ)

۸..... ”ایسے ہی رسالہ کو نیل میں سوال جواب کے ضمن میں سوال درج ہے کہ احمدی بچے کس چیز سے نفرت کرتے ہیں تو جواب میں درج ہے ”جھوٹ سے“ صفحہ ۱۲۔ شاباش بچو اس جواب کو خوب یاد رکھنا۔“

ناظرین کرام! مندرجہ بالا قادیانی بانی اور اکابر کے ۱۸ اقتباس پیش کئے گئے ہیں کہ جن میں سب نے بیک زبان جھوٹ کی زبردست مذمت کرتے ہوئے اب اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تلقین کی ہے کہ جلد از جلد اس خباثت سے جان چھڑاؤ۔ ورنہ کچھ دیر بعد اس سے جان چھڑانا ناممکن ہو جائے گا۔ بظاہر ہر فرد جھوٹ جیسی لعنت کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے بے تاب نظر آ رہا ہے۔ مگر بانی سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باطن تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کے خلاف محض لاف گزاف پر ہی اکتفا کیا تھا۔ ورنہ اس کی بنیاد ہی اس ام النجاشٹ پر استوار تھی۔ اسی طرح دوسرے اکابر۔ لیکن اب قادیانی سربراہ مرزا طاہر احمد کے موڈ سے شک گزرنے لگا ہے کہ شاید یہ واقعی خلوص سے اور مصمم قلب سے جھوٹ سے متنفر اور بیزار ہو کر اس کی بیخ کنی کی فوری کارروائی کا حکم دے رہے ہیں۔ کیونکہ انداز نیا ہے۔ ولولہ اور عزم جدید ہے۔ نیز دوسرے افراد سلسلہ حتی کہ قادیانی خواتین بھی اس نجاست کے ازالہ کے لئے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے یہ لوگ اپنے اس ارادہ اور عزم میں مخلص ہوں اور اپنی جان توڑ جدوجہد سے اس خباثت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں۔

راز فاش ہو گیا..... قادیانی فراڈ کھل گیا

ناظرین کرام! مذکورہ بالا قادیانی تربیتی کتابچوں کے سرسری مطالعہ کے دوران اور مذکورہ بالا اقتباسات کے پیش نظر بندہ خادم بہت خوش ہوا کہ اللہ! قادیانیوں کو ہوش آ گیا ہے۔ اب یہ لوگ سنجیدہ ہو کر شاید صحیح راستہ پر آجائیں۔ مگر افسوس لا کہ افسوس جب ان کتابچوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تو ہی ڈھاک کے تین پات ہی نکلے۔ وہی کذب و افتراء کی غلاظت کے چھینٹے نہیں انبار نظر آئے۔ ذیل میں آپ بھی وہ غلیظ لوتھڑے ملاحظہ فرمائیں۔ تاکہ آپ کو قادیانی فطرت اور مزاج سے خوب آگاہی ہو جائے۔ قادیانی خاتون سلیمہ میر جو جھوٹ کے خلاف علم بغاوت ہر گھر میں لہرانے کے لئے بے تاب نظر آ رہی تھیں اس نے خود لکھ دیا کہ:

.....۱ ”رسول پاک ﷺ نے بتایا کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد آئے گا۔ تیرہ سو سال کے بعد جو مجدد آئے گا وہ بڑی شان والا ہوگا اور وہ مہدی ہوگا۔ رسول پاک ﷺ نے بتایا کہ آخری زمانے میں آنے والا مجدد مہدی کہلائے گا۔ وہی مسیح ہوگا۔ بچو ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس بڑی شان والے مہدی کا زمانہ ہے۔“

(دیکھئے لجنۃ اماء اللہ کا دوسرا تربیتی رسالہ غنچہ ص ۵۷)

ناظرین کرام! یہی وہ منفرد اقتباس ہے جو مرزا قادیانی نے اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں نقل کیا ہے کہ: ”احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ اسی طرح دیگر کتب میں بھی نہایت اہتمام سے یہ مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۸۸، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۹) اور یہاں ان الفاظ کو ذرا بدل کر مگر مفہوم وہی بیان کر دیا گیا ہے۔ تاکہ عوام الناس ان کے چکر میں آسکیں۔

یہ حوالہ مدت سے قادیانیوں کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ علمائے اسلام کئی مواقع پر یہ اقتباس قادیانی مربیوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ کوئی ایک ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف حدیث ہی پیش کرو جس میں چودھویں صدی کا لفظ ذکر ہو۔ مگر آج تک وہ حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حتیٰ کہ کئی قادیانی دولت ایمان سے بھی مالا مال ہو چکے۔ مگر اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جاسکا اور نہ ہی آئندہ ممکن ہے۔ اب جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی لجنہ نے لفظی ہیر پھیر کے ساتھ وہی نظریہ پیش کر کے قادیانی فطرت اور مزاج کا اظہار کر دیا ہے۔ واقعی حکیم صاحب نے صحیح بات لکھی ہے کہ پودے کی جڑ مضبوط ہو جانے پر اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کا عادی ہو جانے سے اسے ترک کرنا محال ہو جاتا ہے۔

.....۲ دوسری جگہ یوں لکھ دیا ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے بتایا تھا کہ تیرہ صدیوں کے شروع میں مجدد آئیں گے۔ مگر چودھویں صدی میں بہت بڑا مجدد آئے گا۔ آپ نے اس مجدد کو مہدی کہا۔ یعنی ہدایت کرنے والا۔“

.....۳ ماں بچہ کے سوال جواب کے سلسلہ میں ایک سوال درج ہے کہ:



رسول پاک ﷺ ان کو (مرزا قادیانی) جانتے تھے۔ جواب میں لجنۃ اماء اللہ کی صدر سلیم میر لکھتی ہیں کہ:

”بالکل جانتے تھے۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد چودہ سو سال گزر جائیں گے تو ایک بڑا پیارا شخص مہدی بن کر آئے گا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس زمانہ میں لوگ اسلام کو بھول چکے ہوں گے۔“ (کتابچہ بنام غنچہ صفحہ ۵۸) (اللعنة الله على الكاذبين!)

بتاؤ کہاں یہ فرمان نبوی ہے؟۔ مذکورہ مندرجہ بالا دونوں اقتباس کذب و افتراء کی بدترین مثال ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی حدیث میں تیرہویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں کا۔ ویسے دوسرے اقتباس میں قادیانی خاتون نے ایک نئی بات لکھ دی ہے کہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد۔ یعنی گویا پندرہویں صدی میں وہ عجوبہ روزگار مغل بچہ آئے گا۔ (یہ سب میراق و ہسٹریا کے کرشمے ہیں)

نیز یہاں مرزا قادیانی کے لئے عہدہ رسالت اور مسیحیت نظر انداز کر کے عہدہ مہدویت پر زور دیا جا رہا ہے جو کہ قادیانیوں کا ایک عظیم فراڈ ہے کہ عوام منصب رسالت کے سننے سے بھی بدکتے ہیں اور مسیحیت کا نام سن کر بھی۔

مہدویت چونکہ عام اور معروف عنوان ہے۔ اتنا اشتغال انگیز نہیں۔ لہذا اسے نمایاں شہرت دی جا رہی ہے۔ باقی یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمان اسلام کو بھول چکے ہیں اور مرزا قادیانی اس کی تجدید کریں گے۔ اب بتلایا جائے کہ مسلمان کہاں اسلام کو بھول گئے تھے۔ اور مرزا قادیانی نے کون سا نیا اسلام پیش کیا ہے؟۔

غرضیکہ ایک ایک جملہ کذب و افتراء اور دجل و فریب کا پیکر ہے جو کہ قادیانیت کی فطرت اور بنیاد ہے۔

۴..... ایک جگہ یوں لکھ دیا کہ:

”احادیث میں لکھا ہے کہ آنحضور ﷺ کی وفات ۱۲۰۰ سال بعد مہدی آئیں گے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجد آئیں گے اور چودھویں صدی میں امام مہدی آئیں گے۔“ (گل ص ۸۶)

یہ سب کچھ قادیانی فطرت کا اظہار ہے۔ کسی بھی حدیث میں مہدی کے لئے نہ

۱۲۰۰ سال بعد کا ذکر ہے نہ ہی ۱۲۰۰ سال بعد کا۔ نیز مرزا قادیانی احادیث میں مذکور امام مہدی کے تو سرے سے منکر ہیں۔ پھر خدا جانے یہ سلیمہ میر کیوں بار بار بحوالہ امام مہدی کا تذکرہ کر رہی ہیں؟

۵..... سلیمہ میر ایک جگہ یوں لکھتی ہیں کہ:  
 ”حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ایک عظیم الشان مرد امامت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ظاہر ہونے کا مقام دونہروں، دو دریاؤں کے درمیان ہوگا۔“  
 (مشکوٰۃ باب اشراط الساعۃ ص ۴۷۱)

اس کے بعد لکھا ہے کہ:  
 ”قادیان دو دریاؤں یعنی راوی اور بیاس کے درمیان ہے۔ پھر مادھپور سے دو بڑی نہروں نہر قادیان اور نہر بٹالہ کے درمیان بھی واقع ہے۔“  
 آگے فرماتی ہیں:

”بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دمشق سے مشرق کی طرف برصغیر کے ملک ہندوستان میں دو دریاؤں کے درمیان ایک گاؤں سے مہدی ظہور فرمائیں گے۔ پھر آگے گاؤں کا نام کدہ بمعنی قادیان بھی لکھ دیا۔“  
 (غنیہ صفحہ ۸۹)

سبحان اللہ! الامان والحفیظ۔ دعویٰ جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے اور پھر کثرت اور ڈرامہ وہی پرانی طرز کا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرتیں۔ میر صاحبہ کیا آپ نے مرنا نہیں۔ قبر کا اندھیر گھڑا تصور میں نہیں آتا۔ قول و عمل کا اتنا تضاد۔ آپ کس خدا کی بندی ہیں؟ اتنی بیباکی اور جسارت میں نہایت دلسوزی سے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا مشکوٰۃ شریف کے مذکورہ صفحہ پر اپنا ذکر کردہ حوالہ ثابت کر دیں کہ دونہروں یعنی راوی اور بیاس کے درمیان واقع قادیان سے ایک عظیم الشان مرد امامت کا دعویٰ کرے گا..... الخ۔ تو منہ مانگا انعام پائیں۔

میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ الفاظ حدیث میں دکھا دیں تو میں آپ کو منہ مانگا انعام پیش کروں گا۔ لہذا آپ کے اس مشن کا پر جوش مبلغ بن جاؤں گا۔ اگر نہ دکھا سکیں تو صرف مرزا قادیانی اور مرزا سیت پر تین حرف (ل ع ن) بھیج کر اسی اسلام سے وابستہ ہو جائیں جو امت مسلمہ کا دین ہے۔ میر صاحبہ حدیث کے الفاظ میں لکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ آپ کسی عربی دان سے کرائیں۔ سنئے:

”عن علیؑ قال قال رسول اللہ ﷺ يخرج رجل من وراء النهر (لیس بین نهرین) یقال له الحارث حراث ، علی مقدمته رجل یقال له منصور (فاین منصور القادیانی) یوطن او یمكن لال محمد کما مکنتم قریش لرسول اللہ ﷺ ، وجب علی کل مومن نصره او قال اجابته (ابوداؤد بحواله مشکوٰۃ ص ۴۷۱)“

فرمائیے کہاں دونہروں کے درمیان کا ذکر ہے۔ کہاں ہے مرزا قادیانی کے باڈی گاڑ کا نام منصور۔ کب مرزا قادیانی نے اہل بیت کا اقتدار قائم کیا۔ وہ تو خود انگریز سرکار کے کا سہ لیس تھے۔ ان سے اپنا تحفظ مانگتے رہتے۔ اب فرمائیے قادیانی خواتین نے جھوٹ کے خلاف کون سا علم بغاوت بلند کیا؟ یا سابقہ جھوٹ کو نئے انداز میں بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے۔ خدا را مخلوق خدا کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں۔ ان کی سادہ لوحی سے غلط مفاد نہ اٹھائیں۔ کیا قادیانی بچوں کو اسی فراڈ اور ڈرامہ بازی کی تربیت دینا ہے۔ خدا را کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ آخر مرنا ہے اور سنئے یہی سلیمہ میر صاحبہ قادیانی دجل و زندقہ کا مظاہرہ یوں کرتی ہیں کہ:

”قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آنحضور ﷺ دوبار آئیں گے اور آنحضور ﷺ سمجھا رہے ہیں کہ وہ شخص (یعنی دوبارہ آنے والا) غیر عرب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنحضور ﷺ خود نہیں آئیں گے بلکہ کوئی غیر عرب شخص آئے گا۔ وہ وہی کام کرے گا جو آنحضور ﷺ کرتے آئے تھے۔“ (مگل ص ۸۵)

العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! کذب علی النبی ﷺ کی اتنی جرأت مندانہ مثال صرف قادیانی ذریت ہی پیش کر سکتی ہے جو صدق و دیانت سے سو فیصد کورے اور بالکل اس کے مخالف ہیں۔ فرمائیے کس قرآن میں لکھا ہے کہ آنحضور ﷺ دو دفعہ آئیں گے؟۔ معاذ اللہ! پھر کہاں لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ کی آمد ایک غیر عرب آدمی کے روپ میں ہوگی؟۔ آنحضور ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ میں موجودین کا بھی نبی ہوں۔ ومن یولد بعدی کا بھی اور اپنے سے بعد آنے والوں کا بھی میں ہی نبی ہوں۔ (کنز بحوالہ ہدیۃ المہدیین)

نیز آپ کے پیشوا جناب مرزا قادیانی بھی آپ کے خلاف یہی اقرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:

کسی النبی الکریم آخرین من امتہ بتوجہاتہ الباطنیہ کما کان یزکی صحابۃ (تخریج ص ۲۴۴، ج ۷، حیات البشر ص ۴۹)

ایسے ہی (آئینہ کالات ص ۲۰۸، خزائن ج ۵ ص ۱۵۸) پر بھی یہی مفہوم نقل کرتے ہیں:  
 تو پھر آپ کیسے اپنے پیشوا کے خلاف ایک دوسرا اور جدید مفہوم پیش کرنے کی  
 جرات کر رہی ہیں۔ عجیب چکر ہے۔ دعویٰ تو ہے جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا۔  
 مگر اس ام الخبائث میں پہلے سے بھی بڑھ کر غرق ہو رہی ہیں۔ خدا را موت کو کبھی کبھار یاد  
 کر لیا کریں تو شاید آپ کو راہ ہدایت نصیب ہو جائے۔  
 ۸..... ماں کے عنوان سے لکھا ہے کہ:

”مجھے حدیث سناتے ہوئے آنحضور ﷺ کے امام مہدی سے پیار کی ایک اور  
 حدیث یاد آ گئی۔ ایک دفعہ آنحضور ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا  
 اے اللہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کے بھائی  
 نہیں۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا تم تو میرے صحابہؓ ہو۔ میرے بھائی تو آخری زمانہ کے وہ لوگ  
 ہوں گے جو مجھ پر سچا ایمان رکھیں گے۔ حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔“

(گل نمبر ۸۶ بحوالہ کتاب بحار الانوار)

فرمائیے آپ کو اہل سنت کی مسلم شریف چھوڑ کر رافضیوں کے آنگن میں جانے  
 کی کیا ضرورت لاحق ہو گئی۔ آیا اس کتاب کے غیر معروف ہونے کی بنا پر یا سنی مسلم شریف  
 سے تمہارا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ کیا اس قسم کی تجدید کے لئے یہ مغل بچہ صاحب مبعوث  
 ہوئے تھے؟

میر صاحبہ یہ حدیث سہل الحصول کتاب مشکوٰۃ کے صفحہ ۴۰ پر موجود ہے جو کہ آپ  
 کے مفہوم کے یکسر خلاف تھی۔ پھر تم نے مشکوٰۃ شریف کو نظر انداز کر کے ایک غیر متداول  
 کتاب کا سہارا کیوں لیا؟۔ صرف اس لئے کہ وہاں الفاظ آپ کے مقصد کے موافق ہوں  
 گے یا اس غیر متداول کتاب تک کسی کی رسالہ ہوگی۔ لہذا اس کے حوالہ سے جو جی میں آئے  
 لکھ کر عوام الناس کو آسانی سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً جھوٹے قادیانی بچوں کی تربیت  
 تو قادیانی بد فطرتی پر ہو سکے۔

کتابچہ گل کے صفحہ ۸۴ پر عنوان تو قائم کیا ہے امام مہدی کا مگر آیت بتائی جا رہی  
 و آخرین منهم لما یلحقوا بہم! ایمان داری سے فرمائیے یہ آیت رسالت کے متعلق  
 ہے یا مہدویت کے متعلق؟۔ پھر اس صفحہ کے آخر میں لکھ دیا ہے کہ:

۹..... ”وہی اللہ پھر اس رسول (خاتم الانبیاء) کو دوسرے لوگوں میں بھیجے گا۔ یہی رسول پھر آیات سناتے پاک بنانے اور کتاب و حکمت سکھانے کا کام کرے گا۔“

(صفحہ ۸۴، ۸۵)

اب ایمان داری سے بتائیے کہ مسئلہ رسالت بیان ہو رہا ہے یا امام مہدی کا؟۔  
ملاحظہ فرمائیے وہی امور اربعہ جو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے نمایاں فرائض منصبی تھے۔  
وہی امام مہدی (اپنے مرزا قادیانی) کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ العیاذ باللہ!  
فرمائیے کس آیت یا حدیث میں امام مہدی کے اوصاف میں یہ امور اربعہ مذکور ہیں۔ نیز جناب قادیانی نے ان امور اربعہ کیسے اور کہاں تعمیل کی ہے۔ آپ نے کتنے بت پرستوں سے ٹکڑے کران کو ایمان میں داخل کیا۔ کون سا کعبۃ اللہ و اگزار کرایا۔ ہاں یہ کیا کہ آپ کی برکت سے قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ اہل صلیب کے قبضہ میں آ کر یہود کے زیر تسلط آ گیا۔ فرمائیے آپ نے کتنے غزوات کی کمان فرمائی ہے۔ کتنا ہندوستان کا علاقہ فتح کیا۔ آپ کی برکت سے تو قادیان بھی کفار کے تسلط میں چلا گیا۔ کتنے افراد کو پاک و صاف کر کے بقیہ مسلمانوں کا پیشوا بنایا۔ کتنے حج کئے؟ کہاں کہاں کتب و حکمت کے ادارے قائم کئے۔ فرمائیے مرزا قادیانی نے خاتم الانبیاء والے کون کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیصرہ اور کسروں کو مغلوب کیا؟۔ کتنے بت خانے معدوم کئے؟۔

ناظرین کرام! فرمائے کتنی بھیانک اور خطرناک ہے قادیانی ڈرامہ بازی۔ کیسا عجیب و غریب ہے یہ مکرو فریب کہ علم بغاوت بلند کیا جھوٹ کے خلاف۔ مگر اسی علم کے تحت پرانے صد سالہ مروج جھوٹ کو پاؤں لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا نرالی شعبہ بازی ہے اللہ کریم ہر فرد بشر کو اس ابلیس کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے اور صرف اپنے حبیب عظیم ﷺ کے دامن رحمت و شفقت سے وابستہ رکھے۔ آمین!

اپیل! آخر میں بندہ دوبارہ قادیانی خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالا حوالہ جات کو ثابت کیجئے۔ ورنہ جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ڈرامہ نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و شعور نصیب فرمائے۔ ورنہ آپ کو صفحہ ہستی سے معدوم کر کے اپنی پیاری مخلوق کو اس فتنہ و آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین! خادم عبداللطیف مسعود ڈسکہ!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ آمَنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ كِتَابٍ مُبِينٍ  
وَأَعْتَمَلَ بِهِ كَسْبًا لِنَفْسِهِ  
فَلَا يَرْجُوا فِتْنَةً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

# ایک مسجد کی حالت زار

عوام اور حکومت کے لئے لمحہ فکریہ

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود <sup>رح</sup>

## ایک مسجد کی حالت زار

### عوام اور حکومت کے لئے لمحہ فکر یہ

۱۹۵۷ء کے بعد برصغیر (پاک و ہند) میں انگریزی استعمار کے منحوس سائے تلے امت مسلمہ کے لئے بہت سے فتنے ظہور پذیر ہوئے۔ جن میں سے فتنہ مرزائیت سب سے گھمبیر، خطرناک، گمراہ کن اور بھیانک تھا۔ کیونکہ یہ فتنہ ہائیکہ باوجود یکہ صیہونیت اور مغربی استعماریت کا نمایاں آلہ کار تھا۔ مگر یہ مذہبی آڑ اور عنوان لے کر نمودار ہوا۔ وہی نام، وہی شعار و اصطلاحات، وہی اظہار۔ حالانکہ یہ ملک و ملت دونوں کے لئے مہلک تھا۔ اس لئے شروع میں ملت اسلامیہ کی اکثریت اسے ایک مذہبی گروہ سمجھتی رہی۔ کئی پیشوایان دین نے ابتداء میں فتوائے تکفیر میں بھی احتیاط برتی۔ ادھر عوام الناس کا تو یہ حال ہے کہ بزرگان ملت اور علمائے اسلام پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ پورے سو سال سے اس کی حقیقت نمائی اور نقاب کشائی فرما رہے ہیں۔ مگر اکثر عوام الناس اب بھی ان کی اصل حقیقت کو باور کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ جس کے نتیجے میں ان ملحدین اور زندلیقوں کا کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے۔ اگرچہ عوامی سطح پر اب مرزائیت ایک گالی تصور ہونے لگی ہے۔

عوام الناس کی اس ناواقفی اور عدم توجہی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے جس کے نتیجے میں عام مسلمان ان سے رشتہ داریاں کرتے رہے۔ مسجدوں میں اکٹھی نماز ادا کرتے رہے۔ جنازوں میں شامل ہوتے رہے۔ بڑی قربانی میں شریک ہوتے رہے۔ غرضیکہ معاشرتی، سماجی حتیٰ کہ مذہبی سطح پر بھی ان کے شریک کار ہوتے رہے۔ معاذ اللہ!

ہاں! ۱۹۷۷ء میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیئے جانے پر عوامی سطح پر کافی شعور پیدا ہوا۔ اس کے بعد ناواقف لیکن غیر متند مسلمان سنبھل گئے۔ وہ ان کو غیر مسلم، مرتد اور زندیق و ملحد سمجھ کر معاشرتی تعلقات کے بارے میں محتاط ہو گئے۔

مگر ابھی تک ایسے افراد کی کمی نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے دین و ایمان اور محبت و عقیدت خاتم النبیین ﷺ کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ وہ اب بھی مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی حسب سابق تعلق داریاں ہیں۔ خوشی غمی کی رسومات میں برادری یا محلہ داری کی سطح پر شرکت سے پرہیز نہیں کرتے۔

اللہ سے عاجزانہ استدعا ہے کہ وہ خاتم المرسلین ﷺ کے ہر نام لیوا اور عقیدت مند کو اس مذہب و ملت کے ناسور سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

## موضع موسیٰ والا کی مسجد اور مسلمان

آدم برسر مطلب، مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں اس گاؤں کے مسلمانوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ یہاں پچھلی صدی کی ایک مسجد تھی۔ جبکہ ابھی قادیانیت کا یہ مہلک ناسور نہ پھوٹا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں ہی نے تعمیر کی تھی۔ مگر اسی ناواقفی اور عدم توجہی کی صورت کے تحت کچھ افراد قادیانیت کے چکر میں آ گئے اور کچھ افراد دوسرے علاقے سے آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ پھر یہ قادیانی لوگ بھی اس مسجد میں آنے جانے لگے اور اپنی ہوشیاری اور چابکدستی سے مسجد مذکور کے کراتا دھرتا اور متولی بن بیٹھے۔ اکٹھی نمازیں، اکٹھی قربانیاں اور جنازے ہوتے رہے۔

دریں حالات مسلمان تو اپنے بھولے پن سے اتنے ہی رہے۔ مگر مرزائی اندرون خانہ ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنی نفری میں اضافہ کرتے رہے۔ برادری سسٹم اور خاندانی تعلقات سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔

۱۹۶۰ء میں جبکہ ڈسکہ میں پروانہ ختم نبوت استاذ محترم حضرت مولانا محمد فیروز خان صاحب ثاقب نے دارالعلوم مدنیہ قائم فرمایا۔ توحید و سنت کے محاذ پر بالخصوص اس فتنہ مرزائیت کے محاذ پر سینہ سپر ہو کر ہر طرف پیش قدمی فرمانے لگے۔ ڈسکہ کے بڑے بڑے قادیانی جگادریوں کو ناکوں چنے چبوا دیئے۔ اس للکار و یلغار حق سے یہ گاؤں بھی متاثر ہونے لگا۔ یہاں بھی اس مرد مجاہد کے بیانات اور اجلاس شروع ہو گئے تو عوام دیہہ کو کچھ شعور ہونے لگا۔ حتیٰ کہ یہاں بھی حق و باطل کی رزمگاہ برپا ہو گئی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ والا کے قریبی گاؤں بھرو کے بھی اس محاذ آرائی اور للکار حق کے زرخیز میں آ گیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشترکہ نماز و جنازہ اور قربانیوں کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ مرزائیت اور دین حق میں خط امتیاز صاف نظر آنے لگا۔ علیحدہ مسجد کا منظر سامنے آ گیا۔

تحریک ۱۹۷۴ء

اس تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں قادیانیت کے مکرو فریب کا پردہ چاک ہو گیا۔ مرزائیت کے مکروہ چہرے کا نقاب اتر گیا۔ تمام غیرت مند مسلمان اصل حقیقت کو پا چکے۔ جس کے نتیجے میں یہ حق و باطل کی محاذ آرائی ہر جگہ مزید سے مزید نمایاں اور متحرک ہو گئی۔ کیونکہ قادیانیوں نے اپنی حیثیت (غیر مسلم) تسلیم نہ کی تھی۔ بلکہ انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اور سازشیں مزید تیز کر دیں۔ چنانچہ اس گاؤں (موسیٰ والا) میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال پیدا ہو گئی۔ مرزائیوں نے ایک خاص پلان اور پروگرام کے تحت اہل اسلام سے مختلف حیلوں بہانوں سے الجھنا شروع کر دیا جس کی کچھ تفصیلات ہماری کتاب ”قصر مرزائیت میں اور شگاف“ کے



دیباچہ میں ایک واقف حال کے قلم سے مذکور ہیں۔

اس تحریر کے مطابق ایک سال عید کے موقعہ پر عید گاہ میں نماز کے لئے آئے ہوئے نہتے مسلمانوں پر قادیانیوں نے حملہ کر دیا (حالانکہ ان کے گرومرزا غلام احمد قادیانی نے دینی جنگ کو حرام قرار دیا ہے) جس کے نتیجہ میں دو قادیانی ہلاک ہو کر واصل جہنم ہوئے اور کچھ مسلمان شدید زخمی ہو گئے۔

اس کے بعد فوجداری مقدمات بمع مذہبی بحثوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو سول کورٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچا اور پھر سول کورٹ میں آ کر فیصلہ کے مرحلہ تک پہنچا۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۷۵ء کو برائے استقرار حق اور حکم امتناعی دوامی دائر کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ تک پہنچ کر دوبارہ سول عدالت ڈسک میں مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو منتقل ہوا۔ پھر پوری بحث و تحقیص کے بعد مورخہ ۲ مئی ۱۹۸۸ء کو سول جج جناب منظور حسین ڈوگر نے اس کا فیصلہ اہل اسلام کے حق میں سنایا۔

اس مقدمہ میں زیر بحث آنے والے امور و نکات

۱۹۷۴ء کا اسمبلی کا فیصلہ اگرچہ اپنی تفصیلات اور ایمان افروز فیصلہ کے لحاظ سے ایک منفرد تاریخی تھا۔ مگر یہ فیصلہ بھی اپنی بحث و تحقیص، نکات اور فیصلہ کے لحاظ سے نہایت اہم اور منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اس میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کے علاوہ ان کے اسلامی اصطلاحات و شعائر کو استعمال کرنے کے متعلق بھی بحث و فیصلہ تھا۔ جس کو موجودہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا دیباچہ اور پیش خیمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس میں کافی حد تک قادیانی چلا کیوں اور مغالطوں کو زیر بحث لایا گیا تھا جن کا ہماری طرف سے مسکت اور فیصلہ کن جواب پا کر فاضل جج بالکل مطمئن ہو گئے تھے۔

اس مقدمہ میں زیر بحث آنے والے امور و نکات یہ ہیں:

### قادیانی موقف

۱..... ستمبر ۱۹۷۴ء کے فیصلہ (قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں) کو تسلیم کرتے ہوئے بھی قادیانی اسلامی شعائر و اصطلاحات استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو مسجد کہا گیا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت ۲۱ میں اس کی وضاحت ہے۔

۲..... مسجد متنازعہ کی تولیت اور انتظام و انصرام چونکہ مدت سے قادیانیوں کے

۱۔ اس کتاب میں مقدمہ مسجد کے سلسلہ میں تمام مباحث کو سمودیا گیا ہے اور آخر میں عدالتی فیصلہ کا انگریزی متن اور پھر اس کا اردو ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطالعہ آپ پر بہت سے حقائق منکشف کر دے گا۔

پاس ہے۔ لہذا وہ مسجد انہی کا حق ہے۔

۳..... اس مسجد کی تعمیر و آرائش ثانی واضح دور پر قادیانیوں نے کرائی ہے۔ لہذا وہی اس کے حق دار ہیں۔

۴..... قادیانیوں نے اپنے مخصوص مسائل و عقائد (وفات مسیح اور اجرائے نبوت) کی تائید میں متعدد مغالطہ آمیز حوالہ جات پیش کر کے اپنے آپ کو برحق اور عامۃ المسلمین کو غلط کار ثابت کرنے کی ناکام سعی کی۔

دُسمکے میں عدالتی کارروائی کے دوران قادیانیوں نے ایک خاص غرض اور منصوبہ کے تحت اپنے سینئر قادیانی وکلاء (مجیب الرحمن اور عبدالحمید وغیرہ) کو عدالت میں پیش کیا جنہوں نے نہایت عیاری اور چابکدستی سے نئے سرے سے پھر اپنے باطل اور گمراہانہ عقائد پر دلائل پیش کرنے شروع کر دیئے جس کے وہ ہرگز مجاز نہ تھے۔ کیونکہ ان تمام مباحث کا قومی اسمبلی نے پوری بحث و تحقیق کے بعد اہل اسلام کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔

پھر اصولی طور پر وہ اس بات کے پابند تھے کہ اپنے پیش کردہ دلائل کا جواب بھی سن کر جاتے۔ تاکہ حق و باطل کا فیصلہ عوام الناس بھی کر لیتے۔ لیکن وہ تو صرف وقت گزاری اور خانہ پری کی سطح پر تھے۔ لہذا جب ہمارے جوابی بیانات کی باری آئی تو تمام قادیانی مع اپنے وکلاء کے کمرہ عدالت سے روپوش ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم نے مسکت جوابی بحث کر کے ان کے تمام خانہ ساز دلائل کا تار و پود بکھیر کر اصل حقیقت نمایاں طور پر واضح کر دی جس سے عدالت پوری طرح مطمئن ہو گئی۔

جواب

۱..... چنانچہ ہم نے بے شمار قرآنی دلائل سے واضح کر دیا کہ مسجد صرف مسلمانوں ہی کی ہو سکتی ہے۔ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ مسجد نہیں کہلا سکتی۔ نیز یہ بھی ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام سابقین اپنی امتوں کو اسلام ہی کی تلقین و تبلیغ فرماتے رہے۔ وہ امتیں مسلمان ہی تھیں۔ یہ یہود اور مسیحی بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر نام وضع کر لئے ہیں۔ لہذا جب اصل میں وہ مسلمان ہی تھے تو ان کی عبادت گاہیں بھی مسجد ہی کہلائیں گی۔ ہاں اختلاف لسانی کے لحاظ سے کوئی دوسرا نام بھی ہو سکتا ہے۔

۲..... مسجد صرف مسلمان ہی تعمیر کر سکتا ہے۔ کسی غیر مسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مسجد، مسجد نہیں کہلا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ مسجد ضرا کہلائے گی۔ اسی بنا پر غیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ بنام مسجد، مسلمان بطور مسجد استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مسجد ضرا کا واقعہ سورہ توبہ میں مذکور ہے اور اسی طرح کوفہ میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارت بنام مسجد، جس کے مسمار کرنے کا حکم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گورز کوفہ نے صادر فرمایا تھا۔ (دارمی شریف، حدیث نمبر ۲۵۰۶)

۳..... اگر کسی وقت مسلمان کوئی مسجد تعمیر کریں۔ اس کے بعد خدا نخواستہ اس پر کفار قابض ہو جائیں تو پھر بھی اس کی مسجدیت زائل نہ ہوگی۔ بلکہ وہ مسجد ہی رہے گی۔ جب بھی مسلمان دوبارہ اس پر قابض ہوں گے تو وہ اسے بطور مسجد استعمال کریں گے۔ یہ غیر مسلم کا قبضہ و تصرف چاہے کتنا ہی طویل ہو اس کی مسجدیت کو زائل نہ کر سکے گا۔ جیسے لاہور کی شاہی مسجد جو کہ سلطان اورنگ زیب نے بنوائی تھی۔ بعد میں اس پر کفار نے قبضہ کر کے اسے اصطبل میں تبدیل کر دیا۔ مگر جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے حق میں واگزار ہو گئی تو وہ آج تک مسلمانوں کے زیر تصرف مسجد ہی ہے۔ یہ عارضی تصرف کفار اس کی حیثیت اولیٰ پر اثر انداز نہ ہوا۔ اسی طرح اندلس، ہندوستان، سمرقند اور بخارا وغیرہ میں لاکھوں مساجد کا معاملہ ہے کہ وہ تعمیر تو مسلمانوں نے کی تھیں۔ بعد میں کفار کے تصرف میں چلی گئیں۔ لیکن جب پھر اس پر مسلمان قابض ہوں گے تو وہ عمارات اپنی بنیادی اور ابتدائی حیثیت کے مطابق مسجد ہی ہوں گی۔ اس بھی واضح خانہ کعبہ کی مثال ہے کہ اسے ابتدا چونکہ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس پر اس کی مسجدیت ثابت اور محقق ہو گئی۔ بعد میں اس پر کئی دور آئے۔ خاص کر بعثت آخر الانبیاء ﷺ سے تین صدی پیشتر سے وہ بت خانہ بنادیا گیا تھا۔ مگر جب اہل اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کی ابتدائی پوزیشن بحال کی گئی اور آج تک وہ بیت اللہ ہی ہے۔ عہد اسلام کے دوران بھی ایک آدھ مرتبہ طہدین کے تصرف میں آیا جیسے کچھ مدت (۱۹ سال) تک قرامطیوں کا تصرف و قبضہ۔ مگر جب اس پر مسلمان اہل توحید متصرف و قابض ہوئے تو اس کی سابقہ حیثیت ہی قائم تھی۔ جس پر حضرت غلیل اللہ علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ اسی طرح مسجد قنزاہ کا معاملہ ہے کہ اسے شروع میں مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ جس سے اس کا مسجد ہونا ثابت اور محقق ہو گیا۔ اب بعد میں قادیانی طہدین کا تصرف و انتظام اس کی مسجدیت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس کو واگزار کر اس پر متصرف ہوں گے تو پھر اصولاً وہ انہی کی مسجد ہوگی۔ قادیانیوں کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہو سکتا۔ چاہے اسے ایک بار نہیں دس بار بھی تعمیر کریں۔

۴..... اس مسجد کے متعلق ہم نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ یہ مسجد قادیانیت کے وجود سے پیشتر کی تعمیر شدہ ہے جسے صرف مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں مرزائی اپنی عیاری سے اس پر قابض و متصرف ہو گئے۔ اس کی تعمیر ثانی میں بھی وہ شریک عمل تھے۔ مگر وہ لوگ چونکہ غیر مسلم ہونے کی بنا پر مسجد کے اہل ہی نہیں۔ لہذا یہ صرف اہل اسلام کا ہی حق ہے۔ یہ درمیانی قادیانی تصرف اور انتظام و انصرام کا عدم ہوگا۔ بحکم فرقان حمید: ان اولیاء الا الممتقون!

۵..... ہم نے اس مسئلہ پر کہ مسجد صرف مسلمانوں ہی کا حق ہے بطور ضمنی استشہاد کے سر ظفر اللہ قادیانی کی تصنیف ”تحدیثِ نعمت“ سے ایک اقتباس پیش کیا کہ:

”اگر احمدی (مرزائی) غیر مسلم ثابت ہو جائیں تو ان کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟“

۱..... اس اقتباس پر ہم نے اپنا حق تفریع استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جب

تمام مرزائی باتفاق عالم اسلام غیر مسلم قرار دیئے جا چکے ہیں تو ان کا اس مسجد یا کسی بھی مسجد کے ساتھ کیا تعلق رہ جاتا ہے۔ ۲..... نیز اس کے نتیجہ میں یہ لوگ اپنی عبادت گاہ کا نام بھی مسجد نہیں رکھ

سکتے اور نہ ہی اسے مسجد کی طرز پر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اسلامی اصطلاحات اور شعائر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مسجد سے قادیانیوں کی لاطعلقی غیر مسلم ہونے کی بنا پر ہے۔

۶..... اسی دوران ہمارے سامنے یہ شہادت بھی آئی کہ ایک موقعہ پر قادیانی

مسلمانوں کو یہ پیشکش کرنے لگے کہ وہ ہم سے حسب مرضی کچھ رقم لے کر مسجد سے دستبردار ہو جائیں۔ مگر کوئی بھی مسلمان بوجہ ناجائز ہونے کے اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ادھر اس بات

سے قادیانیوں کا کفر اور مسجد سے لاطعلقی اور بھی واضح ہو گئی۔ کیونکہ خانہ خدا ہے۔ اس کی خرید و فروخت ناممکن ہے اور جو اس ضابطہ کا قائل نہ ہو۔ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہاں کفار کے

لئے سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ مسجد بھیجیں یا کچھ اور کریں۔

۷..... ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہر مذہب کے اپنے اپنے شعائر (خاص علامات)

اور اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، پارسی وغیرہ۔ مگر ان میں سے کوئی بھی دوسرے کا نام اور مذہبی علامات و اصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ برخلاف قادیانیوں کے۔ یہ لوگ تمام

اصول مذاہب سے ہٹ کر اہل اسلام کا نام (مسلمان) اور اسلامی شعائر و اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ جن کا انہیں کوئی حق نہیں۔ گورنمنٹ کو انہیں بازار رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ سراسر دھوکہ دہی اور ہماری حق

تلفی ہے۔ (الحمد للہ! اب تو سپریم کورٹ نے ہمارے اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے مرزائیوں کو اسلامی شعائر و اصطلاحات جیسے مسجد، کلمہ، اذان وغیرہ استعمال کرنے سے قانوناً روک دیا ہے) لہذا اب انہیں

دیگر مذاہب کی طرح اپنی اصطلاحات اور شعائر وضع کر کے استعمال کرنا چاہئے۔

عدالتی فیصلہ کے بعد

۲ مئی ۱۹۸۸ء کو جب یہ فیصلہ صادر کیا گیا تو ہماری تھوڑی سی کوتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

قادیانیوں نے نہایت ہوشیاری سے حکم انتاعی حاصل کرنے کے لئے عدالت میں عرضداشت پیش کر دی جس کے نتیجہ میں مسجد کی پوزیشن حسب سابق (سیل) بحال رہی اور پھر عدالتی کارروائی ایک اور انداز سے

شروع ہوگئی جو کہ تادم تحریر..... تاریخوں کے چکر میں ہی اٹکی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب اس کیس میں رتی بھرا الجھن باقی نہیں رہی۔ کیونکہ جیسے ان کی حیثیت غیر مسلم قرار دے دی گئی ہے۔ ان کی تبلیغی کارروائیوں پر ۱۹۸۳ء میں پابندی لگا دی گئی ہے اور اب سپریم کورٹ نے ان کی سات اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ یہ لوگ بوجہ غیر مسلم ہونے کے اسلامی علامات و شعائر استعمال کرنے کے قانوناً مجاز نہیں۔ کیونکہ یہ بات دھوکہ دہی اور دوسروں کی حق تلفی کے تحت آتی ہے۔ مگر حکومت کی دین و مذہب سے لا تعلقی، سردمہری اور عدم توجہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مسجد حکمرانوں کی غفلت اور بے پرواہی پر نوحہ کنال ہے۔ اس کا اسپیکر اور چھت کا سامان خود قادیانی ہی چرا کر لے گئے ہیں۔ وہ دروازہ جسے جناب اے سی صاحب نے سیل کیا تھا۔ وہ سیل تو کجا اس دروازہ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔

ادھر قادیانی مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ ہیں مسجد کے بانی اور متولی اور یہ ہے اسلامی حکومت۔ تمام مسجد اس مسلم آبادی میں ہی مسجد کی شکل و صورت پر نہیں بلکہ گندگی اور ملبے کے ڈھیر کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ ہر دیکھنے والا اسے دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسجد کی حالت زار کو کسی صحافی نے جب ملاحظہ کیا تو وہ کلیجہ سوس کر رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر اس کے جملہ کوائف بمع موجودہ حالت زار بالقصور روزنامہ پاکستان ایکسپریس کی ۲۳ جنوری ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں شائع کر دیئے۔ ادھر یہی تفصیلات انگریزی روزنامہ **THE NEWS** میں بھی شائع ہوگئی جس میں عدالت اور حکمرانوں سے نظریہ پاکستان کا واسطہ دے کر استدعا کی گئی ہے کہ اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر کے اس کو مزید بے حرمتی سے بچایا جائے۔ پوری تفصیل اخباری کٹنگ میں ملاحظہ فرمائی جائے۔

اب ہم اہل اسلام رب العالمین کی جناب عالی میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ وہ اے سی صاحب کو توفیق دے کہ وہ موقعہ پر جا کر اپنی لگائی ہوئی سیل برآمد کریں۔ مسجد کا سامان فراہم کریں اور عدالت بھی کچھ بڑی عدالت کا لحاظ رکھتے ہوئے جلد از جلد اس بے مقصد طوالت کو سمیٹ کر مسجد مسلمانوں کے حوالے کرے کہ وہ اسے دوبارہ تعمیر کر کے محمد رسول اللہ ﷺ کے دین اور تعلیمات کا مرکز بناسکیں۔ واللہ الموفق!

بندہ ناچیز عبد اللطیف مسعود ڈسکہ

۱۔ آج کل عالمی سطح پر ہیومن رائٹس (انسانی بنیادی حقوق) کا بہت پراپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ ہر شخص آزادی رائے کا حق دار ہے۔ اس کے تحت پاکستان میں بھی حقوق انسانی کا بہت واویلا کیا جا رہا ہے۔ مگر اس واویلا سے غرض یہ ہے کہ عیسائی کھلے بندوں اسلام اور خاتم المرسلین ﷺ کی توہین کا ارتکاب کرتے پھریں۔ نیز قادیانی اپنے ملحدانہ عقائد و نظریات کو مسلمانوں کے گمراہ کرنے کے لئے خوب ریشہ دوانیاں کرتے پھریں اور کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔

الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على  
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين  
الطاهرين

# قادیان کے الہامی چکر

مع ضمیر

## قادیانیوں کی تبلیغ کے مقاصد

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود<sup>71</sup>

## قادیاں کے الہامی چکر

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

پیش لفظ

”نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم • اما بعد • فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم • بسم اللہ الرحمن الرحیم • ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذباً او قال او حی الی ولم یوحی الیہ شئی (الانعام: ۹۳)“  
 ”وقال تعالیٰ فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیم ثم یقولون هذا من عند اللہ یشتروابہ ثمناً قليلاً فویل لهم مما کتبت ایدیم وویل لهم مما یکسبون (البقرہ: ۷۹)“

حضرات! جھوٹ اور افتراء ہر مذہب و ملت میں ایک قبیح اور بہت بری شے ہے۔ نیز عقل سلیم بھی اس سے انکار کرتی ہے۔ جھوٹا آدمی معاشرے اور سوسائٹی میں صاحب وقار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اصدق القائلین یعنی خدا تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ بات لگائی جائے تو تو اس سے بدتر کوئی وصف نہیں۔ اس لئے کہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور فعل کی قباحت اور التحسان نتیجہ پر ہی موقوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ وحی و رسالت جاری فرما رکھا ہے اسے بطل کی آمیزش سے بالاتر رکھنے کے لئے بہت انتظام فرما رکھے ہیں۔ جیسے فرمایا ”لیسک ومن بین یدیه ومن خلفه رصداً (الجن: ۲۷)“ پھر جو شخص اس میں آمیزش کرنے کی سعی ناکام کرے اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ راستہ میں خلل انداز ہونے والوں کا تو ناطقہ ہی بند کر دیا۔ آسمانوں پر پہرے لگ گئے اور بعد از نزول جو اس وحی الہی اور شریعت غزّاء میں خلط ملط کرنے کی کوشش کرے اس کے حق میں عذاب الیم کا پروانہ جاری فرمایا اور اظلم کے خطاب سے نوازا۔ مگر پھر بھی اس سٹیج پر آنے والے بغیر کسی جھجک کے آ ہی دھکتے ہیں۔ کبھی میلہ ہے تو کبھی اسود غشی۔ کبھی طلحہ ہے تو کبھی کوئی دوسرا بد بخت۔ غرضیکہ لمبی چوڑی فہرست ہے اور اس زمانہ میں بھی اس قسم کے بہت سے مفتری ہوئے۔ جن کے سرغنہ کا نام نامی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کو بھی جب مانجھو لیا کا دورہ پڑا تو وحی کی ایسی بھرمار شروع ہوئی کہ سنبھالنا بھی دشوار ہو گیا۔ اس مختصر رسالہ میں اس کی وحی کا جائزہ لیا گیا ہے کہ حرم کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ ویسے ہی نہیں بلکہ ایک معیار اور ضابطہ کے تحت تاکہ حق و باطل میں تمیز ہو اور بندگان خدا نور اور ظلمت میں امتیاز کر کے وہ حق سے دور نہ جا پڑیں کہ آخرت کی ناکامی دیکھنا پڑے۔ واللہ الموفق!

بسم الله الرحمن الرحيم!

## کشف، وحی اور الہام

کشف: عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا دینے کو کہتے ہیں۔ پہلے جو چیز مستور تھی وہ مکشوف یعنی ظاہر ہو گئی۔

قاضی محمد علی تھانویؒ (اصطلاحات الفنون ص ۱۲۵۴) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”الكشف عند اهل السلوك هو المكاشفة ومكاشفة رفع حجاب راگویند کہ میاں روح جسمانی است کہ ادراک آں بحواس ظاہری نتواں کرد۔“

(بحوالہ اعلام از حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، مشمولہ احتساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۰)

”اہل سلوک کے نزدیک کشف مکاشفہ یعنی اس پردہ کے اٹھ جانے کو کہتے ہیں جو روح جسمانی کے درمیان ہوتا ہے۔ جس کا ادراک حواس ظاہری (آنکھ، کان وغیرہ) سے نہیں ہو سکتا۔“

الہام: کسی اچھی اور بھلی بات کا بلا نظر و فکر اور بغیر کسی سبب ظاہری کے اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہونا۔ الہام محض اللہ کا عطیہ ہے۔

کشف اپنے معنی کے لحاظ سے الہام سے عام ہے۔ مگر اس کا تعلق زیادہ تر امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ (اعلام مشمولہ احتساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۰، ۱۵۱)

وحی ۲: مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے۔ بطور اشارہ کنایہ ہو یا خواب کے طور پر ہو یا الہام کے طور پر یا کلام کے طور پر۔ مگر اصطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ

۱۔ ”ان یلقى الله فی نفس الانسان امرایبعثه علی فعل الشئ او ترکہ المنجہ (المنجد ص ۵۳۹، طبع بیروت) کانه شئ القی من الروح“ یعنی الہام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے جو اسے کسی چیز کے پانے یا چھوڑے پر آمادہ کر دے۔ مگر اصطلاح میں کسی نیک خیال کو دل میں ڈال دینے کو الہام کہتے ہیں۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے عام ہے۔ چنانچہ اسی لغوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”فالهمها فجورها وتقوها (الشمس: ۸)“ اللہ نے نفس انسانی میں اس کی برائی اور اچھائی ڈال دی۔

۲۔ ”وحی الیہ، اشار الیہ، وحی الیہ کلاماً، کلمہ سراء او کلمہ بما یخفیہ عن غیرہ، الوحی، کل ما القیة الی لغیرک لیعلمہ (المنجد طبع بیروت ص ۷۰۰، لفظ وحی)“



کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو بھیجا جائے۔ اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں۔ جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر بذریعہ الثانی القلب ہو تو وحی الہام ہے۔ جو اولیاء کو ہوتی ہے اور بذریعہ خواب ہو تو اس کو شریعت میں رویائے صالحہ (نیک خواب) کہتے ہیں۔ جو عام مومنین کو بھی ہوتی ہے۔ کشف، الہام اور رویاء صالحہ پر لغتہ وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر شریعت میں جب لفظ وحی بولا جائے گا تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ لغتہ تو شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا لفظ آیا ہے۔ جیسے ”ان الشیاطین لیوحون الی اولیہم“ بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ (اعلام مشمولہ احساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۱)

وحی اور الہام میں فرق: وحی نبوت قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ امت پر اس کا ماننا فرض ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا ”ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک“ اے رسول اللہ ﷺ! جو کچھ آپ کی طرف اترا اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ الہام ظنی ہوتا ہے، غلطی سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ مگر اولیاء نہیں ہوتے۔ پھر الہام دوسروں پر حجت نہیں ہوتا۔ نہ الہام سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی چیز الہام سے مستحب بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر الہام بہ نسبت وحی کے مبہم بھی ہوتا ہے۔ جتنا کوئی صالح اور نیک ہوگا اتنا ہی الہام صحیح اور واضح ہوگا۔

(اعلام مشمولہ احساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۱، ۱۵۲)

۱۔ وحی چھپا کر رکھنے کو نہیں آتی۔ جیسے مرزا قادیانی (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) میں کہتے ہیں کہ بارہ سال مجھے یقین نہ آیا۔ جب خود ہی یقین نہ آیا تو دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ حالانکہ نبیوں کی شان یہ ہے کہ ”امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون (البقرہ: ۲۸۵)“ رسول پر جو کچھ اترا وہ اس پر ایمان لایا اور ایماندار بھی۔ انہیں جب خود ہی یقین نہ آیا تو ایمان کیسا؟ اسی طرح (آئینہ کلمات ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ایضاً) میں دس سال چھپا کر رکھنا مذکور ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ۱۰ سال وحی بھیجتا رہا کہ تو ہی مسیح ہے۔ مگر میں تھا کہ اسے چھپائے رکھا اور اوپر کے حوالے میں بارہ سال وحی پر یقین نہ آیا۔ پھر وہاں عدم یقین یہاں اخفاء، پھر اخفاء اس لئے تھا کہ موقع تاثر کر اظہار کروں گا۔ مبادا مرید اور عام مسلمان دفعتاً دعویٰ مسیحیت سے بدک نہ جائیں اور میری روزی میں فرق نہ آئے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل، پھر عین مسیح کا بتدریج دعویٰ کیا۔

الہام شیطانی اور رحمانی میں فرق: اگر الہام کسی نیک کام ار اللہ کی اطاعت کی طرف داعی ہو تو وہ رحمانی ہے اور اگر دنیوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف بلا رہا ہو تو شیطانی ہے۔ (جیسے مرزا قادیانی کو روپے وغیرہ آنے کا الہام ہوتا رہتا تھا)

(کذابی خواتم الحکم ص ۹، مدارج السالکین ج ۱ ص ۲۷، بحوالہ اعلام مشمولہ احتساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۳، ۱۵۶) الہام کا شرعی حکم: حضرات انبیاء علیہم السلام کی وحی تو قطعی ہوتی ہے۔ ان کا تو خواب بھی قطعہ ہے اور واجب العمل ہے۔ جیسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھ کر ذبح اللہ کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ مگر اولیاء اللہ کا الہام حجت اور واجب العمل نہیں۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو تو عمل جائز ہے۔ پھر بھی واجب نہیں اور جو خلاف ہو تو اس پر بالاجماع جائز نہیں اور وہ الہام! شیطانی ہے۔ کیونکہ اس سے کتاب اللہ کا نسخ لازم آتا ہے تو معیار صادق اور کاذب کا موافقت کتاب اللہ اور مخالفت کتاب اللہ ہوا۔

(اعلام مشمولہ احتساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۶) فتوح الغیب میں ہے کہ الہام اور کشف پر عمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو ایسے ہی دوسرے اولیاء عظام کے بے شمار اقوال کتب معتبرہ میں وارد ہیں۔ جن کے لکھنے کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ مگر مرزا قادیانی کی شان دیکھئے کہ یہاں پر اجماعی عقیدے بھی محض الہام کی بناء پر لائے جا رہے ہیں۔ (جیسے نزول مسیح کا عقیدہ) اپنا نسب مغل ہے۔ مگر الہام کی بناء پر اسے بھی بدل دیا کہ وہ بنی فاطمہ ہے اور بنی فارس سے ہے۔ ”علیٰ هذا القیاس کثیر من الامور الواردة فی کتبہ“ اور وحی کے متعلق گزر چکا ہے کہ اصطلاح شرع میں اس کا اطلاق وحی النبوت ۲ پر ہوتا ہے۔ جو قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ مگر لغت الہام وغیرہ پر بھی بولی

۱۔ مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ: ”واعلم انه (ای الہام) کلھا یشالف القرآن فهو کذب والحاد وزندقة“ جاننا چاہئے کہ الہام جب بھی قرآن کے خلاف ہو تو وہ جھوٹ اور الحاد اور زندقہ ہے۔ (حماتہ البشری ص ۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

۲۔ جیسے الہام کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وحی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی اور ایسے ہی حضرات صوفیہ نے نبوت کو لغت کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ نبوت لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی خدا سے اطلاع پا کر دوسروں کو مطلع کرنا۔ چونکہ نبوت کے لئے تشریع احکام لازمی ہے اور ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریعیہ رکھا اور ولایت کا نام غیر تشریعیہ، (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جاسکتی ہے۔ چونکہ ظنی ہوتا ہے اور وحی شرعی بوجہ ختم نبوت کے بالکل بند ہے۔ اب باقی ہے تو وحی لغوی جو ظنی ہے اور اگر کوئی اب قطعی وحی کا دعویٰ کرے تو دوسرے لفظوں میں اس نے نبوت کا اعلان کیا، کیوں کہ قطعی وحی نبوت ہی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بے شمار مقامات پر اپنی وحی کے قطعی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) یہ مطلب نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دو قسمیں ہیں۔ تشریحی اور غیر تشریحی جیسے یہ قادیانی اور اس کی ذریت لوگوں کو دھوکا دیتی ہے۔ بلکہ نبوت بمعنی لغوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریح احکام لازمی ہے۔ دوسری عام لغوی جو ولایت ہے۔ جس سے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیاء نے وضاحت کر دی ہے کہ در نبوت بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ وہ وحی جو نبیوں پر اترتی تھی۔ وہ بالکل بند ہے۔ خدا جانے اب مرزا قادیانی پر کیوں شروع ہو گئی۔ شاید انہیں وحی شیطانی اور رحمانی میں تمیز نہیں ہوئی اور نہ کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے آپ پر نبی اور رسولوں کا لفظ بولے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی بول کر دائرہ اسلام سے سرپٹ دوڑ پڑے۔ ہاں اولیاء کے لئے الہام باقی ہے۔ حدیث میں ہے ”من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بین جنبيه“ حافظ قرآن کے دونوں پہلوؤں میں نبوت داخل کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اسے کوئی نبی نہیں کہتا۔ ابن عربی فرماتے ہیں۔ ”اعلم ان النبوة التی هی الاخبار من شئ ساریۃ فی کل موجود منه اهل الكشف والوجود ولكنه لا یطلق علی احد منهم اسم نبی ولا رسول الاعلی الملائکۃ الذی ہم رسل“ (کبریٰ احرق ص ۱۱۸، بحوالہ اعلام شمولہ احتساب قادیانیت ج ۲ ص ۱۵۴) جاننا چاہئے کہ نبوت جبرائیل کے معنی لغت میں خبر دینے کے ہیں وہ اہل کشف کے نزدیک تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ لیکن معنی شرع کے لحاظ سے نبی اور رسول کا اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات پر نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھئے لغوی لحاظ سے تو ساری موجودات نبی ہونی چاہئے۔ مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہیں۔ مگر اطلاق غیر پر بجز فرشتہ کے جائز نہیں۔ اس لغوی لحاظ سے تمام کی طرف الہام وحی کا سلسلہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا ”واوحی ربک الی النحل (النحل: ۶۸)“ ”فالہمہا فجورہا وتقواہا (الشمس: ۸)“ ”فاسق، فاجر، حیوان، چرند، پرند کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔

سب سے ربط آشنائی ہے تجھے  
دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے

”اور یہ مکالمہ الہیہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقینی ہے۔ ا میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ (تو فکر نہ کریں وہ تو ہو چکی ہے) وہ کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے یقینی اور قطعی ہے۔ مانند آفتاب کی روشنی کے..... اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔“ (بتلائیے قرآن کے برابر اپنی وحی کو بتلانے والا ملحد اور زندیق نہیں ہے؟) بلفظہ و تلخیصہ، (تجلیات الہیہ ص ۲۰، خزائن ج ۲ ص ۲۱۲) یہ مضمون اور بھی مقامات پر بکثرت آیا ہے۔ جیسے (نزول اسح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۲، حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) مندرجہ بالا حوالہ جات میں مرزا قادیانی نے وحی قطعی آنے کا دعویٰ کر کے اور ”اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔“ (مگر مرزا قادیانی اوپر تو دعویٰ کر چکے ہو۔ لہذا اب تو مل گئے)

دوسرے لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ قطعی وحی نبوت ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے گذر چکا اور اس پر بھی بس نہیں صراحتاً بھی دعویٰ نبوت تشریعیہ کیا ہے۔ جیسے (اربعین نمبر ۴، ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵) میں ہے۔ اس بناء پر مرزا قادیانی اپنے منہ سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گئے۔ فرمایا ”وَمَا كَانَ لِمَنْ ادَّعَى النَّبُوَّةَ وَآخِرَ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْحَقِّ بِقَوْمِ الْكَافِرِينَ“ مجھے کب لائق کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی وحی رحمانی نہ تھی۔ شیطانی تھی، یقینی نہ تھی بلکہ غلط اور بالکل جھوٹی ہوتی تھی۔ اس لئے خود بھی انہیں یقین نہ آتا تھا۔ خود لکھتے ہیں۔

”پس میری کمال سادگی اور ذہول (نہ مرزا قادیانی عدم یقین کہئے۔ بوجہ شیطانی ہونے کے) پر یہ دلیل ہے کہ وحی الہی مندرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی۔ مگر میں نے اس کی عقیدہ ۲ کو براہین میں لکھ دیا۔ (یہ عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا تھا۔ جو

۱۔ مرزا قادیانی ایک دم شک کرنے سے کافر بنتے ہو تو بارہ سال شک کرنے سے مہدی مجدد اور مسیح موعود۔ سبحان اللہ اسی الٹی منطق پر اے عقل کے دشمن گند بڑھتے بڑھتے کستوری کبھی نہیں بنا کرتی۔ بلکہ اس گند میں اور سڑاٹھ پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ مرزا قادیانی اب تو پھنس گئے۔ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ میں براہین کے وقت بھی رسول تھا۔ پھر یہ کتاب دربار رسول ﷺ میں پیش ہو کر رجسٹری ہو چکی ہے اور یہ یعنی غیر متزلزل ہے۔ (براہین ص ۲۳۸، ۲۳۹، خزائن ج ۱ ص ۵۵) سول تو غلطی سے پاک۔ دتا یہ غلطی کیسے ہو گئی۔ کس یہ دھوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے صحیح عقیدہ لکھ کر رجسٹری کروالی پھر مکر گئے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

ساری امت کے ہاں متفقہ عقیدہ ہے۔ جس کو (براہین ص ۳۹۸، ۳۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) پر لکھ دیا ہے) مگر میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وحی کے جو براہین میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی۔ کیونکر اسی کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ (چونکہ وحی شیطانی تھی۔ جس میں یقین نام کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے اور کچھ ایمان کی رمق باقی تھی۔ لہذا قدرت کاملہ نے آپ کو ذلیل کرنے کو لکھوا دیا) پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے (یہ خدا بلاش ہوگا۔) (تحد کوڑ دیہ ص ۶۹، خزائن ج ۱ ص ۲۰۳) اس لئے اس کی وحی میں یقین کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر لانے والا بھی خیراتی وغیرہ تھا۔ (تزیان القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱ ص ۳۵۱) بڑی شہود سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر ہمارا ہا۔

اسی طرح بعض مقامات پر لکھا ہے کہ: ”میں نے ۱۰ برس تک چھپائے رکھا۔ جیسے کہ

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ۱۵۱) میں ہے۔“

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اگر دھوکہ نہیں تو بتلایئے کہ رجسٹریشن کے وقت یہ الفاظ تھے کہ نہیں۔ اگر تھے اور تھا عقیدہ غلط، تو سید المرسلین ﷺ نے درستی کیوں نہ فرمائی کہ یہ تو ساری امت غلطی پر لگی ہوئی ہے۔ اصل میں میں نے یہ کہا تھا کہ مسیح فوت ہو گئے۔ اگر نہیں تو بعد میں داخل کئے تو مکرو فریب ہے۔ مرزا قادیانی آنکھیں کھولے، کہیں اخبار میں بھی نسخ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ نے بحالت رسالت آمد مسیح لکھ دی۔ پھر اس کے خلاف وحی آ گئی۔ اس کی مثال پہلے تو کسی وحی میں نہیں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی یا یہ کام کیا۔ پھر اس کے خلاف وحی شروع ہو جائے۔ مرزا قادیانی اپنا تو بوجہ نسیان حال خراب ہے۔ وحی الہی کو کیوں ملوث کر رہے ہو۔ خدا کا خوف چاہئے۔ اب ہاتھ پاؤں مارنے اور حسرت و افسوس کرنے سے کچھ نہ ہوگا کہ کیوں براہین میں لکھ دیا۔ یا وہ غلط یا موجودہ وسوسہ غلط، تناقص تو بہر حال ہے ہی چیار کے کلام میں تناقص نہیں ہوتا بلکہ منجھوٹا الحواس کے کلام میں تضاد وغیرہ ہوتا ہے۔

۱۔ مرزا قادیانی کو بارہ سالہ وحی پر یقین نہ آیا کہ تم ہی مسیح ہو تو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یقین کی کیا صورت ہوئی، وہ بھی سنئے۔ گلاب شاہ نامی ایک مجذوب یعنی ملنگ جو پہلے ٹھیک تھا پھر اس پر بیہوشی طاری ہو گئی اور ملنگ بن گیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۷۸، خزائن ج ۳ ص ۴۸۲) اس پیش گوئی کو کریم بخش نے بیان کیا کہ حضور تمہارے متعلق یہ پیشین گوئی ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اوپر یہ بھی گزر چکا ہے کہ وحی کے اندر وضاحت اور یقین ہوتا ہے۔ الہام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی پر جو کچھ اترتا رہا۔ اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ وہ الہام ہے یا وحی۔ اگر وحی ثابت ہو تو پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے خروج از اسلام کر لیا اور کافروں سے جا ملے۔ کیونکہ وحی اصطلاحی جو نبوت کی ہے وہ آنحضرت ﷺ کے بعد بالکل مسدود ہے اور اگر الہام ہوا جو کہ مبہم ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ نہ وہ دوسرے پر حجت ہے۔ پھر مرزا قادیانی گھر بیٹھ کر الہام پر الہام گھڑتے چلے جائیں۔ دوسروں کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کے مجاز نہیں۔

پھر وحی والہام کا قاعدہ ہے کہ وہ اسی زبان میں اترے جو منزل علیہ کی ہو اور قوم کی ہو اور وہ سمجھ بھی لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ“ (ابراہیم: ۴) ”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر اس کی قومی زبان میں۔ مرزا قادیانی کو یہ بات خود بھی تسلیم ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ”اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو دوسری زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

جس دل پر حقیقت آفتاب وحی تجلی فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہر گز نہیں رہتی۔ (مرزا قادیانی! پھر آپ کیوں شک کی تاریک گھائیوں کے اندر بارہ سال ٹھوکریں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) بڑے درد بھرے الفاظ میں بیان کیا۔ بس پھر کیا تھا۔ پہلے جو بارہ برس وحی الہی پر یقین نہ آیا اب فوراً یقین آ گیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ پس اس روز یقین قطعی سے سمجھا گیا کہ یہ پیشین گوئی اس شخص کے رگ وریشہ میں اثر کر گئی ہے۔ (نشان آسمانی ص ۳، خزائن ج ۲ ص ۳۶۳) اب بتلائے جس کو خدائی وحی پر یقین نہ آئے اور پھر ایک مجذوب کی بات جس کو صرف ایک آدمی بیان کرے یقین آ جائے وہ کس درجہ کا آدمی ہے۔ جسے خدا پر یقین نہیں اس کا ہم کیسے یقین کر لیں۔ حالانکہ اوپر گزر چکا ہے کہ اگر میں ایک دم بھی وحی میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں۔ یہاں تو کروڑوں دم شک رہا، کیا یہ شعر مرزا قادیانی کی حالت کی غمازی تو نہیں کر رہا۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

نوٹ! ۱۸۸۰ھ سے وحی شروع ہوئی اور ۱۲ سال شک رہا۔ ۱۸۹۲ء میں کریم بخش کے بیان سے یقین آ گیا۔ سبحان اللہ مرزا قادیانی!

کھاتے رہے۔ معلوم ہوا نا! کہ وحی ربانی نہ تھی۔ یہی ہمارا مقصود ہے) (ص ۸۹ از قادیانی مذہب ص ۳۰۷) لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کم تر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزل المسح ص ۱۰۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۸۶) اور بموجب حدیث صحیح کے محدث کا الہام بھی وحی کے نام سے موسوم اور منکر وحی بھی انبیاء کے دخل شیطان سے پاک۔ (ایام الصلح ص ۱۶۲، خزائن ج ۱۴ ص ۴۱۰)

مگر مرزا قادیانی کو الہامات ہر زبان میں ہوتے رہے۔ جن کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ملاحظہ کیجئے: ”مگر اس سے زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں۔ جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“ (نزل المسح ص ۵۷، ۸۸، خزائن ج ۱۸ ص ۴۳۵، ۴۶۶)

پھر ثابت ہوا کہ شیطانی ہیں!

اب وہ الہام بھی سنئے جن کے معنی مرزا قادیانی سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسروں سے تشریح طلب کرتے رہے۔ بلکہ ایک ہندو لڑکا شام لال بھی تشریح الہام کے لئے رکھ رکھا تھا۔ مگر وہ بھی کسی وقت ناکام ہو جاتا تو دوسری طرف سلسلہ جہنابی کرنا پڑتا۔ لکھتے ہیں کہ:

”مخدومی، مکرم اخویم میر عباس علی شاہ صاحب سلمہ!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! بعد ہذا چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کئے ہیں۔ مگر قابل اطمینان نہیں۔ اور بعض منجانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا۔ (آج تک کسی نبی پر ترجمہ لفظی کے ساتھ وحی نہیں آئی) بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضروری ہے۔ تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو۔ آخر جزو میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کئے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو

۱۔ لیجئے حضرات! مرزا قادیانی پریشان ہیں۔ کچھ امداد میں بھی کئے دیتا ہوں۔ اپریش شاید مرزا قادیانی بھول گئے۔ حافظہ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب ص ۹۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۲) میں ہے کہ: ”اس رات کے بعد میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی ہیں اور صاف کی ہیں اور میل و کدورت ان میں سے پھینک دی اور ہر ایک بیماری اور کوتاہ بینی کا مادہ نکال دیا ہے اور ایک مصفی نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کو چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بنادیا اور یہ عمل کر کے پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔“ (کیوں مرزا قادیانی! اب اپریشن کا پتہ لگایا نہیں؟)

بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جائے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں۔ ”آپریشن عمر براٹوس یا پلاٹوس، یعنی پڑٹوس لفظ ہے۔ یا پلاٹوس۔“ باع سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ (سبحان اللہ! جس پر الہام ہوا اسے تو پتہ نہیں چل سکا تو دوسرے کو کیا پتہ چلے گا۔ آخر پتہ چلتا کیسے؟ الہام کرنے والا فرشتہ شیر علی بڑا بہادر ہے۔ الہام پر الہام پھینکے جاتا ہے۔ کم بخت کو یہ ہوش نہیں کہ میرا ملہم علیہ ضعیف القویٰ ہے۔ دماغ کمزور، دل کمزور، مایوس اور مراق کا مارا ہوا، وہ کیسے سنبھال سکے گا؟)

اور ”عمر“ عربی لفظ ہے۔ اس جگہ پر اٹوس اور پریشن کے معنی دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے لفظ ہیں اور پھر دو لفظ اور ہیں۔ ”ہوشعنا نعسا“ معلوم نہیں کس زبان کے ہیں اور انگریزی یہ ہیں۔ اول عربی فقرہ ہے۔ ”یاد اؤد عامل بالناس رفقا واحسانا“ یوسٹ ڈودھاٹ آئی لویو۔ (You must do that, I love you) تم کو وہ کرنا چاہئے جو میں نے فرمایا ہے۔ (یہ مترجم الہام ہے کہ مرزا قادیانی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے) یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور انگریزی الہام ہے۔ ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ ایک ہندو لڑکے نے بتلایا ہے۔ فقرات کے تقدیم و تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم و تاخر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو غور سے دیکھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو ہی پتہ نہیں چلا تو دوسرے کو کیا چلے گا؟ واہ مرزا قادیانی!) وہ الہام یہ ہیں۔ ”دوآل من شد بی اینگری بٹ گاڈ از دیو۔ می شل ہلپ یو وارڈس آف گاڈ ٹائٹ کین ایکس چینج“

اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے کام بدل نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور انگریزی الہام ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ”آئی شل ہلپ یو“ مگر بعد اس کے یہ ہے۔ ”یو ہیو ٹو گو امرتسر“ پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے۔ ”ہی بل ٹس ان دی ضلع بشار“ یہ فقرات ہیں ان کو تنقیح سے دیکھیں اور یہ برائے مہربانی جلد جواب بھیجیں۔ (کہیں نبوت نہ ڈھیلی پڑ جائے اور کوئی مزید ایسی مصیبت نہ پڑ جائے۔) تاکہ اگر ممکن ہو تو آخر جز میں بعض فقرات بہ موقع مناسب درج ہو سکیں۔

(مکتوبات احمدیہ ج ۱ ص ۶۹، مکتوب نمبر ۳۶)

۱۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے سب علموں کے جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ (اعجاز المسح ص ۳۲، خزائن ج ۱۸ ص ۳۲) میں مرزا قادیانی کو خطاب ہے کہ: ”انک رزقت من کل علم“ یعنی تجھے ہر ایک علم دیا گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو شام لال اور عباس کی کیا ضرورت اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹا آدمی نبی، محدث، مجدد نہیں ہو سکتا۔ فافہم و تفکر!



*I Love You.*

*I am with You.*

*Yes I am Happy.*

*Life is pain.*

*I shall Help You.*

*I can what I will do.*

*We can what will do.*

*God is coming by his army. He is with you to kill enemy.*

*The days shall come God shall help you.*

*Glory be to the lord.*

*God makes of earth and heaven.*

*You have to go to Amritsar.*

*He had to go in the zila Peshawar.*

*Word and to girls.*

*A reasonable man.*

*Though all men should be angry but god is with you. He*

*shall help you. Word of god cannot Exchange.*

(تذکرہ ص ۶۳) "میں تم سے محبت کرتا ہوں۔"

(تذکرہ ص ۶۳) "میں تمہارے ساتھ ہوں۔"

(تذکرہ ص ۶۵) "ہاں میں خوش ہوں۔"

(تذکرہ ص ۶۵) "زندگی دکھ ہے۔"

(تذکرہ ص ۶۱) "میں تمہاری مدد کروں گا۔"

(تذکرہ ص ۶۳) "میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔"

(تذکرہ ص ۶۳) "ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔"

”خدا تمہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلا آتا ہے۔ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے

(تذکرہ ص ۶۵)

تمہارے ساتھ ہے۔“

”وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔“

(تذکرہ ص ۹۹)

”خداۓ ذوالجلال۔“

(تذکرہ ص ۱۱۷)

”آؤ بلند زمین و آسمان۔“

(تذکرہ ص ۱۱۷)

”تمہیں امر ترس جانا پڑے گا۔“

(تذکرہ ص ۵۹۳)

”وہ ضلع پشاور میں ٹھہرتا ہے۔“

(تذکرہ ص ۳۸۳)

”ایک کلام اور دو لڑکیاں۔“

”معقول آدمی۔“

”اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے۔ مگر خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔

خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔“

اس کے بعد دو فقرے انگریزی ہیں۔ جن کے الفاظ کی صحت باعث سرعت الہام ابھی

تک معلوم نہیں ہو سکی اور وہ یہ ہیں۔

I shall give you a large party of Islam.

چونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خواں نہیں اور نہ اس کے پورے

معنی کھلے ہیں۔ اس لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔

(براہین احمدیہ حاشیہ نمبر ۳ ص ۵۵۶، خزائن ج ۱ ص ۶۶۳)

اب آپ اسی طرح مرزا قادیانی کے گول مول الہامات سنئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ

اوپر کے اقوال اور قواعد پر فٹ بیٹھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو ان پر یقین ہے یا نہیں۔ ارے یقین تو

بعد از علم پیدا ہوتا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں کہ کس زبان کا لفظ ہے تو یقین کہاں سے آئے گا۔

ایک انگریزی خواں کی آمد پر انگریزی الہام: ”دس از مائی انیشی“ یہ میرا دشمن ہے۔

(تزیاق القلوب ص ۶۱، خزائن ج ۱۵ ص ۲۶۵)

”عبداللہ خاں، ڈیرہ اسماعیل خاں“ (تزیاق القلوب ص ۳۶، خزائن ج ۱۵ ص ۲۲۹)

”جنازہ“ (نزل المسیح ص ۲۲۵، خزائن ج ۱۸ ص ۶۰۳)

(کیا مبہم نہیں! جو شیطانی کلام ہوتا ہے۔ بقول مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد اپنے ٹریکٹ ص ۳۴ موسومہ (اسلامی قربانی ص ۱۲) میں لکھتا ہے کہ: ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔ (نعوذ باللہ! گویا جماع کیا)“

کیا یہ بھی الہام ربانی ہے؟ العیاذ باللہ! یاد رہے کہ یار محمد پلید رنوت کے مدعی بھی ہیں۔ اس لئے ان کی بات معتبر ہونی چاہئے کہ نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔

ایک دفعہ الہام ہوا۔ ”بستر عیش“

(تذکرہ ص ۴۹۹، البشری ج ۲ ص ۸۸، مورخہ ۵ دسمبر ۱۹۰۳ء بحوالہ بدرج ص ۳)

کیا یہ مبہم نہیں؟ شاید مرزا قادیانی خود بھی کوئی معنی نہ فرما سکیں اور ہو سکتا ہے کہ منکوحہ آسمانی جس کے پیچھے جان کھپادی اس کے وصال کی امید ہو۔

”چوہدری رستم علی“ (مطلب ندارد) (تذکرہ ص ۵۳۲، البشری ج ۲ ص ۱۴)

”زندگیوں کا خاتمہ“ (تذکرہ ص ۵۷۷، البشری ج ۲ ص ۱۰۳)

لیکن کن کی زندگیوں کا خاتمہ؟ کب اور کیسے؟ مرزائیوں کی زندگیوں کا خاتمہ یا ان کے آقا، انگریز کی زندگی کا۔ کوئی تشریح نہیں۔

”لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ شیر خدا نے فتح پائی۔ امین الملک بے سنگھ بہادر“

(تذکرہ ص ۶۷۲، البشری ج ۲ ص ۱۱۸)

ناظرین ہے کوئی مناسبت؟ کیا رحمانی الہام کی یہی خصوصیات ہیں؟

”لاہور میں ایک بے شرم ہے۔“ (تذکرہ ص ۷۰۴، البشری ج ۲ ص ۱۱، بحوالہ بدرج ص ۱۱)

بے شرم کی تشریح نہیں فرمائی۔ شاید خود ہی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ وحی نہیں فرمائی اور ادھر مانند بارش کے وحی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔

”گورنر جنرل کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔“

(تذکرہ ص ۳۳۲، البشری ج ۲ ص ۵۷)

حدیث میں حضرت مسیح کی صفت ”حکما عدلا“ آئی ہے کہ وہ عادل حاکم ہوں گے۔

مرزا قادیانی (ترباق القلوب ص ۱۶) میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے گورنر جنرل اور وہ یہ خود ہی ہیں۔

اس لئے ان کی پیشین گوئیاں پوری ہونے والی ہیں۔ کیا پہلے پوری نہ ہوئی تھیں؟ ہمیں تو کوئی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ مثلاً منکوحہ آسمانی آتھم اور دیگر پیشین گوئیاں۔  
 ”بعداً! انشاء اللہ“  
 (تذکرہ ص ۳۰۱، البشرى ج ۲ ص ۶۵)

کیا مطلب؟ گیارہ دن، سال یا ہفتہ؟ کیا مطلب ہے۔  
 اس کتے کا آخری دم۔ فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتاب بیمار ہے۔ میں اسے دوائی دینے لگا ہوں تو میری زبان پر یہ جاری ہوا۔ (تذکرہ ص ۴۱۷، رسالہ مکاشفات مرزا ص ۲۲)  
 سبحان اللہ! خیر خواہی کیا کہنے، کتوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کہ کشف میں دوائی دی جا رہی ہے۔ ادھر فضل احمد سرگیا تو اتنی بے رحمی کہ جنازہ بھی نہ پڑھا۔

”افسوس صد افسوس“  
 (تذکرہ ص ۳۱۹، البشرى ج ۳ ص ۷۱)  
 واقعی مرزا قادیانی پر افسوس کہ کیوں خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسری خلق خدا کو جہنم کا

ایندھن بنایا۔

”فیرمین، (Fair Man)“ معقول آدمی۔ (تذکرہ ص ۳۸۳، البشرى ج ۲ ص ۸۲)  
 کون ہے معقول آدمی۔ شاید مولانا محمد حسین بٹالوی ہوں۔ جنہوں نے ساری عمر اسے سمجھانے میں لگا دی۔ مگر اس نامعقول نے اس معقول آدمی کی بات نہ سنی۔  
 ”فضل الرحمن نے دروازہ کھول دیا۔“  
 (تذکرہ ص ۵۰۹، البشرى ج ۲ ص ۹۰)  
 پتہ نہیں کیسا دروازہ کھولا۔ مبہم ہے۔  
 ”کیا عذاب کا معاملہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو کس حد تک؟“

(تذکرہ ص ۵۴۸، البشرى ج ۲ ص ۹۷)  
 غالباً مرزا قادیانی اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں تو مرزا قادیانی فکر نہ کریں۔ عذاب کا معاملہ آپ کے حق میں بالکل درست ہے اور کوئی اس کی حد بھی نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔

”آتش فشاں، مصالح العرب، بامراد، روبلا“ (تذکرہ ص ۵۶۳، ۵۶۴، مکاشفات ص ۴۳)  
 ایک کاغذ دکھائی دیا اس پر لکھا تھا۔ عجیب الہام ہے، نہ کوئی سر نہ پیر، گالیوں اور لعنتوں کا آتش فشاں۔ تو مرزا قادیانی تھے ہی باقی تینوں کا مفہوم مجھے بھی نہیں آتا۔  
 (تذکرہ ص ۵۹۵، البشرى ج ۲ ص ۱۰۷)  
 ”ایک دانہ کس کس نے کھایا؟“

اللہ جانے یہ کون سادانہ ہے۔ تشریح ندارد، جو علامات کلام شیطانی کی ہے۔  
 ”شر الذین انعمت علیہم“ ”ان لوگوں کی شرارت جن پر تو نے انعام کیا۔“  
 (تذکرہ ص ۵۵۰، البشرى ج ۱)

جناب سعم علیہ تو مجسمہ خیر ہوتے ہیں۔ شرارت کیسی؟ یا محمد کے حوالہ سے یہاں تک  
 سب حوالے پا کٹ بک سے لئے گئے ہیں۔

## الوہیت کے الہام

”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ پھر یقین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔“  
 (آئینہ کمالات ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

”انت بمنزلۃ اولادی“ تو مجھے بیٹوں جیسا ہے۔  
 (اربعین نمبر ۴ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۲۵۲، حاشیہ، دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۲۲۷)

## عام الہامات

۱۵ مارچ ۱۹۰۶ء بروز پنجشنبہ وقت صبح یہ الہام ہوا۔ ”خدا نکلنے کو ہے۔“  
 (تجلیات الہیہ ص ۱۲، خزائن ج ۲ ص ۳۰۴)

کہاں سے مرزا قادیانی؟  
 ”افطر واصوم“ میں افطار کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔  
 (دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۲۲۷)

العیاذ باللہ! کیا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟  
 ”انت منی وانا منك“ تو مجھ سے اور میں تجھ سے۔

(دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۲۲۷، کتاب البریہ ص ۸۲، خزائن ج ۱ ص ۱۰۰)  
 استغفر اللہ! خدا تعالیٰ تو ”لم یلد ولم یولد“ ہے۔ نہ وہ کسی سے جنانہ اس نے  
 کسی کو جنا۔ یہ کیا ہڈیاں ہے کیا یہی ربانی کلام ہے۔ نہیں نہیں یہ کھلا ہوا شیطانی کلام ہے۔  
 ”انى بايعتك بايعنى ربى“ میں نے تیرے ساتھ بیعت کی، میرے ساتھ  
 میرے رب نے بیعت کی۔  
 (دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۲۲۷)

رب بھی بیعت کیا کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دجل و فریب میں شیطان نے بیعت کی ہو۔

”عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً“ قریب ہے کہ رب تیرا تجھے مقام محمود میں کھڑا کرے۔“ (دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)

یہ آیت قرآن کی سید المرسلین ﷺ کے متعلق ہے۔ مگر مرزا کے ہاں اپنے اوپر چسپاں ہو رہی ہے۔ کیا یہ کھلی توہین نہیں ہے؟

”انی انا الصاعقة“ میں صاعقہ ہوں۔ (مواہب الرحمن ص ۱۲۶، خزائن ج ۱۹ ص ۳۳۷) یعنی خدا کا نام صاعقہ ہے جو نہ کسی کتاب میں نہ حدیث میں حالانکہ اسمائے الہیہ تمام توفیقہ ہیں یعنی سماع پر موقوف ہیں۔

”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلہ“ (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

”صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے..... محمد رسول اللہ والذین معہ“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶، ۲۰۷) اب ایمان داری سے بتلایئے کہ یہ آیت جو حضور ﷺ کے حق میں رسالت ثابت کر رہی ہے اور اسی طرح اگلی محمد رسول اللہ۔ یہ رسالت اور محمد رسول اللہ وہ ہیں جو عرب میں رحمتہ العالمین بن کر آئے یا قادیانی صاحب پھر یہ رسول اور محمد بروزی ہے یا اصلی۔ اب بھی کسر رہ گئی کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا یا بروزی کا؟ یہ بد بخت تو رسالت محمدیؐ کی پاکیزہ چادر اپنے اوپر اوڑھ رہا ہے۔ ایسے کے متعلق کیا کہو گے جو توہین لے رسول عربی ﷺ کر رہا ہو۔ وہ مسلمان بھی

۱۔ سید المرسلین ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”المہدی من عترتی من ولد فاطمة“ یعنی امام مہدی میری اولاد اور بنی فاطمہ سے ہوں گے۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۱، اوّل الکتاب المہدی) یہ مراتی کیا کہتے ہیں۔ ”سمعت ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من بنی فاطمة“ (حطبہ الہامیہ ص ۲۳۱، خزائن ج ۱۶ ص ۱۶۲) یعنی میں نے بعض جاہلوں سے سنا کہ کہتے ہیں کہ مہدی بنی فاطمہ سے ہوگا۔ اب دیکھو کس نے فرمایا کہ مہدی بنی فاطمہ سے ہوگا اور اس مراتی صاحب نے کسے جاہل کہا؟ زبان جل جائے قلم ٹوٹ جائے جس سے یہ الفاظ نکلیں۔ مرزا قادیانی، مسیح علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ سارے الزامی جواب ہیں۔ یا ان کی کتابوں سے بیان کیا گیا ہے۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

رہ سکتا ہے؟ چہ جائیکہ اسے مسیح اور مہدی اور مجدد تسلیم کر لیں۔ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے غیر تشریحی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اجراء یا عدم اجراء کی بحث ہی فضول ہے۔ وہ تو حقیقی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب اپنی وحی کو قرآن کی طرح قطعی بنا رہے ہوں اور اپنی وحی میں امر و نہی کا اعلان کر رہے ہوں۔

(اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۳۳۵)

اور مرزا محمود قادیانی ”حقیقی نبی کہہ رہے ہوں۔“ (حقیقت النبوة ص ۱۷۴)

تو تشریحی غیر تشریحی کی بحث ہی فضول ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی تو تمام نبوت کا جامع بنتے ہیں۔ خاتم الانبیاء بھی بنتے ہیں۔

(حقیقت الوحی ص ۳، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶، تحفید الاذہان ج ۱۲ نمبر ۸ ص ۱، ماہ اگست ۱۹۱۷ء)

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اگرچہ یہ بات بھی باطل ہے کیونکہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ: ”پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کو پیشین گوئی کیوں نام رکھا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۴، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۸) ”ہاں آپ کو گالیاں بکنے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آ جاتا تھا۔ اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں بکتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) ”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰) آپ فرمائیے کہ یہ الزامی جواب ہے یا اپنی خباثت کا اظہار ہے جو سید المرسلین ﷺ سے نہیں شرمایا جو سالار انبیاء ہیں۔ دوسرے سے کب شرمائے گا۔ دوستو ظلم ہو گیا۔ یہ دجال تو اپنی دکان چکانے کے لئے خدا تعالیٰ پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگ گیا۔ مخلوق کیا چیز ہے؟ سنئے:

”مسلمانوں کا بالاتفاق اعتقاد ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔“

(ازالہ ادہام ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۲)

مرزا قادیانی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ”کوئی عقلمند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر بعد میں اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا۔ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی۔“ العیاذ باللہ! (ضمیمہ نصرۃ الحق ص ۱۴۴، خزائن ج ۲۱ ص ۳۱۲) یہ کون سی کتاب میں ہے خدا رکھ تو حیا کیجئے۔

”من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رای“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، خزائن ج ۱۶ ص ۱۵۹)

ایسے بے شمار حوالہ جات مل سکتے ہیں۔ جو اکثر میرے رسالہ ”آئینہ قادیانی“ میں جمع ہیں۔

ایک دفعہ مرزا قادیانی کو ایک فرشتہ نے خواب میں نان عطا فرمایا۔ ملاحظہ ہو:

(نزل المسیح ص ۲۰۶، خزائن ج ۱۸ ص ۵۸۴)

مرزا قادیانی کو خواب میں اور کاشف کھانے پینے اور نکاحوں اور روپیہ کی آمد کے آتے تھے

اور اوپر گزر چکا ہے کہ جو الہام دنیوی لذات و شہوات مثل کھانے پینے، روپیہ کے ہوں تو وہ شیطانی

ہے۔ (خواتم الحکم اور مدارج)

”ایسا اتفاق دو ہزار مرتبہ سے بھی زیادہ گزرا ہے کہ خدا نے میری حاجت کے وقت مجھے

الہام یا کشف سے یہ خبر دی کہ عنقریب کچھ روپیہ آنے والا ہے۔“ (تریاق ص ۳۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۹)

دوسری جگہ ہے ”کئی لاکھ روپیہ تجھے آئے گا۔“ (قادیان کے آریہ اور ہم ص ۲۵، خزائن ج ۲۰ ص ۴۳۴)

”ہر چہ باید نو عدد سے را ہمہ سامان کنم“ (تریاق القلوب ص ۳۵، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۲)

یہ محمدی بیگم کے متعلق ہے کہ ضرور نکاح ہو کر رہے گا۔ مگر حالات زمانہ جانتا ہے کہ

کنواری کا تو نہ ہوسکا تو دوسرا الہام گھڑا کہ: ”ایک باکرہ اور ایک بیوہ آئیں گی۔“

(تریاق ص ۳۴، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۱)

مگر زبے قسمت نہ بیوہ نہ کنواری بلکہ نامرادی میں ہی چل بسے۔ حالانکہ اس نکاح کو

”اپنے صدق و کذب کا معیار ٹھہرایا تھا۔“ ملاحظہ ہو: (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

بلکہ یہی کنواری مرزا قادیانی کے بعد بیوہ ہو گئی۔ الہام تو کسی صورت میں پورا ہو گیا۔

مگر کذب پہلے بھی واضح تھا بعدہ حالات نے اور تصدیق کر دی۔ اسی طرح آتھم کے

پندرہ ماہ تک مرنے کا الہام تھا مگر وہ بھی نہ مرا۔ آخری رات بذا زور لگایا۔ منتر پڑھے مگر کچھ نہ ہوا۔

اگلے دن امرتسر میں آتھم کو جلوس میں پھرایا گیا۔

”میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ علیہا السلام نے مادر مہربان کی طرح اپنی

(تریاق ص ۳۵، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۲)

ران پر رکھا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ!“

اب بتلائیے کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کیا کر سکتی ہیں۔ العیاذ باللہ! جب مرزا قادیانی کی وحی

اور کشف یقینی ہے، شیطیات سے خارج ہے تو یہ لازماً مرزا قادیانی نے جھوٹا خواب گھڑا ہے یا کوئی

شیطانی ہتھمہ ہے۔



”اول مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضا و قدر کے اہل دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے۔ تمثیل کے طور پر میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ (یہ خیال ہوا کہ وہ رب العالمین کی تو یہ شان نہیں) مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے سرخ سیاہی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معاً جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخ سیاہی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبد اللہ کے کپڑوں پر پڑے۔ (خدا یلاش نے آپ کی بڑی توہین کر دی کہ ایک شریف نبی کے کپڑوں کا ستیاناس کر دیا) ساتھ ہی میں نے پچشم خود ان قطروں کو دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصہ کو میاں عبد اللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہ تھی جن سے اس سرخی کے گرنے کا احتمال ہوتا اور وہ یہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبد اللہ کے پاس موجود ہیں۔ جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی تھی اور میاں عبد اللہ زندہ موجود ہیں اور اس کیفیت کو خلفاً بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ خارق عادت اور اعجازی طور پر امر تھا۔“ (تریق ص ۳۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۷، نسیم دعوت ص ۶۲، خزائن ج ۱۹ ص ۴۲۷، نزول المسح ص ۲۲۶، ۲۲۷، خزائن ج ۱۸ ص ۶۰۴، ۶۰۵)

حضرات حدیث میں ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ”لا تبدیل بکلمات اللہ اور جف القلم“ قلم لکھ کر سوکھ چکی ہے۔ اب مرزا قادیانی نئی تقدیر مرتب کرنے لگ گئے۔ کیا مرزائی وہ عبد اللہ کے تر بتر کپڑے دکھلا سکتے ہیں۔ دستخط کروانے یہ عرش پر گئے یا خدا قادیان میں آیا۔ نیز بہت سے نکات فہم روشن ضمیر پر کھل سکتے ہیں۔

”حیوة طيبة ثمانین حولاً او قریباً من ذالک عمر کے متعلق الہام ہوا کہ تجھے اسی سال تک پاکیزہ زندگی عطاء کریں گے یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ۔“ (ضمیمہ تھم گولڈ ویس ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۶۶، اربعین نمبر ۳ ص ۲۹، ۳۲، خزائن ج ۱۷ ص ۳۲۴، ۳۲۵) اس قسم کے حوالہ جات بیشتر کتب میں مل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ واقعہ مرزا قادیانی کی عمر اتنی ہی ہوئی۔ جتنی الہام میں بتلای گئی یا کم و بیش؟ تو دیکھئے خود مرزا قادیانی جو بسم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں فرماتے ہیں کہ: ”میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔“ (کتاب البریہ ص ۱۵۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۷)

اسی طرح وفات مرزا قادیانی کی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء ہے۔ یہ کل عمر ۶۸ یا ۶۹ سال بنتی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ یہ الہام کیسا تھا؟ جس میں اتنا فرق نکل آیا۔ ۶۷ یا ۷۸ سال چاہئے تھی یا ۸۲، ۸۳۔ مگر یہاں ۶۸، ۶۹ سال ثابت ہوئی اور بعض حسابات سے اس سے بھی کم نکلتی ہے۔ حالانکہ اس وجہ شدہ عمر پر مزید عمر بھی مل گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی کسی بزرگ کی قبر پر کشفی حالت میں دعاء کر رہے تھے۔ وہ بزرگ آمین کہہ رہے تھے۔ خیال آیا کہ عمر بھی بڑھالی جائے تو پندرہ سال عمر بڑھنے کی دعاء کی۔ بزرگ نے آمین کہی تو مرزا قادیانی اس بزرگ سے الجھ گئے۔ کشتہ کشتا ہو گئے تو بیچارے نے کہا کہ چھوڑ دو۔ آمین کہہ دیتا ہوں تو اس نے کہہ دی۔ (البدیع ص ۲۷، دسمبر ۱۹۰۳ء، مکاشفات ص ۳)

اس لحاظ سے ۹۰ سال سے اوپر چاہئے مگر بجائے بڑھنے کے گھٹ گئی۔ شاید بزرگ نے دل سے آمین نہ کہی اور ان کی گستاخی کی وجہ سے اور بھی گھٹ گئی۔ آخر مقبولوں کے ساتھ مخالفت نیک پھل تو نہیں لاتی۔ ”من عادى لى ولياى فقد اذنته بالحرب“ (مشکوٰۃ ص ۱۹۷، باب ذکر اللہ عز وجل والتعرب الیہ) جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بشمیر داس نامی آدمی پر کوئی مقدمہ تھا۔ اس کے بھائی نے دعاء کا کہا۔ تو مرزا قادیانی کو کشف طاری ہوا۔ فرمایا کہ میں قضا و قدر کے دفتر میں گیا اور ایک کتاب میرے پاس پیش کی گئی۔ جس میں بشمیر داس کی قید ایک سال لکھی ہوئی تھی۔ تب میں نے اس کی قید میں سے آدمی قید کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے قلم سے کاٹ دیا ہے۔

(ترپاق القلوب ص ۳۲، خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۴)

واہ مرزا قادیانی خوب! کیا قضا و قدر کے دفتر میں خدائے یلاش کی نظر سے بچا کر پہنچ گئے اور خیراتی وغیرہ سے کتاب منگوا کر قید کاٹ آئے۔ تصرف ہو تو ایسا ہی ہو۔ مگر اپنی عمر کے لئے شاید دفتر بند تھا یا یلاش نے چارہ نہ چلنے دیا کہ بجائے برہانے کے گھٹ گئی۔

۱۳ اپریل ۱۸۹۹ء کو الہام ہوا۔ ”اصبر مليا ساھب لك غلاما ذكيا“ یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر میں تجھے عنقریب ایک پاک لڑکا عطاء کروں گا۔ ۲ ذوالحجہ ۱۳۱۶ھ کی تاریخ تھی۔ ساتھ ہی یہ الہام ہوا۔ ”رب اصبح زوجتى لهذه“ یعنی اے میرے خدا میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا۔۔۔۔۔۔ یہ الہام تمام قادیانیوں کو سنایا گیا اور اخویم مولوی عبدالکریم نے بہت سے خطوط لکھ کر دوستوں کو بھیج دیئے۔ دو ماہ بعد اس لڑکے کی روح مجھ سے بولی۔ (مرزا جی یہ کیا فرمایا؟ روح

تو لڑکے کی تھی اور بولی آپ میں؟) اور الہام کے طور پر یہ کلام اس کا میں نے سنا۔ ”انی اسقط من اللہ واصیبہ“ یعنی اب میرا وقت آ گیا ہے اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا اور پھر اسی کی طرف جاؤں گا۔ (زمین پر کہاں سے گرے گا؟ آسمان سے؟ وہ تو مرزا قادیانی کے اندر تھا) دوسری مرتبہ یکم جنوری ۱۸۹۷ء میں بطور الہام یہ کلام مجھ سے کیا اور مخاطب بھائی تھے۔ (مرزا صاحب ۱۸۹۹ء کے بعد ۱۸۹۷ء کہاں اور کیسے ہو گیا۔ رجعتِ قہمہری کا کیا معنی) کہ: ”مجھ میں اور تم میں ایک دن کی میعاد ہے۔ یعنی اے میرے بھائیو! میں پورے ایک دن کے بعد تمہیں ملوں گا۔ اس جگہ ایک دن سے مراد دو برس تھے۔“ (ایک دن سے مراد دو برس یہ مرزا قادیانی کی ہی لغت ہے۔ ورنہ اس کی نظیر تو مفقود ہے۔ واہ مرزا قادیانی بچے نے پیٹ ہی میں وائرلیس سیٹ رکھا ہوا تھا؟ کہ پہلے ہی الہام کر رہا ہے۔)

(تزیان القلوب ص ۳۱، خزائن ج ۱۵ ص ۲۱۶، ۲۱۷)

”ایک دفعہ ہم گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جا رہے تھے کہ الہام ہوا کہ ”نصف تراء نصف عمالیک را“ اس کے ساتھ یہ تفہیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء میں سے ایک عورت تھی مر جائے گی اور اس کی نصف زمین ہمیں اور نصف دیگر شرکاء کو مل جائے گی۔“ (نزول المسح ص ۲۱۳، ۲۱۴، خزائن ج ۱۸ ص ۵۹۱، ۵۹۲)

عمالیک کا معنی دوسرے شرکاء کس لغت میں ہے؟ دیکھا حضرات دنیاوی امور کا ہی الہام ہے۔ وھو من الشیطان الرجیم!

”تو ہمارے پانی سے اور دوسرے لوگ خشکی سے“ گویا مرزا قادیانی نطفہ خدا ہیں۔ العیاذ باللہ! اور اس میں دوسرے لوگوں انبیاء و اولیاء کی توہین بھی واضح ہے۔

”آسمان زمین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔“ شرک اور کیا چیز ہے؟ جب تعریف یکساں ہوا۔

”تو اس سے نکلا۔“ اس سے کوئی نہیں نکلا۔ لم یلد ”تو کلمۃ الازل ہے“ حضرت مسیح علیہ السلام تو صرف کلمۃ اللہ تھے اور یہ صاحب کلمۃ الازل ہو گئے۔

”میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔“ یہ کیا؟ فوجوں کی کیا ضرورت؟ جہاد تو حرام ہے۔ شاید مرزا قادیانی کے خدا تاج اور یلاش کو اس کی اطلاع نہ ہو۔

”میرا لونا ہوا مال تجھے ملے گا“ خدا نے کہاں سے لونا تھا؟

”جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ“ سبحان اللہ!

”اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی۔“ سمجھ نہیں آتا کہ مرزائی لغت میں رحمت کسے کہتے ہیں۔ کیا وہی رحمت تو نہیں جو مخالفین کے حق میں برسا کرتی تھی۔ کبھی ہزار لعنت کی گردان کبھی ذریتہ البغایا اور کبھی خنازیر الفلاء وغیرہ وغیرہ۔ گو ہر افشائیاں۔ اے اللہ ایسی رحمت نہیں چاہئے۔ مرزا قادیانی کو ہی مبارک ہو۔

”خدا کی رحمت کے خزانے تجھے دیئے گئے۔“ یہاں تو لعنت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔

(نور الحق ص ۱۱۸، خزائن ج ۸ ص ۱۵۸، ۱۶۲)

”آواہن خدا تیرے اندر اتر آیا۔“ یہ خدائے یلاش کا نزول ہوگا۔ جس کو یار محمد صاحب نے (اسلامی قربانی ص ۱۲) میں ذکر فرمایا ہے۔ شاید اسی وجہ سے سارے اعصاب جواب دے گئے تھے اور مجمع الامراض بن گئے تھے۔

”اس کو خدا نے قادیاں کے قریب نازل کیا۔“ کہاں سے؟ قادیان میں تو پہلے ہی تھے۔ پھر اس کے قریب کیسے نازل ہو گئے؟

”تیرا بھید میرا بھید ہے؟“ یہ ہرازی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں۔ ”انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك“ اے اللہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے اور میں تیرے بھید سے واقف نہیں۔ اس کے بھیدوں کو کون جان سکتا ہے۔

مگر جو قضا و قدر کے دفتر میں تصرف رکھتا ہو وہ واقعاً ہمارا ہو سکتا ہے۔ العیاذ باللہ!

”تیرے پر انعام خاص ہے۔“ یہ انعام دو زرد چادروں والا ہی ہوگا۔ ہمہ وقت پیشاب ہی کرتے رہو۔ اللہ ایسے انعام سے ہر ایک کو بچائے۔

(کتاب البریہ ص ۸۳، ۸۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۱، ۱۰۳، انتخاباً)

”میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں۔“ (کتاب البریہ ص ۸۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)  
 ”سو میں نے پہلے آسمان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔“ (کتاب البریہ ص ۸۷، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۵)

کیا یہ خدائی دعویٰ نہیں۔

”یا احمد یتم اسمک ولا یتیمی اسمی“ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا اور

میرا نہ ہوگا۔ استغفر اللہ! خدا کا نام تو کامل ہے۔ نقص ہے تو مخلوق میں۔ یہاں مرزا قادیانی کیسی بڑبانک رہے ہیں۔ (تحفہ بغداد ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۲۵، اربعین نمبر ۲ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۲۵)

”زوجنا کھا“ ہم نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ (تحفہ بغداد ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۲۸)  
 ”کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل“ دنیا میں ایک مسکین اور مسافر کی طرح رہ۔ (تحفہ بغداد ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۲۵)

مگر مرزا قادیانی تو روپیہ بٹورنے کی فکر ہی میں رہے۔ کبھی ٹیچی ٹیچی لا رہا ہے۔ کبھی دوسرا الہام بھی اسی کے اور کشف بھی اسی کے۔ غالباً محمدی بیگم کے متعلق ہے۔ مگر نامرادی ہوئی تو دوسرا الہام ہوا۔

”یئردھا الیک اسے پھیر کر یعنی بیوہ کر کے تیری طرف لائیں گے۔“ یہ بھی نہ ہوا۔  
 (اتمام الحجہ ج ۷ ص ۱۶۲)  
 ہر طرف سے ناکامی دیکھ کر الہام گھڑا۔ فرمایا: ”ایلی ایلی لما سبقتنی“ اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔“ جناب کے افتراء کی وجہ سے چھوڑا ہوگا۔

(تحفہ بغداد ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۲۹)  
 ”یا تیک قمر الانبیاء“ تیرے پاس نبیوں کا چاند آئے گا۔

(تحفہ بغداد ص ۲۵، خزائن ج ۷ ص ۳۱)  
 ہم لوگ تو نبیوں کا چاند سید المرسلین ﷺ کو ہی مانتے ہیں۔ یہ بد بخت کون ہے۔ آپ کے مقام پر منحوس قدم رکھنے والا۔ یہ پیشین گوئی بشیر احمد صاحب کے متعلق گھڑی جا رہی ہے۔ جسے اب بھی قمر الانبیاء لکھتے ہیں۔ دیکھئے بشیر احمد صاحب کی تصانیف تبلیغ ہدایت وغیرہ۔ استغفر اللہ!  
 ”آسمان سے کئی تخت اترے، پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)  
 سب سے اونچا تخت تو سید المرسلین ﷺ کا ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تخت بھی نیچے ہے۔ یہ کیسی یادہ گوئی ہے۔

”انت مدینۃ العلم“ تو علم کا شہر ہے۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۳، خزائن ج ۷ ص ۳۲۳)  
 علم کا شہر سید المرسلین ﷺ ہیں۔ جیسے حدیث ہے۔ ”انما مدینۃ العلم وعلی

بابہا“

”قیصر ہند کی طرف سے شکریہ“ (ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۴، ص ۲، خزائن ج ۱۵ ص ۵۰۴)

وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری زندگی انگریزوں کی تعریف میں گزری۔ پچاس الماریاں کتابیں لکھیں۔ جہاد حرام کیا۔ تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصرہ لکھا۔ مگر ان کو پتہ تھا کہ یہ جو اپنے مذہب کا قہر خواہ نہیں۔ ہمارا کب ہو سکتا ہے۔ معمولی سا خطاب بھی نہ دیا۔ سید احمد خاں اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کو سر اور شمس العلماء کے خطابات ملے۔ مگر یہ محروم رہے۔ حالانکہ انہوں نے جو خدمات ادا کی تھیں کسی نے نہ کی ہوں گی۔ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے سواروں کے بھیجے۔ جنگ فرانسال میں ۵۰۰ روپیہ چندہ دیا۔ (روداد جلسہ اور دعا ص ۳۵، خزائن ج ۱۵ ص ۶۲۷) مگر وہاں سے معمولی سی خطاب بھی نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر الہام ہی گھڑنا پڑا کہ: ”قیصر ہند کی طرف سے شکریہ۔“ خدا جانے یہ کون کہہ رہا ہے۔ یا ادھر سے خطاب نہ ملنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے گھر ہی کے آدمی تھے۔ جیسے خود فرماتے ہیں کہ: ”میں خود کاشتہ پودا ہوں۔“ (کتاب البریہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۳۵۰)

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ..... نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے  
تو اپنا ہی سب کچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ گھر کے آدمی کو گھر والے خطابات نہیں دیا کرتے۔

”پھر دیکھا کہ میرے مقابل پر کسی آدمی نے یا چند آدمیوں نے پتنگ چڑھائی ہے اور وہ پتنگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کو زمین کی طرف گرتے دیکھا۔ پھر کسی نے کہا۔ ”غلام احمد کی جے“ یعنی فتح“ (تذکرہ ص ۷۳)

واہ مرزا قادیانی! آپ تو پتنگ بازوں کے بھی استاد بن گئے۔  
”کشفی رنگ میں مغربا دام دکھائے گئے اور کشف کا غلبہ اس قدر تھا کہ میں اٹھا کہ بادام“ (تذکرہ ص ۷۳)

پہلے حوالہ کو ملحوظ رکھ کر نتیجہ نکالنے کے کھانے پینے کی چیزوں کا الہام شیطانی ہوتا ہے۔  
خاتم الحکم وغیرہ۔ مرزا قادیانی کا دماغ بہت کمزور تھا۔ جیسا کہ ذیابیطس کا خاصہ ہے۔ لہذا بلی کو چمکڑوں کی ہی خواب آتی تھی۔

”ایسوسی ایشن“ تشریح ندارد (تذکرہ ص ۷۳)  
مہم الہام شیطانی ہوتے ہیں۔  
”ہیضہ کی آمد ہونے والی ہے۔“ (تذکرہ ص ۷۳)

یہ جولائی ۱۹۰۷ء کا ہے۔ جس کے تھوڑی دیر بعد یعنی مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا قادیانی بمرض ہیضہ رخصت ہو گئے۔ کیا ہی سچا الہام ہے۔ یہ واقعی قابل تسلیم ہے۔

حضرت مرزا قادیانی کے الہامات کا سلسلہ بڑا عجیب ہے۔ ایک الہام گول مول گھڑ لیتے۔ جس کی تشریح دوسرے وقت پر اٹھا رکھتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تو جھٹ اس پر فٹ کر کے اپنی صداقت کا اعلان کر دیتے۔ ان کی زندگی ہی انہی چالبازیوں میں گذری ہے۔

مثال نمبر ۱: ۹ جنوری ۱۹۰۳ء کو الہام ہوا۔ ”قل خبیثہ وزید ہیبتہ“ ایک آدمی نامرادی سے مر گیا اور ہلاکت اس کی ہیبت ناک ہوگی۔

(مواہب الرحمن ص ۱۰۸، خزائن ج ۱۹ ص ۳۲۸، تذکرہ ص ۳۵۰)

اس الہام کے الفاظ کی ہی دورنگی دیکھئے۔ قتل اور زید دو ماضی مجہول کے صیغے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی نامرادی میں ہلاک ہوا۔ یہ تو ٹھیک، دوسرا جملہ اس کا مرنا ہیبت ناک ہوگا۔ یہ کیسے؟ شاید ربط یہ ہے کہ اس کی موت کا نتیجہ آگے چل کر ہیبت ناک ہوگا۔ مگر یہ مفہوم ذہن میں نہیں ہے۔ بہر صورت کسی کے نامراد مرنے کا تذکرہ ہے۔ گوجیوں کی طرح غیر متعین ہی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت دو چار دن بعد ایک غریب ماشکی جو ان کا مخالف تھا فوت ہو گیا۔ تو مرزا قادیانی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور نبیوں کے جملہ افعال و اقوال اور خیالات سب تصرف باری سے ہوتے ہیں۔

(ریویو ج ۲ نمبر ۲ ص ۷۱، ۷۲، بابت فروری ۱۹۰۳ء)

یوں فرمایا ایک سقہ مر گیا۔ اسی دن اس کی شادی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ قتل خبیثہ وزید ہیبتہ جو وحی ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(البدن نمبر ۵۵ ج ۲ مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۰۳ء، ملفوظات ج ۳ ص ۴۱۴)

ناظرین کرام! دیکھئے پنجابی نبوت کے کرشمے کہ کیسے وہ گول مول الہام جو پہلے گھڑ رکھا تھا وہ غریب ماشکی پر تھوپ دیا۔ خیر یہ تو ہوا۔ آگے ملاحظہ فرمائیے۔ ملک کابل میں مرزا قادیانی کے دومرید عبدالرحمن اور عبداللطیف بوجہ تبلیغ حرمت جہاد سمجھ کر سنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے زبان وحی سے فرمایا۔ ”اس سے پہلے ایک صریح وحی الہی (اب گول مول صریح ہو گئی) صاحبزادہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی نسبت ہوئی تھی۔ جب کہ وہ زندہ تھے۔ بلکہ قادیان میں ہی موجود تھے اور یہ وحی الہی (میگزین انگریزی ۹ فروری ۱۹۰۳ء، الحکم ۷ جنوری ۱۹۰۳ء اور البدن ۱۶ جنوری ۱۹۰۳ء) کالم دومیں شائع ہو چکی ہے۔ جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارہ میں ہے اور وہ یہ ہے۔“ قتل خبیثہ وزید ہیبتہ، یعنی اس حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جانا

ایک ہیبت ناک امر تھا۔“ یعنی لوگوں کو بہت ہیبت ناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر دلوں پر ہوا۔ کہ کس طرح پنجابی نبی چال بازیاں دکھلاتا ہے۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۷۳، خزائن ج ۲۰ ص ۷۵)

دیکھئے حضرات مرزا قادیانی کی چالاکیاں کہ کہاں یہ گول مول اور بے تکاسا فقرہ جس میں کسی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ پھر کہاں ایک قادیاں کا غریب ماشکی جو مرزا قادیانی کا پانی بھرا کرتا تھا۔ پھر کہاں عبداللطیف مرزائی جو مخالف نہ تھا۔ نہ اس کی موت نامرادی کی تھی۔ چونکہ مرزا قادیانی صادق تھے۔ اس کی موت تو اعلیٰ درجہ کی شہادت ہونا چاہیے تھی۔ نامرادی کیسی؟ واقعی مرزا قادیانی کاذب تھے۔ پھر مرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کا صریح الہام تھا، سچ ہے:

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے

خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

مثال نمبر ۲: ۱۸۸۰ء - ۸۳ء کے درمیانی زمانے میں بوقت تالیف براہین احمدیہ

مرزا قادیانی نے ایک الہام سنایا تھا۔ ”شاستان تذبчан وکل من علیہا فان“ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی نہیں جو مرنے سے بچ جائے گا۔ کوئی چار روز پہلے اس دنیا کو چھوڑ گیا کوئی پیچھے اسے جا ملا۔ (براہین ص ۵۱۱، بقیہ حاشیہ نمبر ۳ خزائن ج ۱ ص ۶۱۰)

اسی طرح (تذکرۃ الشہادتین ص ۶۷، خزائن ج ۲۰ ص ۶۹) میں اس کو بعنوان جلی بیان کیا

ہے۔ حضرات! یہ گول مول اور مبہم الہام گھڑ لیا کہ آئندہ کام آئے گا۔

فارغ کیوں بیٹھیں کوئی الہام ہی گھڑ لیں۔ کیا ہزاروں بکرے روزانہ ذبح نہیں ہوتے۔ خود مرزا قادیانی کو ایک دفعہ الہام ہوا۔ ”تین بکرے ذبح کئے جائیں گے۔“ صبح اٹھ کر تین بکرے ذبح کر دیئے۔ (تذکرہ ص ۵۸۹)

جو ایک معمولی بات تھی۔ مگر مرزا قادیانی کا مقصود ایسے گھڑے ہوئے الہامات سے تلبیس ہوتی تھی۔ چنانچہ ۶، ۵ برس گزر گئے تو منکوحہ آسمانی محمدی بیگم کی پیشین گوئی کے درمیان یہ الہام یاد آ گیا۔ پھر کیا تھا آؤ دیکھنا تاؤ جھٹ اس شیطانی الہام کو اپنے رقیب سلطان محمد اور اس کے باپ احمد بیگ پر جڑ دیا کہ یہ دونوں مرجائیں گے۔ ”دو بکریوں سے یہ مراد ہیں۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۷، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۱)

مگر خدا تعالیٰ کو چونکہ مرزا قادیانی کا کاذب ہونا منظور تھا اور خاصی ذلت مقصود تھی۔

اس لئے سلطان محمد نہ مرا۔ یہ الہام جوں کا توں رہ گیا۔ آخر سوچتے سوچتے ۱۹۰۳ء میں عبداللطیف



اور عبدالرحمن کا ملی مرداروں پر چسپاں کر دیا۔ چنانچہ آپ نے بکمال شان نبوت ان کی موت پر جڑ دیا۔ ”خدا تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے۔ دو بکریاں ذبح ہوں گی۔ یہ پیشین گوئی مولوی عبداللطیف اور ان کے شاگرد عبدالرحمن کے بارہ میں ہے۔ جو پورے تیس برس بعد پوری ہوئی۔“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۷۰، خزائن ج ۲۰ ص ۷۲، تذکرہ ص ۸۸) میں ایک عنوان قائم کر کے اس پیشین گوئی کو ان دو مرداروں کے بارے میں چسپاں کرتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ بھائیو غلام احمد کی جے!

مثال نمبر ۳: حضرات آخر یہ بھی سنئے کہ مرزا قادیانی کو وحی کون بھیجتا تھا اور لانے والے کون ہیں؟ مرزا قادیانی کے خدا کا نام بھی الگ ہے اور فرشتوں کے نام بھی کسی کتاب یا حدیث میں نہیں سنے گئے۔ مرزا قادیانی کے خدا کا نام۔

صاعقہ	(تذکرہ ص ۳۷۷)
یلاش	(تحفہ گلزدیہ ص ۶۹، خزائن ج ۱۷ ص ۲۰۳)
عاج	(براہین ص ۵۵۶، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۶۳)
.....۱	ٹپچی ٹپچی: وقت مقررہ پر روپیہ لانے والا۔

.....۲	خیراتی	(حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۶)
.....۳	شیر علی	(تریاتق القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱)
.....۴	مٹھن لال	(تریاتق القلوب ص ۹۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۲)
.....۵	انگریزی فرشتہ	(تذکرہ ص ۵۶۱)
		(براہین احمدیہ ص ۴۸۱، خزائن ج ۱ ص ۵۷۲)

حضرات! ان کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے بے شمار ولا تعداد الہامات اور کشف ہیں۔ بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اصول اور ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ لگائیے کہ یہ الہامات کیسے ہیں۔ خواہشات و لذات دنیویہ کے متعلق ہے یا امور ضروریہ کے متعلق۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر بلکہ کل الہامات کھانے پینے نکاح اور آمد مال کے متعلق ہیں اور پہلے خاتم الحکم اور مدارج السالکین کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ ایسے الہامات شیطانی ہوتے ہیں تو مرزا قادیانی نبی کیسے بن گئے؟ مجدد اور مہدی کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان پر تو شیطانی تسلط نہیں ہو سکتا۔ خدا را امر آخرت میں غور و فکر سے کام لو۔ محض ضد اور تعصب کی بناء پر حق کو باطل اور باطل کو حق کہہ دینا عقل انسان کا تقاضا نہیں۔

”اللهم اهدنا الصراط المستقیم و اخر دعونا الحمد لله رب العالمین“

بسم الله الرحمن الرحيم!

### ضمیمہ

## قادیانیوں کی تبلیغ کے مقاصد

حضرات! ایک نہایت اہم چیز جس کو عوام پر منکشف کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی بڑی مداخلت کی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے اور مباہلے کئے۔ جس کی نظیر نہیں ملتی اور خود مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ عیسائی پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں۔ (بہت مبارک خیال ہے) اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور عظمت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ ”پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں آئے تو میں جھوٹا ہوں۔“ لیجئے حضرات نشانات کا تو بھاٹا اچھوٹ گیا۔ ان کو اب مرزائی مرزا قادیانی کی صداقت میں پیش نہیں کر سکتے۔ صرف علت غائی کو پیش کریں۔ ”پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو نہیں دیکھتی۔“ اُجی دنیا تو دیکھتی ہے اور وہ برا ہی ہوا۔ مگر تمہارے چیلے چائے ہی نہیں دیکھتے۔ وہ نشان نشان کرتے رہتے ہیں۔ ”اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی معبود کو کرنا چاہئے تھا۔“ یہ دونوں الگ الگ ہستیاں ہیں۔ مرزا قادیانی دونوں کیسے بن بیٹھے؟ اور لفظ معبود اور موعود علیحدگی پر دلیل نہیں ہے؟ اور تمہارا ”لامہدی الایسیٰ کہنا بے کار ہوا۔“ تو پھر سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ واہ جی کیسے مزے کی بات کہی، قرین انصاف یہی ہے۔ (اخبار بدر ج ۲ نمبر ۲۹ ص ۴، مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

”میرے آنے کے دو مقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ وہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں اور وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مفہوم میں چاہا ہے اور عیسائیوں کے لئے کسر صلیب ہو اور ان کا مصنوعی خدا (یسوع مسیح) نظر نہ آئے۔ دنیا اس کو بھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔“

(ملفوظات ج ۸ ص ۱۳۸، اخبار الحکم قادیان ج ۹ ص ۱۰ نمبر ۲۵ کا لم ۳، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۵ء)

”تمام دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو کر وحدت قومی ہو جائے گی۔“

(محقق چشمہ معرفت ص ۸۳، خزائن ج ۲۳ ص ۹۱)

”مسلمان اعلیٰ درجے کے متقی جو خدا کے نزدیک متقی ہوں، ہو جائیں گے۔“

”غیر معبود مسیح وغیرہ کی پوجا نہ رہے گی اور خدائے واحد کی عبادت ہوگی۔ وغیرہ“

(اخبار الحکم ج ۹ ص ۱۰ نمبر ۲۵ کالم ۴، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۵ء)

”میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۵)

اسی طرح اب بھی بہت سے سمجھدار اسی وسوسے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ مرزائی خصوصاً لاہوری پارٹی باہر جا کر بہت تبلیغ کرتی ہے۔ مولوی کیا کر رہے ہیں؟  
حضرات! یہ سب شیطانی پتھمہ اور جال ہے۔ اب دیکھئے میں بفضلہ تعالیٰ اس کو کیسے تار تار کیے دیتا ہوں۔

اول یہ سنئے: جو اعلانات مرزا قادیانی کے ہیں کہ سب مسلمان اعلیٰ تقویٰ کی سٹیج پر نظر آئیں گے اور عیسائی وغیرہ غیر مذاہب مٹ کر وحدت قومی ہو جائے گی۔ تو آنکھیں کھول کر دیکھئے کہ سب مسلمان ایسے ہی ہو گئے؟ سب کو چھوڑیئے، مرزا قادیانی کے مرید اور ماننے والوں پر ہی یہ رنگ چڑھا؟ صاحب ہوش تو یہی کہے گا کہ کچھ نظر تو نہیں آتا۔ جس طرح دوسرے لوگ بد عمل ہیں۔ ایسے ہی مرزائی ہیں۔ احکام شرح کی کوئی پابندی نہیں کرتے۔ نہ پکے نمازی ہیں، نہ سب روزے ہی رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے احکام کی حالت ہے۔ دوسری طرف رشوت وغیرہ جتنی بھی برائیاں ہیں برابر کے ملوث ہیں۔ غرض مرزائی وغیرہ مرزائی میں کوئی فرق نہیں۔ تقویٰ کی ہوا بھی نہیں لگی۔

نماز کی مصیبت کون مول لے، سوٹ بوٹ کون اتارے۔ جب کہ توبہ سے سب کچھ بن جاتا ہے۔ ”ایک شخص نے سوال کیا کہ وہ چھ ماہ تک تارک صلوٰۃ تھا۔ اب توبہ کر لی، ساری نمازیں پڑھوں تو فرمایا، نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ اب اس کا علاج توبہ ہی کافی ہے۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۶۸) حضرات جب توبہ ہی سے بقیہ نمازیں ٹل جاتی ہیں تو جب چاہا توبہ کر لی۔ ہر سال یا چھ ماہ بعد توبہ کر لی، دن میں پانچ مرتبہ کون بوٹ سوٹ اتارے۔ یاد رہے کہ توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ کہیں قرآن وحدیث اور کسی فقیہ امام کا قول نہیں۔ یہ اپنا ڈھکوسلہ ہے۔

”مفتی محمد صادق کو ایک دفعہ فرمایا کہ آپ کا جسم کمزور ہے۔ ان دنوں روزہ نہ رکھیں۔ اس کے عوض سردیوں میں رکھ لیں۔“ مفتی صاحب کی ڈائری بحوالہ عقائد مرزا از مولانا عبدالغفار صاحب، کمزوری کی صراحت نہیں ہے۔ (مؤلف)

وحدت قومی کی بجائے انتشار قومی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی اپنی حکومت تھی۔ جب یہ مقدس ہستی آئی تو دیکھئے سلطنت برطانیہ کس طرح چھا گئی۔ جس کو ختم کرنے آئے تھے وہ ترقی کر گئے۔ عرب ممالک، مصر، عراق، شام وغیرہ ادھر ہندوستان تمام عالم اسلام پر عیسائیت چھا گئی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے ان کے تشریف لے جاتے ہی پھر سے یہ ممالک آزاد ہوتے گئے اور اب تک تقریباً مطلع صاف ہے۔

یہ عیسائی تسلط کی ظاہری ترقی تھی۔ جس کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب و تہذیب کا چھا جانا امر لابدی تھا۔ جس کے نتیجہ میں آج عالم اسلام اپنے مذہب و تہذیب کو سلام کہہ کر اپنا وقار اور عظمت ضائع کر بیٹھا ہے۔

اب آپ ان کی مذہبی ترقی اور ترویج کا حال سنئے کہ عیسیٰ پرستی کا ستون کہاں تک ٹوٹا اور مرزا قادیانی کی صداقت کہاں تک اجاگر ہوئی۔ خود انہیں سے ہی سنئے:

”عیسائیت دن بدن پھیل رہی ہے۔“

(اخبار پیغام صلح ص ۳۵۰، بحوالہ پاکٹ بک، مارچ ۱۹۸۲ء)

دور کیوں جائیں۔ خود قادیان کے ضلع گورداسپور کی عیسائیوں کی آبادی دیکھئے۔

۱۸۹۱ء میں عیسائی آبادی ۲۴۰۰، ۱۹۰۱ء میں ۴۴۱

۱۹۱۱ء میں // // ۲۳۳۶۵، ۱۹۲۱ء میں ۳۲۸۳۸

۱۹۳۱ء میں // // ۴۳۲۳۳ (محمدیہ پاکٹ بک ص ۳۵۰)

مندرجہ بالا نقشہ بتلا رہا ہے کہ مرزا قادیانی کے اپنے مرکز میں عیسائی اٹھارہ گنا ترقی کر گئے۔ دوسرے اضلاع اور ممالک کا کیا اندازہ ہوگا؟ اب دوبارہ مرزا قادیانی کا اعلان پڑھیے۔

”اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ (یعنی عیسائیت کو ختم کر کے

وحدت قومی کا قیام) جو مسیح موعود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو

سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

(بدیع ص ۲۴ نمبر ۲۹، مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

حضرات! آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ یہی ناکہ۔

کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا

نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرزا قادیانی کی ناکامی پر گواہی دیتے ہیں اور ان

کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دراصل عاقبت انہی کی ہے۔

مزید سنئے: آج سے ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ آج پچاس لاکھ کے قریب ہے۔  
(پیغام صلح مورخہ ۶ مارچ ۱۹۲۸ء)

اب ۱۹۶۸ء میں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی؟

”۱۹۷۷ء میں عیسائیوں نے ۱۹ لاکھ ۸ ہزار نئے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بائبل کے شائع کئے۔“  
(اخبار پیغام صلح مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۲۸ء)

ناظرین دیکھتے چلے جائیں کہ عیسیٰ پرستی کاستون کس طرح گر رہا ہے۔ یا گزر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں مسیحیت کی اشاعت کے لئے بڑی بڑی انجمنیں سرگرمی اور مستعدی سے کام کر رہی ہیں۔ ان کی تعداد سات سو ہے اور یہ صرف انگلشین اور پروٹسٹنٹ سوسائٹیاں ہیں۔ رومن کیتھولک کی جمعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اول الذکر انجمنوں کو مالی امداد دی ان کی فہرست:

امریکہ	۹۷۳۶۰۸۳	لاکھ پونڈ
کینیڈا	۷۲۷۷۹۳	لاکھ پونڈ
برطانوی جماعتیں	۲۷۶۹۳۵۳	لاکھ پونڈ
ناروے، سویڈن، ہالینڈ، سوئٹزر لینڈ	۷۸۰۹۲۰	لاکھ پونڈ
جرمنی	۶۳۹۵	ہزار پونڈ
میزان	۱۳۱۱۳۸۰۳	کروڑ پونڈ

(اخبار پیغام صلح ۲۶ اکتوبر ۱۹۲۸ء بحوالہ مرزا قادیانی)

ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ہمارے ریفارمر اور حکمران یہ براگ سنا رہے ہیں کہ مذہب ہماری ترقی کا روڑا ہے۔ ہر طرف قدغنیں لگ رہی ہیں۔ مگر یہ مہذب ممالک کا وطیرہ تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو اپنی ترقی مذہبی ترویج میں سمجھتے ہیں۔ ہر طرف مشنریاں پھیلا رکھی ہیں۔ گرائیں پہنچ رہی ہیں۔ تفصیل کچھ مخفی نہیں ہے۔

یہ لاہوری مرزائیوں کا اخبار بتلا رہا ہے، یہ توڑا ہے مسیح قادیانی نے عیسیٰ پرستی کاستون۔

اوپر کا اعلان دوبارہ بغور پڑھئے۔ ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھا۔ سب کچھ ان کے گھر کا ہے۔

مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا تھا عینہ اس کا الٹ ظاہر ہو رہا ہے۔

مرزا قادیانی تو اپنے آپ کو خاتم النبیین ﷺ کا بروز کہتے ہیں۔ ان کی تو ہر بات پوری

ہوتی۔ مگر یہاں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ اپنی زبان سے معکوس نتیجہ سنایا جا رہا ہے۔ کچھ تو سمجھو۔

مرزائیوں کو بہت فخر ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو بہت شکستیں دیں اور تردید عیسائیت میں بہت سے نئے اور قیمتی اصول وضع فرمائے۔

خواجہ کمال الدین صاحب اپنی تصنیف مجدد کامل طبع بمبئی کے ص ۱۱۳ پر بڑے فخر سے تحریر فرماتے ہیں کہ عیسائیت کے خلاف جو دسواں اصول مرزا قادیانی نے ایجاد کیا وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیا ہے بلکہ اس نے اس مذہب (عیسائی) کا خاتمہ ہی کر دیا وہ یہ ہے:

”مذہب کلیسوی کی کوئی تعلیم کا ایک امر بھی ایسا نہیں جو قدیمی کفار کے مذاہب سے سرودہ نہ ہو۔“

اس اصول کو خواجہ صاحب نے بڑے فخر سے پیش کیا ہے۔ مگر شاید ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ مرزا قادیانی نے اس کے اسلام کے گرانے کے لئے بم کا گولہ رکھا ہوا ہے۔ بغور دیکھئے: مرزا قادیانی لکھتے ہیں ”ماسوا اس کے جس قدر اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ تعلیم دیک تعلیم کی کسی نہ کسی شاخ میں موجود ہے۔“ (پیغام صلح ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۵)

دراصل مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے اور یہ ساری تبلیغ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے:

”۱۸۵۷ء کے غدر میں جب کہ مسلمانوں کا ستارہ عروج ڈوب گیا۔ غیروں کی حکومت آگئی۔ مسلمان قوم پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ خدا کی پناہ۔ اس خاندان نے انگریزوں کی امداد میں پچاس گھوڑے مع ساز و سامان بہم پہنچائے اور دوسرے موقع پر مزید چودہ سوار بہم پہنچائے۔ یہ ان کی انگریزوں کے ساتھ خیر خواہی اور مسلمانوں کے ساتھ غداري ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ستاون میں جب بے تمیز اور مفسد لوگوں نے محسن سلطنت کے خلاف یوزش کی۔ (وہ علمائے ربانی اور اولیاء کرام جنہوں نے اپنا تن من و دھن سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر، وہ سب معاذ اللہ بے تمیز اور قادیان کے دہقان باتمیز)“ (شہادت القرآن ص ۹۲، ۹۳، خزائن ج ۶ ص ۳۸۸، ۳۹۲)

اپریل ۱۸۹۸ء میں ایک عیسائی پادری نے مطبع آرمی پریس گوجرانوالہ سے ایک کتاب ”امہات المؤمنین“ شائع کی۔ جس میں سید المرسلین ﷺ کی سخت توہین کی گئی تھی۔ جس کو سن کر کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے لاہور کی انجمن ”حمایت اسلام“ نے اس بارے میں گورنمنٹ کو میموریل روانہ کیا کہ ایسی تحریر کے متعلق مناسب کارروائی کرے۔ مگر مرزا قادیانی مع اپنی جماعت جسے اسلام اور بانی اسلام ﷺ سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے فرماتے ہیں کہ: ”میں مع اپنی جماعت کثیر اور مع دیگر معزز مسلمانوں (یہی معزز مسلمان ساری خرابی کا باعث ہیں، اللہ انہیں

ہدایت دے) کے اس میموریل کا سخت مخالف ہوں اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبروں نے محض شباب کاری سے یہ کاروائی کی۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۴۰، ۴۱)

اسی طرح پچھلے دنوں امریکہ کے ایک ہفتہ وار رسالے میں سید المرسلین ﷺ کی فرضی تصویر شائع ہوئی۔ جس پر سفارتخانہ پاکستان نے احتجاج کیا۔ مگر ظفر اللہ خاں کی وزارت خارجہ اس احتجاج پر اذ حد ناراض ہوئی کہ ایسے کام نہ کیا کرو۔

(روزنامہ امر دہلاہور، مورخہ ۱۹ جون ۱۹۵۲ء، بحوالہ مرزائیوں کی سیاسی چالیں ص ۲)

یہ ہے تعلق مختصر طور پر اسلام کے ساتھ۔ بخلاف اپنے متعلق ایسے موقعوں پر کیا تعلیم دی گئی ہے۔

”سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لئے ہر احمدی (مرزائی) کو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ وہ حضرت مسیح موعود (مرزاجی) اور سلسلہ کی ہتک ہے۔“

(اخبار الفضل ج ۲۳ ص ۵، نمبر ۴۳، مورخہ ۲۰ اگست ۱۹۳۵ء)

دیکھا حضرات! کیا یہی دین سے تعلق ہے کہ وہاں تحمل کی تلقین اور یہاں آخری قطرہ بہا دینے کی تلقین تو ظاہر ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے لئے جہاد حرام اور اپنے کرشن کے لئے آخری قطرہ بھی بہا دینا فرض ہے۔ اب سمجھ کرمت جہاد کے فتوے کا راز؟

”اپنے دینی اور روحانی پیشوا کی معمولی ہتک کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے امام ان کے خاندان کی خواتین جماعت کے معزز کارکنوں اور معزز خواتین کے خلاف اس درجہ شرمناک اور حیا سوز جھوٹے اور بتاؤٹی الزامات لگائے جائیں اور بار بار لگائے جائیں۔ لیکن کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس قسم کی شرارتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد حتیٰ کہ قتل و خون ریزی معمولی بات ہے۔“

(الفضل ج ۷ ص ۹۱، نمبر ۹۱، مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۳۰ء)

گزارش ہے کہ پھر یہ تلقین مسلمانوں کو کیوں کی جاتی ہے۔ ان کو ولد الحرام کنجریوں کی اولاد، جنگلی خنزیر کہہ لینا یونہی مضم ہو جائے گا؟ حالانکہ یہ روحانی پیشوا جن باتوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ یعنی خلیفہ محمود صاحب پر وہ الزامات زنا وغیرہ برحق ہیں۔ کہیں سے تاریخ محمودیت کتاب مل جائے تو سب حقیقت آپ لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ ۱۹۳۹ء کا الفضل بھی اس پر شاہد ہے۔ ذرا نکال کر دیکھ تو لیں۔

حضرات بات لمبی ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ جتنا چلے گا نجاست ہی نجاست نکلے گی۔ اصل بات کی طرف آئیے کہ مرزا قادیانی جو مباحثے عیسائیوں وغیرہ سے کرتے تھے ان کی غرض کیا تھی؟ اسلام کی حمایت تھی یا گورنمنٹ کی حمایت اور مسلمانوں کو دھوکہ۔ انہیں کی زبانی سنئے فرماتے ہیں کہ:

”اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرأت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بست سالہ میری خدمت ہے۔ (اوپر اپنی خدمات جو ۱۸۵۷ء وغیرہ کی تھی ان کا ذکر ہے) جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک جو کہ بیس برس کا زمانہ ہے۔ ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکورہ پر زور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں۔ (واقعی مرزا جی مخلص آدمی تھے مگر گورنمنٹ کے حق میں خدا کے حق اور مسلمان کے حق میں سب سے بڑے غدار) بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسے ہی پادریوں کے مقابلہ پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں اور میں اس بات کا اقرار ہوں کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشزیوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی۔ (یاد رہے پادریوں کو مرزا قادیانی نے بھی دجال کہا ہے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا اور انگریزوں وغیرہ کو یا جوج ماجوج کہا ہے اور آپ ان کی توصیف کر کے اپنی وفا کیشی کا ثبوت دیا جا رہا ہے) اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نبی ﷺ کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کئے کہ شخص (معاذ اللہ) ڈاکو تھا، زنا کار تھا اور صد ہا پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص بد نیتی سے (معاذ اللہ) اپنی لڑکی پر عاشق تھا اور بایں ہمہ وجود جھوٹا تھا۔ لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا نہ ہو۔ (حضرات چور پکڑا گیا یا نہیں؟ دوسروں کا تو خدشہ ہوا، اپنے دل میں تو کوئی اشتعال پیدا نہ ہوا) تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے (اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی حمایت اور غیرت میں نہیں) اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے۔ تاکہ سرِ برج الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بد امنی پیدا نہ ہو۔ (اصل بات یہ تھی کہ اپنے آقا انگریز کی خدمت اور مدد، اسلام کے ساتھ تمہیں کیا واسطہ؟) تب میں نے بمقابلہ



ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں کسی قدر بالمقابل سختی ہے۔ (یہ ڈرتے ڈرتے لکھ رہے ہیں تاکہ آقا ناراض نہ ہو جائے) کیونکہ میرے کانشش نے مجھے قطعی طور پر فتویٰ دیا کہ اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں۔ ان کے غیض و غضب کی آگ بجھانے کے لئے یہ طریق کافی ہوگا۔“ (ضمیمہ نمبر ۳ ملحقہ کتاب تریاق القلوب ص ۳۶۱، ۳۶۲، گورنمنٹ کے حضور درخواست ص ب، ج، خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۹، ۴۹۰)

پھر چند سطریں بعد اور وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ: ”سو مجھے پادریوں کے مقابلہ پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا ہے۔ (ورنہ کوئی حمایت اسلام نہیں ہے۔ اس غرض سے مباحثے نہیں کئے۔ لہذا اے گورنمنٹ تجھے میری نیت پر نفاق کا فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کہ میرا خیر خواہی کا بھی ڈھنڈورہ ہے اور میری پادریوں سے بھی جدال ہے) اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ کا بنادیا ہے۔ اول والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔“ (تریاق القلوب ص ۳۶۳، خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۱)

دیکھا حضرات! اس پاک سٹیٹ کو ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ لیکن آپ کو یقین نہیں آتا۔ اب تو سن لیا، لہذا حق و باطل کا امتیاز واضح ہو جانے پر جادہ حق پر چلنے کی کوشش کریں۔ واللہ الموفق!

### خاتمہ ..... بوجھو تو جانیں

۱..... جناب مرزا قادیانی (تریاق القلوب ضمیمہ نمبر ۳ مرقومہ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۹ء ص دال، خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۳) میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اب میں یقین کرتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے اور میری فراست یہ پیشین گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک میری جماعت ایک لاکھ تک پہنچ جائے گی۔“

۲..... پھر (رسالہ ضمیمہ جہاد مرقومہ ۷ جولائی ۱۹۰۰ء ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۲۸) میں لکھا کہ: ”میرے مرید تیس ہزار سے زیادہ ہیں۔“ چلو ٹھیک ہے کہ تقریباً ایک سال کے عرصہ میں ۲۰ ہزار بڑھ گئے۔

۳..... پھر (نزول المسح مرقومہ ۱۹۰۲ء ص ۱۳۱، خزائن ج ۱۸ ص ۵۰۹) میں لکھا ہے کہ: ”نہ

صرف ستر ہزار بلکہ اب تو جماعت ایک لاکھ کے قریب ہو گئی۔“ واہ سبحان اللہ! پیشین گوئی پوری ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ مگر اندھیر ہو گیا۔

.....۴ (تریاق القلوب مرقومہ ۲۵/ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۱۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۴۰۱) میں لکھ دیا کہ: ”اب یہ گروہ دس ہزار کے قریب ہو گیا۔“

جناب یہ ترقی معکوس سمجھ سے بالاتر ہے۔ نیز آپ کی پیشین گوئی بھی ناکام ہو رہی ہے۔ پھر نمبر ۳ کو دیکھئے کہ وہاں بھی ۱۹۰۲ء میں تعداد ستر ہزار بلکہ لاکھ تک پہنچائی گئی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ یہ تضاد بیانی پھیلا دی کے شایان شان نہیں ہے۔

اور سنئے: (تجلیات الہیہ مرقومہ ۱۵/ مارچ ۱۹۰۶ء ص ۵، خزائن ج ۲۰ ص ۳۹۷) میں لکھتے ہیں کہ: ”میرے ہاتھ پر چار لاکھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے توبہ کی۔“  
یہ محض سفید جھوٹ ہے۔ ۱۹۳۵ء کی مردم شماری کے مطابق مرزائی ۵۰ ہزار تک پہنچے ہیں۔ (نوبت مرزا ص ۲۵۱)

اب جناب ۲۵/ اکتوبر ۱۹۰۲ء سے ۱۵/ مارچ ۱۹۰۶ء تک کی مدت نکالنے اور یہ بھی واضح کیجئے۔ ان لاکھوں مریدوں کی اوسط فی دن اور فی گھنٹہ کیا ہے؟

دوسری بات سنئے: مرزا قادیانی نسیم دعوت میں فرماتے ہیں کہ: ”مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سو دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سرد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا یہ دونوں بیماریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ ”دوران سر اور کثرت پیشاب اسی زمانہ سے ہیں۔ جب میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۰)

تیسری بات جناب مرزا قادیانی (تذکرۃ الشہادتین ص ۳۳، خزائن ج ۲۰ ص ۳۶) میں لکھتے ہیں کہ: ”اب تک دو لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔“

پھر اس کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ: ”جس شخص کے ہاتھ سے اب تک دس لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۴۱، خزائن ج ۲۰ ص ۴۳)

حضرات ص ۳۴ سے ص ۴۱ تک لکھتے لکھتے ایک دو گھنٹہ لگ جاتے ہوں گے۔ (کیونکہ ہر روز دو دو جز لکھ لیا کرتے تھے) (حقیقت الوحی ص ۳۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۹) تو اتنے قلیل عرصہ میں آٹھ لاکھ نشان کیسے ہو گئے اور سنئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتے ہیں۔ پس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر ۱۹۰۲ء تک پورے ہو جائیں گے۔ میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلا دے اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے۔ جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور، اور کی رٹ کی بھی داد دیتے چلے جائیں) تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہ سمجھوں گا اور ان لعنتوں اور بہتانوں اور الزاموں کا اپنے تئیں مصداق سمجھوں گا۔“ (ضمیمہ تریاق القلوب نمبر ۵، خزائن ج ۱۵ ص ۵۰۱)

ناظرین! دیکھئے کس آہ و زاری کے ساتھ طلب نشان ہو رہا ہے اور وہاں دو گھنٹہ میں آٹھ لاکھ آ گئے۔

حضرات غور کیجئے کہ جس ہستی کو سو سو مرتبہ پیشاب آ رہا ہو۔ دن یا رات، تو ساڑھے تین منٹ بعد پیشاب، پھر سر در دے چین کئے ہوئے ہو۔ مراق کے سبب دماغی توازن درست نہ ہو۔ بے خوابی بھی ہو، تشنگ دل اور بندش نبض بھی طاری ہو اور ہر اسہال دم نہیں لینے دیتے اور حقیقت الوحی میں قونج کا بھی ذکر ہے۔ وہ نماز کیسے ادا کرتی ہوگی۔ کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ مریدوں سے بیعت کیسے لیتی ہوگی۔ خصوصاً جب کہ ہر روز دواڑھائی منٹ کی اوسط بیٹھی ہے۔ پھر جو اتنی تصانیف اس کی طرف منسوب ہیں۔ وہ کیسے تصنیف ہو گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کے پاس کھانا کھانے اور نماز پڑھنے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دو باتوں میں سے ایک ضرور جھوٹی ہے یا تو بیماریاں محض دھوکہ دہی اور مبالغہ آرائی ہے یا تصانیف صرف اس کے نام منسوب ہیں اور کرایہ پر لکھوائی گئی ہیں۔

خدا را انصاف کیجئے کہ مرزا قادیانی کی صداقت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔

هَذَا خَرَمًا رَدَّتْ

وَاللّٰهُ يَهْدِي السَّبِيلَ الرَّشَادَ

مراق، مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے

دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔“

(اخبار البدردیانیان ۷ جون ۱۹۰۶ء، بحوالہ نوبت مرزا ص ۲۳۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مکتبہ المدینہ لاہور، مسقط و عمان، عمان  
مکتبہ المدینہ لاہور، مسقط و عمان، عمان

# قادیانیت کی حقیقت

اور

خسوف و کسوف کی فیصلہ کن بحث

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود<sup>رح</sup>

## معجزہ خسوف و کسوف کی حقیقت

اور

### مرزا قادیانی کے ۴۵ سیاہ جھوٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

### قادیانیت کی حقیقت اور خسوف و کسوف کی فیصلہ کن بحث

”قال الله: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر (فصلت: ۳۷)“

﴿خدا کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔﴾

”وقال النبي ﷺ: ان الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا

يخسفان لموت احد ولا لحياته (البخاری ج ۱ ص ۱۴۲، باب صدقة في الكسوف)“

﴿بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کو گرہن لگنا (اللہ کی

قدرت کی نشانی ہے) یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔﴾

ايها الاخوة المسلمون! اس عالم رنگ و بو میں حق و صداقت کے ساتھ نبرد آزما

ہونے کے لئے بڑے بڑے شاطر، عیار اور فنکار آتے رہے۔ جنہوں نے خلق خدا کو نور ہدایت

سے روکنے اور برگشتہ کرنے کے لئے نہایت پر فریب چکر چلائے۔ قسم قسم اور رنگارنگ کے جتن

کئے۔ مگر ان میں مثیل دجال، سرخیل کذابین، سرتاج لحدین، قدوة المبطلین والمفلسین، امام

المفترین والکذابين، پیکر دجل و فریب، عکس عزازیل، خلف مسیلمہ و عسی جناب مرزا غلام احمد

قادیانی خاتم دائرہ ضلالت علیہ ماعلی اسلافہ من المبطلین والملاحدين الی یوم القرار کا مقام اور شان

نرالا اور نہایت امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ آجناب کی ساری سیرت اور تاریخ عجیب قسم کی رنگینوں

اور بوالعجبوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم و عمل ہمہ قسم کے تضاد و تناقض سے معمور و مرصع

ہے۔ آپ کی تقریر و تحریر مکمل طور پر کفر و فریب اور کذب و جہل سے لبریز ہے۔ آجناب صفت عکس

و مخالف کے ماہر اور مسلم امام ہیں۔ ایک مسلمہ حقیقت کی تکذیب و تردید اور ایک طے شدہ کذب

و باطل کو مظہر حقیقت کے طور پر پیش کر دینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آجناب پہلے ایک

نظریہ کو دلائل نقلیہ (قرآن و حدیث) اور عقلیہ سے ثابت کر کے دلائل کی دنیا میں تہلکہ

مچا دیں گے۔ مگر کچھ مدت کے بعد ان تمام دلائل کو بے وقعت قرار دے کر اس نظریہ کی سمت مخالف

کو دولت دلائل سے مالا مال کر کے اپنے پیرومرشدانہیں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیں گے۔ حتیٰ کہ لغت و محاورہ میں بھی نسخ و تبدیلی سے خجالت و ندامت محسوس نہ کریں گے۔ آنجناب کی پوری حیات ناپائیدار اسی قسم کے جوڑ توڑ اور ہیرا پھیری میں گزری۔ آپ نے قدم قدم پر اتنے دعوے اور اعلان کئے ہیں کہ انہیں خود بھی ان کا تضاد اور جان و مخالف پیش نظر نہ رہتا تھا۔ ایک ایک دعویٰ اور نظریہ کو چار چار پانچ پانچ طور پر پیش کرنا آپ کا عام وطیرہ اور دل پسند معمول تھا، جس کے نتیجہ میں آپ کی تحریرات اور کتب و رسائل کی حالت یہ ہو گئی کہ جو شخص جو بھی دعویٰ ثابت کرنا چاہے۔ وہ اس کے حق میں آپ کی متعدد تائیدات پیش کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے تو وہ اس کی تائید و حمایت میں بیسیوں حوالہ جات پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی یہ کہنے لگے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت ہرگز نہیں فرمایا۔ بلکہ وہ تو مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں تو یہ شخص بھی اپنی تائید میں درجنوں حوالہ جات کتب مرزا سے پیش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ لاہوری مرزائیوں کی کتاب ”فتح حق“ اور قادیانیوں کی ”غلبہ حق“ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس طرح دعویٰ مسیحیت اور دیگر دعوؤں کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ گویا کہ کتب مرزا امداری کی پٹاری ہیں۔ ان میں سے مرضی کی ہر چیز نکالی جاسکتی ہے۔

مرزا قادیانی کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ آپ ہر منصب و مقام کے متعلق دعویٰ کر دیتے تھے۔ مذاہب عالم میں آئندہ زمانہ میں جس کسی شخصیت کے ظہور و آمد کا تذکرہ سنتے، بس اسی وقت ہمہ قسم کی پرفریب اور لچر قسم کی تاویلات سے اپنی ذات کو اس ڈھانچے میں فٹ کرنے کی انتھک کوشش شروع کر دیتے۔ جیسے ہندوؤں میں اگر کسی کرشن کے آنے کی بات سن لی تو دعویٰ کر دیا کہ میں ہی وہ کرشن ہوں۔ جس کے تم منظر ہو۔ (تتر حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

اگر کسی طبقہ میں کسی خاص مہدی کے آنے کی خبر مذکور ہے تو فوراً دعویٰ داغ دیا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں۔ اگر بدھ مذہب میں کسی ہستی کے آنے کی خبر سنی تو فوراً کہہ دیا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ عیسائیوں میں آمد مسیح کا سنا تو وہی دعویٰ کر دیا۔ اگر اہل اسلام میں یہ سنا کہ ان کے عقیدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر مذکور ہے تو آنجناب نے بھی ایچ بیچ کر کے اس مقام پر براجمان ہونے کی تنگ و دو شروع کر دی۔ اگر سنا کہ اہل اسلام میں مجددین کے ظہوروں کا تصور موجود اور مسلم ہے تو فوراً مجددیت کا دعویٰ داغ دیا کہ میں بھی مجدد ہوں۔ غرضیکہ کہ آنجناب علیہ ما علیہ کسی بھی قدم پر پیچھے رہنا یا خاموش رہنا اپنی توہین اور کسر شان سمجھتے ہوئے فوراً مضطرب اور تلملا اٹھتے ہیں اور یہ بات بھی نہایت توجہ طلب ہے کہ آپ اس دعویٰ کا مصداق بننے کے لئے

نہایت جا بک دستی اور عیارانہ طریقے سے مضحکہ خیز تاویلات اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے درجنوں دعوؤں میں سے ایک مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے کہ احادیث نبویہ میں جس مہدی کے آنے کی اطلاع اور خبر ہے۔ اس کا مصداق میں ہی ہوں۔ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں آنجناب کا یہ نظریہ بھی ہے کہ مہدی اور مسیح موعود دونوں ایک ہی شخصیت ہے، دونہیں۔ جب کہ کتب احادیث میں دونوں کے لئے الگ الگ باب منعقد کئے گئے ہیں۔ مگر آنجناب کو اس نظریہ کی اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ آپ کے ولی نعمت اور سرپرست انگریز کو اس سے قبل ایک مہدی (مہدی سوڈانی) سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ جس نے انگریز کے مدت تک دانت کھٹے کئے تھے۔ لہذا وہ قوم دعویٰ مہدیت سے کچھ خائف اور لرز جکتھی۔ اس لئے ان کے اس خود کا شتہ پودے اور نمک حلال گماشتے نے مستقل طور پر اس دعویٰ سے احتراز و اجتناب ہی کیا۔ مگر اسے بالکل ترک کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ لہذا اس نے اس دعویٰ کو مسیحیت میں مدغم کر دیا۔ کیوں کہ ایک ضعیف الاسناد اور ناقابل حجت روایت میں الفاظ ”لا مہدی الا عیسیٰ“ بھی وارد ہوئے ہیں۔ لیکن جملہ برادران اسلام خوب یاد رکھیں کہ احادیث میں مہدی کی علامات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن مریم کی الگ، اور ادھر جناب مرزا قادیانی کسی بھی قسم کی علامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مثلاً مسیح ہیں تو وہ پیدا ہو کر نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ آ کر سلطنت کے مالک بن کر دین اسلام کو دنیا میں غالب کر دیں گے۔ پھر تمام خلق خدا صحیح عقائد اور صالح اعمال پر عدل و انصاف اور امن و سکون کی فضا میں زندگی گزاریں گے۔ سوائے اسلام کے کوئی بھی نظریہ اور مذہب باقی نہ رہے گا۔ نہ عیسائیوں کی صلیب پرستی نہ ہندوؤں کی مظاہر پرستی اور نہ ہی دیگر کوئی الحادی تحریک باقی رہے گی۔ یہ مسیح چالیس سال تک دنیا میں سکونت پذیر رہ کر طبعی وفات سے دوچار ہوں گے۔ مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور وہ روضہ رسول کے اندر مدفون ہوں گے۔

اسی طرح متعدد احادیث میں حضرت مسیح کے ذاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے حالات تفصیل سے مذکور ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔

امام مہدی علیہ السلام

اسی طرح احادیث میں امام مہدی کے حالات و علامات بھی بکثرت وارد ہیں۔ جن میں سے نمایاں درج ذیل ہیں۔

۱..... وہ حضرت حسنؑ کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔

۲..... ان کا نام محمد ہوگا۔

- .....۳ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔
- .....۴ وہ کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔
- .....۵ وہ سات یا نو سال تک زمین پر حکومت کریں گے۔
- .....۶ وہ زمین کو عدل و انصاف سے معمور فرما دیں گے۔
- .....۷ وہ مدینہ کے باشندے ہوں گے۔ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔
- .....۸ لوگ ان کو بیعت کے لئے تلاش کرتے ہوں گے۔ حتیٰ کہ رکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔
- .....۹ وہ بیعت کے خود خواہش مند نہ ہوں گے۔ بلکہ لوگ ان کو مجبور کر کے اپنا پیشوا بنائیں گے۔
- .....۱۰ وہ اپنے اخلاق و عادات میں سید المرسلین علیہم السلام کے مشابہ ہوں گے۔ یعنی مکمل طور پر ظاہر اور باطناً متبع سنت ہوں گے۔ وغیر ذالک!
- مندرجہ بالا تمام امور صحاح ستہ کی ایک مشہور کتاب ابوداؤد سے ماخوذ ہیں۔

(ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۰، ۱۳۱، کتاب المہدی)

اس کے برعکس جناب مثیل دجال کے حالات و علامات ان کے ساتھ رتی بھر بھی نہیں ملتے۔ ان میں ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ نہ خاندان، نہ نام و ولدیت، نہ حکومت و سلطنت۔ گویا نہ نام ملتا ہے نہ کام۔ سب کچھ علیحدہ بلکہ الٹ ہے۔

پھر ادھر بد قسمتی سے مرزا قادیانی مہدیت کے ساتھ مجددیت، مسیحیت، نبوت، کرشن وغیرہ کے دعوے بھی کر بیٹھے۔ جب کہ وہ مہدی برحق کوئی ایک اعلان اور دعویٰ بھی نہ کریں گے۔ نہ وہ کوئی پارٹی بنائیں گے۔ مگر یہ صاحب ہر طرف ٹانگیں پھیلائے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے زمانہ میں اہل اسلام کی کوئی اور قیادت باقی نہ رہے گی۔ جب کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں متعدد متفرق اور مختلف قیادتیں موجود ہیں۔

مرزا قادیانی کے حالات و کوائف

آپ کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضیٰ خاندان مغل برلاس، وطن قادیان ضلع گورداسپور، خلق و عادات سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس، شکل و شبہات رنگ و ڈھنگ، مذکورہ بالا بیان سے بالکل غیر متعلق اور غیر مناسب، خاندانی حالات دین و مذہب، اخلاق و شرافت، قومی غیرت و ہمدردی سے بالکل دور اور معزلی۔ آنجناب کا بچپن، جوانی، قبل از دعاوی اور بعد ازاں



سب کچھ اسلام اور اہل اسلام سے بالکل الگ تھلگ بلکہ مخالف اور متضاد۔ مرزا قادیانی کی ذاتی سیرت و اخلاق کسی نمایاں پوزیشن بلکہ عام خطوط سے بھی ڈاؤن۔ جیسے بچپن میں آپ چڑی مار مشہور تھے۔ عام اوباش لڑکوں کے ساتھ مشغول و مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے چینی کی بجائے نمک ہی جیب میں بھر کر لے گئے۔ راستہ میں جب ایک مٹھی منہ میں ڈالی تو دم نکلنے کو ہو گیا۔ ایک دفعہ ماں سے کھانا مانگا، ماں نے کہا گڑ ہے کھالے، نہ مانا کہا اچار سے کھالے، نہ مانا۔ آخر تنگ آ کر کہہ دیا کہ جا رکھ سے کھالے تو رکھ ہی روٹی پر رکھ کر کھانے لگے۔ ایک دفعہ ذبح کرتے ہوئے چھری سے بجائے جانور کو کاٹنے کے اپنی ہی انگلی کاٹ لی۔ زیرک، عقلمند، حساس اور باتمیز اتنے تھے کہ ایک دفعہ پہننے کو گرگابی ملی تو دائیں بائیں کی تمیز نہ ہو سکی۔ اہلیہ نے نشان بھی لگا کر دی مگر پھر بھی بات نہ بنی۔ نیچے کاٹن اوپر کے کاج میں اور اوپر کا نیچے کے کاج میں ڈال لیتے۔ لائی لگ ایسے کہ ایک دفعہ ان کا تایا زاد بھائی امام الدین ان کے ساتھ دادا کی پنشن کی رقم سات صد روپیہ لینے چلا گیا تو راستہ ہی میں اس کو ورغلا کر ادھر ادھر پھراتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ خطیر رقم چند دنوں میں اڑادی تو جناب والا مارے شرم کے گھر کا رخ نہ کر سکے۔ وہیں سیالکوٹ ملازمت کے لئے پہنچے جہاں انہیں پندرہ روپیہ ماہوار کی ملازمت مل گئی جو چار سال تک چلتی رہی۔ اسی دوران ترقی کا سودا دماغ میں سایا تو مخاری کا امتحان دے دیا۔ جس میں یہ صاحب فیل ہو گئے۔ جب کہ ان کا ایک ہندو ساتھی کامیاب ہو گیا۔ یہ تھی ان کی ذاتی اور ذہنی قابلیت۔

العرض اس قسم کے حالات و واقعات قادیانیوں کی ذاتی تصانیف میں کافی مذکور ہیں۔ خاص کر سیرت المہدی نامی کتاب جو اسی کے فرزند مرزا بشیر احمد نے لکھی ہے۔

ازاں بعد کچھ عربی فارسی تعلیم بھی حاصل کی مگر وہی نیم ملا خطرہ ایمان والی بات بنی۔ اس کے بعد آجیناب اپنی شہرت اور ذریعہ معاش کے لئے میدان مباحثہ و مناظرہ میں قدم رکھنے لگے۔ ہر قسم کے چیلنج اور دعوے شروع کر دیئے۔ جب کچھ شہرت ہو گئی تو پھر الہام و مجددیت کا خط سایا، جو نمبر وار چلتا چلتا (نہایت ہی شاطرانہ اور عیارانہ طور پر) دعویٰ نبوت تک جا پہنچا۔ حتیٰ کہ کرشن اوتارا اور بے سنگھ بہادر، رد گو پال تک نبوت جا پہنچی۔ حتیٰ کہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بھی بن گئے۔ ایک عجیب چکر

مرزا قادیانی نے قبل از دعویٰ الہام و مجددیت تائید اسلام میں ایک کتاب براہین احمدیہ کے عنوان سے تحریر کی۔ جس میں کچھ اپنے اور کچھ مانگے مانگے کے مضامین درج کر کے خوب مال اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ منجملہ اس کے مباحث میں ایک موضوع دجی

والہام اور کشف کی حقانیت تھا۔ جس پر مرزا قادیانی نے عقلی دلائل پیش کر کے اس کے بعد کچھ اپنے کشف والہامات بھی ذکر کئے۔ مگر اس غرض سے کہ یہ موضوع موید اور مدلل ہو۔ دین اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ (ملاحظہ فرمائیں کتاب مذکورہ کا ص ۴۶۵ تا ۴۶۷، خزائن ج ۱ ص ۵۵۵ تا ۵۵۷) چنانچہ ایک جگہ لکھا کہ: ”اور نیز ان کشف والہامات کے لکھنے کا یہ بھی ایک باعث ہے کہ اس سے مومنوں کی قوت ایمان بڑھے، ان کے دلوں کو ثبوت اور تسلی حاصل ہو اور وہ اس حقیقت حقہ کو بہ یقین کامل سمجھ لیں کہ صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے۔ (نہ کہ مرزائیت، ناقل) وغیرہ اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جو اعلیٰ وافضل سب نبیوں سے اور اتم اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جن کی پیروی سے خدا ملتا ہے۔“ (براہین ص ۴۶۷، خزائن ج ۱ ص ۵۵۷)

مندرجہ بالا اقتباس بالکل صحیح اور ہمارے موافق ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا کوئی دعویٰ اور کوئی منصب (مجددیت، مہدیت یا مسیحیت) ظاہر نہیں کیا گیا۔ معیار ایمان و نجات صرف وہی امور بتلائے گئے ہیں جو تمام امت کے ہاں مسلم ہیں۔ ناظرین اس پہلو کو خوب ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد جب دل و دماغ پر ابلیس نے چھائی پڑیں۔ خدائے یلاش اور صاعقہ وغیرہ کے جعلی اور خود ساختہ ہرکارے (شیخی، مٹھن لال، خیراتی، شیرعلی وغیرہ) ملکہ برطانیہ کی برکات سے آنے جانے لگے تو آنجناب نے ہر چیز کو پلٹ دیا۔ یہ اسلام کا خادم اور کارکن بننے والا اب اپنے عیش و آرام کے لئے سلطنت انگلشیہ کا غلام بے دام بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہر آن ہر لحظہ نئے سے نئے گریڈ میں ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آج اگر صرف ملہم توکل ساتھ محدث بھی بننے کی فکر ہے۔ آج اگر محدث ہے توکل مقام مجددیت کے لئے پرتو لئے لگتا ہے۔ پھر مقام مہدیت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے مثیل مسیح، پھر اصلی مسیح، پھر ظل نبی اس کے بعد اصلی نبوت تک تگ و دو کرتے رہے۔ نیز اس افراتفری اور ماردھاڑ میں ہر چیز روندتے چلے گئے۔ نہ قرآن مجید کا خیال، نہ حدیث رسول ﷺ، نہ اجماع امت اور آئمہ دین کا، بلکہ خود ہی سب کچھ بن بیٹھے۔ حتیٰ کہ علوم آلیہ، صرف و نحو اور لغت میں بھی داخل اندازی سے نہ رہ سکے۔ جیسے اگر آج نبوت کا ایک مفہوم ہے توکل اس کو دوسرے انداز اور مفہوم میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے آئمہ لغت کے ہاں اگر لفظ توفی کا مفہوم اخذ الشی و افیاء ہے تو ان دعاوی کے رش میں اس کا معنی صرف موت ہی قابل تسلیم قرار دیا گیا۔ گویا کہ آنجناب کے دست ستم سے نہ کوئی نظریہ محفوظ رہا، نہ ضابطہ علم و فن۔ ہر چیز میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اب مندرجہ بالا سطور کی روشنی میں زیر بحث موضوع کی طرف آئیے کہ براہین

میں جو الہامات اور کشف بیان کئے گئے تھے وہ صرف دین اسلام کی تائید و تصدیق کے لئے تھے۔ ان میں کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ مگر جب آپ انقلابات و تغیرات کی نذر ہو گئے تو انہی الہامات کو اپنے دعویٰ کی سند اور دلیل بنانے لگے کہ میری براہین میں یہ الہام درج ہے، وہ درج ہے۔ حالانکہ وہ تو صرف دین حق کے مسئلہ وحی والہام کی تائید و تصدیق کے لئے تھا۔ نہ کہ مرزا کے کسی دعویٰ و منصب کی تائید میں۔ بتلایئے کہ کتنا عظیم دجل اور فراڈ ہے۔ گویا اب چیونٹی کو پر لگ گئے۔ یہ ریٹکنے والی معمولی سی چیز ہر طرف بھن بھنائی ہوئی اڑ رہی ہے یا للعجب۔ الغرض مرزا قادیانی کی تمام تاریخ اسی قسم کے ہیرا پھیری اور دجل و فریب سے معمور و لبریز ہے۔ کسی موقعہ اور دعویٰ پر صاف گوئی اور معقولیت کا شبہ نظر آنا محال اور ناممکن ہے۔

### دعویٰ مہدیت

دعویٰ کی اس چکر بازی میں ایک مقام پر آپ نے مہدویت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر حسب عادت اس کی تصدیق و تائید کے لئے قرآن و حدیث سے کچھ دلائل اور سہارے تلاش کرنے نکلے تو کہیں سے کوئی تائید نہ مل سکی۔ آخر پھرتے پھرتے سنن دارقطنی، جو ایک چوتھے درجے کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے اپنے زعم میں ایک سہارا نظر آیا تو اس کی ٹوک پلک درست کرنے کے درپے ہوئے۔ وہ روایت درج ذیل ہے:

”حٰثِنَا ابُو سَعِيدِ الْاِصْطَخَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَعِيشَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بَكِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ اِنْ لَمْ يَهْدِنَا اَيْتَيْنِ لَمْ تَكُنَا مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُنَا مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ (سنن الدار قطنی مع تعليق المغنی ص ۶۵ ج ۲، باب صفة الصلوة الخسوف والكسوف، مطبعة دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)“

”قال في التعليق: قوله عمر و بن شمر عن جابر كلاهما ضعيفان لا يحتج بهما“ امام كبير علی بن عمر دارقطنی مصنف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے ابوسعید نے بیان کیا۔ ان کو محمد بن عبد اللہ نے، ان سے عبید اللہ بن یعیش نے، ان سے یونس بن بکر نے، ان سے عمرو بن شمر نے، ان سے جابر نے بیان کیا کہ محمد بن علی (خدا جانے کون ہے) کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہیں۔ وہ دونوں نشانیاں آسمان و زمین کی آفرینش سے آج تک ظہور پذیر نہیں ہوئیں (وہ یہ کہ) چاند رمضان کی یکم کو خسوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندرہ

تاریخ کو) پھر سن لو کہ یہ دونوں نشانیاں آسمان وزمین کی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی واقع نہیں ہوئیں۔

جب آنجناب کو یہ روایت نظر آگئی تو پھر کیا تھا، آپ کی قوت متخیلہ متحرک ہو گئی۔ فن و جل و فریب اور صنعت تاویلات باطلہ اور تسویلات ابلیسی کا خوب مظاہرہ کیا۔ اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ حدیث صحیح ہے۔ آسمان وزمین نے میری صداقت کی گواہی دے دی۔ فلاں فلاں کتب و رسائل میں اس پیش گوئی کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ مراد ہے، وہ مراد ہے۔ الغرض خوب ہڑبونگ مچائی۔ پھر تقریباً اپنی ہر کتاب و رسالہ اور اشتہارات میں اس کسوف و خسوف کو تاویلات باطلہ سے مزین کر کے خوب پیلٹی کی گئی۔ مگر علمائے حق نے پوری دیانتداری اور خیر خواہی سے مرزا قادیانی کی ہر تاویل تسویل کا نہایت مسکت اور شافی جواب دیا۔ جس کے بعد کسی ہوشمند انسان کے لئے رتی بھر گنجائش نہیں رہ جاتی۔ مگر ابلیس اور اس کے نمائندے قیامت تک اپنی ہار ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی دیسیہ کاریوں میں مسلسل مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی الی یوم یبعثون والاٹھیکہ مکمل کرنا ہے۔ لہذا یہ واقعہ کسوف جو ۱۸۹۴ء میں وقوع پذیر ہوا تھا، اس کو پھر ۱۹۹۴ء میں یعنی سو سال پورا ہونے پر امت قادیانیہ پورے زور و شور سے کتب و رسائل میں پیش کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ انگریز کے خود کاشتہ پودے اسی کے رسم و رواج کو اپنا کر اپنے کفر و ضلالت پر مہر تصدیق لگا رہے ہیں۔ ورنہ سلسلہ ہدایت و رشد میں ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ ایک معجزہ کی صد سالہ یا پچاس سالہ یادگار یا جوہلی وغیرہ منائی جائے۔ مثلاً فتح بدر جو کہ مسلم طور پر ایک کائناتی حقیقت ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی یاد نہیں منائی جاتی۔ فتح مکہ اور دیگر فتوحات کی کوئی یادگار منانے کا کوئی اسوۂ حسنہ یا ارشاد رسالت موجود نہیں اور نہ ہی عہد صحابہؓ سے آج تک امت مرحومہ نے ان کی جوہلی وغیرہ منائی ہے۔ بلکہ خود یہ قادیانی ٹولہ بھی ایسی کوئی یادگار نہیں مناتا۔ حالانکہ ان کو برحق بھی سمجھتا ہے۔ (اور ادھر یہ خسوف و کسوف مرزا تو ہے بھی متنازعہ) کوئی قادیانی بتلائے کہ کیا کبھی سید المرسلین ﷺ کے کسی معجزہ کی یادگار منائی گئی ہے؟ کیا شق القمر کی کبھی یادگار منائی گئی ہے؟ واقعہ معراج کی یاد دیگر عظیم الشان معجزات کی جن کی تعداد خود مرزا قادیانی بھی تین ہزار تک تسلیم کرتا ہے تو جب آپ کے کسی بھی معجزہ کی یادگار منانے کا دستور نہیں۔ نہ اہل اسلام میں نہ خود قادیانیوں میں۔ تو مرزا قادیانی جو آپ کا بروز غل ہونے کا مدعی ہے۔ اس کے متعلقہ کسی واقعہ کی یاد منانے کا کیا جوڑ ہے؟ خاص کر جب کہ وہ ہو بھی غیر مسلم اور متنازعہ، لہذا قادیانیوں کا یہ واویلا خلاف حق ہے۔

ماہناموں کے خصوصی نمبر اور مستقل رسالوں میں اتنا داویلا کرنا محض شور شرابہ ہے اور پھر دیکھئے، میرے سامنے ان کے ایک ماہنامہ مصباح کا خصوصی نمبر موجود ہے۔ جس میں مضامین تھوڑے مگر قادیانی خواتین کی مبارک بادوں سے بیسیوں صفحات سیاہ کئے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی باطل پرستوں خاص کر عیسائیوں اور انگریزوں کا فارمولا ہے کہ جھوٹ کو اتنا اچھا لو اور اتنا بیان کرو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ جب کہ خوشبو (صداقت) خود ہی مہک اٹھتی ہے، اسے مہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

الغرض قادیانی اور اس کی ذریعت باطلہ کا یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ معمولی سی بات کو اتنا اچھا لیتے ہیں کہ گویا وہ کوئی نص قرآنی ہے۔ خود قادیانی کی کتب و رسائل دیکھئے ایک بات کو اتنی کثرت سے اور مختلف تاویلات کے روپ میں ذکر کرے گا کہ کوئی کتاب یا رسالہ اس سے خالی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ الغرض اہل حق نے مرزا کے مقابلہ میں اسی وقت مرزا قادیانی کی ہر باطل دلیل اور تاویل کے پرچے اڑا دیئے۔ مستقل کتب تحریر ہوئیں۔ مضامین بھی شائع ہوں گے۔ منجملہ ان تحریرات کے ایک کتاب ”دوسری شہادت آسمانی“ ہے جو حضرت علامہ عارف کامل مولانا سید محمد علی مونگیریؒ کی تصنیف ہے۔ جس میں حضرت علامہؒ نے نہایت بسط و تفصیل سے ہر مسئلہ پر بحث فرما کر قیامت تک کے لئے قادیانیوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ نہایت لا جواب کتاب ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی خدمت میں اس کی جدید طباعت کے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں۔ (الحمد للہ! احتساب قادیانیت پر شائع کر دی ہے۔ فقیر مرتب) تاکہ ہر مبلغ اور عالم بلکہ عوام الناس تک یہ کتاب لا جواب پہنچ جائے۔ فی الحال بندہ حقیر اپنی استعداد کے مطابق مختصر اس مسئلہ کی حقیقت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اللہ اسے اہل ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث اور گمراہوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنادے۔ آمین ثم آمین!

روایت دار قطنی، ترجمہ اور مفہوم

ناظرین کرام! مندرجہ بالا دار قطنی کی روایت بمع ترجمہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے:

”عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال ان لمہدینا ایتین لم تکنوا منذ خلق السموات والارض . تنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منه . ولم تکنوا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطنی مع تعلیق المغنی ص ۶۵ ج ۲، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور)“

اس روایت کے راوی صاحب کتاب سے لے کے محمد بن علی تک سات ہیں۔ کما مرافقا

### بحث روایت (بفرض صحت)

قادیانی کی پیش کردہ اس روایت (نہ کہ حدیث) پر کئی طرح سے بحث کی ضرورت ہے۔

۱..... اول تو یہ ایک روایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث فرمان رسول کو کہتے ہیں۔ جب کہ یہ آنحضرت ﷺ تو کجا کسی صحابی تک بھی نہیں پہنچتی۔

۲..... اس کے راوی ۵، ۶ کے متعلق خود اسی کتاب میں صاحب تعلیق نے درج کیا ہے کہ یہ دونوں راوی عمرو بن شمر اور جابر ضعیف ہیں۔ ان سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم جن کی جلالت قدر پر خود مرزا قادیانی بھی گواہ ہے۔ وہ اس جابر کو نہایت کذاب کہتے ہیں۔ نیز یہ سند معتن بھی جو کہ بوجہ امکان تالیس قابل احتجاج نہیں ہوتی۔

۳..... اس روایت کے آخری راوی محمد بن علی معلوم نہیں کہ کون ہیں۔ آیا امام باقر ہیں یا دیگر کوئی شخصیت؟ لہذا یہ سند محدثین مجددین امت کے ہاں غیر معتبر ہوئی۔ بالفرض اگر محمد بن علی وہی امام زین العابدین کے فرزند امام باقر ہی ہوں پھر بھی یہ سند مرفوع متصل نہیں بلکہ منقطع ہے جو کہ عند المحدثین والمجددین غیر معتبر ہے۔ لہذا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہ ہوگا۔

۴..... یہ روایت اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی صحیح احادیث کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث (بخاری ج ۱ ص ۱۴۲، باب صدقۃ فی الکسوف) و (مسلم ج ۱ ص ۲۹۵، کتاب الکسوف) میں یوں مذکور ہے: ”ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا ینخسفان لموت احد ولا لحياته الخ او كما قال“ ﴿یعنی یہ سورج اور چاند قدرت الہی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کی موت یا زندگی پر خسوف پذیر نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کو منکسف کر کے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا اور متنبہ کرتا ہے۔﴾

یعنی اے میرے بندو دیکھو، یہ سورج اور چاند اتنے عظیم جسامت کے مالک ہیں۔ میں قادر قیوم خدا ان کے نور اور کمالات کے سلب کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تم مٹھی بھر خاک ہو، تمہاری کیا وقعت ہے۔ لہذا میری نافرمانی اور عداوت سے باز آؤ۔ اس کا خیال بھی نہ کرنا، ورنہ پھر خیر نہیں ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جس میں خسوف و کسوف کی غرض و غایت بزبان اصدق الخلق بیان فرمائی گئی ہے۔ لہذا یہ روایت مرزا اصولی طور پر اس کے خلاف ہونے کی بناء پر قابل حجت نہ ہوگی۔ پھر مرزے کی بات یہ ہے کہ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اور مرزے کی، کی کرائی ساری چالاکیوں پر پانی پھیرنے کے لئے امام دارقطنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب کے

آخر میں اسی صحیح حدیث رسول ﷺ کو درج فرمایا ہے کہ یہ تو ایک غیر معتبر روایت ہے۔ حدیث رسول نہیں۔ اصل صحیح فرمان پیغمبر یہ ہے جو اس غیر معتبر روایت کے مضمون کے خلاف اور قابل اعتبار و حجت ہے۔ یہ محدثین کا اکثر اصول ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا اپنے عندیہ کے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا دریں صورت جناب مرزا قادیانی جو کہ امام صاحب کو بہت سراہتے اور ہدیہ عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی امام دارقطنی نے مرزا کی کھل کر تکذیب فرمائی ہے۔ فاعتبروا! یا اولی الالباب!

۵..... آنجنابی مرزا قادیانی کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ کبھی اپنی مخالف حدیث کو اس لئے بھی ناقابل قبول قرار دے لیتا ہے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو اسے بخاری کیوں نہ ذکر کرتے۔ جیسے احادیث مہدی اور بعض احادیث نزول مسیح۔ (ازالہ اوہام وغیرہ) مگر جب اپنی باری آتی ہے تو دور دراز کی روایت کو بھی درجہ اوّل کی مستند اور معتبر قرار دے لیتا ہے اور خود حکم بننے کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ضابطہ سراسر خلاف عقل ہے تو جب اصول حدیث کے رو سے یہ روایت سنداً و متناً غیر معتبر قرار پائی تو اس کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا کون سی دیانتداری ہے؟ آخر یہ آئمہ حدیث بھی نہایت محترم و معزز حضرات تھے۔ ان میں سے کئی مسلمہ مجدد بھی ہیں تو ان کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرنا بقول مرزا قادیانی فحش و کفر نہیں تو اور کیا ہے؟

۶..... اگر یہ روایت مہدی کے لئے تسلیم کر بھی لی جائے تو بھی مرزا قادیانی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ یہ صرف مہدی کے لئے نشان ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر مرزا قادیانی تو مسیح موعود ہونے کے بھی مدعی ہیں۔ اس کے بعد نبوت اور رسالت کے بھی مدعی ہیں۔ لہذا یہ ان کو مفید نہیں۔ کہاں مہدی اور کہاں کرشن؟

مندرجہ بالا اصولی اور اجمالی تحقیق کے بعد اب اس روایت کے مندرجات نمبر وار اور تفصیل سے سماعت فرمائے۔ اس روایت کے کل پانچ جملے ہیں۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تشریح اور مفہوم کی تفتیح ملاحظہ فرمائیں:

۱..... ”ان لمہدینا ایتین“ ترجمہ: بے شک ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہوں گی۔

اس جملہ میں مہدی کی دو نشانیاں کا ذکر ہے۔ پھر مہدی بھی ایسا کہ جس کے دعویٰ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ اس کی پہچان ان دو نشانوں سے ہوگی نہ کہ دعویٰ سے۔ ازاں بعد وہ صرف مہدی ہوگا۔ نہ مثیل مسیح ہوگا اور نہ مسیح موعود اور نہ ظلی و بروزی یا مطلق نبی و رسول۔ جس

طرح مرزا قادیانی ہر مقام کی طرف بے شکے ہی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ تو کرشن، بے سنگھ اور دودرگوپال بھی بنتے نظر آتے ہیں۔ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام وغیرہ تمام انبیاء کا اوتار بھی بنتے پھرتے ہیں۔ جب کہ روایت میں مذکور مہدی مطلق مہدی ہوگا۔ وہ مجنون مرکب ہرگز نہ ہوگا۔ دریں صورت جناب قادیانی پہلے نمبر ہی سے فیل ہو جاتے ہیں۔ باقی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لفظ اس جملہ میں آئین کا ہے جو کہ آیت کا تثنیہ ہے اور آیت ایسی علامت اور نشانی کو کہتے ہیں کہ جو کسی پوشیدہ شے کو ایسے طور پر لازم ہو کہ اسی نشانی کے ادراک سے خود اس چیز کا ادراک ہو جائے۔ وہ فی حد ذاتہ معلوم نہ ہو سکتی تھی۔ (دیکھئے مفردات امام راغب ص ۳۲)

جب آیت کے یہ معنی ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس روایت میں مہدی کی دو ایسی نشانیں کا ذکر ہے کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا فوراً یقین ہو جائے گا کہ امام مہدی موجود ہیں۔ اس کے بعد نہ دعویٰ مہدیت کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوسری شرط کی۔ وہ خود ہی ایک خاص موقعہ پر پہچان لئے جائیں گے۔ ادھر جناب مرزا قادیانی میں یہ بات نہیں پوئی گئی۔ بلکہ حدیث میں مذکور دیگر علامات سے بھی یہ صاحب یکسر خالی اور محروم ہیں۔ مہدی والا نہ نام، نہ ولدیت، نہ خاندان، نہ کام۔ غرضیکہ مرزا قادیانی ہر نمبر میں فیل ہو گئے۔

### ایک مزید شبہ اور اس کا جواب

قادیانی اور اس کی ذریت ایک حدیث یہ پیش کرتی ہے: ”لا المہدی الا عیسیٰ (ابن ماجہ ص ۳۰۲)“ مہدی تو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ الگ کوئی مہدی نہیں لہذا مہدویت کے ساتھ مسیحیت کا دعویٰ بھی اس روایت دار قطنی کے خلاف نہ ہوگا۔

### الجواب

جواب یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث ہی ضعیف اور منکر ہے۔ کیونکہ از روئے احادیث کثیرہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ دونوں کے لئے تمام کتب حدیث میں محدثین نے الگ الگ باب منعقد فرمائے ہیں۔ خود اسی کتاب میں مہدی کے لئے الگ باب اور مسیح علیہ السلام کے لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی علامات الگ الگ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اس خلط ملط کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی بناء پر امت مسلمہ ابتداء ہی سے دو ہستیاں الگ الگ تسلیم کرتی آئی ہے۔ پھر یہ صرف ایک ہی حدیث ہے وہ بھی منکر اور ضعیف جیسا کہ خود اسی صفحہ کے حاشیہ ۳ پر مفصل باحوالہ بحث کی گئی ہے کہ اس میں محمد بن خالد راوی غیر معتبر ہے۔ امام ذہبیؒ اس روایت کو منکر کہتے ہیں۔ برخلاف اس



کے مسیح اور مہدی کے علیحدہ ہونے کی احادیث بے شمار اور ہر حدیث کی کتاب میں مذکور ہیں۔ بصورت صحت روایت اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی کامل صرف عیسیٰ ہیں۔ گویا مطلق مہدی کی نفی نہیں۔ بلکہ نفی کمال کا ذکر ہے۔ جیسے ”لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی“ تو کیا ذوالفقار کے سوا اور کوئی تلوار نہیں ہے۔ علیؑ کے سوا کوئی بھی جوان اور بہادر نہیں ہے؟ تو جیسے یہاں ظاہر مفہوم مراد نہیں ویسے ہی حدیث ابن ماجہ میں ظاہری مفہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے: ”لا احمد الا عیسیٰ ولا عیسیٰ الا احمد“ تو کیا یہاں بھی دونوں کو ایک ہی تسلیم کر لو گے۔ بتاؤ عیسیٰ کی نفی کرو گے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض ایسی تاویلات اور سہاروں سے قادیانیوں کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالا تفصیلات سے آپ نے معلوم کر لیا کہ وجود مہدی کے وقت یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جن سے ان کی شناخت ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ پہلے ایک شخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر لوگ اس سے نشان طلب کریں گے تو وہ کچھ مدت تک اس کے لئے دعاء کرتا رہے گا اور پھر یہ نشان ظہور پذیر ہوں گے۔ روایت بالا میں ان امور کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر چونکہ بظاہر روایت قادیانی کی تائید نہ کرتی تھی لہذا مختلف حیلے بہانے اور تاویلات باطلہ سے فتنک کی کوشش کرتے ہوئے ایک مربی سلسلہ قادیانیہ یوں نتائج اخذ کرتے ہیں کہ: ”اب آپ اس حدیث (روایت) کو دوبارہ غور سے پڑھیں۔ (یعنی قادیانی عینک لگا کر۔ ناقل) تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بہت سی پیش گوئیاں جمع ہیں۔“

۱..... رسول کریم ﷺ کی پیش گوئی (بالکل غلط، روایت میں آپ کا اسم گرامی سرے سے ہے ہی نہیں) کے مطابق ایک شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ (یہ بھی بالکل غلط، روایت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے)

۲..... یہ امام مہدی قرآن کریم اور رسول اکرم ﷺ کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ (دیکھئے روایت میں اس کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ محض قادیانی سینہ زوری کا کرشمہ ہے)

۳..... لوگ امام مہدی سے اس کی صداقت کا نشان طلب کریں گے۔ (یہ بھی بالکل جھوٹ ہے)

۴..... یہ نشان رمضان کے مہینے میں واقع ہوگا۔

۵..... چاند کو گرہن کی پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ (یہ لفظ ”گرہن کی پہلی تاریخ“ یہ قادیانی چکر بازی ہے)

۶..... سورج کو گرہن کی درمیان تاریخ کو گرہن لگے گا۔ (یہاں بھی یہ لفظ ”گرہن کی درمیانی تاریخ“ چکر بازی ہے)

۷..... یہ نشان امام مہدی کی صداقت کے لئے ظاہر ہوگا۔ (لیکن وہ مہدی نہ مسیح موعود ہوگا نہ ظلی بروزی نبی اور نہ ہی مہدیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی طلب پر یہ نشان طلب کرے گا اور پھر تاویلات باطلہ سے اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرے گا)

۸..... سورج اور چاند گرہن تو لگتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح بطور نشان یہ گرہن پہلے کسی کی صداقت کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔ (مگر مرزائی طرز کے گرہن ہو چکے)

(آسانی گواہ از عبد المسیح خان قادیانی ص ۱۵، ۱۶)

چنانچہ تاریخ سے ثابت کیا جائے گا کہ اس قسم کے گرہن کئی مدعیان مہدیت و مسیحیت کے زمانہ میں ہوئے۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا تمام تنقیحات محض خانہ زاد ہیں۔ روایت میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی قادیانی مکاریاں اور حیلہ سازیاں ہیں کہ ایک بے تعلق بات کو اپنے دجل و فریب سے مرزا قادیانی پر فٹ کرنے کے لئے زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر سب بے سود۔ ایماندار اور حقیقت شناس نگاہیں فوراً سب کچھ تاڑ لیتی ہیں۔

روایت دارقطنی کا جملہ ۲: ”لم تکنونا منذ خلق السموات والارض“ یہ دونوں نشان ابتداء آفرینش سے کبھی بھی ظہور پذیر نہیں ہوئے۔

بلکہ یہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ یعنی سابقہ تمام تاریخ انسانی میں ایسا گرہن کبھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ روایت میں دو مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ایک تو ذکر آیات سے پہلے اور دوسری مرتبہ ان کے بیان کے بعد۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ آیتین کی صفت کا فقہ واقعہ ہوا ہے اور دوسری مرتبہ بطور تاکید اور مزید اظہار قدرت کے لئے۔ اب لم تکنونا فعل میں ضمیر تشنیہ آیتین کی طرف راجع ہے۔ علاوہ ازیں اس کا کوئی مرجع نہیں۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں یہ کسوف کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ بلکہ یہ صرف مہدی کے وقت بطور علامت ظاہر ہوں گے۔ گویا یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کسوف و خسوف ایسے عجیب و غریب ہوں گے کہ ان جیسے پہلے کبھی بھی واقع نہیں ہوئے۔ یہ صرف عہد مہدی برحق کے ساتھ مختص ہیں۔ یعنی وہ اپنی ذات میں بے نظیر و بے مثال اور ہمارے مہدی کے لئے مخصوص۔ پہلے نہ کسی کے لئے واقع ہوئے نہ کسی زمانہ میں۔

روایت کا جملہ ۳ بیان آیتین: ”تنکسف القمر لاول لیلة من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منه“ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ۔ ”رمضان کی پہلی رات کو چاند

گر ہن ہوگا۔ نصف رمضان یعنی پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔“

اب تاریخ عالم گواہ ہے کہ ابھی تک ایسا گرہن کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے زمانہ میں چاند سورج کو گرہن ہوا۔ مگر وہ ۱۳ اور ۲۸ کو ہوا۔ لہذا وہ بے نظیر نہیں جب کہ روایت میں بے مثال و بے نظیر خسوف کا تذکرہ ہے۔

اب اس فقرہ کے متعلق کئی امور زیر بحث آئیں گے۔

۱..... لفظ قمر کی تحقیق۔

۲..... وقوع خسوف کا وقت۔

۳..... قادیانی پیش کردہ خسوف کی حقیقت۔

مندرجہ بالا زیر بحث روایت کے الفاظ سب پر عیاں ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اس کے نصف یعنی پندرہ کو سورج گرہن ہوگا۔ مگر بالفاظ روایت چونکہ ایسا گرہن کبھی نہیں ہوا اور جس کو یہ پیش کرتے ہیں وہ ان تواریخ میں نہیں ہوا۔ لہذا یہ لوگ کئی تاویلات باطلہ کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً روایت میں جو پہلی رات کا ذکر ہے اس سے مراد خسوف قمر کی پہلی رات یعنی تیرہویں رات مراد ہے۔ کیونکہ قانون قدرت کے مطابق چاند گرہن ہمیشہ ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورج گرہن کی تاریخیں بھی حسب قانون الہی ۲۷، ۲۸ اور ۲۹ ہیں تو نصف سے مراد ۲۸ تاریخ ہے۔ یعنی اوّل لیلة من رمضان میں حذف مضاف ماننا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ روایت میں لفظ قمر ہے جو کہ تیسری رات کے بعد پر بولا جاتا ہے تو جب پہلی رات کو قمر ہے ہی نہیں تو خسوف کا کیا مطلب ہوگا؟

ہم اہل حق شق وار جواب دیتے ہیں کہ چونکہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہ نشان پہلے کبھی ہوئے نہیں۔ یہ بالکل خلاف عادت ہوں گے۔ لہذا یہ ظاہری الفاظ کے مطابق ہی ہوں گے۔ یعنی یکم رمضان اور پندرہ رمضان کو ورنہ یہ بے مثال نہ رہیں گے جو کہ روایت کا مرکزی مفہوم ہے۔ باقی رہا تمہارا لفظ قمر کا اشکال تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ۲۷ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ جن کے مجموعی ملاحظہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ لفظ قمر بطور جنس کے اوّل سے لے کر انتیس یا تیس تک۔ ہر رات کے چاند پر بولا جائے گا۔ بسا اوقات اس کی مختلف کیفیات کے اظہار کے لئے دوسرے اسماء بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ابتداء میں ہلال پھر قمر پھر بدر وغیرہ، ویسے مجموعی طور پر اس پر لفظ قمر کا اطلاق قرآنی استعمال ہے۔ جیسے فرمایا: ”والقمر قدرناہ منازل

حتیٰ عاد کالعرجون القديم“ اور ہم نے چاند کی مختلف منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ آخر میں پرانی ٹہنی کی طرح (باریک اور خمیدہ) ہو جاتا ہے۔“ یہ اطلاق میرے نظریے پر نص قطعی ہے کہ اوّل سے لے کر آخر تک تمام راتوں کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے اور کبھی مختلف مدارج میں مختلف نام ہلال بدر وغیرہ کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ قمر کا معنی ہی اجالے اور روشنی کے ہیں جو کہ پہلی تاریخ سے ہی اس سے صادر ہونے لگتی ہے۔ لہذا یہ ہر حالت میں قمر ہی قمر ہے۔ جیسے اردو میں سب کو چاند کہتے ہیں۔

### لغات عربیہ

عربی کی مستند اور مشہور لغات قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں ہے۔ ”الہلال غرة القمر وہی اوّل لیلة“ یعنی ہلال قمر کی پہلی رات کو کہتے ہیں۔ دیکھئے کیسے واضح ہو گیا کہ قمر ایسا لفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں۔ ”القمر لیلین من اوّل الشهر هلالا“ یعنی مہینہ کی پہلی دو راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ ایسے ہی ۲۰۱ اور ۲۰۲ تاریخ کے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ (قاموس ج ۳ ص ۵۴)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیں کہ لفظ قمر کا صحیح مفہوم کیسے واضح ہو گیا کہ مجموعی طور پر تمام مہینے کے چاند کو قمر کہتے ہیں اور اس کی مختلف حالتوں کی بناء پر اس کے دوسرے نام بھی ہیں۔ مگر یہ ہے ایک ہی نام یعنی چاند، بوجہ اضافت ہلال الی القمر۔ یہ میرے دعویٰ پر برہان قاطع ہے۔ میں نے اس نظریہ پر برہان اوّل سورۃ یٰسین سے پیش کیا۔ دوسری آیت سماعت فرمائیے: ”هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب (یونس: ۵، وكذلك آیات اخر)“ وہ ذات جس نے سورج کو چمک دار بنایا اور چاند کو روشنی اور اس کے لئے منزلیں مقرر فرمائیں۔ (کبھی ہلال، کبھی قمر اور کبھی بدر وغیرہ) تاکہ تم برسوں کی گنتی جان سکو اور حساب کر سکو۔ ﴿

دیکھئے اوّل رات سے لے کر آخر تک قمر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس ذات بے مثال نے اس کی مختلف منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم ڈائری اور حساب و کتاب معلوم کر سکو تو اگر قمر کا اطلاق تین دن یا اس کے بعد کے چاند پر کیا جائے تو کیا پہلی دو تین تاریخیں حساب میں یا کیلنڈر میں نہ آویں گی۔ یا للجب! ملاحظہ فرمائیے قادیانی عقل و فہم اور علم و دیانت، معلوم ہوا کہ قادیانی اور اس کی ذریت ضالہ کو قرآن مجید، لغات عربی اور محاورات عامہ کا ظاہر اور سطحی مطالعہ بھی میسر نہیں۔ محض ٹپٹی ٹپٹی اور مٹھن لال کے پیش کردہ ڈھکوسلوں ہی کے زیر گردش

رہ کر جگ ہنسائی اور افسوس کہ عالم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو رشد و ہدایت سے بہرہ ور فرمائے یا ہماری ان سے جان چھڑائے۔

### نکتہ طبعیہ

ایک دلچسپ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ قادیانی اول رات سے مراد گرہن کی اول رات مراد لیتے ہیں اور نصف سے مراد درمیانی تاریخ لے کر اپنا الوسیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ غور کریں تو تمام مسئلہ حل ہو جائے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ چاند گرہن رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سورج گرہن اس کے نصف میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو اگر حسب مراد قادیانی نصف سے مراد سورج گرہن کی ۲۷، ۲۸، ۲۹ تاریخ میں درمیانی تاریخ مراد لی جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ کیونکہ تین کا نصف نہیں ہوتا۔ بلکہ وسط ہوتا ہے تو چونکہ روایت میں لفظ والنصف منہ ہے نہ کہ فی الواسط منہ، لہذا یہ لفظ بھی قادیانیوں کے خلاف اور ہمارے لئے ایک واضح دلیل ہے۔ کیونکہ سورج گرہن کی تین تاریخوں کا نصف ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا الاحوال روایت کے ظاہری معنی مراد لئے جائیں گے کہ سورج گرہن ۱۵ رمضان کو واقع ہوگا جو مہینے کا نصف ہے۔ قادیانی مفہوم کے پیش نظر یہ خسوف بے نظیر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایسے گرہن تو صرف نصف صدی کے عرصہ میں تین مرتبہ وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔

..... ۱ اس قسم کا خسوف ۱۳، ۲۸ رمضان ۱۲۶۷ء کو واقع ہوا اور ہوا بھی

ہندوستان میں۔

..... ۲ دوسرا اس قسم کا اجتماع ۱۳، ۲۸ رمضان ۱۳۱۱ء کو ملک امریکہ میں ہوا جب

کہ اس وقت وہاں مسٹر ڈوئی مدعی مسیحیت موجود تھا۔

..... ۳ ایسا تیسرا اجتماع یہی ۱۳، ۲۸ رمضان ۱۳۱۲ء کو وقوع پذیر ہوا۔ جس کو

آنجنا بے نظیر قرار دے کر اپنی صداقت کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔

تو اگر ایسا اجتماع خسوف و کسوف کسی مدعی کی صداقت کی دلیل ہے تو قادیانی مسٹر ڈوئی کو بھی تسلیم کر لیں۔ یہ تفصیل حضرت علامہ سید محمد علی صاحب مونگیریؒ نے اپنی لا جواب کتاب ”دوسری آسمانی شہادت“ میں اس فن نجوم کی دو مشہور کتابوں مسر کیٹھ کی پوز آف دی گلوبس اور حدائق النجوم سے اخذ کر کے درج فرمائی ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی تحقیق یہ ہے کہ ہر واقع شدہ گہن ۲۲۳ برس کے بعد پھر اسی طرح اور انہی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب مذکور صفحہ ۳۲۔ یہ تجربہ انسائیکلو پیڈیا میں ۶۳ قبل مسیح سے لے کر ۱۹۰۱ء تک درج کیا گیا ہے۔

## ایک قادیانی منطق

قادیانی منطق یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ پہلے کبھی ایسا خسوف کسوف ہوا ہو اور اس وقت کوئی مدعی مہدیت بھی موجود ہو۔ تو حضرت العلامہ نے اسی کتاب میں ایسے گہنوں اور مدعیوں کا نقشہ بھی پیش کر دیا ہے کہ جو ایسے گہن کے وقت مدعی مہدیت اور مسیحیت تھے۔

.....۱ طریف نامی مدعی مہدویت: دوسری صدی کے ابتداء میں یہ مدعی الہام و نبوت ہوا ہے اور اس کے زمانہ دعویٰ یعنی ۱۱ھ میں ایسا گرہن واقع ہوا جیسا کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہوا۔ ۱۳/رمضان کو چاند اور ۲۸/رمضان کو سورج گرہن۔ لیجئے قادیانی کی شرط پوری ہوگئی۔ یہ تو اگر کسی مدعی کے زمانہ میں چاند اور سورج کا ان تاریخوں میں گرہن لگنا اس کی صداقت کی دلیل ہے تو اس طریف کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جب کہ یہ صاحب حکومت بھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسند حکومت پر بیٹھا۔ ادھر مرزا قادیانی تو اپنے گاؤں بلکہ اپنے محلہ کے بھی نمبردار یا ذمہ دار نہ بن سکے۔ اس بناء پر طریف کا پہلہ اس قادیانی سے بھاری ہو جاتا ہے۔

.....۲ ابو منصور عیسیٰ: اس نے دعویٰ نبوت کیا، ۳۶۸ء میں مارا گیا۔ ۳۴۶ء میں جو کہ اس کے دعویٰ کا وقت ہے۔ اس وقت ایسے گرہنوں کا اجتماع ہوا تھا۔ یعنی ۱۳، ۲۸/رمضان کو۔  
.....۳ صالح: اس نے ۱۲ھ میں دعویٰ نبوت کیا اور اس کے زمانہ میں مرزا کی طرح چاند سورج کا گرہن ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ہوا۔ پہلے ۱۲ھ اور دوسری مرتبہ ۱۶۲ھ میں۔

.....۴ مسٹر ڈوئی: اس نے مسیحیت کا دعویٰ امریکہ میں کیا تو ۱۳۱۱ء میں وہاں ۱۳ اور ۲۸/رمضان کو ایسا گرہن ہوا۔ لہذا اگر بوجہ خسوف کے مرزا قادیانی سچ ہوتے ہیں تو یہ صاحب بھی سچا ہوگا۔

.....۵ پانچویں شاہسوار جناب مرزا قادیانی ہیں جن کے زمانہ دعویٰ میں ۱۳۱۲ء کو خسوف و کسوف کا ایسا اجتماع ہوا تو اگر یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے تو قادیانی امت سابقہ مدعیوں کو بھی سچا مان لے ورنہ اس زندیق سے بھی پلہ چھڑا کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام! مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ روایت میں کسی ایسے گرہن کا ذکر ہے۔ (بصورت صحت روایت) کہ جس کی کوئی مثال اور نمونہ نہ گذرا ہو۔ مگر جس گرہن کو قادیانی اور اس کی ذریت پیش کرتی ہے۔ اس کی نظائر موجود ہیں۔ لہذا یہ بے نظیر نہ ہوا تو پھر روایت کا مصداق نہ ہو سکا اور آنجناب اسی طرح لباس عزت و تائید سے ننگے اور خالی ہی رہ گئے۔ النصف منہ کا معنی درمیان کرنا ایک لاجواب خیانت اور دجل و فریب ہے۔

## قادیانیوں سے ایک لاجواب سوال

حضرت العلام فرماتے ہیں کہ یہ تو فرمائیے کہ جب اس طرح کے گہنوں کے اجتماع کا ایک مقرر قاعدہ ہے۔ ہنود، نصاریٰ اور مسلمانوں نے آئندہ ہونے والے گہنوں کی فہرستیں مرتب کر رکھی ہیں جو کہ عام مطبوعہ کتب میں مذکور ہیں۔ تو اگر کوئی ماہر فن اور ان کتب کا جاننے والا اس قاعدہ کو معلوم کر کے اپنے وقت میں ایسے گہن کا واقع ہونا معلوم کر کے اور وہ فہرستیں دیکھ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور ساتھ ہی دارقطنی کی روایت بھی پیش کر دے تو کیا وہ مہدی تسلیم کر لیا جائے گا؟ ممکن ہے جناب مرزا قادیانی نے انہی کتابوں کو دیکھ کر یہ دعویٰ مہدیت کر دیا ہے۔ چنانچہ آنجناب حقیقت الحوجی میں لکھتے ہیں کہ خدا نے بارہ سال پیشتر مجھے یہ خبر دی تھی کہ ایسا گہن ہوا۔ (ماخوذ از ص ۴۰، ۴۱) ہے کوئی قادیانی جیالا جو اس اشکال کا جواب دے۔ ہمارے خیال میں تو یہی بات آتی ہے کہ مرزا قادیانی نے حدائق الانجوم دیکھ کر ہی یہ دعویٰ کیا تھا۔ یہ روایت دارقطنی محض سینہ زوری سے اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے یہ تو سراسر اس کے خلاف جاتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ کوئی جھوٹا مدعی ۲۳ برس تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب کہ ادھر صالح باوجود کاذب ہونے کے ۴۷ برس تک بادشاہ بھی رہا۔ پھر اس کی اولاد میں کئی صدیاں حکومت رہی۔ ادھر جناب قادیانی ایک دن کے لئے اپنے قادیان کے بھی نمبر دار نہ بن سکے تو بتلائیے قادیانی معیار کی رو سے صالح زیادہ سچا ہے یا مرزا قادیانی؟ صرف دعووں کے واویلا اور اشتہار بازی کے بل بوتے پر تو سچائی ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ان کے لئے ایک صحیح اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کی بناء پر مدعی کی صداقت خود بخود عند الناس مسلم ہو جاتی ہے۔ مگر مرزا قادیانی ان امور سے یکسر خالی اور محروم ہیں۔ یہ صرف جھوٹے واویلا سے کام نکالنا چاہتے ہیں۔

## سائنس اور قانون قدرت کا سہارا

روایت کے ظاہری الفاظ کہ چاند گرہن پہلی رمضان کو اور سورج گرہن اس کے نصف یعنی پندرہ تاریخ کو واقع ہوگا۔ اس پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ظاہر مفہوم قانون قدرت اور سائنسی اصولوں کے خلاف ہے۔ کیوں کہ دونوں کے لئے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ چاند گرہن ہمیشہ ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ کو واقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی سورج گرہن ۲۸، ۲۹ اور ۳۰ تاریخ کو وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ سائنسی اصول ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ لہذا اس روایت سے مراد ہے کہ چاند گرہن خسوف کی پہلی رات (نہ کہ مبینے کی پہلی رات) ۱۳ کو ہوگا اور سورج گرہن کسوف کی درمیانی رات یعنی ۲۸ کو ہوگا نہ کہ ۱۵ تاریخ کو۔ کیونکہ یہ تو ضابطہ گرہن ہی کے خلاف ہے۔

## الجواب

جواب یہ ہے کہ یہ تمہارا اپنا ڈھکوسلہ ہے۔ روایت کے الفاظ بصورت تسلیم یہی بتاتے ہیں کہ یہ بے نظیر خسوف و کسوف کا اجتماع ماہ رمضان میں یکم اور پندرہ تاریخ کو ہی ہوگا۔ جو کہ آج تک نہیں ہوا۔ قادیانی نے چونکہ ایک شیطانی منصوبے کے مطابق کھینچ تان کر اسے اپنے اوپر ہی فٹ کرنا فرض کر رکھا تھا۔ لہذا وہ ایسے لچر تاویلات اور سائنسی اصولوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب کہ روایت میں اس کی تائید نہیں ہوتی اور نہ ہی خالق کائنات کسی سائنسی اصول کا پابند ہے۔ وہ تو فعال لما یرید ہے۔ ان اللہ علی کل شئی قدید ہے۔ وہ تو خلاف عادتہ اور قانون آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ سمندر میں خشک راستے بنا سکتا ہے۔ پتھر سے پانی کے چشمے پیدا کر سکتا ہے۔ لکڑی کے ستون سے انسانی اعمال (رونا اور سسکیاں بھرنا) صادر کر سکتا ہے۔ پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ اختیار اور قانون انسانی فہم و فکر سے کہیں ماورا ہے۔ اس کی ذات و صفات بے مثل ہیں۔

چنانچہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتے ہیں کہ: ”خدا کے کروڑہا قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کر دے کہ میں پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام پتھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور امن و صدقنا کہنے لگیں۔ مگر خدا کے کلام نے جو کچھ بیان کیا اس کو نہیں مانتے۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۳، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح کا ایک ایک جملہ اور لفظ خود انہی کے اوپر صادق آرہا ہے۔ قادیانی ٹولہ اپنے راہنما اور پیشوا کے یہ الفاظ بار بار پڑھیں۔ پھر ذرا قانون قدرت قانون قدرت کی گردان کر کے تو دیکھیں۔ ایہا الخصالون المتعنتون تم کون ہوتے ہو خدا کے قوانین اور قدرت کے احاطہ کرنے والے۔ وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو ایک دن اس تمام نظام کو درہم برہم بھی کر دے گا اور سورج کے طلوع مشرق کے قاعدہ اور قانون کی دھجیاں اڑا کر اسے مغرب سے نکال لائے گا۔ تم اس وقت کون سے سائنسی اصول اور قانون فطرت کا سہارا لو گے؟ اس لئے اس قسم کے ڈھکوسلہ بازی سے باز آ جاؤ اور اس خناس اکبر سے جان چھڑا کر حبیب ﷺ کے دامن عافیت کو تھام لو۔ ”ورنہ کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔“ لہذا اسلامی کاراستہ یہی ہے کہ امام مہدی اور ہیں جن کے حالات و صفات اصدق اخلق ﷺ نے تفصیلاً الگ بیان فرمادیئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مہدی سے الگ دوسری شخصیت ہیں۔ جن کے حالات و صفات ایک



سو سے اوپر ارشاداتِ نبویہ میں مذکور ہیں۔ دونوں ایک نہیں۔ نیز یہ روایت دارقطنی غیر معتبر ہے۔ بصورتِ تسلیم صحتِ مرزا قادیانی پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ لہذا تمہارے یہ جشن، جو بلیاں اور مبارک بادیاں محض جھوٹی طفلِ تسلیاں دجل و فریب اور مضحکہ خیز اور حماقت انگیز مشغلہ ہے۔ اب بھی موقعہ ہے ان خرافات سے مجتنب ہو کر جادہ حق پر گامزن ہو جاؤ۔

### قادیانی حماقت و جہالت کا ایک نادر نمونہ

قادیانی اپنی صداقت کے لئے اس خسوف و کسوف کے لئے فسی کل وادیہیمون کا نمونہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”آسمان میرے لئے بنایا تو نے ایک گواہ۔ چاند اور سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار۔“ ملاحظہ فرمائیے کہ انبیاء و رسل تو مخلوقِ خدا کے لئے نور اور روشنی بن کر آتے ہیں۔ ظلمت کدہ دنیا کو آفتابِ ہدایت بن کر منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ مگر یہ ذاتِ عجیب خود کہتی ہے کہ چاند اور سورج جو کہ منبعِ نور ہوتے ہیں وہ بھی میرے لئے اپنی روشنی اور نور سے محروم ہو گئے۔ یا للعجب! واقعتاً سراجا منیرا کے بعد ایسے ہی تاریک و تار آ سکتے ہیں۔ نور اور روشنی تو خاتم الانبیاء ﷺ پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آفتابِ نبوت کے بعد سوائے ظلمت و ضلالت کے اور کیا ظہور پذیر ہو سکتا ہے؟

روایت کا چوتھا جملہ: ”ولم تکنوا منذ خلق السموات والارض“

روایت میں مندرجہ دونشانوں کے ذکر کے بعد پھر وہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتین کے بعد مذکور تھا۔ یہاں صرف واؤِ حالیہ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مقام پر تو یہ جملہ آیتین کی صفت تھا۔ (جس کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے) جس سے محمل طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ مہدی کے وہ دونشان بے نظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدعی کے زمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی وقت ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ بلکہ پہلی ہی مرتبہ یہ نشان اور علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پھر ان دونوں علامتوں کے وقت کو صاف طور پر بیان فرما کر دوبارہ اس جملہ کو واؤِ حالیہ کے ساتھ ذکر کیا تاکہ نہایت تاکید اور خصوصیت کے ساتھ ان نشانوں کی کیفیت اور حالت بیان ہو جائے کہ ظہور اور وقوع اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ ان کا وقوع صرف اور صرف مہدی برحق کا زمانہ اور عہد ہے۔ گویا اس جملہ کا تکرار بغرض تاکید اور مزید اظہارِ ندرت کے لئے ہے۔ قادیانی حضرات اکثر جگہ اس تاکید کی جملہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تاکہ ان کے دجل و فریب کی کچھ پردہ داری رہ جائے۔ مگر خدا نے ایسے سکہ بند دجالوں کا ابتداء ہی سے ناطقہ بندی کا سامان فراہم فرمادیا ہے۔ ویسے آپ قادیانیوں کے جس استدلال کو بھی ملاحظہ فرمائیں گے وہاں یہی حقیقت پائیں گے۔ تجربہ شاہد ہے۔

الغرض مندرجہ بالا روایت کی سند بھی غیر صحیح اور غیر معتبر ہے۔ ایسے ہی اس کا مفہوم و مضمون بھی قادیانیوں کے حق میں غیر صحیح ثابت ہو گیا۔ واہ رے نصیب بد بختیاں و گمراہاں۔

”ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا۔ اللھم ثبت قلوبنا علی الحق والصرط المستقیم امین ثم امین“

### قادیانی مہم کا ایک قرآنی استدلال

یہ ایک حقیقت ہے کہ ”اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت“ کہ جب کسی انسان سے حیاء رخصت ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی میں آئے کرتا پھرے۔ کیونکہ وہ روحانی ایڈز کا شکار ہو جاتا ہے۔ ”ختم اللہ علی قلوبہم“ کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ جس کے سدھرنے اور اصلاح پذیر ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بعینہ اسی طرح جناب مثیل دجال اکبر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے دجل و فریب اور جھوٹے دعوؤں کی تائید میں شرم و حیاء کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر گذرتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی تحریف کرتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایسا لچر مفہوم پیش کرتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام کو کبھی ویسی جسارت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارا مخاطب اس خسوف و کسوف کے بارہ میں ایک تو مندرجہ بالا روایت پیش کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر شیطان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۷۵ القیامہ کی درج ذیل آیات سے استدلال کرتا ہے۔

”فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر“

قادیانی ترجمہ: یعنی جس وقت آنکھیں پتھر جائیں گی اور چاند گرہن ہوگا۔ سورج اور چاند اکٹھے کئے جائیں گے۔ یعنی سورج کو بھی گرہن لگے گا۔

(مرزا قادیانی کی کتاب نور الحق حصہ دوم ص ۷، خزائن ج ۸ ص ۱۹۴)

ان آیات کو قادیانی اور اس کی ذریت ضالہ اپنے خسوف و کسوف کی دلیل بناتے ہیں۔ مگر یہ بتائیں کہ ان آیات میں مرزا قادیانی کا دعویٰ مہدیت کہاں مذکور ہے۔ رمضان اور گرہن کی تاریخوں کا کہاں ذکر ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جب بھوکے کو پوچھا گیا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ وہ فوراً بولا چار روٹیاں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز ہی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کو بھی جب ایک لفظ مل جائے تو اسے اپنے اوپر فٹ کرنے کی دھن میں مگن ہو جاتے ہیں۔ جب خسوف و کسوف کو مد نظر رکھ لیا جائے تو پھر جہاں بھی یہ لفظ دیکھا اسے

اپنے ہی کھاتے میں ڈالنے کی فکر اس کے قلب و ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ ورنہ ان آیات میں مرزائی خسوف و کسوف کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ خود قرآن مجید سے سورۃ القیامہ نکال کر اور تلاوت کر کے اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے قادیانی کا ایک اور نمونہ کہ ان آیات مبارکہ کو مرزا قادیانی کے مقصود و مطلوب کے ساتھ کچھ تعلق ہے یا نہیں۔ یہاں تو روز قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب یہ نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ تمام ستارے اور سیارے نیز شمس و قمر اپنی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر خدا کی قہری تجلی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس وقت انسان پریشان اور مضطرب ہو کر بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پر تمام حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ وہ جان جائے گا کہ اس نے اس آنے والے جہاں کے لئے کیا محنت کی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے! خلاق عالم نے اس سورۃ کا نام ہی القیامہ رکھا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ پھر اس میں حالات و کوائف بھی اسی کے بیان ہوں گے۔ نہ کسی زمانہ کے مدعی مہدیت اور الہام و کشف کے۔ ملاحظہ فرمائیے مرزائی مفہوم سورت کے نام ہی سے کتنا بعید اور لائق تعلق ہے۔ آپ یہ آیات بمع چند اگلی آیات سماعت فرما کر قادیانی دجل و فریب کی داد دیجئے۔

”فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلالا وزر، الى ربك يومئذ المستقر، ينبئو الانسان يومئذ بما قدم و اخر، بل الانسان على نفسه بصيرة، ولو القى معاذير“ ”جب آنکھیں پتھر جاکیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیئے جاویں گے۔ اس دن انسان کہہ اٹھے گا کہ کہاں ہے جائے فرار۔ ہرگز نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اس دن تیرے رب کے ہاں ہی ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی دلیل ہوگا۔ اگرچہ اپنے تمام عذر پیش کر دے۔“

ناظرین کرام! خدا را ذرا فیصلہ فرمائیے کہ کیا ان آیات مبارکہ کو مرزائی مفہوم کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ کوئی اشارہ کوئی کنایہ ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہرگز نہیں۔ یہ ہے قادیانی دجل و فریب کا انمول شاہکار۔

انجیل اور قادیانی

دارقطنی کی روایت اور مندرجہ بالا قرآنی آیات کے بعد جناب قادیانی انجیل میں بھی

دیسہ کاری سے نہیں چو کے۔ وہاں سے محض بے جوڑ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ: ”اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے۔“ (انجیل متی باب: ۲۴، آیت: ۱۲۹، رسالہ آسمانی گواہ ص ۱۲)

ملاحظہ فرمائیے کہ ان آیات میں مسیح موعود کے آنے کی خبر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ کچھ ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ابن آدم نازل ہوگا۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود بنے گا۔ پھر اس کی صداقت کے اظہار کے لئے اس کے فرمان دعویٰ میں یہ نشان ظاہر ہوں گے۔ نہ اس میں کسی مہینے کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی تاریخ کا۔ خدا کی پناہ اتنی بے جوڑ بات اور دلیل۔ ناظرین! اسی نمونہ کو سامنے رکھ کر یقین کر لیں کہ قادیانیوں کے تمام دلائل کم و بیش اسی طرز کے۔ بے جوڑ ہی ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے کسی بھی دعویٰ یا دین پر کان نہ دھریئے۔

اللہ آپ کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما کر بروز حشر خاتم المرسلین ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔

..... ایک ”نچلے“ قادیانی نے اس بحث کی تائید میں مندرجہ ذیل حوالہ جات بھی درج کئے ہیں۔ (اعمال: ۱۹ تا ۲۱، لوقا: ۲۵ تا ۲۸، یسعیاہ: ۳: ۱۰، دانیال: ۱۷: ۲۵، مرقس: ۱۳: ۲۴)

مگر سابقہ حوالہ کی طرح ان میں بھی ان کو ذرہ بھر تائید میسر نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص ان حوالہ جات کا تجزیہ کر کے حقیقت شناس ہو سکتا ہے۔

مرزا قادیانی کے ۲۰ سیاہ جھوٹ

جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کا فیصلہ لکھتے ہیں:

..... ”لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں۔ عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں۔“ (براہین پنجم ج ۵ ص ۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۱)

..... ۲ ”وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔“ (شخص حق ص ۶، خزائن ج ۲ ص ۳۸۶)

..... ۳ ”جھوٹ ام الخبائث ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۱ حاشیہ)

..... ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۳، خزائن ج ۱ ص ۵۶، اربعین نمبر ۳ ص ۲۰، خزائن ج ۱ ص ۷۷)

..... ۴ نیز مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو

جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)  
 مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ مگر اب ذیل میں ہم  
 مرزا قادیانی کی کتب سے صرف ۲۰ جھوٹ درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو سچ ثابت کر دے تو ہم  
 اسے مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد انعام دیں گے۔ ورنہ تمام قادیانی مرزائیت سے توبہ کر کے دائرہ اسلام  
 میں داخل ہو جائیں اور مرزا قادیانی کو مندرجہ بالا خطابات سے نوازیں۔

۱..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”مسح موعود کی نسبت تو آثار (روایات) میں  
 یہ لکھا ہے کہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۸۷، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۷)  
 حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی بات کسی حدیث معتبر میں نہیں آتی۔ لہذا یہ  
 مرزا قادیانی کا جھوٹ ثابت ہوا۔

۲..... کسی نے مرزا قادیانی سے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا پارسی زبان میں بھی  
 کبھی خدا نے کلام کیا ہے تو مرزا قادیانی نے کہا کہ: ”ہاں خدا کا کلام پارسی میں بھی اترتا ہے۔ جیسا  
 کہ وہ اس زبان میں فرماتا ہے۔ اس مشیت خاک را گر نہ بخشم چه کنم“

(چشمہ معرفت ص ۱۱، خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۲)  
 یہ مرزا قادیانی کی اپنی وحی ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی پر خدا نے کوئی بھی وحی نہیں  
 اتاری پھر کلام الہی شاعرانہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بھی آنجناب کا جھوٹ ہوا۔

۳..... ”اول تم میں سے مولوی اسماعیل علی گڑھی نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم  
 میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔“ (نزول مسیح ص ۳۱، خزائن ج ۱۸ ص ۴۰۹)  
 حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ جناب مرزا قادیانی نے یہ بالکل غلط اور جھوٹ  
 لکھا ہے جو ان کی عادت ہے۔

۴..... ”قرآن شریف کی نصوص قطعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری (مدعی  
 الہام و وحی) اسی دنیا میں دست بدست (جلد اور نقد) سزا پالیتا ہے۔“ (انجام آتھم ص ۴۹، ۵۰، ۶۳،  
 خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۵) قرآن مجید میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ وہاں لکھا ہے: ”انما نملیٰ لہم لیزدا  
 دواثما“

۵..... ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے  
 لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں۔ ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے  
 ٹھہریں گے۔“ (ریویو آف ریلجنس ج ۶ نمبر ۹ ص ۳۶۵، ستمبر ۱۹۰۷ء)

۶..... ”تین ہزار سے زائد پیش گوئیاں جو امن عامہ کے خلاف نہیں تھیں۔ پوری

ہو چکی ہیں؟“ (حقیقت المہدی ص ۸) پھر اس کے بعد اپنے رسالہ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰) میں لکھا کہ: ”پس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیش گوئیوں کے قریب خدا کی طرف سے پاکر چشم خود پوری ہوتے دیکھ چکا ہوں۔“

امن عامہ کی شرط کی کیا وجہ ہے؟ نیز فیصلہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کی پہلی بات صحیح ہے یا دوسری یعنی ۳ سو والی یا ڈیڑھ سو والی۔

۷..... ”تفسیر ثنائی میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہؓ فہم قرآن میں ناقص تھا۔ (استغفر اللہ) اس کی روایت پر محدثین کو اعتراض ہے۔ ابو ہریرہؓ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور روایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔“ (براہین احمدیہ ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۱ ص ۴۱۰) یہ بھی سراسر کذب و افتراء ہے۔ اس تفسیر میں کہیں یہ بات درج نہیں۔ لہذا العنة اللہ علی الکاذبین!

۸..... ”افسوس ہے وہ حدیث بھی اسی زمانہ میں پوری ہوئی۔ جس میں لکھا تھا کہ مسیح کے زمانہ کے علماء ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے۔ جو زمین پر رہتے ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۰)

یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ ذرا کھلائیے نقد انعام پائیے۔  
۹..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”بہت سی حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ بنی آدم کی عمر سات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں جو روز ششم کے حکم میں ہے۔ پیدا ہونے والا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۹، خزائن ج ۳ ص ۴۷۵) نیز لکھا کہ اس ابن مریم (مرزا قادیانی) کا نام انجیل اور قرآن میں آدم رکھا گیا ہے۔ بالکل غلط!

۱۰..... ”چونکہ حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی۔ جس میں اس کے تین صد تیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی۔“ (ضمیمہ انجام آقلم ص ۴۰، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۳)

کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں۔ ویسے مرزا قادیانی کے پاس بھی ایسی کتاب نہ تھی۔ خود چھپا کر پیش گوئی پوری کرنا محض دجل و فریب اور مغالطہ دہی ہے۔ جو کہ مرزا ایت کا تانا بانا ہے۔

..... ”احادیث صحیحہ میں پہلے سے یہی فرمایا گیا ہے کہ مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا۔“  
 (ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۸، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۲)

کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ لہذا وظیفہ بنا لو۔ الا لعنة الله على الكاذبين!

..... ۱۲ ”صحیح بخاری میں صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اس امت میں سے ہوگا۔“  
 (ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۸، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۲)

ف..... یہ بھی مرزا قادیانی کا خالص اور سیاہ جھوٹ ہے۔ بخاری میں بلکہ کہیں بھی صاف لفظوں میں یہ مضمون نہیں آیا ہے۔

..... ۱۳ ”ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب دوزخ سے نکل چکے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔“  
 (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۹۷)

یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن میں تو ہے۔ ”وما هم بخارجین من النار (البقرة: ۱۶۷)“ یعنی مجرم کبھی بھی دوزخ سے نہ نکل سکیں گے۔

نیز فرمایا: ”لا يخفف عنهم العذاب (البقرة: ۱۶۲)“ ”کلما نضبحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها (نساء: ۵۶)“ ”یعنی کفار سے ہرگز عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ جب بھی ان کے چمڑے دھک جائیں گے۔ ہم ان کے چمڑے دوسرے بدل دیں گے۔“  
 ”كذلك في آيات آخر“ اب فرمائیے حدیث صحیح قرآنی نصوص کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟۔  
 لہذا لعنة الله على الكاذبين!

..... ۱۴ ”لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ کے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔“  
 (دافع البلاء ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰)

ف..... ناظرین کرام! یہ مرزا قادیانی کا سفید جھوٹ ہے۔ مسیح کا شراب پینا کہیں بھی نہیں ثابت ہو سکتا۔ نہ بائبل سے نہ تاریخ سے۔

..... ۱۵ ”اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی آیت ”هو الذي ارسل رسوله“ کا مصداق ہے۔“  
 (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

ف..... یہ بالکل بکواس ہے۔ کہیں بھی مرزا قادیانی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں احادیث میں بطور مفتری اور دجل کے عمومی طور پر ضرور ذکر ہے۔

۱۶..... ”یسوع در حقیقت بوجہ بیماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔“

(ست بچن ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۰ ص ۲۹۵)

ف..... حضرت مسیح پر یہ الزام خالص کفر ہے اور توہین انبیائے کے زمرہ میں آتا ہے۔ جس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ (العیاذ باللہ)

۱۷..... ”وفات مسیح پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۲۰۲، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۶)

ف..... یہ قول مرزا بالکل جھوٹ اور کذب و اختراع ہے۔ کسی ایک محدث و مفسر نے اس اجماع کو نقل نہیں کیا۔ ہاں حیات مسیح پر حدیث ابی ہریرہؓ کے تحت اجماع کا ثبوت بدرجہ تواتر ثابت ہے۔ کسی کا اعتراض بھی منقول نہیں۔

۱۸..... ”یہود خود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۲۰۵، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۸)

ف..... ملاحظہ فرمائیے! مرزا قادیانی نے کیسا سفید جھوٹ بولا اور کتاب الہی قرآن مجید کی تکذیب کی۔ قرآن مجید میں یہود کا قول یوں ہے۔ ”انّا قتلنا المسیح (نساء: ۱۵۸)“ یعنی ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی اکثر یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔

۱۹..... ”کفار نے درخواست کی کہ آپ مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ جائیں تو ان کو جواب ملا۔ ”قل سبحان ربی“ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا پاک ہے کہ وہ اپنے عہد اور وعدہ کے خلاف کرے وہ کہہ چکا ہے کہ کوئی جسم عنصری آسمان پر نہیں جائے گا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۱ ص ۴۰۰)

ف..... یہ بھی سراسر سفید جھوٹ ہے خدا نے کہیں بھی یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ ”قل لعنة الله على الكاذبين والمفتريين“

۲۰..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”وفات مسیح کا بھید صرف مجھ پر کھولا گیا ہے۔“

(اتمام الحجۃ ص ۳، خزائن ج ۸ ص ۷۷۵)

ف..... یہ بھی مرزا قادیانی کا محض دجل و فریب ہے۔ کیونکہ اس سے قبل مرزا قادیانی وفات مسیح پر تیس آیات قرآنی پیش کر چکے ہیں۔

(ازالہ ص ۵۹۸، ۶۲۶، خزائن ج ۳ ص ۴۲۳ تا ۴۲۷)



نیز بخاری مسلم کی صحیح احادیث اور کئی علمائے امت کے اقوال اس مسئلہ پر پیش کر چکے ہیں۔ بتلائیے اب یہ اس قدر واضح اور مدلل مسئلہ بھید کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ آنجناب اس سے قبل حیات مسیح آیات قرآنیہ اور متواتر صحیح احادیث اور اجماع امت سے واضح کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰، شہادت القرآن ص ۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸)

اب بتلائیے مرزا قادیانی کا پہلا موقف درست ہے۔ (حیات مسیح) یا تیس آیات اور احادیث کثیرہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ (وفات مسیح) درست ہے یا تیسرا موقف، اخفائے مسئلہ کا موقف درست ہے؟

ناظرین کرام! آپ مندرجہ بالا بیس حوالہ جات سے نہایت وضاحت سے معلوم کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی سراسر کذب اور دجل و فریب کا پلندہ ہے۔ صدق و راستی کا کوئی ذرہ بھی اس میں نہیں۔ لہذا اس فتنہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہئے۔ ”اللهم اعوذ بك من فتنة الدجال“ نیز وہ لوگ جو محض سادہ نیک نیتی یا کسی دباؤ یا لالچ کے تحت اس فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے نہایت غور سے سوچیں کہ ایسا مکار و کذاب کیسے ایک راست باز انسان ہو سکتا ہے۔ مہدی مجدد یا مسیح موعود یا نبی ہونا تو لاکھوں میل دور کی بات ہے۔ اللہ رب کریم ہر ایک فرد انسانی کو ہر قسم کے فتنہ اور آزمائش سے محفوظ رکھے آمین۔

مرزا قادیانی کے مزید ۲۵ جھوٹ

مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت لگے ہاتھوں ۲۵ جھوٹ اور بھی سماعت فرمائیے۔ تاکہ آنجناب کے متعلق آپ کے ذہن میں مزید سے مزید ان کا کذب و فراڈ واضح ہو جائے اور پھر ان کی طرف سے کوئی بھی ڈھکوسلہ سن کر کوئی دوسوہ پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔

۱..... مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”عزیز و تم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ اس مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو دیکھنے کی بہت سے نبیوں نے خواہش کی تھی۔“ لا حول ولا قوۃ!

(الرحمن نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۴۴۲) ف..... ملاحظہ فرمائیے کیا اتنا بڑا جھوٹ آپ نے کبھی سنا ہے۔ اس چیز کا تو کہیں اشارہ تک بھی نہیں ہے۔

۲..... ”دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل (خدا کی مانند) لکھا ہے۔“ (ضمیمہ تحفہ گوکڑویہ ص ۱۶، خزائن ج ۷ ص ۶۱)

ف..... ناظرین کرام! دانیال کی کتاب میں اس مضمون کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ محض ٹیچی کا شاخسانہ ہے۔

۳..... ”ابن عربی نے ”فصوص الحکم“ (ان کی معروف کتاب کا نام ہے۔ ناقل) میں لکھا ہے کہ وہ (خاتم الخلفاء) چینی الاصل ہوگا۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹) ف..... اگر ایسا ہو بھی تو اس سے مرزا قادیانی کو کیا فائدہ؟ کیونکہ مرزا قادیانی تو چینی الاصل ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ وہ پنجابی ہیں۔

۴..... ”قرآن شریف بلکہ کتب سابقہ میں بھی ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت میں آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہ لازماً چھپے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا۔“ (لیکچر لاہور ص ۳۹، خزائن ج ۲۰ ص ۱۸۵)

ف..... ”لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ لکھتے وقت ابلیس کے کان کترے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کسی بات کا امکان ہی نہیں اور نہ ہی کتب سابقہ میں کہیں اس کا نشان ہے۔

۵..... ”اجماع صحابہ وفات مسیح پر ہو چکا ہے۔“

(لیکچر سیالکوٹ ص ۵۷، خزائن ج ۲۰ ص ۲۳۶)

ف..... یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان کا اجماع تو حدیث ابی ہریرہ کی روشنی میں حیات و نزول مسیح پر ہوا تھا۔ جس کو تمام مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی نے اسی کو نقل کیا۔ (ازالہ ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰، شہادت القرآن ص ۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸)

اس کے برعکس کسی ایک نے بھی وفات مسیح پر اجماع نقل نہیں کیا۔ کیا کوئی قادیانی جیالا کسی ایک محدث و مفسر کی نقل دکھا سکتا ہے؟

۶..... ”آحضرت ﷺ نے مسیح موعود کے بارہ میں فرمایا کہ وہ نبی اللہ اور امامکم منکم ہوگا۔“ (تحفہ گلڑویہ ص ۲۰، خزائن ج ۱ ص ۱۱۸)

ف..... یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آحضرت ﷺ نے کہیں نہیں فرمایا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ بلکہ فرمایا ”والذی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مریم“ یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے۔

۷..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”یقول ابن عباس قال سمعت

رسول ﷺ يقول ينزل اخي عيسى ابن مريم على جبل افيق“

(حمات البشرى ص ۸۸، خزائن ج ۷ ص ۳۱۲)

ف..... اس روایت میں ”من السماء“ کا لفظ بھی تھا۔ مگر وہ مرزا قادیانی نے حذف کر دیا ہے۔ یہی گڑبازان کا وطیرہ ہے۔

۸..... ”حضرت نبی اکرم ﷺ نے گواہی دی کہ میں نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۵۸)

ف..... یہ بھی جناب قادیانی کا سفید جھوٹ اور دجل ہے اور آپ ﷺ کے ذمہ جھوٹ لگایا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده في النار“ یعنی جو میرے ذمہ جھوٹ لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔  
۹..... ”آدم سے پہلے بھی زمین پر نسل انسانی موجود تھی۔“

(ملفوظات ج ۱۰ ص ۴۳۲)

ف..... یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ ورنہ بتلائیے کہ ان کا فرد اول کون تھا؟ نیز یہ بات کس آیت یا حدیث میں منقول ہے؟  
۱۰..... ”آثار صحیحہ میں آیا ہے کہ اس کو دکھ دیا جائے گا اور اس پر لعنتیں بھیجی جائیں گی۔“ (ضمیمہ کتاب البریہ ص ۶، خزائن ج ۱۳ ص ۳۲۹)

ف..... یہ بالکل صریح اور ڈبل جھوٹ ہے۔ ہم اس پر صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ”لعنت الله على الكاذبين والمفترين“  
۱۱..... ”مرہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہزار ہا طب کی کتابوں میں موجود ہے۔“

(ست بچن ص ۷، خزائن ج ۱۰ ص ۳۰۳)

ف..... آپ صرف پانچ سو کتب طب میں اس کا ذکر دکھا دیں تو منہ مانگا انعام۔ ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین ورد کریں۔

۱۲..... ”سورۃ تحریم میں مریخی صفات کا نام ابن مریم رکھ دیا گیا ہے۔“

(تزیان القلوب ص ۱۵۹، خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۴)

ف..... ہم اس بارہ میں سوائے لعنت اللہ علی الکاذبین کے کچھ اور نہیں کہتے۔  
۱۳..... ”حضور ﷺ کی چھ ماہ کی عمر تک آپ ﷺ کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے تھے۔“ (ایام الصلح ص ۱۵۰، خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۶)

ف..... یہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی چھ سال کی عمر میں ہوا ہے۔ مرزا کو ماہ اور سال میں فرق نظر نہیں آیا۔

۱۴..... ”وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرأت بخاری میں غور سے پڑھو۔“ (ایام الصلح ص ۷۵، خزائن ج ۱۴ ص ۳۰۹)

ف..... جناب قادیانی، بخاری میں ہو تو پڑھیں۔ جب وہاں ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیا پڑھیں۔ یہی نا ”لعنة الله على الكاذبين“

۱۵..... مرزا کو اس کے خدا یلش وصاعقہ نے کہا ”انت منی بمنزلة اولادی“ (دافع البلاء ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)

اور کہا ”اسمع ولدی“ اے بیٹے سن۔ (البشری ج ۱ ص ۴۹)

ف..... از روئے قرآن خدا نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ بلکہ اس کو نہایت کافرانہ نظریہ فرمایا گیا ہے۔ فرمایا: ”لم يتخذ ولدا“ اور فرمایا: ”تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا“ مرزائی کے جھوٹا ہونے میں ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔

۱۶..... ”مسیح نے تورات ایک یہودی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھی۔“ (نزول المسح ص ۶۰، خزائن ج ۱۸ ص ۴۳۸) بالکل غلط۔

۱۷..... ”سورة الناس میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔“

(روائیداد جلسہ عام ص ۲۷، خزائن ج ۱۵ ص ۶۱۹)

ف..... یہ افتراء علی اللہ کی نہایت گھناؤنی مثال ہے۔ نہ وہاں صراحت ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ۔ ہاں مرزا جیسے خناسوں کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔

۱۸..... ”تمام الہامی کتب بروز کی قائم ہیں۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵۸، خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۱) بالکل غلط، ورنہ ثبوت دیجئے۔

۱۹..... ”قرآن سے ثابت ہے کہ مسیح موعود عیسیٰ بن مریم نہیں۔“

(تحدہ گولڈویہ ص ۲۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۱۸)

ف..... کوئی حوالہ پیش کیجئے۔ نیز بتلائیے کہ تم پھر کیوں مریم بنتے رہے اور حیض و حمل کے مرحلے طے کر کے عیسیٰ بنتے رہے۔

۲۰..... ”قرآن مجید میں الناس بمعنی دجال بھی آیا ہے۔“ (تحفہ گولڑیہ ص ۲۱، خزائن ج ۷ ص ۱۲۰) ثبوت دیجئے۔

۲۱..... ”یہودیوں نے حفاظتِ تورات کے سلسلہ میں اس کے نقطے بھی گن رکھے تھے۔“ (شہادت القرآن ص ۴۲، خزائن ج ۶ ص ۳۳۸)

ف..... بالکل غلط کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی مرد میدان جو اس کا ثبوت فراہم کرے۔

۲۲..... ”جو لوگ میرے دعویٰ کے وقت ابھی پیٹ میں تھے۔ اب ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۳۵، خزائن ج ۲۱ ص ۳۱۳)

ف..... یہ لغو مبالغہ کی بدترین مثال ہے۔ کیونکہ ہر صورت میں تو پیٹ والے افراد کم از کم چالیس سال کی عمر کے ہونے چاہئیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ۱۸۸۰ء سے بھی تسلیم کیا جائے تو ۱۹۰۸ء تک صرف اٹھائیس سال بنتے تھے۔ گیا ابھی پیٹ والے جواب ہوئے نہ کہ ان کی اولاد۔ سچ ہے ”اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی“ آنجناب ہر موقعہ بے موقعہ جھوٹ کے کامل رسیا ہو چکے ہیں۔ جھوٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔

۲۳..... ”سورۃ تحریم میں صریح طور پر بیان ہے کہ اس امت کے بعض افراد کا نام مریم رکھا گیا ہے۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۸۹، خزائن ج ۲۱ ص ۳۶۱)

ف..... یہ محض افتراء علی اللہ ہے۔ فللعنة الله على الكاذبين!  
۲۴..... ”میں (مرزا قادیانی) انگریزی سے واقف نہیں۔“

(براہین احمدیہ ج ۸ ص ۸۰، خزائن ج ۲۱ ص ۱۰۵)  
ف..... یہ بھی بالکل بکواس ہے۔ ورنہ بتلائیے کہ مختاری کا امتحان کس زبان میں ہوتا تھا۔ نیز تیری انگریزی وحی کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ جب کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر نبی اس کی قومی زبان میں وحی ہوتی ہے۔

۲۵..... ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ غلبہ صلیب کے وقت ایک شخص پیدا ہوگا۔ جو صلیب کو توڑے گا۔ اس کا نام مسیح ابن مریم رکھا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۱، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۵)

ف..... یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ آپ ﷺ نے یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اسی لئے زاقادیانی صلیب توڑنے کی بجائے اس کی پرستش ہی کرتے رہے۔

ناظرین کرام! لیجئے آپ نے یہ مرزا قادیانی کے صرف  $۲۵ + ۲۰ = ۴۵$  جھوٹ ملاحظہ فرمائے ہیں۔ جب کہ اس کی تقریباً ہر بات جھوٹی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں جھوٹ نقل کئے جاسکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ پھر مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقوال پڑھئے کہ ولد الزنا اور کنجر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ نیز لکھا ہے کہ: ”جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

اب فرمائیے کہ مرزا کے تو یہاں ۴۵ جھوٹ ثابت ہو گئے۔ لہذا یہ ہم کیسے اس کی کسی بات کا یقین کر لیں۔ اسی ضابطہ سے تو اس کا ہر دعویٰ اور ہر ایک پیش گوئی محض ڈرامہ ہی ثابت ہو گئی۔ پیٹ کا چکر ہی ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان کی کسی بات یا موقف و نظریہ پر مطلق توجہ نہ دیں۔ یہ محض دھوکا اور خالص فراڈ ہے۔ نیز ان کے پیروکاروں کی خدمت میں مودبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی مندرجہ بالا حوالہ جات کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر وہ واقعی غلط ہیں تو پھر اس شیطانی جال سے نکلنے۔ تم نے ان سے کوئی ادھار لے کر کھالیا ہے جو ہر صورت میں ان کا پلہ نہیں چھوڑتے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہر فرد انسانی کو توفیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخروی ہی کو ملحوظ رکھ کر زندگی گزارے۔ آمین ثم آمین!

## مرزا قادیانی کی عربی

آنجنمانی مرزا قادیانی کی مبالغہ آرائی اور دجل و فریب یوں تو ہر پہلو میں نمایاں ہے۔ مگر بسا اوقات وہ صاحب ریکارڈ توڑ اقدام بھی کر گزرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر انہوں نے یہ بڑھانک دی کہ: ”قرآن کے بعد میری بلاغت کا نمبر ہے۔“ (نجمہ النور ص ۱۲۸، خزائن ج ۱۶ ص ۴۶۴) حالانکہ یہ مقام و مرتبہ تو اس ذات مقدسہ کا ہے جس نے اعلان فرمایا کہ: ”انا افصح العرب“ اور فرمایا: ”اعطیت جوامع الکلم“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۲، باب فضائل سید المرسلین) یعنی میں تمام عرب سے زیادہ فصاحت کا مالک ہوں اور فرمایا کہ مجھے جامع کلام عطاء فرمایا گیا ہے۔ مگر جناب مرزا قادیانی حسب عادت ہر معاملہ اور ہر موقعہ پر نہایت بے باکی اور گستاخی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی عربی کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:

..... ”سمعت ان بعض الجہال یقولون“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۴۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۴۱)

حالانکہ از روئے قرآن ”ومن الناس من يقولو“ يقولون کی جگہ بقول چاہئے تھا۔

۲..... ”وبو سهن وعناقهن“ (خطبہ الہامیہ ص ۳۹، خزائن ج ۱۶ ص ۳۹)

بتلائے بوسہ عربی زبان کا لفظ ہے؟

۳..... مرزا قادیانی کی اعجازی کتاب کی جھلکیاں لکھا ہے: ”ویترك الناس

طرق الله ذا الجلال“ (اعجاز المسح ص ۱۲۷، خزائن ج ۱۸ ص ۱۳۱)

لفظ اللہ مجرور ہونے کی بناء پر ذی الجلال چاہئے تھا۔ مگر افسح الخلق مرزا کا کرشمہ دیکھئے۔

۴..... ”ولم يزل هذه الجنود تلك الجنود يتحاربان“

(اعجاز المسح ص ۱۲۹، خزائن ج ۱۸ ص ۱۳۲)

”يتحاربان“ غلط ہے۔ ”تتحاربان“ چاہئے تھا۔ کیونکہ جنود بوجہ جمع ہونے کے

ضمیر واحد مونث کا متقاضی ہے۔

۵..... ”الا على النفس التي سعى سعيها“

(اعجاز المسح ص ۱۳۶، خزائن ج ۱۸ ص ۱۴۰)

لفظ نفس مونث ہے۔ لہذا سعی کے بنائے سعت چاہئے تھا۔ مگر افسح الناس کو اس

سے کیا غرض؟

۶..... ”وان لا تؤذى اخيك“ (اعجاز المسح ص ۱۶۵، خزائن ج ۱۸ ص ۱۶۹)

اخیک مجرور نہیں بلکہ مفعول ہونے کی بناء پر اخاک چاہئے تھا۔ شاید مرزا قادیانی کے

ہر کارے ٹیچی اور مٹھن لال وغیرہ معمولی صرف و نحو سے بھی واقف نہیں۔

۷..... ”ولكل منها دلالة على كيفية ايلاف“

(اعجاز المسح ص ۷۶، خزائن ج ۱۸ ص ۷۸)

الف کی جمع الاف، الوف ہے نہ کہ ایلاف۔

۸..... ”اتظن ان يكون الغير“ (اعجاز المسح ص ۱۷۰، خزائن ج ۱۸ ص ۱۷۴)

الغیر عربی زبان میں معرف بالام نہیں آتا۔

۹..... ”الزم الله كافة اهل الملة“ (اعجاز المسح ص ۸۳، خزائن ج ۱۸ ص ۸۵)

حالانکہ کافہ مضاف نہیں آتا۔

۱۰..... ”ومثلها كمثل ناقة تحمل كلما تحتاج اليه وتوصل الى

دار الحب من ركب عليه“ (اعجاز المسح ص ۷۷، خزائن ج ۱۸ ص ۷۹)

رکب علیہ میں ضمیر ناقہ کے لئے جو کہ مذکر نہیں بلکہ مونث ہے۔ لہذا رکب علیہا چاہئے تھا۔

۱۱..... ”لا شیوخ ولا شاب“ (اعجاز المسح ص ۵۵، خزائن ج ۱۸ ص ۵۷)  
اس میں جمع اور مفرد کا عطف خلاف ادب ہے۔

۱۲..... ”هذا الرجيم هو الذي ورد فيه الوعيدا عنى الدجال“  
(اعجاز المسح ص ۸۱، خزائن ج ۱۸ ص ۸۳)  
حالانکہ رجیم ابلیس کی صفت ہے۔

۱۳..... ”فارتد على اثارهما ووهب له الجنة“  
(البشرى ج ۱ ص ۵۵، تذکرہ ص ۲۹)  
ملاحظہ فرمائیے الجنہ مونث ہے۔ جس کے لئے فعل بھی مونث چاہئے تھا۔ وھبت نہ کہ وھب۔

۱۴..... ”اجاهد جيشى“ ترجمہ از مرزا قادیانی کہ: ”میں اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں۔“  
(البشرى ج ۱ ص ۵۵)  
ترجمہ کی لطافت قابل توجہ ہے۔

۱۵..... ”بايعنى ربى“ (البشرى ج ۲ ص ۷۱، تذکرہ ص ۴۲۰)  
ترجمہ از مرزا قادیانی ”اے رب میری بیعت قبول کر۔“ ناظرین کرام! فیصلہ خود کر لیں کہ یہ ترجمہ کس اصول بلاغت کی بناء پر درست ہو سکتا ہے؟

۱۶..... ”يا مسيح الخلق عد ورنال ن تری من بعد موادنا وفسادنا“ ترجمہ از مرزا قادیانی ”اے خدا کے مسیح جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ ہماری جلد خبر لے اور ہمیں اپنی کتاب الصدف سچی کتاب دے۔“  
(البشرى ج ۲ ص ۷۱، تذکرہ ص ۴۲۳)

ترجمہ کے کمالات عیاں ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی بلاغت کے شاہکار۔

۱۷..... رشن الخمر۔ ترجمہ از مرزا قادیانی ”ناخواندہ مہمان کی خبر“

(البشرى ج ۲ ص ۶۹، تذکرہ ص ۴۱۳)

۱۸..... ”صلوة العرش الى الفرش“ ترجمہ از مرزا قادیانی ”یعنی رحمت



الہی جو تم پر ہے وہ عرش سے فرش تک ہے۔“

(البشری ج ۲ ص ۹۸، تذکرہ ص ۵۵۲)

ترجمہ کی نزاکت و لطافت ملاحظہ فرمائیے۔

۱۹..... مرزا قادیانی نے اعجاز المسح نامی بزبان عربی ایک کتاب لکھی تو بطور تحدی

اور چیلنج اعلان کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر خدائے عظیم نے اسے پہلے قدم ہی پر رسوا

کر دیا۔ کیونکہ اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہے کہ: ”وقد طبع فی مطبع ضیاء الاسلام فی

سبعین یوماً من شهر الصیام“ (اعجاز المسح ٹائٹل، خزائن ج ۱۸ ص ۱)

یعنی یہ کتاب مطبع ضیاء الاسلام میں رمضان کے ستر دنوں میں طبع ہوئی ہے۔ جب کہ

کسی بھی صورت میں رمضان کے ستر دن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ۲۹ یا تیس ہوتے ہیں۔ یہ فصیح الخلق کی

بلاغت و فصاحت۔

بندہ فقیر ان نمبروں کو بعد از بانیہ جہنم (جہنم کے منتظم فرشتے) انیس کے عدد پر ہی ختم

کرتا ہے۔ (ورنہ تلاش سے ایسے نمونے مل سکتے ہیں۔) کیونکہ کذب و دجل کے منصب والا

آخرت میں انہی انیس (علیہا تسعة عشر) کے ہی حوالہ کیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ) خاتم

الانبیاء ﷺ کا مکذب اور گستاخ ہمیشہ ہمیشہ انہی کے زیر نگرانی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اہل

ایمان کو حق پرست بنائے اور آخرت میں اسے برے مقام سے بحرمت سید الانبیاء ﷺ محفوظ

فرمائے۔ جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آمین ثم آمین بحرمتہ سید الاول و خاتم النبیین ﷺ

و اصحابہ و ازواجہ جمعین صلوٰۃ دائمہ الی قیام الساعہ۔

قادیانی کلمہ

قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول“ میں محمد رسول

اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے۔ ”مسح موعود مرزا غلام احمد

قادیانی خود محمد رسول اللہ ہیں۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ تشریف لائے۔ اس لئے ہم

مرزائیوں کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش

آتی۔“ نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی کی شان

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹھیک وہی شان وہی نام وہی رتبہ ہے۔ جو

آنحضرت ﷺ کا تھا۔ نعوذ باللہ! (اخبار الفضل ج ۳ نمبر ۳ ص ۷، مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۱۵ء)

تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسول

قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ چودھویں صدی کے تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسول  
مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ نعوذ باللہ! (تذکرہ ص ۳۵۲)

مرزا رحمۃ للعالمین ہے

قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ رحمۃ للعالمین مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ نعوذ باللہ! (تذکرہ ص ۸۳)  
مرزا سید الاولین و آخرین ہے

مرزائی اخبار (الفضل نمبر ۳۱ ج ۳ ص ۳، مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۱۵ء) کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ  
وہ مرزا وہی ختم المرسلین تھا۔ وہی فخر الاولین و آخرین ہے۔ جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمۃ  
للعالمین بن کر آیا تھا۔ نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی باعث تخلیق کائنات ہے

قادیانی عقیدہ ہے کہ آسمان و زمین اور تمام کائنات کو صرف اور صرف مرزا قادیانی کی  
خاطر پیدا کیا گیا۔ نعوذ باللہ! (حقیقت الوحی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

مرزا قادیانی کی روحانیت آنحضرت ﷺ سے زیادہ تھی

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا زمانہ روحانی ترقیات کی طرف پہلا قدم تھا اور  
مرزا قادیانی کے زمانے میں روحانیت کی پوری تجلی ہوئی۔ نعوذ باللہ! (خطبہ الہامیہ ص ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً)

مرزا قادیانی کا تخت سب سے اونچا تھا

قادیانی عقیدہ ہے کہ آسمان سے بہت سے تخت اترے۔ لیکن مرزا قادیانی کا تخت  
سب سے اونچا بچھایا گیا۔ نعوذ باللہ! (حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

مرزا قادیانی کو بڑی فتح نصیب ہوئی

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو چھوٹی فتح نصیب ہوئی تھی اور بڑی یعنی فتح مبین  
مرزا قادیانی کو ہوئی۔ نعوذ باللہ! (خطبہ الہامیہ ص ۲۸۸، خزائن ج ۱۶ ص ۲۸۸)

مرزا قادیانی کا اسلام افضل ہے

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے کا اسلام پہلی رات کے چاند کی طرح  
ناقص اور بے نور تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے کا اسلام چودھویں رات کے چاند کی طرح تاباں

اور درخشش ہے۔ نعوذ باللہ! (خطبہ الہامیہ ص ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۲)

مرزا قادیانی کے معجزے آنحضرت ﷺ سے زیادہ ہیں

قادیانی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے معجزات تین ہزار تھے۔ نعوذ باللہ!

(تحفہ گلزار دیہ ص ۴۰، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳)

اور مرزا قادیانی کے معجزے تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔ نعوذ باللہ!

(حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰)

مرزا قادیانی دہنی طور پر آنحضرت ﷺ سے افضل ہے

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کا دہنی ارتقاء آنحضرت ﷺ سے زیادہ ہے۔

(ریویو می ۱۹۲۹ء بحوالہ قادیانی مذہب ص ۲۳۱)

نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی کی روحانیت آنحضرت ﷺ سے اعلیٰ ہے

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی روحانیت آنحضرت ﷺ سے اقویٰ اکمل اور

(خطبہ الہامیہ ص ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ۱۵۳)

اشد ہے۔ نعوذ باللہ!

آنحضرت ﷺ مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ تشریف لائے ہیں

قادیانی عقیدہ ہے کہ:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں

محمد یکھنے ہوں جس نے اکمل

نعوذ باللہ!

غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدر قادیان ج نمبر ۲، شمارہ ۳۳ ص ۱۴، مورخہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

نبیوں سے مرزا قادیانی کی بیعت کا عہد

قادیانی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول

اللہ ﷺ تک ہر ایک نبی سے مرزا قادیانی پر ایمان لانے اور اس کی بیعت و نصرت کرنے کا عہد لیا

(اخبار الفضل ج ۱۱ نمبر ۶ ص ۱، مورخہ ۲۶ فروری ۱۹۲۳ء)

تھا۔ نعوذ باللہ!

آنحضرت ﷺ کی پیروی باعث نجات نہیں

قادیانی عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں آنحضرت ﷺ کی پیروی باعث نجات نہیں۔

بلکہ صرف مرزا قادیانی کی پیروی سے نجات ہوگی۔ نعوذ باللہ! (البعین نمبر ص ۴، خزائن ج ۱۷ ص ۳۳۶)

الحمد لله الذي جعل في كتابه  
الغني عن كل مداد والجليل  
على كل شيء قدير

# معركة حق وباطل

حضرت مولانا عبد اللطيف مسعود<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup>

## معرفہ حق و باطل

امت مسلمہ میں قادیانیت کا ناسور پھوٹے ایک صدی گزر چکی ہے۔ اس عرصہ میں مصلحین امت نے اس کی مکمل تشخیص کر کے اس ناسور کو جہدِ ملت سے جڑوں سمیت کاٹ کر الگ پھینک دیا ہے۔ مگر اس کی سرانڈا بھی تک ملک و ملت کو پریشان کر رہی ہے۔ لہذا تمام امت کو متحد ہو کر اس سرانڈے سے نجات پانا از بس ضروری ہے۔ نیز اس طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ کہیں اس ناسور کی کوئی جڑ پھر نہ پھوٹ پڑے۔ لہذا اس مسئلہ میں غفلت اور لاپرواہی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔

یہ بات سو فیصد صحیح ہے کہ قادیانیت کو مذہب اور حقانیت کے ساتھ ذرہ بھر تعلق نہیں ہے۔ یہ تو محض مغربی استعمار کا ایک آلہ کار اور ایجنٹ گروہ ہے۔ اس ٹولہ نے کچھ دینی مباحث کو محض آڑ کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ جیسے مسئلہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام اور اجرائے نبوت وغیرہ۔ علمائے امت نے ان کے تمام تر شبہات کے مسکت جوابات دے کر میدان مناظرہ و مباحثہ سے تو ان کو بھگا دیا ہے۔ مگر اب یہ لوگ اپنے طور پر بذریعہ لٹریچر مختلف وسوسے اور شوٹے چھوڑتے رہتے ہیں۔ جو محض دجل و فریب اور وسیسہ کاری ہوتی ہے۔ حقیقت سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں بندہ حقیر بھی کچھ تجربہ رکھتا ہے۔ جس کی بناء پر عرض یہ ہے کہ دربارہ مسائل قادیانیوں سے نپٹنے کے لئے مختصر طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیش کردہ نظریات کا رد اور توڑ خود مرزا قادیانی ہی کی تحریرات سے کیا جاوے تاکہ ان کے لئے کوئی گنجائش نہ رہے۔ اگرچہ یہ طریقہ اپنانے میں قادیانی کتب کا وسیع مطالعہ درکار ہے۔ مگر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہمیشہ کے لئے سہولت فراہم ہو جائے گی۔ چنانچہ بندہ حقیر نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے ذیل میں قادیانی کے پیش کردہ معیار ہائے صداقت کو تسلیم کر کے ان کی تردید و تکذیب کا تمام مرحلہ خود قادیانی کتب سے باحسن وجوہ طے کیا ہے۔ جس کا مطالعہ ہر فرد کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ بایں طور کہ مرزا قادیانی نے اپنی ذاتی کتب و تحاریر میں حق و صداقت کے جو جو معیار اور ضوابط پیش کئے ہیں۔ انہی کو تسلیم کرتے ہوئے خود اسی کی دیگر تحریرات سے مرزا قادیانی کی تردید اور تکذیب اس حد تک کر دی ہے کہ کسی ہوشمند انسان کو قادیانیت کے دجل و فریب اور حماقت و جہالت ہونے میں رتی بھر شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اب بندہ ذیل میں وہ معیار جمع رو پیش کر کے ہر فرد بشر کو دعوتِ فکر دیتا ہے کہ وہ اس تحریر کو بغور مطالعہ فرما کر اپنی عاقبت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جادہ حق پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ”واللہ یهدی من یشاء الی طریق مستقیم“

احقر: عبد اللطیف مسعود، ڈسکہ!

## حق و صداقت کے قادیانی معیار اور ان کا نتیجہ

پہلا معیار

مرزا قادیانی اس کے لڑکے اور اس کے پیروکار سب کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت اتباع نبویؐ سے حاصل ہوئی ہے۔ مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں تو اس کی مکمل نفی ہے۔ نیز خود مرزا قادیانی بھی یہی بات کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ:

..... ”لا شك ان التحديث موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة

كما هو شان النبوة“ (حماتہ البشری ص ۸۲، خزائن ج ۷ ص ۳۰۱)

”اس میں ذرا شک و شبہ نہیں کہ مکالمات و مخاطبات الہیہ (وحی الہی) محض عطاء الہی ہے۔ کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ شان نبوت کا معاملہ ہے۔ (یعنی جیسے مقام نبوت کسی اتباع یا ریاضت و مجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح تحدیث ہے۔)“

..... ۲ دوسری جگہ لکھا ہے کہ: ”والمؤمن الكامل هو الذي رزق من هذه النعمة على سبيل الموهبة“ (الاستفصاح ص ۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۳۳)

..... ۳ ”سو میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے۔ جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی۔“

(حقیقت الوحی ص ۶۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۳)

..... ۴ ”اب میں بموجب آیہ کریمہ ”واما بنعمة ربك فحدث“ اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجے (جن کے مدارج میں کسب اور سلوک اور مجاہدہ کو کچھ بھی دخل نہیں ص ۶۵) میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطاء کی گئی ہے۔“

..... ۵ ”اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدا تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ کسی عامل کا عمل نہیں ہے اور یہ بزرگ صداقت ہے۔ جس سے ہمارے مخاطب برہم و غیرہ بے خبر ہیں۔“

(برائین احمدیہ ص ۳۵۳، خزائن ج ۱ ص ۴۲۰، حاشیہ ۱۱)

نتیجہ

ناظرین کرام! مندرجہ بالا اقتباسات میں جناب مرزا قادیانی نے واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ نبوت محض عطاء الہی سے ملتی ہے۔ اس میں کسی محنت یا ریاضت و مجاہدہ کا ذرہ دخل نہیں

ہوتا۔ مزید برآں آنجہانی قادیانی تو اس سے بھی بڑھ کر شکم مادر ہی سے یہ مقام لے کر آئے ہیں۔ لیکن خدا جانے پھر اس پر کیا مصیبت نازل ہوگئی کہ یہ سب کچھ بھول کر لکھ دیا کہ مجھے آنحضرت ﷺ کی اتباع سے نبوت ملی ہے۔ اب اس معمرہ کا حل کوئی قادیانی مرہی یا ان کا گرو مرزا طاہر ہی کر سکے گا۔ اہل من مبارز؟ نیز قادیانی تو بجائے اتباع کے الٹا مخالفت کے راستہ پر چل پڑا تھا۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام اور مسئلہ جہاد وغیرہ میں۔ خدا جانے قادیانی لغت میں اتباع بھی مخالفت ہی کو کہتے ہیں؟ کیونکہ مرزا ہر معاملہ میں حکم جو ہو کر آیا تھا تو آخر اس نے جہاں قرآن کی غلطیاں نکالیں، حدیث رسول ﷺ میں من پسند رد و قبول کر دیا۔ ایسے ہی یہ رد یہ عربی لغت و محاورہ میں بھی ضرور چلانا چاہئے تھا۔ تاکہ اس کی حکمیت مکمل ہو جائے۔ یا للجب! ملاحظہ فرمائے مرزا نے ساری امت سے کٹ کر نبوت کی نئی تقسیم کر ڈالی کہ اس کی ایک قسم ظلی نبوت بھی ہے۔ جو اتباع و اطاعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اس مفہوم کلی کو فرد واحد (صرف اپنی ذات) ہی میں محدود و منحصر فرمادیا۔ علاوہ ازیں آنجناب نے لفظ توفی کے مفہوم میں بھی تبدیلی و ترمیم فرمائی کہ پہلے اس کا معنی تھا کامل نعمت دینا، کامل اجر دینا۔ پھر اس کا مفہوم صرف موت میں منحصر کر دیا۔ الغرض قادیانی اصول و ضوابط بطور تجدید کے ساری دنیا سے نرالے اور منفرد کر دیا۔ الغرض قادیانی اصول و ضوابط بطور تجدید کے ساری دنیا سے نرالے اور منفرد ہیں۔ ایسے ہی اگر اس کے ہاں اتباع کا معنی بھی مخالفت ہو تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ واہ رے مرزا قادیانی، تیری تو وہی بات ہوئی کہ: ”اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی“

تو گویا مرزا کا ظلی نبوت کا نظریہ خود اس کی دیگر تحریرات سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث سے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں قادیانیوں کے تمام نظریات کو خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ختم کرنا چاہئے۔

دوسرا معیار، حقیقی نبوت سابقہ

مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار خود کو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معیار پر بلکہ ان سے بھی اعلیٰ مرتبہ پر قرار دیتا ہے۔ (نزل المسح ص ۸۴، خزائن ج ۱۸ ص ۴۶۰، ۴۶۱)

مگر جب کوئی اسے اس معیار پر رکھنے لگتا ہے تو فوراً شتر مرغ کی طرح عذر کر دیتا ہے کہ: ”ماسوا اس کے جو شخص ایک نبی متبوع علیہ السلام کا متبع ہے اور اس کے فرمودہ اور کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی بے سمجھی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر

کروائیں۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹، خزائن ج ۵ ص ۳۳۹، خطبہ جواب نواب محمد علی خاں)  
 دوسری جگہ لکھا ہے کہ: ”بہت سے لوگ میرے دعویٰ میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے  
 ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو پہلے زمانوں میں براہ  
 راست نبیوں کو ملی ہے۔ لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۰ حاشیہ، خزائن ج ۲ ص ۱۵۲)

ملاحظہ فرمائیے کہ منتہی صاحب جب دعویٰ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر ترنگ  
 میں آ کر اپنے کمالات اور عجائبات بیان کرنے میں آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں کہ میں  
 سب سے بڑھ کر ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں۔ مگر جب حقیقت کے  
 جہاں میں آزمانے اور پرکھنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو تمام لٹن ترانیاں کا فور ہو جاتی ہیں۔  
 تمام ہوائی قلعے مسمار ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو سابقہ انبیاء علیہم السلام جیسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔  
 کبھی زیادہ زچ ہو کر کہہ دیا کہ نبوت سے میری مراد محض مکالمہ و مخاطبہ الہیہ تھی۔ دیگر انبیاء والی  
 نبوت کا دعویٰ نہ تھا۔ اگر تمہیں اس لفظ پر اعتراض ہے تو اسے کاٹا ہوا سمجھو۔ لیکن ایسی طرح دے کر  
 مرزا نکل نہیں سکتا۔ کیونکہ جب وہ آیات پیش کرنے پر آتا ہے تو سابقہ نبوت والی آیات پیش کرتا  
 ہے۔ مگر میدان موازنہ میں آتا ہے تو فوراً پیچھے کوکھسک جاتا ہے۔ اگر سابقہ نبوت باقی نہیں تو  
 اجرائے نبوت کا دعویٰ کیسے؟ یہ بقائے نبوت کے مناظرے اور مباحثے کس لئے کرتے پھرتے ہو؟  
 یاد رکھئے! اللہ نے تو ایک ہی طرز کی نبوت جاری فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ اس نے تو سید  
 الانبیاء ﷺ کے متعلق بھی فرمایا کہ: ”هذا نذیر من النذر الاولی“ کہ ہمارے یہ نبی معظم بھی  
 سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی ہی ہیں۔ فرق مراتب الگ بحث ہے۔ فرمایا: ”تلك الرسل  
 فضلنا بعضهم علی بعض“ لہذا نفس نبوت میں سب برابر مگر مراتب میں تفاوت۔

یہ مرزا قادیانی والی نبوت کس انداز کی ہے؟ جو سابقہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے کوئی  
 علیحدہ ہی چیز ہے۔ ایسی نبوت کا اعلان خدا نے تو کہیں فرمایا نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی ابلیسی اور  
 اختراعی چیز ہو تو الگ بات ہے۔ مگر پھر ہمیں اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو اس نبوت سے  
 وابستہ ہونا ہے جو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم الانبیاء ﷺ پر ختم  
 فرمادی اور اسی نبوت کے متعلق ہی اختتام یا بقا و اجراء کی بحث ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر اگر کوئی سر پھرا  
 سابقہ چلی آنے والی نبوت کے خاتم الانبیاء ﷺ پر ختم ہونے کا قائل نہیں تو وہ قطعاً دائرہ اسلام سے  
 خارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس سے الگ کسی اور قسم کی نبوت کے اجراء کا نظریہ رکھتا ہے تو یہ بھی



بوجہ عدم ثبوت کے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیونکہ اس نے بلا دلیل ایک نئی چیز کے ابتداء اور جریان کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام میں تو بلا ثبوت کوئی عملی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی نظریہ ثابت ہو جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قادیانی ہمیشہ دورخی، متضاد اور پہلودار بات کرتے ہیں جو کہ ان کے متبوع اور گرو کا وطیرہ تھا۔ لہذا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی کی نبوت سابقہ نبیوں ہی کے سلسلہ کی نبوت ہے یا کوئی الگ قسم ہے؟ اگر تم سابقہ سلسلہ نبوت میں اس کو کھڑے کرو تو یہ بات خلاف اسلام ہے کہ وہ نبوت خاتم الانبیاء علیہم السلام پر ختم ہو چکی ہے۔ جس کا اقرار مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے وار اگر تم کسی نئی قسم نبوت کے مدعی ہو۔ جیسے (کلمہ المفصل ص ۱۱۲) پر مرزا بشیر احمد قادیانی نے لکھا ہے اور بشیر الدین محمود نے حقیقت نبوت میں خوب زور مارا ہے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی نے بھی یہی بات کہی ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف اور کفر خالص ہے۔ نیز تم اس صورت میں اجرائے نبوت کا دعویٰ مباحث اور مناظرے نہیں کر سکتے۔ بات ختم ہوئی۔

### تیسرا معیار، مدت نبوت

آنجنابی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے تیس سال سے دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ خدا جانے کہاں تک جائے۔ جب کہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں آیت ”لو تقول علينا بعض الاقاویل“ وارد ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔ مدعی نبوت کا ذہب جلدی مارا جاتا ہے۔ وہ تیس سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا میں بھی سچا مدعی نبوت ہوں۔ دیکھئے اس کی کتاب (حقیقت الوحی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۳، تہ حقیقت الوحی ص ۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۱) پر پینتیس سال لکھے ہیں۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۲، خزائن ج ۱۷ ص ۳۰۹) میں مدت تیس سال مذکور ہے۔

جواب یہ ہے کہ اول تو تیری مدت ہی میں شدید تضاد ہے۔ جس سے تیری یادہ گوئی اور کذب و افتراء کھل جاتا ہے۔ دیکھئے (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴، خزائن ج ۵ ص ۵۴) میں ۱۲ سال، (نشان آسمانی ص ۳۷، خزائن ج ۴ ص ۳۹۷) میں ۱۱ سال، (سراج منیر ص ۴، خزائن ج ۱۲ ص ۴) میں اور (ایام الصلح ص ۳۷، خزائن ج ۱۴ ص ۲۶۸) میں ۲۵ سال، (ضمیمہ تحفہ گلڑویہ ص ۱۴، خزائن ج ۱۷ ص ۵۸) میں اور (اربعین ج ۳ ص ۶ نمبر ۲، خزائن ج ۱۷ ص ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۹۱) میں بھی تیس سال۔ بتلائیے مرزا قادیانی کی کس بات پر اعتبار کیا جاوے۔

۲..... یہ ضابطہ صرف سید دو عالم ﷺ کے لئے ہے، عام نہیں۔ کیونکہ ”لو تقول احد“ نہیں فرمایا کہ جو کوئی مدعی نبوت ہمارے ذمہ کوئی بات کہے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ ”لو تقول

کہ اگر آپ خاتم الانبیاء ایسے ہی کوئی بات بلاوجہ کہہ دیں تو ہم یوں کریں گے۔ یہ خاص ہے عام نہیں۔ ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود سچے نبی ہونے کے صرف تین سال امت میں رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مدت بھی نہایت مختصر ہے۔ بعد میں شہید ہو گئے۔ نیز اس طرح آپ کے بعد کاذب مدعیان نبوت ۴۰، ۴۰ سال تک زندہ رہے۔ بلکہ انہوں نے حکومت بھی قائم کر لی۔ خود بہاء اللہ ایرانی کا مسئلہ تمہارے سامنے ہے۔ ان تفصیل سے واضح ہوا کہ یہ آیت صرف آنحضرت ﷺ کے لئے ہے، عام نہیں۔

بائبل اور اختصاص خاتم الانبیاء ﷺ

قادیانی نے خود ہی بائبل کا حوالہ دے کر اس دلیل کا خاص ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ دیکھئے صاحب بہادر بحوالہ استثناء لکھتے ہیں کہ: ”میں ایک نبی مبعوث کروں گا..... لیکن وہ نبی جو ایسی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کو سنا تا..... وہ نبی مر جائے گا۔“ (استثناء ۱۸: ۲۰ تا ۲۱، بحوالہ ضمیمہ اربعین نمبر ۳، ص ۸، مندرج خزائن ج ۷ ص ۴۷۴)

دیکھئے اس حوالہ سے صاف اختصاص معلوم ہو رہا ہے۔

۳..... تیرا یہ دعویٰ نبوت تیس سال یا کم و بیش محض غلط ہے۔ کیونکہ تو اتنے برس خدا کی وحی کو سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) دعویٰ تو سمجھ کے بعد ہونا تھا۔

۴..... اس حساب سے تو نے دعویٰ مسیحیت ۱۸۹۱ء میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں یعنی کل ۱۷ برس زندہ رہ کر واصل جہنم ہوا، تیس برس تو پورے نہ کئے۔ لہذا فیل۔ حالانکہ یہ مدت بھی غلط ہے۔

۵..... دراصل بقول مرزا محمود اور عام قادیانیوں کے مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں دعویٰ نبوت کیا تو اس حساب سے صرف ۷ سال رہ کر واصل جہنم ہوا۔ تو سچا کیسے کہلا سکتا ہے؟

ایک اور طریقہ سے: آنجہانی نے آیت ”لو تقول“ کے بارہ میں جو شرائط بیان کی ہیں وہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”پس اے مومنو! اگر تم ایک ایسے شخص کو پاؤ جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تم پر ثابت ہو جائے کہ وحی اللہ پانے کے دعویٰ پر تیس برس کا عرصہ گزر گیا اور وہ متواتر اس عرصہ تک وحی اللہ پانے کا دعویٰ کرتا رہا اور وہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقیناً سمجھ لو کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور اس مدت میں آخر تک کبھی خاموش نہیں رہا اور نہ اس دعویٰ سے دستبردار ہوا۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈ ویہ ص ۱۲، خزائن ج ۷ ص ۵۸)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کیا یہ مذکورہ شرائط مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں کہ:  
.....۱۔ صاحب، براہین احمدیہ سے لے کر آخر تک کبھی اپنے دعویٰ نبوت سے خاموش یا دستبردار نہ ہوا ہو؟

.....۲۔ نیز مسلسل اس دعویٰ کو زور شور سے اپنی کتابوں میں شائع کرتا رہا ہو۔  
نتیجہ: افسوس صد افسوس۔ جناب آنجنابی ان علامات سے یکسر خالی اور محروم ہے۔ اس میں یہ تسلسل اور دوام دعویٰ ہرگز نہیں پایا گیا۔ لہذا یہ اپنے دعویٰ نبوت میں بالکل قیل اور صفر ہے۔ کیونکہ اس مدت میں مرزا قادیانی سے بجائے تسلسل دعویٰ کے قدم قدم پر اس دعویٰ سے دستبرداری اور انحراف واقع ہوتا رہا۔ بلکہ مدعی نبوت کو کافر، لعنتی اور خارج از اسلام بھی کہتا رہا۔ دیکھئے لکھتا ہے کہ: ”فلا تظن یا اخی انی قلت کلمۃ فیہ رائحة ادعاء النبوة“

(حماتہ البشری ص ۸۳، خزائن ج ۷ ص ۳۰۲)  
نیز لکھا کہ: ”ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین“  
(حماتہ البشری ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)  
نیز یہ بھی لکھا کہ: ”میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے..... کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے..... اور ان نشانوں کا نام معجزہ رکھنا ہی نہیں چاہئے..... بلکہ کرامات ہے۔“

(جنگ مقدس ص ۷۲، خزائن ج ۶ ص ۱۵۶)  
مرزا قادیانی نے تو دعویٰ نبوت کی طرح دعویٰ مسیحیت سے بھی برملا انکار کیا ہے۔ دیکھئے لکھتا ہے کہ: ”اس عاجز نے جو مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے..... میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے، وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)  
تو جب مرزا قادیانی میں سچے مدعی والی شرائط نہیں پائی گئیں۔ بلکہ وہ اپنے دعویٰ سے بیسیوں مرتبہ انکار و انحراف اور پہلو تہی کرتا رہا ہے تو پھر وہ سچا کیسے ہو گیا۔ وہ تو سراسر کذاب، دجال اور کافر ملعون ہوگا۔ یہ نتیجہ اور حکم ہم نے خود آختاب کے ضابطہ کے مطابق لگایا ہے۔ لہذا آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز بقول مرزا محمود قادیانی کہ آپ نے دعویٰ نبوت ۱۹۰۱ء میں کیا ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعد اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ لہذا ۱۹۰۱ء سے پہلے کے تمام حوالہ جات جن میں دعویٰ نبوت سے انکار ہے، وہ اب منسوخ سمجھے جائیں گے۔ ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔ دیکھئے:

(مرزا محمود کی کتاب حقیقت النبوة ص ۱۲۱)

اب فرمائیے! مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے صدق و کذب کے متعلق شرائط کس نتیجے تک پہنچیں کہ آنجناب صرف چھ سات سال تک اس دعویٰ پر زندہ رہا اور اتنی ہی مدت بقول مرزا قادیانی آپ کا ایک حریف بابو الہی بخش بھی دعویٰ نبوت کر کے زندہ رہا۔ جس نے اپنا نام موسیٰ رکھا ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے! مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”بابو الہی بخش نے اپنا نام موسیٰ رکھا تھا۔“  
(تمہ حقیقت الوحی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۴۱)

وہ اس کتاب (عصائے موسیٰ) کی تالیف کے چھ برس بعد فوت ہو گئے۔ (تمہ حقیقت الوحی ص ۱۱۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۵) ویسے مرزا قادیانی نے بھی اپنا نام موسیٰ رکھا لیا تھا۔

(تمہ حقیقت الوحی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۰)

اب فرمائیے کہ جب بابو الہی بخش چھ برس دعویٰ کے بعد مر گیا تو وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا گیا تو آپ جناب بھی حساب لگالیں کہ ۱۹۰۱ء کے بعد کتنے برس زندہ رہے؟ کیا تم نے تینیس سال والی معیاری مدت پوری کر لی یا ابتدائی پیش رفت ہی میں غضب الہی کے شکنجے میں پھنس گئے؟ یہ بات کوئی مخفی یا الجھی ہوئی نہیں۔ بلکہ نہایت واضح ہے کہ تم نے دعویٰ نبوت کے بعد جلد ہی اپنے کذب و افتراء پر مہر تقدیر ثبت کر کے آنجہانی ہو گئے۔

ایک مزید مغالطہ: اگر کوئی قادیانی یہ کہہ دے کہ مرزا قادیانی مطلق دعویٰ الہام کے ساتھ اتنی مدت پوری کر گئے ہیں۔ لہذا وہ جھوٹے نہیں بلکہ سچے ثابت ہوں گے تو گزارش یہ ہے کہ یہ زبردست خلط بحث ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے ”لوتقول“ کا معیار دعویٰ نبوت کے متعلق قرار دیا ہے نہ کہ مطلق الہام و کشف کے متعلق اور نہ ہی وہ معیار بن سکتا ہے۔ کیونکہ ”لوتقول“ میں امر نبوت کا ذکر ہے نہ کہ مطلق الہام و کشف کا۔ اگرچہ مرزا قادیانی کی تحریرات اس ضابطہ کے بیان میں پہلو دار اور نہایت مغالطہ انگیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیاد ہے۔ مگر اصل حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ دعویٰ الہام نہیں بلکہ دعویٰ نبوت کے لئے یہ معیار ہے۔ اہل اسلام، قادیانیوں کے اس دھوکے سے خوب ہوشیار ہیں۔ قادیانی ہر جگہ ایسی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک اہم نکتہ: ”لوتقول“ کا عنوان سارے قرآن مجید میں صرف اور صرف سید الانبیاء ﷺ کے لئے استعمال ہوا ہے اور کسی بھی نبی کے لئے یہ عنوان نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے مخالفین انبیاء نے اپنے نبی کے لئے افتراء کا عنوان ہی اختیار کیا تھا۔ جس کے جواب میں یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر مخالفین سید المرسلین ﷺ نے آپ کے حق میں جب یہ عنوان اختیار

کیا تو اس کے رد میں خالق کائنات نے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا تاکہ مخالفین کا خوب رد ہو جائے۔ کیونکہ کسی الزام کا جواب ہمیشہ اسی لفظ میں دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے یہ الزام دیا کہ: ”اننا لنراك فى ضلل مبين (اعراف: ۶۰)“ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ: ”قال يقوم ليس بى ضلالة (اعراف: ۶۱)“ ایسے ہی قوم ہود نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ طعن دیا کہ: ”اننا لنراك فى سفاهة (اعراف: ۶۶)“ اس کے جواب میں فرمایا کہ: ”قال يقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين (الاعراف: ۶۶، ۶۷)“ ملاحظہ فرمائیے کہ طعن منکرین کا جواب انہی کے لفظ میں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کفار مکہ نے کہہ دیا کہ: ”ام يقولون تقوله“ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ: ”لو تقول علينا بعض الاقاويل (الحاقة: ۴۴)“

تمام قرآن مجید میں ان دو مقامات کے سوا کہیں بھی یہ مادہ استعمال نہیں ہوا۔ لہذا اس کی غرض وغایت وہی ہے جو سید الانبیاء ﷺ کے اس عاجز اور حقیر ترین امتی نے پیش کی ہے۔ ایک اور حقیقت: اس انداز سے دوسرے مقام پر یہ عنوان اختیار فرمایا گیا ہے کہ: ”وان كادوا ليفتنونك عن الذی اوحینا الیک لتفتري علينا غيره واذ لا تخذوك خلیلاً . ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن الیهم شیئاً قليلاً . اذ لا ذقناك ضعف الحیوة وضعف المماتة ثم لا تجد لك علينا نصیراً“

(نبی اسرائیل: ۸۳ تا ۸۵)

”اور وہ منکرین تو اس کوشش میں تھے کہ آپ کو اس وحی برحق سے برگشتہ کر دیں جو ہم نے آپ کو کی ہے۔ تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑلائیں۔ تب وہ آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ تو ان کی جانب کچھ قدر مائل ہو ہی چلے تھے۔ (اگر ایسا ہو جاتا) تو اس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دو گنا عذاب دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پاتے۔“ (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیں یہ عنوان سابقہ عنوان سے بھی کتنا سنگین ہے۔ جس سے رب العالمین کی کبریائی اور شان جلالت کا نمایاں اظہار ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی برحق علیہ السلام ہمارا پیغام پہنچانے میں اتنے محتاط اور حساس ہیں کہ اس میں معمولی سی گڑبڑ کا بھی کہیں امکان نہیں ہے۔ بالفرض والتقدیر اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو ہمارا یہ ضابطہ شاہی صادر ہو جاتا۔ لہذا یہ عنوان صرف امر رسالت کے انتہائی محفوظ و مصون ہونے کے اظہار کے لئے ہے۔ نہ کہ کسی کے لئے مدت اور

معیار صداقت بیان کرنے کے لئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا: ”لو اشرکوا الحبط عنہم ما کانو یعملون (انعام: ۸۸)“ لہذا قادیانی اور اس کی ذریت باطلہ کو ایسے عنوانات سے رتی برابر سہارا نہیں مل سکتا۔ مرزا چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور عظمت رسالت کی حقیقت سے سو فیصلہ بے بہرہ اور محروم ہے۔ لہذا وہ باغوائے شیطانی ایسے ایسے ڈھکوسلے بیان کرتا رہتا ہے کہ جس کی حقیقت کا دور دور کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کو اس کے دجل و فریب سے محفوظ رکھے اور جو پھنس چکے ہیں۔ ان کو بھی راہ راست پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

چوتھا معیار

قادیانی اور اس کی امت مرزا کے معیار صدق و کذب کے لئے آیت ”لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون (یونس: ۱۶)“ بھی پیش کرتے ہیں کہ میری پہلی (قبل از دعویٰ) زندگی ملاحظہ کرو۔

تبصرہ و تجزیہ

..... یہ آیت کریمہ صرف آنحضرت ﷺ کے لئے ہے۔ جن کی سیرت طیبہ کے دونوں دور (قبل از نبوت اور بعد از ان) درخشاں اور بے عیب طاہر و مطہر آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی مخالف سے مخالف بھی آپ کی ذات اقدس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اسی حیات طیبہ کے پیش نظر آپ قبل از نبوت بھی تمام معاشرہ عرب میں صادق و امین کے لقب عالی سے مشہور و معروف تھے اور بعد از نبوت تو ایک ایک لمحہ حیات امت کے لئے قیامت تک اسوۂ حسنہ، ضابطہ حیات، معیار سعادت اور دین و مذہب بنا۔ آپ کی خلوت و جلوت کے اعمال و اخلاق ایسے پاکیزہ اور ”وانک لعلی خلق عظیم“ کے ترجمان تھے کہ اگر ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمام زمان و مکان میں چکر لگایا جائے تو کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ بلکہ خلق خدا ان کو روح سعادت و کامرانی سمجھ کر اپنانے کے لئے بے تاب ہو جائے۔

برخلاف اس کے قادیانیوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کو سیرت مرزا پر بحث کرنے کا کہا جائے تو وہ زہر کا پیالہ پینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر اس بحث کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ یہ ہے بھی حقیقت، کہ مرزا قادیانی نے کسی معیاری کردار اور اخلاق و اعمال کا نمونہ ہرگز پیش نہیں کیا۔ نہ قبل از دعویٰ اور نہ ہی بعد از دعویٰ۔ ملاحظہ فرمائیے وہ تو خود اپنے آپ کو معیار نبوت پر پرکھنے سے کتراتا ہے اور اس کو قادیانیوں کی کم فہمی اور بے سمجھی قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی مشہور کتاب (آئینہ کمالات ص ۳۳۹، خزائن ج ۵ ص ۵۵ ایضاً) نیز وہ اپنی پہلی زندگی کے متعلق خود رقمطراز

ہے کہ: ”مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف۔ کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ بھی چیز نہ تھا..... اس زمانہ میں میں درحقیقت اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہا سال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جانتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔“ (تمہ حقیقت الوہی ص ۲۷، ۲۸، خزائن ص ۲۶۰، ۲۶۱)

نیز لکھا ہے کہ: ”بلکہ میرے روشناس بھی صرف چند آدمی ہی نکلیں گے اور خود گورنمنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لئے کسی کی آمد درفت نہ تھی۔“

(نزل المسح ص ۱۴۰، خزائن ج ۱۸ ص ۵۱۸، بقیہ رویت گواہ نمبر ۱۹)

اب فرمائیے کہ مرزا قادیانی کی ایسی زندگی کو جو بالکل مہمل اور ناقابل توجہ ہو۔ کیسے کسی معیار کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے؟

ناظرین کرام! اب اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی خود ہی اپنے آپ کا ستیاناس کر گیا ہے۔ ایک طرف تو اپنے لئے معیار نبوت پر پیش کرنے کو نا سنجھی قرار دیتا ہے اور دوسری طرف نہایت عیارانہ طور پر وہی معیار اپنے لئے پیش بھی کر دیتا ہے۔ عجیب مسخرہ ہے۔ خدا کرے کوئی نہ سمجھے۔ اے قادیانیو! یہ ہے تمہارا گرو اور پیشوا جو خود کو ایک معمم بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی کوئی صاف حیثیت کہیں بھی واضح نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ تم خواہ مخواہ اس کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ میرے خیال میں تو مرزا قادیانی وہی حقیقت سمجھنا چاہتا ہے کہ: ”ایہا العبانقہ انکم علی دین من اظہرہ اذلہ اللہ ومن کتمہ اعزہ اللہ“ ”لہذا قادیانیت کے چنگل سے نکل کر خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ کے صاف سحرے اور منور و مطہر جادہ حق پر آ جاؤ۔ ورنہ تمہارا وہی حال ہوگا جو ابلیس کے پیروکاروں کا سورہ ابراہیم میں ”وقال الشیطان“ کے ضمن میں واضح کیا گیا ہے۔ ”واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم“

پانچواں معیار

مولانا محمد حسین بٹالوی کی تعریف مرزا:

مرزا قادیانی مولانا بٹالوی کی تعریف اپنے حق میں یوں نقل کرتے ہیں کہ: ”مؤلف براہین (مرزا قادیانی) کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم کتب ہیں۔ اس زمانہ سے آج تک خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری ہے۔ مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربہ اور مشاہدہ کی رو سے واللہ حسیہ شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار و صداقت شعار ہیں۔ کتاب براہین احمدیہ ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی

اور اس کا مؤلف اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے۔ جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۸۸۲، ۸۸۳، خزائن ج ۳ ص ۵۸۱) اس عبارت کو مرزائی اکثر پیش کرتے ہیں تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ:

۱..... یہ مضمون محض سابقہ تعارف یا مرزا کی حوصلہ افزائی کے لئے لکھا گیا تھا۔ پوری واقفیت سے نہ لکھا گیا تھا۔ جیسا کہ خود بیٹا لوی صاحب لکھتے ہیں کہ: ”جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا آپ کا ایسا وصف لازم بن گیا ہے۔ گویا وہ آپ کی سرشت کا ایک جز ہے۔ زمانہ تالیف براہین احمدیہ کے پہلے آپ کی سوانح عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا۔ مگر زمانہ تصنیف براہین سے جو جھوٹ بولنا دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا۔“ (رسالہ اشاعت السنہ نمبر ج ۵ ص ۸، ۱۸۹۲ء)

نیز مرزا قادیانی نے جو بیٹا لوی صاحب کا تبصرہ بایں الفاظ نقل کیا ہے کہ: ”زمانہ تالیف براہین احمدیہ کے پہلے آپ کی سوانح عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا تھا۔ مگر زمانہ تالیف براہین احمدیہ سے جو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے..... علی الخصوص ۱۸۹۰ء سے جب سے آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مشتہر کیا ہے..... آپ کا یہی حال ہے۔“

(آئینہ کمالات ص ۳۱۱، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

۲..... علاوہ ازیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے پہلے چراغ دین جنونی کی تحریر کو بہت سراہا اور اس کے طبع کی اجازت دے دی۔ مگر بعد میں جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”اور میں نے سرسری طور پر کچھ حصہ ان کا سنا تھا اور قابل اعتراض حصہ ابھی سنا نہیں گیا تھا۔ اس لئے میں نے اجازت دے دی تھی کہ اس کے چھپنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مگر افسوس کہ خطرناک لفظ اور بیہودہ دعویٰ جو کہ اس کے حاشیہ میں ہے۔ اس کو میں کثرت لوگوں اور دوسرے خیالات کی وجہ سے سن نہ سکا اور محض نیک ظنی سے ان کو چھپنے کے لئے اجازت دے دی۔“ (دافع البلاء ص ۱۹، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۹)

۳..... پھر آگے مزید لکھا ہے کہ: ”افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلیٰ سے ہمارے سچے انصار کی ہتک کی اور عیسائیوں کے بدبودار مذہب کے مقابل پر اسلام کو برابر درجہ کا مذہب سمجھ لیا۔ سو ہم کو ایسے شخص کی کچھ پرواہ نہیں۔ ایسے لوگ ہمارا کچھ بھی لگاؤ نہیں رکھتے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ ایسے انسان سے قطعاً پرہیز کریں، اس کی تحریروں سے ہمیں پوری واقفیت نہ تھی۔ اس لئے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تحریروں کو چاک کرنا چاہئے۔“

(دافع البلاء ص ۲۲، خزائن ج ۱۹ ص ۲۴۲)



اس کے متعلق اس اقتباس کے سابق ولاحق میں مزید بھی اس کی تنقیص کی ہے۔ تاکہ اجازت طبع کے اثرات کا ازالہ ہو سکے۔ یہی حساب مولانا بٹالویؒ کی تحسین کا بھی لگایا جائے کہ یہ ناقابل اعتبار ہے۔ جیسے جمونی کی تحسین مرزائیوں کے ہاں ناقابل اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی نے ایک اور شخص ڈاکٹر عبدالحکیم کے متعلق بھی یہی رویہ اپنایا ہے۔ پہلے تو اس کی لکھی ہوئی تفسیر کو خوب داد دی کہ یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان ہے، نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں، دل سے نکلی ہے اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ پھر اس کے برعکس دوسرے مقام پر یوں لکھا کہ: ”ڈاکٹر عبدالحکیم کا تقویٰ صحیح ہوتا تو کبھی تفسیر لکھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ہی ظاہری علم کا کچھ حصہ ہے۔“

ناظرین کرام! جیسے مرزا نے خود حسن ظن کے طور پر سرسری طور پر جمونی اور عبدالحکیم کی تحریرات کو اجمالاً دیکھ کر ان کی مدح و توصیف کر دی۔ بعد میں بغور اور تفصیلی علم ہو جانے پر ان کی سخت تنقیص اور توہین کرنے لگے۔ ایسے ہی مولانا محمد حسین بٹالویؒ کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے۔ قادیانیوں کو ان کی تحسین سے خوش نہ ہونا چاہئے ورنہ ان دونوں کی تحریرات بھی حجت سمجھیں۔ جن کی مرزا قادیانی نے تحسین کی ہے۔ جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ جب کہ مرزا ملہم ہے اور بٹالوی صاحب غیر ملہم۔

۴..... نیز مرزا قادیانی کے ہم مجلس لوگ مرزا کے حق میں یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ: ”مرزا قادیانی (نفس پرست ہے، فاسق ہے، فاجر ہے..... بد اخلاق، شہرت کا خواہاں، شکم پرور ہے..... کم بخت، کمانے سے عار رکھنے والا، مکر اور فریب اور جھوٹ میں مشاق..... اور جھوٹ بولنے والا ہے۔ مرزا کی جماعت کے لوگ بد معاش بد چلن لوگ ہیں کہ ہم نے پندرہ سال تک متواتر پہلو بہ پہلو ایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے حال پر غور کیا تو اتنی غور کے بعد ہمیں یہی معلوم ہوا کہ یہ شخص درحقیقت مکار، خود غرض، عشرت پسند، بد زبان وغیرہ وغیرہ ہے۔“ دیکھئے مرزا قادیانی کی ذاتی کتاب:

(تمیز حقیقت الوجہ ص ۱۵۲، ۱۵۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۹۰، ۵۹۱)

مرزا قادیانی نے یہ تحریر آ رہے کے اخبار شہر چٹنگ کے مختلف پرچوں سے اخذ کر کے لکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ ہے مرزا قادیانی کے ہم وطن اور حالات کے ذاتی طور پر دیکھنے والوں کا تبصرہ واقعہ، جناب مرزا قادیانی جب گمنامی کے خول سے نکل کر پبلک سطح پر نمودار ہوا تو اس کے کریکٹر و کردار کی تصویر کشی پر از حقیقت یہی واضح ہوئی کہ یہ صاحب نہایت شاطر و مکار، دھوکہ باز اور پرلے درجہ کا نوسر باز آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلی کتاب براہین کے بارے

میں لوگوں سے پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ کر کے رقم پیشگی وصول کر کے خوب لوٹا۔ پھر اس نے پچاس جلدوں کی بجائے صرف پانچ ہی پرٹر خادیا اور لوگوں کے مطالبہ پر یہ مکاری اور نو سر بازی کی اعلان کر دیا کہ: ”پہلے براہین کے پچاس حصے لکھنے کا وعدہ تھا۔ مگر پانچ ہی پر اکتفاء کی جاتی ہے۔ کیونکہ پچاس اور پانچ میں صرف صفر کا فرق ہے۔ لہذا پانچ سے پچاس کا وعدہ پورا ہو گیا۔“

(براہین پنجم ص ۷، خزائن ج ۲۱ ص ۹)

یہ ہے مرزا قادیانی کی سابقہ نہیں بلکہ دور رسالت والہام کی کیفیت، اور سنئے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ کا ڈرامہ۔

مرزا قادیانی نے ترنگ میں آ کر اعلان کیا کہ میں ایک کتاب پچاس حصوں پر مشتمل لکھوں گا۔ جس میں اسلام کی حقانیت کے تین سوز بردست دلائل درج کروں گا۔ لیکن جب یہ کتاب شروع کی تو سبحان اللہ پہلا حصہ تو چوب قلم سے اشتہار پر ہی پورا ہو گیا۔ پھر مختصر سا دوسرا حصہ مرتب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشگی قیمت کی صورت میں رقم بنور نے کا زور شور سے خوب بندوبست کیا کہ کتاب کی قیمت ۱۰ روپے رکھی۔ پھر پچیس روپے کا اعلان کر دیا۔ نیز صرف قیمت ہی نہیں بلکہ اعلان کیا اہل ثروت اصحاب زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ جس پر جناب مرزا قادیانی کی جھولی میں بواسطہ ٹیچی و خیراتی وغیرہ کافی رقم جمع ہو گئی۔ حالانکہ پیشگی قیمتیں لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اس کتاب پر کل خرچہ صرف ۹ ہزار روپیہ آتا تھا اور مرزا قادیانی کی جائیداد دس ہزار روپیہ تھی۔

ادھر مرزا قادیانی اتنے فیاض تھے کہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی جائیداد دس ہزار روپیہ پر قبض و دخل دے دوں گا۔ (براہین ص ۲۶، خزائن ج ۱ ص ۲۸) مگر کتاب کے لئے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہ تین سو دلائل لکھنے کا وعدہ فرمایا۔ مگر صرف دو قسم کی دلیلوں پر اکتفاء کر لیا۔

چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیقت اسلام کے لئے تین سو دلیل براہین احمدیہ میں لکھوں۔ لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔“ (دیباچہ براہین ص ۵، خزائن ج ۲۱ ص ۶) دراصل مرزا قادیانی کے دانے بھی مک گئے تھے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ جس کتاب کو پچاس جلدوں میں شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی پیشگی قیمت بھی بڑھ چڑھ کر وصول کر لی۔ مگر جب چند ہی قدم چلے تو دانے ختم ہوتے نظر آئے،

جوش مدہم پڑ گیا تو لگے اختصار کا راستہ ڈھونڈنے کہ اتنی طوالت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو اس اختصار میں بھی کافی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو برائے نام چار حصے لکھے، وہ بھی مانگ تا نگ کر پورے کئے۔ اپنے اندر اتنی سکت کہاں تھی۔ خود تو آنجناب نیم ملاحظہ ایمان کے مصداق تھے، پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کی زبانی سنئے: ”پھر تخمینہ ۲۳ سال تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا..... اور بہت سے لوگ جو اس کتاب کے خریدار تھے۔ اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے گزر گئے۔“ (دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲، خزائن ج ۲۱ ص ۳)

عوام الناس تاخیر اور ٹال مٹول کی وجہ سے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے اور اس میں وہ حق بجانب بھی تھے۔ آخر ۲۳ سال گوریلع صدی کا عرصہ کون انتظار کر سکتا ہے؟ اس پر مرزا قادیانی تو خریداروں کو ٹالتے ہی رہے۔ کبھی اپنی طرف سے اور کبھی وحی والہام کے زور سے مگر لوگ نہ ٹلنے تھے نہ ٹلے۔ جس پر مرزا قادیانی تو ٹھنڈے ڈھیٹ بنے رہے۔ لیکن نور دین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے از خود اجازت طلب کی کہ: ”اگر خریدار براہین توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنیٰ خدمت بجالاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔“ (فتح اسلام ص ۶۱، خزائن ج ۳ ص ۳۶)

مرزا قادیانی جب اس کے مجیب کو دس ہزار دینے کے لئے مضطرب تھے (خزائن ص ۳۸) تو اس کی طباعت پر خرچ کیوں نہ کر سکے؟ آخر غیرت دینی بھی کوئی شے ہے۔ یہ نہ کر سکے تھے تو کسی سے قرضہ حسنہ لے کر ہی براہین طبع کرا لیتے، پھر فروخت کر کے رقم دے دیتے۔ اتنی لمبی چوڑی اشتہار بازی کی کیا ضرورت تھی کہ جس کے نتیجہ میں خریداروں کو اتنی زحمت برداشت کرنی پڑی اور مرزا قادیانی کو بھی اتنا کچھ سننا پڑا۔ آخر کئی افراد کو مجبوراً رقم واپس بھی کرنا پڑی۔ دریں صورت دینی حمایت بھی زندہ رہتی اگر واقعی مرزا قادیانی اس میں مخلص تھے۔ جس کا اظہار یوں کیا ہے کہ: ”یہ کچھ تجارت کا معاملہ نہیں اور مؤلف کو بجز تائید دین کے کسی کے مال سے کچھ غرض نہیں۔“ (براہین ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۶۹)

اس اظہار کے بعد بھی مرزا قادیانی نے لوگوں کی رقوم واپس نہیں کیں اور نہ ہی نور دین کو واپس کرنے کی اجازت دی تو پھر ہم اس کے سوا کیا گمان کر سکتے ہیں کہ یہ سب معاملہ محض شکم پروری اور حرص زر کی تکمیل تھی۔ لوگوں کے اموال پر محض ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ کوئی تقویٰ، تائید دین اور خلوص نہ تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد بھی جناب آنجنابی کی زندگی اسی جوڑ توڑ، مکر و فریب، حیلہ سازی، لوٹ کھسوٹ اور نفسانی محاذ آرائی میں گذری۔ آنجناب سلطان محمد،

مولانا ثناء اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی، ڈاکٹر عبد الحکیم، محمد بیگم و بد اللہ آتھم وغیرہ سے مقابلہ کر کے ٹیل ہی ہوئے۔ پھر آخر میں اپنی ہی دعاء سے ۱۹۰۸ء میں عالم رنگ و بو سے ناکام چل بسا۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی زندگی۔ جس کو وہ ”لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ“ کہہ کر پیش کر رہا ہے۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ نام نہند زنگی را کافور۔

اللہ تعالیٰ ایسے مکاروں اور ابلیس سرشتوں سے ہر فرد انسان کو محفوظ رکھے، آمین!

### چھٹا معیار، تناقضات مرزا

جناب مرزا قادیانی اس مسئلہ میں خود لکھتے ہیں کہ: ”اگر میری باتیں اللہ کی طرف سے نہ ہوتیں تو ان میں تناقضات و اختلافات ہوتے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸، ۱۰۹) یہ اصول واقعی درست ہے۔ کیونکہ خدائی فرمان ہے: ”لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیراً“ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔

اب اس معیار پر جب مرزا قادیانی کو آزمایا جاتا ہے تو آنجناب خود ہی گھبرا کر اس کا اقرار کر لیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہو گیا؟ سو اس بات کو توجہ کر کے سمجھ لو کہ یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین میں نے یہ لکھا تھا..... اس تناقض کا سبب بھی یہی تھا۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۸، ۱۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲، ۱۵۳)

ملاحظہ فرمائیے! جناب مرزا قادیانی نے اپنی تحریر میں تناقض کا وقوع کھلے بندوں خود تسلیم کر لیا ہے۔ مزید سنئے لکھتے ہیں کہ:

۲..... ”ان دونوں تناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا..... اس لئے میں نے ان تناقض باتوں کو براہین میں جمع کر دیا۔“ (ضمیمہ نزول مسیح ص ۸، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۴)

۳..... ”میرا اپنا عقیدہ جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھا، ان الہامات کی منشاء سے جو براہین احمدیہ میں درج ہے، صریح نقیض میں پڑا ہوا ہے۔“

(ایام الصلح ص ۴۲، خزائن ج ۱۳ ص ۲۷۲)

### مرزا قادیانی کا فتویٰ دربارہ تناقض الکلام

۱..... ”پرلے درجے کا جاہل جو اپنے کلام میں تناقض بیانوں کو جمع کرے اور

اس پر اطلاع نہ رکھے۔“ (ست بچن ص ۲۹، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۱)

۲..... نیز لکھا کہ: ”کسی سچیار اور عقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔“ (ست بچن ص ۳۰، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۲)

۳..... نیز لکھا کہ: ”ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں۔“

کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“ (ست بچن ص ۳۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۳)

۴..... ”بلکہ سراسیمہ اور مخبوط الحواس آدمی کی طرح ایسی تقریر بے بنیاد اور

متناقض ہے۔“ (براین ص ۲۲۵، خزائن ج ۱ ص ۵۰۸)

۵..... ”اور جھوٹے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔“

(ضمیمہ براین احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵)

۶..... ”قل لو كان الامر من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

كثيرا“ (ازالہ اوہام ص ۷۵، خزائن ج ۳ ص ۱۳۹)

۷..... ”اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا

تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۱)

۸..... ”تلك كلم متها فته متناقضة لا ينطق بها الا الذي ضلت

حواسه وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين“

(انجام آقہم ص ۸۳، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا متعدد حوالہ جات سے آپ مرزا قادیانی کے تناقض کو

خوب سمجھ چکے ہوں گے اور اس کا حکم اور نتیجہ بھی خود آغجناب کی زبان سے سن چکے ہیں کہ جو شخص

خود ایک ضابطہ صداقت مرتب کرے اور پھر خود ہی اپنے آپ کا اس کے خلاف ہونا بھی تسلیم

کر لے تو پھر اس کی شناخت کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں رہ جاتا۔ ہذا ہوا المراد والمرام! لہذا ہم اس

ضابطہ کے تحت تمام قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ محض خدا کے لئے اور اپنی عاقبت کے

پیش نظر سوچیں کہ اتنی وضاحت کے بعد ان کے لئے دائرہ مرزائیت میں رہنے کا کوئی جواز

ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ضابطہ نہیں بنایا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے

پیش کیا ہے کہ متناقض کلام کسی مخبوط الحواس، مجنون، پاگل، کذاب وغیرہ کا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ

کسی خدا پرست، سچیار اور صحیح الدماغ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ اسے خدائی یا الہامی

کلام قرار دے کر اسے مدار نجات انسانیت قرار دیا جائے۔

اور سنئے مرزا قادیانی نے صاف لکھا ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحہ کے لئے بھی رہنے نہیں دیتا۔“ (نور الحق ص ۸ آخر، خزائن ج ۸ ص ۲۷۲)

فرمائیے کہ مرزا قادیانی ۱۲ سال تک سابقہ غلطی پر رہے یا نہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سارا افسانہ مرزا قادیانی کا اپنا من گھڑت ہے۔ کوئی وحی کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف پیٹ پوجا کا چکر ہے۔ تاکہ نور دین حکیم کے ساتھ خوب غبر و مشک اور یا تو تیتوں کے مزے آئیں اور ان کے نتیجے سے بھی لطف اٹھائیں۔

ساتواں معیار، نبوت کی غرض و غایت

اس سلسلہ میں جناب آنجنابی تحریر کرتے ہیں کہ:

۱..... ”جب علت غائی رسالت اور پیغمبری کی عقائد حقہ اور اعمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں تو ان کی کون سن سکتا ہے اور کا ہے کوان کی بات میں اثر ہوگا۔“ (براہین احمدیہ ص ۱۰۵، خزائن ج ۱ ص ۹۵)

۲..... ”پس جب تک ایک نفس کو ہر قسم کی نالائق باتوں سے تنزہ تام حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدا نہیں کرتا اور اگر تنزہ تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا تو سارا جہاں نبی ہو جاتا۔“ (براہین احمدیہ ص ۱۰۶، خزائن ج ۱ ص ۹۶)

۳..... ”وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سچے اور پاک عقائد ہوں اور سچے مذہب پر ثابت اور مستقیم ہوں۔“ (براہین احمدیہ ص ۳۰۴ حاشیہ ۲، خزائن ج ۱ ص ۳۵۳)

۴..... ”ازاں جملہ ایک عصمت بھی ہے جس کو حفظ الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لغزش بھی ہو جائے تو رحمت الہی جلد تران کا تذکرہ کر لیتی ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۴۴۸، خزائن ج ۱ ص ۵۳۶)

مندرجہ بالا چاروں عبارات بغور ملاحظہ فرما کر خود فیصلہ فرمائیے کہ کیا مرزا قادیانی ان صفات سے کسی بھی درجہ پر متصف تھا؟ نہ اس کے عقائد درست تھے کہ مسئلہ ختم نبوت اور حیات مسیح میں باقرار خود مدتوں گمراہی میں رہا۔ نیز آنجناب کے نظریات اور تاثرات انہی مقدس انبیاء و رسل کے بارہ میں نہایت ناقص، منفی اور گمراہ کن ہیں۔ یہ صاحب خشت الہی اور تعلق مع اللہ سے قطعی محروم اور لاتعلق ہے۔ مقام نبوت تو بعید از وہم و گمان ہے۔ اس کا ذاتی اخلاق کردار انتہائی ڈاؤن تھا۔ یہ ظالم تو تمام عمر ”یشاقق الرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین“ کا پیکر اور

مصدق بنا رہا۔ حیات مسیح کے بارہ میں بارہ سال تک باوجودیکہ الہام الہی اس پر حقیقت واضح کرتا رہا۔ مگر یہ کچھ بھی نہ سمجھتا تھا۔ تو کیا ایسا ہونق عالم اور بدھومیوں معاذ اللہ مقام نبوت کا استحقاق رکھ سکتا ہے؟ جس کی ایک بات بھی دو ٹوک صاف اور غیر متناقض نہ ہو۔ وہ کیسے کسی منصب کا اہل ہوگا اور تو اور یہ تو بیس سال تک مقام نبوت کو نہ سمجھ سکا۔ (بقول مرزا محمود قادیانی) یہ بدھومیوں خصوص شریعت اور محاورہ ولغت میں بھی اپنی ٹانگ اڑاتا رہا۔ ان میں تبدیلی و ترمیم کا ارتکاب کرتا رہا۔ جس کی مثال کسی بھی نبی یا ملہم کے ہاں نہیں ملتی۔ ایسے فردیگانہ کو مقام انسانیت سے بھی ربط نہیں ہو سکتا۔ مقام مکالمت و مخاطبت الہیہ تو کہیں دور کی بات ہے۔ جو ملحد ہر موقع پر نصوص قرآنیہ میں تاویل و تحریف پر ہی جسارت کرتا رہا، جو ہر لحظہ ارشادات خاتم الانبیاء ﷺ کو ہی بازیچہ اطفال اور مضحکہ بنائے رکھے، ایسے عار انسانیت کو کسی منصب الہی سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟

علاوہ ازیں جو بنیادی احکام شرعیہ سے غافل رہے۔ ہمیشہ رخصت ہی پر کار بند رہنے کو کمال سمجھتا رہے۔ اسے مقام وحی والہام الہی سے کیا واسطہ؟ جس لایعقل کی معاشرتی اور معاملاتی زندگی بالکل ناقص اور داغدار ہو، اسے مقام مجددیت اور پیشوائی سے کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ سید دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ ایک مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ (اگرچہ ایسا ہونا نہ چاہئے) مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ (مکتوٰۃ) جب کہ مرزا قادیانی آنجہانی جامع صفات کل ہیں۔ بزدل بھی تھے کہ کبھی آسنے سامنے بات کی ہمت نہیں کی۔ غزوہ و جہاد تو نہایت دور کی بات تھی۔ مرزا قادیانی بخیل بھی پر لے درجے کے تھے کہ محض زبانی انعام کا اشتہار تو دے دیتے۔ مگر کبھی دینے کا ارادہ نہ کیا۔ باقی تیسرا وصف یعنی جھوٹ تو وہ ان کی روح رواں اور اوڑھنا بچھونا تھا۔ ایک دن بھی اس کے بغیر گزارا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ مختصر اور جامع طور پر قادیانیت کو سمجھنے کے لئے سورہ انعام کی آیت ۹۴ کی تلاوت فرمائیں۔ وہی اس دجالی فتنے کی مکمل تاریخ و انجام ہے۔

لہذا ایسے انسانی ڈھانچے سے کسی بھی صحیح نظریے یا کردار میں راہنمائی ناممکن ہے۔ لہذا جو کوئی مرزا قادیانی آنجہانی کے حوالہ سے کوئی نظریہ اختیار یا قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی محروم العقل والفہم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہر فرد بشر کو ایسے بہرہ و پیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین! اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے۔

آٹھواں معیار، دربارہ حیات و نزول مسیح

مرزا قادیانی نے براہین میں صاف اقرار کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ بعد میں اعجاز احمدی میں لکھا کہ مجھے وحی الہام بارہ برس تک مسیح موعود

بنائی رہی۔ مگر میں بے خبر رہا اور براہین میں ذکر کردہ رسمی عقیدہ پر قائم رہا۔ بارہ برس کے بعد مجھ پر اصل حقیقت کھول دی گئی کہ واقعی تو مسیح موعود ہے تو پھر اس نے ۱۸۹۱ء میں دعویٰ مسیحیت کیا۔ یاد رہے کہ ۱۸۸۴ء میں بارہ سال ملانے سے ۱۸۹۶ء بنتا ہے نہ کہ ۱۸۹۱ء۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو براہین کے زمانہ میں یہی معلوم تھا کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام ہی نزول فرمائیں گے۔ مگر اس کے بعد ایک جگہ لکھا کہ میں نے دس سال تک اسے چھپائے رکھا۔ ”ولکن اخفیته“

(آئینہ کمالات ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

اب بتلائیے اس کی کسی بات کا اعتبار کیا جاوے۔ کیونکہ ایک بات کا معلوم نہ ہونا اور بات ہے اور کسی بات کا چھپائے رکھنا اور بات ہے۔ گویا دونوں حوالوں میں عدم علم اور علم کا تضاد ہے۔ یہی جناب آنجنابی کا وطرہ ہے کہ اس کی ہر بات تضاد کا شکار ہے۔ تناقص و تضاد سے خالی اس کا کوئی بھی نظریہ اور تحریر پیش نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ: ”پس تم مجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کو نہیں چھوڑا۔ جب تک خدا تعالیٰ نے روشن نشانوں اور کھلے کھلے البہاموں کے ساتھ نہیں چھڑایا۔“

(تمہ حقیقت الوحی ص ۱۶۲، ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۶۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ اپنے البہام پر قائم کیا تھا نہ کہ قرآن وحدیث کی نصوص پر۔ مگر اس کے خلاف یہ بھی لکھ دیا کہ: ”مصحفوت ہو گئے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی تمس آیات دلالت کر رہی ہیں۔ نیز اس پر تو تمام صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ لہذا ومن سوء الادب ان یقال ان عیسیٰ ما مات وان هو الا شرک عظیم!“ (الاستفتاء ص ۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۰)

نیز لکھا کہ: ”اتجدون فی کتاب اللہ نزول عیسیٰ بعد موتہ فما معنی فلما توفیتنی یا ذوی الحصاة“ (ضمیمہ حقیقت الوحی یعنی استفتاء ص ۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۶۳۵)

”کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر موت کے بعد ان کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پاسکتے ہو تو پھر ”فلما توفیتنی“ کا کیا معنی ہوگا؟“

یعنی جب قرآن مجید میں ان کی موت کا ہی ذکر ملتا ہے تو اس کے بعد ان کے نزول کا ذکر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہو جائے گلہ پھر سابقہ اقتباس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے محض اپنے البہامات کی بناء پر یہ عقیدہ بدلا ہے۔ مگر اس دوسرے اقتباس سے واضح ہوا کہ محض البہام سے نہیں بلکہ قرآن کی صریح نصوص (تمس آیات) اور اجماع صحابہؓ کی بناء پر یہ عقیدہ اختیار کیا ہے۔ فرمائیے کون سی بات درست ہوگی؟



## تیسری بات

.....۱ پہلے مرحلہ میں یہ ذات عجیب قرآن مجید کی آیات سے اور اتباع اہل ایمان کے حیات مسیح کا عقیدہ تسلیم کرتی رہی۔ نیز صحیح احادیث (سنی و شیعہ) اور جمیع کتب اہل تصوف وغیرہ کی اتباع میں بھی یہی حقیقت تھی۔ دیکھئے اس کی کتب:

(شہادت القرآن ص ۴، ۹، خزائن ج ۶ ص ۳۰۰، ۳۰۵، ازالہ ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰)

.....۲ دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کی تیس آیات اور اجماع صحابہؓ کی بناء پر وفات مسیح ثابت ہوئی۔ لہذا پھر اس عقیدہ کو اپنایا۔

.....۳ تیسرے مرحلہ میں یہ ظاہر کیا کہ یہ مسئلہ اور عقیدہ تمام امت سے مخفی رہا تھا۔ حتیٰ کہ اکابرین امت بھی اسی غلطی میں مبتلا تھے۔ مگر وہ معذور تھے۔ اب اس راز کو خدا نے صرف مجھ پر منکشف فرمایا ہے۔ دیکھئے اس کی کتب: (اتمام المجہد ص ۳، خزائن ج ۸ ص ۲۷۵، ضمیر حقیقت الوحی ص ۴۶، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۸، حیات البشر ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۱۹۱)

اب فرمائیے جو مسئلہ تیس آیات قرآنیہ سے ثابت ہوا، اس پر تمام صحابہؓ کا واضح اجماع ہو چکا ہے۔ وہ ایک راز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمام امت مسلمہ سے مخفی کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ہے اس دجال و کذاب کا رویہ کہ بات کو واضح نہیں کر سکتا۔ محض چکر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز ہر بات میں کئی کئی پہلو اختیار کرتا رہتا ہے جو کہ صریحاً ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ دریں صورت اسے ایک فریب کار، مکار اور نوسر باز تو تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ مگر کسی بھی سچے منصب (مسیح یا مہدی وغیرہ) کا اہل تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے مزید کئی تناقض بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اختصار کے پیش نظر اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

نواں معیار، انبیاء کسی کے شاگرد نہیں ہوتے

اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”انبیاء علیہم السلام تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔“

(براہین احمدیہ ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۶)

اس کے برخلاف اپنے متعلق لکھا ہے کہ:

.....۱ ”چونکہ میں نے یونانی طبابت کی کتابیں سبقاً سبقاً پڑھی تھیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۳۴، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۵)

۲..... ”جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا۔“

(براہین احمدیہ ص ۲۳۹ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۲۷۵)

۳..... ”مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی کہ جو کسی زمانہ میں اس عاجز کے ہم مکتب

بھی تھے۔“ (براہین احمدیہ ص ۵۲۰ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۲۱)

۴..... ”قرات قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف

والنحو وعدة من العلوم تعميقية وشيئة يسيراً من كتب الطب..... وكذلك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبلى“

(آئینہ کمالات ص ۵۳۵، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

۵..... ”جبکہ ہم قطبی و شرح ملا پڑھتے تھے۔ ہمارے ہم مکتب اس زمانہ سے آج

تک ہم میں ان میں خط و کتابت..... جاری ہے۔“

(شہادت القرآن کا اشتہار ملحقہ پولیٹیکل نکتہ چینی کا جواب ص ۸۸، خزائن ج ۶ ص ۳۸۴)

۶..... ”میر استاذ مولوی فضل احمد“ (ازالہ اوہام ص ۸۷۸، خزائن ج ۳ ص ۵۷۹)

۷..... ”میرے استاذ ایک بزرگ شیعہ تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ وبا کا علاج فقط

تولا تیری ہے۔“ (دافع البلاء ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۳)

ف..... میرے خیال میں اسی رافضی استاد کی صحبت کا اثر تھا کہ یہ ہونہار شاگرد بھی

ہمہ وقت تمبر بازی کرتا رہتا تھا۔

۸..... مرزا غلام احمد نے سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران کسی انگریزی دان

سے انگریزی بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر بوجہ غبی ہونے کے چل نہ سکا، اسی لئے مختاری کے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تھا۔

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۵۶، روایت نمبر ۱۵۰)

مندرجہ بالا اساتذہ کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے مزید استاذ اس کی سوانح عمری میں

مندرج ہیں۔ جن کی مکمل فہرست یہ ہے۔

۱..... مولوی فضل احمد۔ ۲..... میاں فضل الہی۔

۳..... گل علی شاہ شیعہ۔ ۴..... خود مرزا کا والد غلام مرتضیٰ وغیرہ۔

لہذا اس تعلیم و تعلم کے سلسلہ کی صورت میں بھی جناب قادیانی نبی نہ ہوئے۔ کیونکہ اس

نے خود ہی یہ قانون بنایا کہ ان کا معلم خود خدا ہوتا ہے۔

(براہین ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۶)

تو جب مرزا قادیانی کے اتنے استاذ برآمد ہو گئے تو یہ بقول خود بھی اس مقام کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی نے اگرچہ اس موقع پر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توراۃ ایک یہودی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھی۔ مگر یہ بات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ (کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے کہ: ”اذ علمتک الکتاب“) نیز بصورت تسلیم مرزا قادیانی کا مندرجہ بالا اصول غلط ہو جائے گا۔ نیز بصورت تعلیم مسیح علیہ السلام آپ کی نبوت کا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہذا ان تمام حوادث سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرزا قادیانی سے جان چھڑائی جائے اور اسے کوئی بھی منصب نہ دیا جائے تو پھر سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اللہ اللہ تے خیر سلا!

- ۱..... کیونکہ نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی یہودی سے تورات پڑھی۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا معلم خود خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ خود رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ دیکھئے فرمان الہی ہے کہ: ”واذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل (المائدہ: ۱۱۰)“ اور جب کہ میں نے تجھے کتاب وحکمت اور توراۃ وانجیل کی تعلیم دی۔ ﴿ملاحظہ فرمائیے! قادیانی کا افتراء اور توہین مسیح علیہ السلام کا انداز جو سراسر نص قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ بتائیے کیا نبی اور مجدد و ملہم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جو قرآنی نصوص کے خلاف بیان کریں اور اس کے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی کردار کشی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! ۲..... اس بناء پر مرزا قادیانی کسی بھی منصب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ۳..... نیز انبیاء کرام علیہم السلام کا تقدس و عظمت بھی بحال رہتی ہے۔ ۴..... مسئلہ ختم نبوت بھی درست رہتا ہے۔ لہذا اس قادیانی سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہی ضروری ہے۔

### معیار نبوت

کہ نبی اپنی تعلیم اور دعویٰ میں غلطی نہیں کرتا۔ چنانچہ آنجمنانی لکھتا ہے کہ: ”اصل بات یہ ہے کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ دلائل تو آفتاب کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تواتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیہی ہو جاتا ہے..... پس ایسا ہی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعویٰ کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر تواتر ہوتا ہے جس میں کچھ شک باقی نہیں رہتا۔ بعض جزوی

امور جو اہم مقاصد میں سے نہیں ہوتے، ان کو نظر کشفی دور سے دیکھتی ہے۔ ان میں کچھ تو اتر نہیں ہوتا۔ اس لئے کبھی ان کی تشخیص میں دھوکا بھی کھالیتی ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۵)  
 پھر مرزا قادیانی اپنے بارہ میں خصوصاً لکھتے ہیں کہ: ”ان اللہ لا یتارکنی علی خطا طرفہ عین و یعصمنی من کل مین و یحفظنی من سبل الشیطان“

(نور الحق ص ۸۶، خزائن ج ۸ ص ۲۷۲)

”بے شک اللہ مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھر بھی باقی نہیں رہنے دیتا اور مجھے ہر غلط اور جھوٹ سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ نیز شیطانی راستوں سے میری حفاظت فرماتا ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے! جناب قادیانی، انبیاء علیہم السلام کے صدق کو کس اعلیٰ معیار پر بالخصوص اپنے صدق کو واضح فرما رہے ہیں۔ مگر افسوس اور صد افسوس یہ صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ عملی طور پر جناب قادیانی اس پر ایک فیصد بھی فٹ نہیں ہوتے۔ کیونکہ آنجناب اپنی مرکزی اور بنیادی بات یعنی حیات مسیح کے بارہ میں ہی ایک لمحہ نہیں ایک گھنٹہ نہیں ایک دن یا ماہ نہیں سال نہیں بلکہ پورے بارہ سال تک غلطی پراڑے نہیں بلکہ ڈٹے رہے۔ اس عقیدہ کو بحوالہ آیات قرآنیہ اور ذخیرہ احادیث اور کتب تصوف وغیرہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ بتاتے رہے۔ چنانچہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ: ”پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے شہود سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے اس رسمی عقیدہ پر جما رہا۔ جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئی۔ ورنہ میرے مخالف بتلادیں کہ میں نے باوجود یہ کہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنایا گیا۔ بارہ برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا۔“

(اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳، ۱۱۴، مطبوعہ ۱۹۰۲ء)  
 تبصرہ: جناب قادیانی یہ کیوں کیوں کی گردان نہ سنائیے۔ بلکہ اپنے بیان کردہ معیار کے پیش نظر جواب دیجئے کہ جب نبی کو اپنی وحی پر کامل ترین یقین ہوتا ہے تو تجھے کیوں یقین نہ آیا۔ جب کہ یہ مسئلہ بھی تیری تعلیم کا بنیادی حصہ تھا۔ جزوی یا غیر اہم نہ تھا۔ وہ بھی بارہ سال تک، جب تجھے اپنی وحی پر مثل قرآن پختہ یقین تھا اور اگر تو ایک دم بھی شک کرتا تو کافر ہو جاتا۔

(تجلیات الہیہ ص ۲۰، خزائن ج ۲۰ ص ۴۱۲)

تو پھر تو بارہ سال تک کیوں کافر بنا رہا۔ جب تجھے خدا تعالیٰ ایک لمحہ بھی غلطی پر باقی

نہیں رہنے دیتا تو اس نے بارہ سال تک تجھے کیوں گمراہی کی دلدل میں پھینک رکھا؟ (معلوم ہوا کہ تیرا اراچکر ہی ابلیسی ہے)

انبیاء عظام علیہم السلام تو خدائی تعلیم کے مطابق صحیح اور واقعی عقائد پر ہوتے ہیں۔ تو کیوں بارہ سال تک رسمی عقیدہ پر ڈٹا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تیری راہنمائی کیوں نہ فرمائی۔ یا تو ہی وحی الہی کو نالتا رہا۔ دونوں حالتوں میں تو کذاب و دجال بنتا ہے۔ تیری صداقت کا ذرہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کمال ہے کہ خدا کی وحی تجھے براہین میں متنبہ کرتی ہے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ مگر تو ایسا لایعقل اور بدھو ہے کہ بڑے اعتماد سے قرآنی آیات کے حوالہ سے اس کے خلاف مسیح کے جسمانی نزول کا عقیدہ بار بار درج کرتا رہا۔ غرضیکہ تو ہر حالت میں نا اہل، نالائق، بدھو اور احمق ہی قرار پائے گا، تیرا کوئی بھی پہلو درست نہیں ہو سکتا۔

گیا رہو اں میعار، قادیانی مباہلہ اور ان کا انجام

قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کئی مباہلے کئے جن میں وہ کامیاب رہا۔  
الجواب: مرزا قادیانی کے مباہلہ کے بارہ میں جو شرائط اس نے خود لگائی ہیں۔ وہ اس کے کسی بھی مباہلہ میں ظاہر نہیں ہونیں۔ لہذا قادیانی اپنے کسی بھی مباہلہ کو اپنی صداقت کے لئے پیش نہیں کر سکتا۔

مباہلہ کے لئے قادیانی شرائط

جناب قادیانی لکھتا ہے کہ:

..... ”میں بھی یہ شرط کرتا ہوں کہ میری دعاء کا اثر صرف اسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کسی بلا میں گرفتار ہو جاویں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تئیں کاذب سمجھوں گا۔ اگرچہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار..... میرے مباہلہ میں یہ شرط بھی ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دس آدمی حاضر ہوں۔ اس سے کم نہ ہوں۔“ (انجام آتھم ص ۶۷، خزائن ج ۱۱ ص ۶۷)

..... ۲ ”مگر یہ شرط ضرور ہے کہ جو الہامات میں نے رسالہ (انجام آتھم ص ۵۱ تا ص ۶۲) تک لکھے ہیں۔ وہ کل الہامات اپنے اشتہار مباہلہ میں لکھے اور محض حوالہ نہ دے۔ بلکہ کل الہامات مندرجہ صفحات مذکورہ کی نقل اشتہار میں درج کرے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۷)

۳..... ”یہ بھی یاد رہے کہ اصل مسنون طریقہ مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو اور اس کو کاذب اور کافر ٹھہرائیں، وہ جماعت مباہلین کی ہو۔ صرف ایک دو آدمی نہ ہوں۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۵، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱۹)

۴..... ”اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور پھر کسی دوسرے وقت میں مباہلہ کی درخواست بھیجے تو ایسی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۶، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۰)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن شرائط کا تذکرہ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ کیا وہ شرائط اس کے مباہلات میں پائی گئیں؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ شرائط نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی اور اس کی ذریت باطلہ کس طرح ان کو اپنی حقانیت کی دلیل بنا سکتے ہیں۔ جب وہ شرائط ہی نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ میرے مباہلہ کے اثرات سے مرے۔

وہ حضرات جن کو مرزا قادیانی اپنے مباہلہ کا شکار قرار دیتا ہے: مولانا نذیر حسین دہلوی، مولوی اصغر علی، مولوی عبدالجید دہلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سعد اللہ لدھیانوی، مولوی محمد لدھیانوی، مولوی غلام رسول عرف رسل بابا، مولوی اسماعیل، مولوی شاہ دین، مولوی غلام دستگیر قصوری، لیکھرام وغیرہ۔

(حقیقت الوحی ص ۲۱۸، ۲۸۷، ۳۰۰، ۳۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۹، ۳۰۰، ۳۱۳، ۳۳۳، ۳۵۴، تہ حقیقت الوحی ص ۲۳)

اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی تکذیب کے لئے اس کا یہی اقرار کافی ہے کہ: ”ان لوگوں میں سے کوئی مباہلہ کے لئے نہیں آیا۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۰۰، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۳)

نیز یہی بات اس نے (انجام آتھم ص ۶۶) پر بھی لکھی ہے۔

تو جب بقول شامیری شرائط کے مطابق کوئی میدان مباہلہ ہی میں نہیں آیا تو پھر وہ تیرے مباہلہ کے شکار کیسے ہو گئے؟ جناب آنجہانی دریں صورت تیرا مباہلہ کو اپنی صداقت کے لئے پیش کرنا کس قدر دجل و فریب ہے۔ ”الا لعنة الله على الكاذبين“ نیز ان حضرات میں جو فوت ہوئے، وہ ان کی انفرادی موت تھی۔ اجتماعی نہ تھی۔ لہذا تو ان کی وفات کو اپنے صدق کی دلیل کیسے بنا سکتا ہے؟ پھر یہ افراد سال کے اندر اندر نہیں بلکہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے وقت پر دار آخرت کو سدھارے۔ لہذا ان حقائق کی موجودگی میں تو اپنا آلو کیسے سیدھا کر سکتا ہے؟ ہاں تم مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مقابلہ میں دعائے استفتاح کے نتیجہ میں ضرور مرے۔

## بار ہواں معیار

”یا نبی اللہ کنت لا اعرفک“ (الاستخاء ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۳)

یعنی الہام میں خدا مرزا قادیانی کو خطاب کر رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تجھے نہیں پہچانتا تھا۔ دیکھئے اس الہام میں کوئی تقدیر نہیں کہ اس کا قائل فلاں ہے فلاں ہے اور صرف عن الظاہر کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ اسے خدا نے صاف کہہ دیا کہ اے مرزا میں تو تجھے جانتا بھی نہیں کہ تو کہاں سے ٹپک پڑا؟ میں تو سلسلہ نبوت اپنے حبیب خاتم الانبیاء ﷺ پر ختم کر چکا ہوں۔ تو کہاں سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ لہذا ”انت کذاب دجال“

ایسے ہی مرزا قادیانی کو یہ الہام بھی ہوا کہ: ”لقد جئت شیئاً فریاً۔ ملکاً ابوک امر اسوء وما کانت امک بغیا“ (تذکرہ ص ۷۲)

”اے مرزا ابے تو ایک بہتان باندھ لایا۔ (کہ دعویٰ نبوت کر دیا) تیرا باپ ایسا برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ تو کس راستہ پر چل پڑا۔ وہ دونوں تو صحیح ختم نبوت کے قائل تھے۔“

ملاحظہ فرمائیے کہ اسے الہام میں کہا جا رہا ہے کہ اے مرزا تو بہت بڑا بہتان گھڑ لایا ہے۔ دعویٰ نبوت اور مسیحیت کرنے کی جرأت کر لی۔ تیرا خاندان سو برا سہی مگر اتنی خرابی اس میں نہ تھی۔ لہذا ”ومن اظلم ممن افتدی علی اللہ کذباً“ یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے ذمے جھوٹ لگائے کہ اس نے مرزا قادیانی کو مسیح بنایا، نبی بنایا، مجدد و مہدی بنایا۔ جب کہ اس نے اسے کچھ بھی نہ بنایا تھا۔

اس سلسلہ میں اب مرزا قادیانی کی ایک ذاتی تحریر سنئے لکھتے ہیں کہ: ”اگر ہم بے باک اور کذاب ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتراؤں سے نہ ڈریں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سور اچھے ہیں۔“ واقعی!

اب فیصلہ واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریرات سے وہ مفتری علی اللہ ثابت ہو گئے اور خدا کے فرمان کے تحت ظالم ترین اور اپنے فتویٰ کے مطابق کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کو کیا سمجھیں اور مرزا قادیانی کے پلے اب باقی رہ گیا ہے جو یہ قادیانی لئے بیٹھے ہیں۔ لہذا تمام قادیانیوں کو اس خناس اعظم سے جان چھڑالینا چاہئے۔ تاکہ وہ دونوں جہان کی رسوائیوں سے بچ سکیں۔ ”واللہ یهدی السبیل ویہدی الی طریق مستقیم“

تیرھواں معیار، صدق و کذب کا ایک عظیم برہان، مرزا قادیانی کی دعائے استفتاح اور اس کا انجام، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کے ساتھ

### مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ

مرزا قادیانی ساری زندگی مکرو فریب اور شاطرانہ چال بازیوں کے تانے بانے بنتا رہا۔ ہمیشہ حق کو چیلنج کرتا، دعوت مبارزت و مباہلہ دیتا۔ مگر حیلہ بہانہ سے سامنے آنے سے کئی کتر اجاتا۔ اسی بناء پر اس کے اکثر مباحثات تحریری ہیں، تقریری نہیں۔ مگر رب قدیر نے آخر میں اسے اپنے غضب و قہر کے شکنجے میں ایسا جکڑا کہ جس سے وہ نکل نہ سکا۔

ہوا یوں کہ مرزا قادیانی نے ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو اپنی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا کہ:

”بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی من اتبع الهدی“

مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تقسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ مردود، کذاب، دجال و مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ (یہ بھی جھوٹ ہے بلکہ تو ہمیشہ ترکی بہ ترکی ان کی توہین و تنقیص میں سرگرم رہا۔ ناقل) مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کو پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی۔ (یہ بھی غلط ہے، قرآن میں ہے: ”انما نعلی لهم لیزدا دوا اثما“) اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ (یہ بھی ضروری نہیں، دیکھئے مسیلہ کذاب رحلت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد ہلاک ہوا) اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ (بے شک ایسا ہی ہے) اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا



کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ (معلوم ہوا کہ یہ مباہلہ نہیں محض دعا ہے۔ جس کے لئے فریق ثانی کی منظوری یا نمانظوری ضروری نہیں) اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر و علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرتا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ (انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا اور ہوا) آمین! مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگتا ہے، حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین!..... اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مفسد اور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو، مبتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین! ”ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آمین!“ (مرزا قادیانی کے شائع کردہ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹)

تبصرہ و تجزیہ

ناظرین کرام! قادیانی کی یہ طویل تحریر بغور مطالعہ فرما کر فیصلہ کریں کہ آیا یہ مباہلہ ہے یا صرف دعا ایک طرف ہے۔ جس کے وقوع کے لئے فریق ثانی کی منظوری یا عدم منظوری کو کچھ دخل نہیں۔

..... پھر اس کے ایک طرفہ دعا ہونے کی تائید میں مرزا قادیانی نے آخر میں قرآن مجید کی ایک دعا بھی نقل کر دی۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہو کر خدا کے حضور پیش کی تھی اور وہ فریق مخالف یعنی کفار و منکرین کی منظوری یا عدم منظوری کی شرط کے بغیر ہی کامل طور پر وقوع پذیر ہو گئی۔ ان کے منکر و کذاب تباہ و برباد ہو گئے۔

.....۲ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے اور قوم کفار کے درمیان خدائی فیصلہ کے لئے دعا کی تھی۔ جس کا تذکرہ رب کریم اپنے کلام مجید میں یوں فرماتے ہیں۔

”قال رب ان قومى كذبون ، فافتح بينى وبينهم ، فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين (الشعراء: ۱۱۸، ۱۱۹)“ اے میرے مالک و مربی میری امت نے تو مجھے جھٹلادیا سو تو میرے اور ان کے درمیان سچا فیصلہ فرمادے۔ ﴿

دیکھئے مرزا قادیانی نے بھی بالکل یہی عنوان اختیار فرمایا ہے کہ اے اللہ، مجھے ثناء اللہ کذاب و دجال کہتا ہے۔ تو اگر میں ایسا ہی ہوں تو مجھے ہلاک کر دے ورنہ اسے ہلاک فرما۔ اب اس میں مخالفین نوح علیہ السلام سے منظوری کا کوئی مطالبہ نہ تھا کہ آیا تمہیں یہ طریق فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ بلکہ محض خدا کے حضور یک طرفہ دعاء ہے۔ جس کی منظوری کے متعلق ہر فرد بشر خوب جانتا ہے کہ منکرین ہلاک ہو گئے اور خدا کے برگزیدہ نبی علیہ السلام بخیر و سلامتی زندہ رہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اس طرز پر خدا سے فیصلہ طلب کیا، نہ کہ مباہلہ کی دعوت دی۔ (جس کے لئے فریقین کی منظوری اور حاضری ضروری ہے) تو اللہ تعالیٰ نے حسب خواہش قادیانی و اعدائے کذاب و دجال کو سچے کی زندگی میں اس کی منہ مانگی موت ہیضہ سے ہلاک کر دیا۔ بات تو بالکل واضح ہے مگر کچھ قادیانی افراد اس میں شیطانی تاویلیں کرتے رہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس کو منظور نہ کیا تھا۔ لہذا مرزا قادیانی کا مرنا فیصلہ نہیں۔ محض اتفاق ہے۔ حالانکہ مندرجہ بالا تفصیل سے ان کی اس تاویل کا باطل ہونا اظہر من الشمس ہے کہ مرزا و اعدائے اپنی دعاء کے نتیجہ میں منہ مانگی موت سے ہلاک ہوا ہے اور جناب مولانا ثناء اللہ اس کے بعد چالیس سال تک عیش و سکون کی زندگی گزار کر بلکہ قادیانی کو کذاب و دجال ثابت کر کے ۱۹۴۸ء میں خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ وہ اپنے اس مشن سے ذرہ پیچھے نہ گئے۔ بلکہ پہلے سے بڑھ کر اس محاذ پر قادیانیت کے پر نچے اڑاتے رہے۔

جب قادیانی بقول خود ہیضہ کی مہلک مرض سے ہلاک ہو کر اپنے کذاب و افتراء پر مہر تصدیق ثبت کر گیا۔ (دیکھئے مرزا کے خسر ناصر نواب کی کتاب حیات ناصرین ۱۴، مطبوعہ دسمبر ۱۹۴۷ء) اب قادیانی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس واضح خدائی فیصلہ کے بعد کچھ ہوش کریں کہ مرزا قادیانی کا کذب و افتراء تو سو فیصد ثابت ہو گیا تو تم کیوں اس منحوس کے دامن سے چٹے ہوئے ہو۔ تمہیں اپنی قبر اور حشر کی فکر نہیں؟

خدا را کچھ خیال کیجئے!! آخر ضد، ہٹ دھرمی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتنی ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہئے کہ انسان اپنی عاقبت کی بھی فکر نہ کرے اور ایک واضح اور ثابت شدہ کذاب و دجال

سے وابستہ رہ کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و تمیز سے نوازا ہے، تم کیوں اس دجال سے وابستہ رہنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو۔ الخذر الخذر!

بچے اور اپنی آل و اولاد کو بھی بچاؤ اس مکار و عیار سے۔ فرمان الہی ہے کہ: ”قُوا انفسکم واهلیکم ناراً (تحریم: ۶)“ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت اور صراطِ مستقیم سے نوازے آمین! ”اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسيح الدجال“

ف..... مرزا قادیانی کی یہ دعاء بطور فیصلہ کے تھی۔ اس میں فریقِ مخالف کی منظوری شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ بطور مثال قرآنی مثالیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اب اسی طرح خود مرزا قادیانی کی ذاتی تحریر سے بھی ثبوت لیجئے۔ جناب قادیانی مولوی غلام دستگیر قصوری کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”انہوں نے اپنی کتاب میں میرے حق میں بددعا کی تھی کہ اے اللہ مرزا اور اس کے قبیحین کو ہدایت دے، ورنہ تباہ و برباد کر دے تو اس کے نتیجہ میں وہ خود ہی مر گئے۔“

(نشان نمبر ۱۴۵، حقیقت الوحی ص ۳۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۲۴۳)

یہی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خدا سے یک طرفہ دعاء کی، تو خود ہی اس کے نتیجہ میں ہلاک ہو کر اپنے کذب پر مہر لگا دی۔

چودھواں معیار، تکمیل مشن

۱..... مرزا قادیانی نے کسی کی صداقت کی جو علامات لکھی ہیں۔ ان سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں دیتا۔ جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے۔ جس کے وہ بھیجے گئے ہیں اور جب تک پاک دلوں میں ان کی قبولیت نہ پھیل جائے۔ تب تک البتہ سفر آخرت ان کو پیش نہیں آتا۔ (ازالہ اوہام ص ۴۴۸، خزائن ج ۳ ص ۳۳۸، نمبر ۱۹)

۲..... نیز لکھا ہے کہ: ”وان الانبیاء لا ینقلون من هذه الدنیا الی دار الاخرة الا بعد تکمیل رسالات قد ارسلوا لتبلیغھا“

(حماتہ البشر ص ۴۹، خزائن ج ۷ ص ۲۴۳، اربعین نمبر ۲ ص ۵، خزائن ج ۱ ص ۴۳۴)

۳..... ”لیکن زیرک لوگ اس کو خوب جانتے ہیں کہ ایسے مامور من اللہ کی صداقت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت ممکن نہیں کہ جس خدمت کے لئے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بجالانے کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر وہ خدمت کو ایسی طرز پسندیدہ اور طریق برگزیدہ سے ادا کر دیوے جو دوسرے اس کے شریک نہ ہو سکیں تو یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں تھا۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۵۳، خزائن ج ۳ ص ۳۹۸)

اب ہم مندرجہ بالا معیار پر جب مرزا قادیانی کو پرکھتے ہیں تو ہمیں آنجہانی یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ: ”مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ طاعت اور تقویٰ کا حق بجا نہیں لاسکا جو میری مراد تھی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کر سکا جو میری تمنا تھی۔ میں اس درد کو ساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ کرنا چاہئے تھا، میں کر نہیں سکا..... مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۵۹، خزائن ج ۲۲ ص ۴۹۳)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جناب قادیانی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا۔ بلکہ ادھوری ہی چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو گیا۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار“

ف..... اس پتھارے نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی لکھ دیا کہ وہ انجیل کو ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے۔ (براہین ص ۳۶۱، خزائن ج ۱ ص ۴۳۱) کے اس اقتباس کے تحت تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی..... ”الا لعنة الله على الكاذبين“ مگر یہ بات نہیں۔ بلکہ مسیح اپنے مشن کی تکمیل کریں گے۔ کیونکہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ دوبارہ آکر تمام یہود و مسیح گمراہ عیسائیوں کے راہ راست پر لے آویں گے۔ گویا ان کا یہ نقصان مشن ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ورنہ ان کے سچے نبی ہونے میں تو مرزا قادیانی کو بھی شک نہ تھا۔

مزید سماعت فرمائیے۔ قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”میری صداقت اس سے معلوم کر لو کہ جس کام کے لئے میں آیا ہوں وہ پورا ہوا ہے یا نہ؟ اگر وہ غرض پوری نہ ہو تو خواہ میرے کروڑ نشان و معجزات ہوں، کوئی ان کا اعتبار نہیں۔“ (دیکھئے قادیانی اخبار بدر مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

اصل عبارت درج ذیل ہے۔ ”مگر باوجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود و مہدی معبود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

والسلام فقط غلام احمد!

(اخبار البدر ج ۲ نمبر ۲۹ جولائی ۱۹۰۶ء ص ۴، مکتوبات احمدیہ حصہ اول ج ۶ ص ۱۶۲)

## تبصرہ و تجزیہ

ناظرین کرام! آئیے مل کر ہم قادیانی کو اس معیار پر پرکھیں کہ کس صلیب سے کیا مراد ہے؟ اولہ تو حید کو واضح کرنا اور دلائل تثلیث کو باطل کرنا ہے یا کہ عیسائیوں کی تعداد کو کم کر کے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اگر مراد شق اول ہے تو جناب آنجنابی قادیانی اس میں سراسرنا کام اور جھوٹا ہے۔ اس لئے کہ اولہ تثلیث کو قرآن مجید نے پہلے ہی باطل کر کے دلائل تو حید خالص کو اظہر من الشمس کر دیا ہے اور بائبل کی رو سے یا عقلی طور پر دلائل تثلیث کو توڑنے کا نہایت بہترین کام حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ، سید آل حسنؒ و دیگر اکابرین امت اپنی تصانیف میں کر چکے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے مباحثات اور تحریرات تو عشر عشر بھی نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی تو خود انہیں بزرگوں کا خوشہ چھین ہے۔ نیز مختلف مباحث میں یہ نہایت ناکام رہا ہے۔ پادری آتھم کے مقابلہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ اناجیل سے نہایت سہولت سے ہو سکتا تھا۔ مگر یہ اپنے اعوان و انصار مثل نور دین وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی پندرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن کچھ نہ بنا۔ بالاخر ایک الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تمام تفصیل اس کی ذاتی کتاب جنگ مقدس سے معلوم ہو سکتی ہے۔

اگر مراد اس سے دوسری شق ہے کہ عیسائی شمار کم ہو جائے اور مسلمان بکثرت ہو جائیں تو اس شق میں مرزا قادیانی باقرار خود ہی نہایت ناکام ہوا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ:

.....۱ ”کلکتہ میں جو پادری ہیکٹر صاحب نے اندازہ کر شان شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس خبر ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کر شان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی، اب پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جو ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گیا۔“

(دیکھئے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ ص ۲۹، خزائن ج ۱ ص ۶۹)

یہ قادیانی کا کسر صلیب اور اشاعت و غلبہ اسلام کا منظر براہین کے وقت کا ہے۔ اس کے بعد مزید ملاحظہ فرمائیے قادیانی لکھتا ہے کہ:

.....۲ ”کیونکہ آنتیس لاکھ نو مرتد عیسائی پنجاب اور ہندوستان میں ظاہر ہو گیا۔“

(نزول مسیح ص ۲۹، خزائن ج ۱ ص ۱۸)

.....۳ ”اس ملک ہندوستان میں ۲۹ لاکھ انسان مرتد ہوا، عیسائی ہو گیا۔“

(ملفوظات ج ۳ ص ۴۳۰)

ملاحظہ فرمائیں جوں جوں دنیا میں مرزا قادیانی نے کام کیا اس کی تکذیب یعنی کثرت  
عیسائیاں مزید سے مزید ہو رہی ہے۔ کہاں وہ چند لاکھ اور کہاں آج کی مردم شماری جو صرف  
پاکستان میں پچاس ساٹھ لاکھ بتائی جاتی ہے اور عالمی سطح پر ان کی کثرت اور غلبہ شوکت تو نہایت  
قابل توجہ ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی کسر صلیب۔ نام نہند زنگی را کا فور!

پندرہواں معیار، تحریف قرآن

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”یونہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اپنے مطلب کے موافق  
ہمارا پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بدمعاش اور گندے کہلاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت ص ۱۹۵، خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴)

نیز لکھا کہ: ”سو قرآن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دجل  
ہے۔“

نیز قرآن مجید کا اعلان ہے کہ: ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ“ یعنی اس  
فحش سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے۔

نیز بقول مرزا قادیانی مفتری علی اللہ سوروں اور کتوں سے بھی بدتر ہے۔

(نشان آسانی ص ۲، خزائن ج ۳ ص ۳۶۲)

ناظرین کرام! آپ نے اقتباسات میں قادیانی کا یہ اعتراف اور فیصلہ سن لیا کہ خدا  
کے ذمے جھوٹ لگانے والا اور قرآن مجید میں تحریف اور من مانے مفہوم بتانے والا کتوں اور  
سوروں سے بدتر نیز وہ سخت بدمعاش اور غنڈہ قسم کا انسان ہے۔

اب آپ ذیل میں جناب قادیانی کے افتراء دجل و فریب اور تحریف قرآن کے صرف  
چند نمونے اور مظاہرے ملاحظہ فرمائیں۔

قادیانی افتراء

قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتا ہے کہ: ”اور اسی واقعہ کو بطور پیش گوئی کمال تصریح  
سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا  
مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ  
مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر  
وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارہ میں ہے جو قرآن شریف میں یعنی سورہ  
تحريم میں اس زمانہ سے تیرہ سو برس پہلے بیان کی گئی ہے۔“ (کشتی نوح ص ۳۵، ۳۶، خزائن ج ۱۹ ص ۳۹)

اب فرمائیے کیا وہاں اس قادیانی پیش گوئی کا کوئی اشارہ بھی ہے۔ بلکہ یہ تو مرزا قادیانی خود ہی آیت کے مفہوم کو توڑ موڑ کر اپنے نفسانی اور شیطانی مطلب کے موافق بنا رہا ہے اور خود اپنے فتویٰ کے مطابق کتوں اور سوروں سے بھی بدترین بن رہا ہے۔ دجل و افتراء کا ارتکاب کر کے نہایت بد معاش اور غنڈہ بن گیا ہے۔ کیونکہ آج تک کسی بھی محدث و مفسر نے یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔

اصل حقیقت سنئے: سورہ تحریم میں اصل حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے صرف کسی نسبت کے غیر موثر ہونے اور ذاتی عقیدہ و حسن کردار پر کامیابی کا انحصار بیان فرماتے ہوئے چار خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر دو ان خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کی نسبت تو نہایت اونچی تھی۔ مگر ذاتی نظریہ و کردار بالکل منفی تھا۔ یعنی حضرت نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویاں جو کہ ایمان و کردار صالح سے خالی تھیں تو فرمایا ان کو یہ پیغمبری کی نسبت کام نہ آئے گی۔ بلکہ ان کو ”قیل ادخلا النار مع الداخلین“ کا فرمان کبریاسنا دیا جائے گا۔

اور دوسرے نمبر پر دو ان خواتین کا تذکرہ فرمایا کہ جن میں سے اول الذکر یعنی فرعون کی اہلیہ آسیہ خاتون کی نسبت تو بالکل منفی تھی۔ مگر ان کا ایمان و کردار قابل رشک تھا۔ لہذا انہیں اسی دنیا میں دار آخرت کی بہترین زندگی کی بشارت سنائی گئی اور دوسرے نمبر پر حضرت مریم علیہا السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اعلیٰ کردار کی مالک تھیں۔ اس لئے یہ بھی سعادت دارین سے بہرہ ور ہوں گی اور نہایت صالح زمرہ میں شامل ہوں گی۔ بتلائیے یہاں قادیانی مفہوم کیسے ثابت ہو گیا کہ ایک مغل بچہ کو پہلے صفات مریمیت سے متصف کیا جائے گا۔ پھر اس میں عیسیٰ کی روح نفخ کی جائے گی۔ پھر اسے دس ماہ حمل رہے گا۔ یہ مفہوم کیسے بنے گا؟ کیا کسی حدیث میں ایسا مفہوم منقول ہے؟ کسی صحابی یا تابعی یا آئمہ، محدثین، مفسرین، مجددین و اولیائے کرام میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم ذکر کیا ہے؟ حالانکہ بقول مرزا قادیانی قرآن کو تحریف لفظی و تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔

(ایام اصلاح ص ۵۵، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۸)

مگر یہ قادیانی مفہوم تو ہمیں کسی بھی کونے کھدرے میں سوائے دجال گڑھ (قادیان) کے نظر نہیں آیا۔ نیز اگر تمہارا ہی یہ مفہوم ایک منٹ کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے تو فرمائیے اس سے پہلے ذکر کردہ تین خواتین کا مظہر کون ہوا اور کیسے ہوا؟ آخر ان چار میں سے صرف ایک خاتون کے ذکر کو اپنے حق میں پیش گوئی بنالینا کون سا انصاف ہے؟ کون سا ضابطہ تفسیر اور قرآن فہمی ہے؟

آخر اتنا دجل و فریب، غنڈہ گردی اور بد معاشی امت کیسے برداشت کر لے گی؟ لہذا ہم جناب آنجمنی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ انسان ہی رہتے تو اچھا تھا۔ اس آیت کے مفہوم کو بگاڑ کر کتے اور سور سے بدتر نہ بنے۔ اے کاش آپ یہ بد معاشی اور غنڈہ گردی نہ کرتے۔ کلام الہی میں یہ تحریف کر کے اس کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنے۔

اور سنئے، مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”ہم پوچھتے ہیں کہ پیش گوئی کے بیان کرنے سے کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ اس لئے بیان فرماتا ہے کہ انہیں پورا ہوتے دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں ترقی ہو۔ لیکن اس قسم کی پیش گوئیاں جو مصنف کتاب پیش کرتے ہیں، ایسا فائدہ نہیں دے سکتیں۔ کیونکہ ان کے پورا ہونے کو ان لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں۔ جن کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری ہوئیں اور اب ایک ہزار یا تیرہ سو سال بعد ایک شخص (مرزا قادیانی وغیرہ) کی سمجھ میں یہ بات آئی جو واقعات سے بھی بالکل بے خبر ہے۔ جو آیت ظالموں کی سزا کے لئے ہے، اسے معاویہؓ پر لگا دیا۔ کیونکہ آپ معاویہؓ کو چھان نہیں سمجھتے۔ لیکن کیا ان کو یقین ہے کہ حضرت معاویہؓ اس آیت کے واقعی مصداق تھے۔“

(قول مرزا منقول از ریویو آف ریڈیجنگ نمبر ۱۰، بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۲ء ص ۳۶۲)

ظاہر ہے کہ جناب مرزا قادیانی کسی شیعہ کو اس آیت کی تحریف کرنے میں اور اختراعی طور پر اس کو حضرت معاویہؓ پر فٹ کرنے کے جرم میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس نے بلا ثبوت اور سینہ زوری سے اس آیت کا مصداق حضرت الامیر مگر قورادے کر از کتاب ظلم کیا۔ اب اس معیار پر ہم بھی آیت تحریم کے سلسلہ میں دجل و تحریف کرنے کے جرم میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا واقعی یقین ہے کہ یہ آیت آپ جیسے جعلی مسیح کے لئے ہے۔ کیا واقعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی؟ لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ آپ واقعی پہلے مریم بن گئے۔ پھر آپ حاملہ ہو گئے اور لوگوں نے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کو متولد ہوتے دیکھا؟ کیونکہ جب تک یہ تمام منظر بقول شما لوگوں کے مشاہدہ میں نہ آئیں۔ اس وقت تک پیش گوئی کا کیا فائدہ؟ اور اس سے کیسے لوگوں کے یقین میں ترقی ہوگی؟ کیا اس مفہوم کو کسی اور مجدد و ملہم نے نقل کیا ہے؟

جب تک تم ان تمام امور کو ثابت نہ کرو گے۔ تمہارا یہ استدلال اور تمہارا مریم و عیسیٰ بننا محض ایک دھوکا اور ڈرامہ تو ہو سکتا ہے۔ مگر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔

قادیانی افتراء ۲

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”قرآن مجید کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے



ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو خدا بنانے کے موجد پہلے آریہ ورت کے برہمن ہی ہیں۔“

(ست بچن ص ۱۶۳، خزائن ج ۱۰ ص ۱۸۷)

اب قادیانی یا تو قرآن مجید کی ان آیات کا حوالہ دیں۔ جن میں یہ اشارات پائے جاتے ہیں۔ ورنہ تسلیم کر لیں کہ جناب مرزا قادیانی واقعی کتوں اور سوروں سے بدتر تھا اور پرلے درجے کا بد معاش اور غنڈہ تھا۔ امید ہے کہ ذی ہوش قادیانی ضرور قادیانیت پر تین حرف بھیج کر سیدھے سادھے دین اسلام میں آجائیں گے۔

قادیانی افتراء علی اللہ کی مثال ۳

قادیانی لکھتا ہے کہ: ”قرآن شریف اور انجیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا تھا اور اصلاح مخلوق میں تمام نبیوں سے یہ ان کا گرا ہوا نمبر تھا۔“  
(براہین احمدیہ ج ۵ ص ۳۷، ۳۸، خزائن ج ۲۱ ص ۲۸)

بتلائیے یہ کسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ ورنہ چلے غنڈوں اور بد معاشوں کی لسٹ اور کتوں اور سوروں سے بدتر مقام میں اتر جائیے۔

قادیانی افتراء علی اللہ کی مثال ۴

”اور یہ الہام جو براہین احمدیہ میں بھی چھپ چکا ہے۔ بصراحت و با آواز بلند ظاہر کر رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں یا حدیث نبویہ میں بمعہ پیش گوئی ضرور موجود ہے۔ انسا  
(ازالہ اوہام ص ۷۴، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۳۹)

اب حسب تفصیل ریویو آف ریلیجنز اکتوبر ۱۹۰۲ء یہ پیش گوئی قرآن وحدیث سے ثابت کی جائے۔ ورنہ مرزا قادیانی اور مرزائی با آواز بلند یہ وظیفہ کریں۔

”نحن فوق خنازیر الغلا ونساءنا من دو نهن الاکلب“

ہر مرزائی اور مرزائیں صبح وشام اس وظیفہ کی ایک ایک تسبیح ضرور کیا کریں۔  
افتراء علی اللہ کی چار مثالوں کے بعد چند مثالیں افتراء علی الرسول بھی ملاحظہ فرمائیے۔  
مثال نمبر ۱: ”مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔“ (ازالہ اوہام ص ۸۱، خزائن ج ۳ ص ۱۴۲)

حالانکہ حدیث مسلم میں آسمان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ کسی دوسری کتاب میں

مذکور ہے۔

مثال نمبر ۲: ”اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔“ (دیکھئے مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی ص ۲۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

یہ تحریر بھی افتراء علی الرسول کی بدترین مثال ہے۔ کسی حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ مسیح موعود فلاں سنہ یا صدی میں پیدا ہوگا۔ نہ کسی حدیث میں سنہ اور صدی کا ذکر اور نہ ہی ان کی پیدائش کا تذکرہ۔ یہ ڈبل اور نہایت گمراہ کن افتراء ہے۔

مثال نمبر ۳: ”ایسا ہی احادیث صحیح میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۱ ص ۱۸۸، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۹)

مثال نمبر ۴: ”خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: ”هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي“ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے۔ جو ایسی کتاب میں درج ہے۔ جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔“

(دیکھئے مرزا قادیانی کی ذاتی کتاب شہادت القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)

ملاحظہ فرمائیے اس بے باک دشمن خدا کی جرأت کہ کس دھڑلے سے خاتم الانبیاء ﷺ کے ذمہ جھوٹ لگا رہا ہے۔ ہے کوئی قادیانی جیالا جو بخاری میں مندرج یہ حدیث دکھادے؟ مرزا قادیانی کا کچھ تو حق نمک ادا کرے ورنہ اس بد معاش اور غنڈے سے اپنی خلاصی کرانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر گم کردہ راہ حق کو جادہ مستقیم پر واپس آنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ آمین!

### قادیانی تاویلات کی حیثیت

ناظرین کرام! آپ مطالعہ قادیانت میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی تاویلات کا نہایت مکروہ اور پرالحد چکر ملاحظہ فرمائیں گے۔ حالانکہ رحمت کائنات ﷺ نے صاف فرمادیا تھا کہ: ”من قال فی القرآن برایہ فلیتبعہ مقعدہ من النار“ کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے اور بقول مرزا قادیانی بھی یہ تسلیم ہے کہ: ”النصوص تحمل علی ظواہرہا“ اور یہ کہ قرآن کا صحیح مفہوم پہلے قرآن سے، پھر حدیث سے لیا جائے گا۔ پھر صحابہؓ اور پھر بعد میں مفسرین، مجددین و ملہمین رحمہم اللہ سے، اور یہ بھی کہا کہ قرآن کا صحیح مفہوم ہر زمانہ میں موجود رہا ہے۔ بالخصوص بنیادی مفہیم مدار ایمان امور ہر زمانہ میں برابر مشہور و متعارف رہے ہیں۔

تو پھر ان اصول و ضوابط کے پیش نظر قادیانی تاویلات دربارہ سورۃ تحریم اور دیگر آیات و احادیث کا حکم صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔

### مزید وضاحت

جناب مرزا قادیانی سرسید کے متعلق بہت تفصیلی اور پر حقیقت اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”سرسید صاحب قرآن کی تعلیم اور اس کی ہدایتوں سے ایسے دور جا پڑے کہ جو تاویلیں قرآن کریم کی نہ خدا کے علم میں تھیں، نہ اس کے رسول کے علم میں، نہ صحابہ کے علم میں، نہ اولیاء اور قطبوں اور غوثوں اور ابدال کے علم میں اور نہ ان پر دلالت اللہ نہ اشارۃ اللہ، وہ سرسید صاحب کو سوجھیں..... انہوں نے قرآن کریم کی ایسی بعید از صدق و انصاف تاویلیں کیں کہ جن کو ہم کسی طرح سے تاویل نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ ایک پیرایہ میں قرآن کریم کی پاک تعلیمات کا رد ہے۔ کیونکہ ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑا نجات اور مدار ایمان جس کا حرف قطعاً اور متواتر اور یقینی الصحت ہے۔ یعنی قرآن کریم سید صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ان کی اس لغزش کو کہاں چھپائیں اور کیونکر پوشیدہ کریں کہ انہوں نے تو قرآن کریم پر ہی (تاویلیں کر کے) خط نسخ کھینچنا چاہا۔ میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی موقع پر ان کے قلب نے شہادت دی ہو کہ جو کچھ تاویلات کا دور دراز تک دامن انہوں نے پھیلایا۔ وہ صحیح ہے بلکہ جا بجا خود ان کا دل ان کو ملزم کرتا ہوگا کہ اے شخص تیری تمام تاویلات ایسی ہیں کہ اگر قرآن کریم ایک مجسم شخص ہوتا تو بصد زبان ان سے بیزاری ظاہر کرتا اور اس نے بیزاری ظاہر کی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو سخت مورد غضب ٹھہرایا ہے۔ جو اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ یہودیوں کی کارستانیوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کلام الہی میں تحریف والحاد اختیار کر کے کیا نام رکھایا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے ایسے معنی کرنے چاہئے کہ جو صمد ہا دوسری آیات سے جو اس کی تصدیق کے لئے کھڑی ہوں، مطابق ہوں، دل مطمئن ہو جائے اور بول اٹھے کہ ہاں یہی منشاء الہی ہے جو اس کے پاک کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ سخت گناہ اور معصیت کا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایسی دور از حقیقت تاویلیں کریں کہ گویا ہم اس کے عیب کی پردہ پوشی کر رہے ہیں یا اس کو وہ باتیں بتلا رہے ہیں جو اس کو معلوم نہیں تھیں۔“

(آئینہ کالات ص ۲۲۸، ۲۲۹، خزائن ج ۵ ص ایضا)

یہ تنقیدی حاشیہ ص ۲۲۶ سے ۲۷۳ تک چلا گیا ہے۔ جس میں مرزا قادیانی سرسید کی فلسفیانہ تاویلات باطلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ مگر خود ان کا حال سید صاحب سے مختلف نہیں۔ بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خود وفات مسیح اور لفظ توفی کا مفہوم سرسید سے اخذ کیا ہے اور پھر اپنے اسی محسن پر تنقید کی بوچھاڑ بھی کر رہے ہیں۔

اسی طرح حکیم نور دین بھی لکھتے ہیں کہ: ”الہی کلام میں تمثیلات و استعارات و کنایات کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تاویلات و تمثیلات سے، استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہر ایک طعنے، منافق، بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الہی کلمات طیبات کو لاسکتا ہے۔“ (تحریر حکیم نور دین ملحق از الدواہام ص ۸، خزائن ج ۳ ص ۶۳۱)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا گرو اور چیلے کے دونوں اقتباس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہر جگہ تاویل بازی کا چکر طعنے و منافق کا کام ہے۔ اس بناء پر جب ہم قادیانی تحریرات ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کے جمیع نظریات و مسائل میں اسی شیطانی تاویل بازی کا چکر نظر آتا ہے۔ اب اس قادیانی ضابطہ اور اس کے کردار کے موازنہ کے بعد اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قادیانیت سراسر الحاد و منافقت کا نام ہے۔ قادیانیت قرآن اور اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔

سولہواں معیار، مرزا قادیانی کی کذب بیانیاں

جھوٹ کے بارہ میں مرزا قادیانی کا فتویٰ

.....۱ ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“ (تحفہ گلزدیہ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۵۶)

.....۲ ”کلف سے جھوٹ بولنا گوہ کھانا ہے۔“ (انجام آتھم ص ۵۹، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۳)

.....۳ ”جھوٹ اس پاخانہ سے بڑھ کر بد بو رکھتا ہے۔“

(سلسلہ تعنیفات احمدیہ شعبہ دوم، ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۱۸۱)

.....۴ ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں۔ بلکہ نہایت شریر

اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے۔“ (آریہ دھرم ص ۱۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۳)

.....۵ ”میرے نزدیک جھوٹا ہونے کی ذلت ہزار موتوں سے بدتر ہے۔“

(آریہ دھرم ص ۴۲، خزائن ج ۱۰ ص ۴۸)

.....۶ ”لعنتی زندگی والے، اول وہ شخص اور اس کی جماعت ہے۔ جو خدا تعالیٰ پر

افتراء کرتے ہیں اور جھوٹ اور دجالی طریقہ سے دنیا میں فساد اور پھوٹ ڈالتے ہیں۔“

(نزل مسیح ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۶، ۳۸۹)

۷..... ”ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی دوسری باتوں میں بھی اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۳ ص ۲۳۱)  
اب ذیل میں آنجہانی کے چند بالکل ننگے جھوٹ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ صاحب بہادر لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”میرے ہی زمانہ میں ملک پر موافق احادیث صحیحہ اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں کے طاعون آئی۔“ (حقیقت الوحی ص ۴۵، خزائن ج ۲۲ ص ۴۸، کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)  
اب فرمائیے کہاں قرآن وحدیث وغیرہ میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں طاعون ظاہر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی سر سے لے کر پاؤں تک کذب و افتراء اور دجل و فریب ہی کا پلندہ ہے۔ جہالت و حماقت کا پیکر ہے۔ ”اللهم احفظ عبادك منه“

۲..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”بہشتیوں کے لئے قرآن مجید میں ”الا ماشاء ربك“ نہیں ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۶)

حالانکہ اسی صورت میں یہ لفظ واضح طور پر مذکور ہے۔ لیکن مرزا قادیانی پر تکذیب قرآن کی مہر لگ گئی ہے۔ لہذا اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ بہشتیوں کے لئے یہ لفظ نہیں آیا۔

۳..... مرزا قادیانی نے بحوالہ مکتوبات مجدد سرہندی لکھا ہے کہ: ”لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبت الہیہ سے مشرف کیا جاوے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاویں وہ نبی کہلاتا ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۹۰، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶)

حالانکہ مکتوبات میں لفظ نبی قطعاً نہیں بلکہ لفظ محدث ہے۔ ”فلعنة الله على المفترين“

۴..... ”خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: هذا خليفة الله المهدى!“

(شہادت القرآن ص ۴۱، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)  
حالانکہ بخاری شریف میں اس لفظ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ لہذا یہ مرزا قادیانی کا محض جھوٹ ہے۔

۵..... ”صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔“ (ازالہ اوہام ص ۸۱، خزائن ج ۳ ص ۱۴۲)

جب کہ صحیح مسلم کی کسی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے۔

۶..... ”انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کم از کم ایک

ہزار روپیہ رہتا تھا۔“ (ایام الصلح ص ۱۴۰، خزائن ج ۱۳ ص ۳۸۵، سلسلہ احمدیہ شعبہ دوم، ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۱۲) میں دو ہزار لکھا ہے۔ مگر کسی بھی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہ ہزار کا نہ دو ہزار کا۔ بلکہ سو کا بھی نہیں۔

۷..... ”اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کامل عمر

پائی۔ یعنی ایک سو پچیس سال زندہ رہے۔“ (مسیح ہندوستان ص ۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ۵۵)

حالانکہ یہ سب بہتان ہے۔

۸..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”حدیث آتی ہے کہ یاسی علی جہنم

زمان لیس فیہا احدو نسیم الصبا تحرك ابو ابھا!“

(حقیقت الوحی ص ۱۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۶)

مگر حقیقت ہے کہ یہ حدیث کہیں نہیں۔ سچے ہیں تو حوالہ دیں ورنہ قول رسول ”من

کذب علی متعمدا فلیتنبوا مقعدہ من النار“ کا صبح و شام وظیفہ کیا کریں۔

۹..... ایک جگہ مرزا قادیانی آنجمانی لکھتا ہے کہ: ”ایک فارسی حدیث یوں

ہے۔ ”ایں مشت خاک را گر نہ بخشم چہ کنم!“ ”ہذا بہتان علی النبی ﷺ!“

(حقیقت الوحی ص ۱۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۶)

۱۰..... ”تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا اجماعی عقیدہ ہے۔“

(ازالہ ادھام ص ۱۸۵، خزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

حالانکہ یہ کوئی اجماعی عقیدہ نہیں۔ محض قادیان کے چنڈو خانے کی ایک گپ ہے۔

۱۱..... ”حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے کسی حدیث میں رجوع کا لفظ نہیں آیا۔“

(انجام آتھم ص ۱۱۱، ۱۵۱، خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۵، ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۱۲۳، خزائن ج ۲۱ ص ۲۹۰)

حالانکہ حدیث میں ”وانہ راجع الیکم قبل یوم القيامة“ کے الفاظ موجود

(تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۲۸۹، درمنثور ج ۲ ص ۳۶)

ہیں۔

۱۲..... ”سلف کے کلام میں مسیح کے لئے نزول من السماء کا لفظ نہیں آیا۔“

(انجام آتھم ص ۱۳۸، خزائن ج ۱۱ ص ۱۳۸)

حالانکہ کئی سلف کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ مثلاً فقہ اکبر ص ۸ میں امام اعظمؒ کا یہ کلام موجود ہے۔ بلکہ ”یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ“ کا لفظ حدیث میں موجود ہے۔ جس کو خود مرزا قادیانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (دیکھئے البشرى ص ۸۸، خزائن ج ۷ ص ۳۱۳) فقولوا لعنة الله على الكاذبين!

۱۳..... ”علم نحو میں یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل ہو اور انسان مفعول ہو، وہاں ہمیشہ مارنے اور قبض کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔“ (تھنہ گولڈیہ ص ۴۵، خزائن ج ۱ ص ۱۶۲ و تھنہ ص ۳، خزائن ج ۱ ص ۹۰، نیز اربعین ج ۲ ص ۲۷، خزائن ج ۱ ص ۱۷۷، خزائن ج ۲ ص ۳۷) یہ بھی ایک قادیانی کپ ہے۔

۱۴..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے گیارہ لڑکے ہوئے اور سب فوت ہو گئے۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۸۲، خزائن ج ۲ ص ۲۳۹) سراسر ہذیان اور جھوٹ ہے۔

۱۵..... ”قوم کا اتفاق ہے کہ: ”یعیسیٰ انی متوفیک“ میں چاروں مواہید بالترتیب وقوع میں آئے۔“ (حماتہ البشرى ص ۵۶، خزائن ج ۷ ص ۲۵۹) یہ بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ بلکہ ادھر تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے۔ ”فیہ تقدیم و تاخیر“

۱۶..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”دارقطنی کو شائع ہوتے ہوئے گیارہ سو برس ہو چکے ہیں۔“ (ایام الصلح ص ۴۸، خزائن ج ۱ ص ۲۸۰) ۱۷..... ”فتاویٰ ابن حجر جو خفیوں کی نہایت معتبر کتاب ہے۔“

(ایام الصلح ص ۸۰، خزائن ج ۳ ص ۳۱۵) یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ نہ دارقطنی گیارہ سو سال سے شائع ہے اور نہ فتاویٰ ابن حجر خفیوں کی معتبر یا غیر معتبر کتاب ہے۔ بلکہ یہ تو شافعیوں کی کتاب ہے۔

۱۸..... ”یہ حدیث کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔ محدثین کے نزدیک اوّل درجہ کی صحیح مانی ہوئی ہے۔“ (ایام الصلح ص ۱۳۳، خزائن ج ۱ ص ۳۸۸) یہ بھی محض ایک کپ ہے۔ ورنہ ثبوت دیا جائے۔

۱۹..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”صفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے۔“ (تزیان القلوب ص ۴۱، خزائن ج ۱ ص ۲۱۸)

۲۰..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ”میرا دعویٰ مسیح موعود کا نہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

حالانکہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ یہ اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ: ”اگر یہ عاجز مسیح موعود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موعود کو آسمان سے اتار کر دکھائیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۸۵، ۱۵۴، خزائن ج ۳ ص ۱۷۹، ۱۸۹)

ظاہر ہے کہ اس کی ایک بات ضرور غلط ہے۔

۲۱..... مرزا قادیانی بڑے طمطراق سے لکھتا ہے کہ: ”فلا تظنن یا اخی انی

قلت کلمۃ فیہ رائحة الدعاء النبوة“ (حمات البشری ص ۸۳، خزائن ج ۷ ص ۳۰۲)

حالانکہ یہ کتاب ۱۳۱۱ھ کی تالیف ہے اور مرزا قادیانی خود (اربعین ج ۳ ص ۷۶، ۷۷) میں لکھتا ہے کہ میرے دعویٰ نبوت کو ۲۳ سال گزر چکے ہیں۔ بتلائیے کون سی بات درست ہے؟

ناظرین کرام! ہر مذہب و ملت میں جھوٹ ایک قبیح اور بری چیز قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں تو اسے ایمان کے منافی اور ضد کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ خود مرزائے قادیان نے بھی اس کے بارہ میں نہایت واضح الفاظ میں فتویٰ دیا ہے۔ تو اب مندرجہ بالا ۲۱ حوالہ جات میں نہایت صراحت سے مرزا قادیانی کی کذب بیانی واضح ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اسے کس طرح کسی بھی مثبت منصب کا حقدار سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے یا ملہم ہے؟ مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس جیسا کوئی بیباک اور جرأت مند انسان نما ڈھانچا آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو بڑے دھڑلے اور دلیری سے صریح جھوٹ بولے۔ بلکہ مسلسل بولتا ہی چلا جائے۔ نہ خدا سے شرم نہ رسول سے اور نہ ہی اسے عام معاشرتی رسوائی کا خطرہ لاحق ہو کہ میری کذب بیانی واضح ہو جانے پر مجھے شرمسار ہونا پڑے گا۔ غرضیکہ اسے کسی بھی مرحلہ پر کسی قسم کا کوئی باک اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو فرمائیے ایسے انسان کو ہم کیا مقام دے سکتے ہیں؟ ”الا ان نقول اذا فانتک الحیاء فافعل ماشئت“ قادیانی بیباکی اور بے شرمی کی حد، جو قسم اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو عام کذب بیانی تھی۔ ہم تو اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں ابلیس لعین کے بھی کان کتر گیا ہے۔ یہ ظالم قسمیں اور حلف اٹھا کر بھی جھوٹ بولنے میں قطعاً کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ گویا وہ ”اذا فانتک الحیاء فافعل ماشئت“ کا ایک سکہ بند مصداق ہے۔ آپ ذیل میں مرزا قادیانی کے حلف اٹھا کر جھوٹ بولنے کے چند نمونے بھی ملاحظہ فرمائیے۔



.....! مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔“ (ایام الصلح ص ۱۲۷، خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۴)

یہ بیان بالکل غلط ہے۔ مرزا قادیانی نے کئی اساتذہ سے پڑھا ہے۔ فضل احمد سے پڑھا، گل علی شیعہ سے پڑھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہاں پڑھا تو پڑھا اور پڑھا۔ اگر اس نے صحیح اور مکمل تعلیم حاصل کی ہوتی تو اتنا گمراہی میں نہ ڈوبتا۔ محمد بن اسماعیل بخاری کو محمد اسماعیل نہ لکھتا۔ ابوداؤد کو ابن داؤد نہ لکھتا۔ یہ سب جہالت ہی کے کرشمے ہیں کہ اسے نہ منصف کا نام صحیح آتا ہے نہ کتاب کا، ویسے ہی اوٹ پٹانگ لکھتا رہتا ہے۔ یہ تو نیم ملاحظہ ایمان کا مکمل مصداق تھا۔ اگر کسی کامل کی صحبت اختیار کی ہوتی تو اتنا گمراہ نہ ہوتا۔ یہ دجل و تحریف کا چکر نہ چلاتا۔ خدا خونی اور للہیت سے اتنا تہی دامن نہ ہوتا۔

۲..... اور سنئے! مرزا قادیانی قسم اٹھا کر دھڑے سے جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ: ”واللہ قد کنت اعلم من ایام مدیدۃ اننی جعلت المسیح بن مریم وانی نازل فی منزلتہ ولكنی اخفیت..... وتوقفت فی الاظهار الی عشر سنین“ (دیکھئے اس کی کتاب آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ۵۵۱)

ملاحظہ فرمائیں کہ یاں قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ مجھے مسیح بن مریم بنادیا گیا ہے۔ مگر میں اسے چھپاتا رہا۔

جب اس کے برعکس (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) میں لکھتا ہے۔ مجھے بارہ سال تک کوئی پتہ نہ چلا کہ خدا کی وحی مجھے مسیح بن مریم بنا رہی ہے۔ بتلائے مرزا قادیانی کا یہ حلفیہ بیان درست ہے یا بلا حلف۔ ایک میں ہے کہ مجھے پتہ تھا۔ مگر میں نے ظاہر کرنے میں ۱۰ سال تاخیر کر دی۔ دوسری جگہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ تھا۔ اسی طرح بارہ سال گزر گئے۔ فرمائیے کون سی بات درست ہے؟

یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے قسم اٹھا کر غلط بیانی کی ہے۔ اب خود مرزا قادیانی کے بقول ایسی بات کے متعلق نتیجہ بھی سماعت فرمائیے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:

.....! ”جھوٹی قسم کھانا لعنتی کا کام ہے۔“

(نزول المسح ص ۲۳، خزائن ج ۱۸ ص ۶۱۵، نسیم دعوت ص ۸۷، خزائن ج ۱۹ ص ۴۵۳)

۲..... ”خدا کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے۔“

(ترياق القلوب ص ۶، خزائن ج ۱۵ ص ۱۴۰، نزول مسیح ص ۱۱۰، خزائن ج ۱۹ ص ۳۸۸، ۳۸۹)

اب اس فتویٰ کی روشنی میں جناب قادیانی لعنتی اور بدذات ثابت ہوئے۔ فرمائیے بدذات اور لعنتی فرد کسی بھی اچھے منصب کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کیا اسے مہدی یا مجدد، ملہم یا مسیح وغیرہ تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ قادیانیو! ذرا قبر کی فکر کرو۔ دنیا میں ایسے بدذاتوں سے وابستہ ہو کر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کس منہ سے خدا کے حضور پیش ہو گئے؟ ملک الموت تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ آخر کچھ تو سوچو، کسی بات کا تو لحاظ کرو۔

سکے سکے انج ای دوزخ دابالن نہ بنزو۔ قسم بخدا سانوں تہاڈے اتے بڑا ترس آ وندا ہے۔ ایس واسطے کچھ تے عقل کولوں کم لے کے اگے دی فکر کرو۔ بھیڑیو کچھ تے سوچو! کل تسی سانوں ہی الامہ دینا اے کہ سانوں تساں چنگی طرح کیوں نہ سمجھایا۔

۳..... ”میں خدا تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو میرے پرنازل ہوا۔ ومن ینکر بہ فلیبارز للمباہلۃ ولعنة اللہ علی من کذب الحق او افتری علی حضرت العزۃ!“ اور جو کوئی اس کا منکر ہو، اسے چاہئے کہ مباہلہ کا چیلنج کرے اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو حق کو جھٹلائے یا باری تعالیٰ پر بہتان باندھے۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

۴..... ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میر جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

۵..... ”میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں جو آج کی تاریخ سے جو ۱۶ جولائی ۱۹۰۶ء ہے۔ اگر میں ان کو فرداً فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔“

(حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰)

۲..... ”دیکھو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے لئے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔“

(حقیقت الوحی ص ۴۵، خزائن ج ۲۲ ص ۴۸)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح حلف اٹھا کر وحی و نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہی صاحب اس سے قبل دعویٰ نبوت کو کفر و الحاد قرار دے چکے ہیں۔ نیز حلفا کہا کہ خدا نے مجھے مسیح موعود کہا۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ براہین احمدیہ اور اعجاز احمدی کے مطابق خدا کی وحی تجھے مسیح موعود بناتی تھی۔ مگر تجھے اعتبار ہی نہ آیا تھا۔ پھر ایک ملنگ گلاب شاہ کی پیش گوئی کو بنیاد کرتے حیض و حمل کے مرحلے لئے کر کے پہلے مثیل اور پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

پھر یہ قوال صاحب حلفاً اپنے نشانات تین لاکھ یا اس سے بھی زیادہ بتلا رہا ہے۔ جب کہ اس سے قبل ص ۴۵ پر صرف ہزاروں کا ذکر تھا اور کہیں اس نے دس لاکھ بھی بیان کئے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ جب ان کے نمبر شمار لگاتا ہے۔ گرے پڑے اور عامیانہ واقعات کو بھی ۲۱۰ سے اوپر نہ لے جاسکا۔ حالانکہ کم از کم ایک لاکھ تو بیان کرتا۔ تاکہ لاکھوں والی بڑا کچھ تو اعتبار رہ جاتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب قادیانی مرقا، ہسٹریا کے مریض ہیں۔ جب انہیں ان کا دورہ چڑھتا ہے تو پھر ان کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ قسم قسم کے مبالغے اور تنک بند یوں میں پرواز کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کے اعداد روندتے ہوئے اوج ثریا تک جا پہنچتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ فہل من مزید کی ہی دھن میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں تو ایک نشان تین لاکھ بیان کئے اور ساتھ والے صفحہ میں تین لاکھ بڑے بڑے نشانوں کا ذکر فرمایا اور کہا میں ان کو فرداً فرداً گن بھی سکتا ہوں۔ مگر جب گننے پر آتے ہیں تو ان کی تعداد تین لاکھ تو کجا رہی، تین ہزار پھر پوری نہ کر سکے۔ بلکہ اس سے بھی کم تین سو بھی پوری نہ کر سکے۔ اب بتلائیے اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ اور مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اسی کتاب کے ص ۴۵ پر لاکھوں سے نیچے اتر کر ہزاروں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی سراسر مبالغہ ہی ہے۔ گپ سنئے۔ جناب آنجنابی بوساطت ملک مٹھن لال فرماتے ہیں کہ:

..... ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نسبت اور میرے زمانہ کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۸)

اور فرمایا کہ: ”اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو تم نے دیکھ لیا ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔“ (اربعین نمبر ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۴۴۲)

اب فرمائیے کہاں قرآن اور توریت و انجیل میں مرزا قادیانی کی پیش گوئی ہے؟ کہاں اس کی انبیاء نے بشارت دی اور کس نے اس کے دیکھنے کی خواہش کی تھی؟ یہ تمام امور محض چند و خانے کی گپ ہیں۔ جن کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام چیز مراق کا نتیجہ ہیں۔ میرے خیال میں تو کوئی ہوشمند فرد بشر ایسے لفاظ اور گپ باز کی بات سننا اپنی توہین خیال کرے گا۔ چہ جائیکہ کوئی اس کو صحیح سمجھنے لگے۔ اللہ کریم اپنی پیاری مخلوق کو اس بین الاقوامی بہروپے سے بچائے۔ آمین ثم آمین!

ستر ہواں معیار، پیشگوئیاں (معیار صدق و کذب مرزا)

اس سلسلہ میں جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

۱..... ”واضح ہو کہ ہمارا صدق و کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم (کسوٹی) امتحان نہیں ہو سکتا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸، خزائن ج ۵ ص ۲۸۸)

۲..... ”اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر جائے تو بھی میرے منہ سے نکلی ہوئی کوئی ایسی نہ ملے گی جو خالی گئی۔“ (کشتی نوح ص ۶، خزائن ج ۱۹ ص ۶)

۳..... ”توراة اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئی کو قرار دیا ہے۔“ (استفتاء ص ۳، خزائن ج ۱۲ ص ۱۱۱)

۴..... ”سو پیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سوا اگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔“ (شہادت القرآن ص ۹، ۸۰، خزائن ج ۶ ص ۳۷، ۳۷۶)

۵..... ”ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جاویں۔“ (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

نتیجہ

”کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔“ (تزیاق القلوب ص ۱۰۷، خزائن ج ۱۵ ص ۳۸۲، سراج منیر ص ۱۲، خزائن ج ۱۲ ص ۱۵، آئینہ کمالات ص ۳، خزائن ج ۵ ص ۶۵۱)

مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ہاں ان کی پیش گوئیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے سچے یا جھوٹے ثابت ہونے کے لئے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔

مگر افسوس صد افسوس! بعد میں مرزا قادیانی خود ہی اسی معیار کو خراب اور غیر معتبر قرار دے گئے ہیں۔ چنانچہ بیشتر مقامات پر وضاحت فرما گئے ہیں کہ:

الف..... ”بعض فاسقوں اور غایت درجہ بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر لے درجے کے بد معاش اور شریر آدمی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کجخیوں کے گروہ میں ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ کبھی سچی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بہ سرو آ شنا بہ برکام صدق ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے۔“

(مرزا قادیانی کی کتاب توضیح مرام ص ۸۴، ۸۵، خزائن ج ۳ ص ۹۳، ۹۵)

ف..... اصل مفہوم کے ساتھ مرزا قادیانی کا تجربہ بدکاروں کو بھی ملحوظ خاطر رہے۔  
ب..... ”ممکن ہے کہ ایک خواب سچی بھی ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہو اور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگرچہ شیطان بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن سچی بات بتلا کر دھوکہ دیتا ہے۔ تا ایمان چھین لے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱، خزائن ج ۲ ص ۲۲)

ج..... ”بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں..... انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۲، روحانی خزائن ج ۲ ص ۵)

د..... ”اس تقریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ کسی شخص کو محض سچی خوابوں کا دیکھنا یا بعض سچے الہامات کا مشاہدہ کرنا یہ امر کسی کمال پرچہ دلیل نہیں..... بلکہ یہ محض دماغ کی بناوٹ کا ایک نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے اس میں نیک یا راست باز ہونے کی شرط نہیں اور نہ مؤمن اور مسلمان ہونا اس کے لئے ضروری ہے۔“

ہ..... ”ان کو بعض سچی خوابیں آ جاتی ہیں۔ (جیسے مرزا قادیانی کو) اور سچے کشف ظاہر ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آثار نہیں ہوتے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۰، خزائن ج ۲ ص ۲۲)

..... ”اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہری یعنی بھگن  
 قہیں۔ جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کا تھا۔ انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان  
 کیں اور وہ سچی نکلیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کی کنجر جن کا دن  
 رات زنا کاری کا تھا۔ ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور  
 بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جو نجاست شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ بعض  
 خوابیں ان کو جیسا کہ دیکھا گیا تھا ظہور میں آ گئیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا چھ اقتباسات سے معلوم ہوا کہ کافروں، بد معاشوں،  
 مشرکوں، زانیوں خاص کر بقول مرزا کنجریوں کو بھی سچی خواب یا کشف ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہوتا رہتا  
 ہے۔ اب فرمائیے کہ اگر مرزا قادیانی کی کوئی خواب، الہام یا کشف و پیش گوئی بالفرض درست بھی  
 نکل آئے تو مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق اس کے صدق و کذب کا محکم یعنی کسوٹی اور معیار کیسے  
 بن سکتی ہے؟ ویسے اس عالم رنگ و بو میں اس کا کوئی چیلنج یا پیش گوئی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ہاں کھینچ  
 تان کر کسی پیش گوئی کو صحیح ثابت کر لے تو اور بات ہے۔ نیز جب الہامات و کشف وغیرہ کی حقیقت  
 یہی ہے تو پھر مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل بیان بازی کس پوزیشن میں ہوگی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ:  
 ”خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اس قدر نشان  
 دکھائے کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہو جائے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۲۲)

فرمائیے آنجہانی کتنی بیباکی اور جسارت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جب تیرے جیسے  
 نشانات بد معاشوں اور کنجروں سے بھی ظہور پذیر ہو سکتے ہیں اور ان سے کسی کا ایمان و کفر بھی  
 ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان سے ہزار نہیں ایک بھی نبی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نیز تیرا یہ کہنا کہ کسی  
 انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ (تریاق) کیا  
 حیثیت رکھتا ہے؟

مگر ہم تیرے کہنے سے ایک منٹ کے لئے یہ بات مان لیتے ہیں کہ تیرے صدق  
 و کذب کو پرکھنے کے لئے تیری پیش گوئیاں ہی اعلیٰ معیار اور کسوٹی ہیں۔ لہذا اسی بناء پر ہم نے  
 اس کی تمام کتب کو دیکھا، اس کے الہامات اور پیش گوئیوں کو دیکھا تو یہی معلوم ہوا کہ اس کے  
 تمام الہامات اور پیش گوئیاں فٹ بال کی طرح گول مول اور مبہم ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی

صراحت یا وضاحت نہیں ہوتی۔ جدھر چاہوان کو موم کی ناک کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان میں تاویلات باطلہ کا مسالہ نہ لگایا جائے وہ کہیں فٹ نہیں ہوسکتیں۔ ہر پیش گوئی دجل و فریب اور کذب و افتراء سے بھرپور ہے۔ مثلاً اس کا صرف ایک الہام پیش نظر رکھتے ہیں۔ ”بکروثیب“ یعنی کنواری اور بیوہ۔

دیکھئے یہ مرکب ناقص ہے۔ جو کہ بالکل مبہم اور گول مول لفظ ہے۔ مزید جملہ خبریہ ہے نہ انشائیہ۔ اب مرزا قادیانی خود اس کے متعلق لکھتا ہے کہ: ”تقریباً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب پر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنایا۔ جس کو میں کئی مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے۔ ”بکروثیب“ جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہو گیا۔ (یعنی باکرہ سے شادی ہوگئی، نصرت جہاں بیگم دہلوی سے) اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔“

(تریاق القلوب ص ۳۴، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۱، ضمیمہ انجام آختم ص ۱۴، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۸)

بقول مرزا قادیانی یہ الہام ۱۸۸۱ء کا ہے۔ جس میں اسے وعدہ دیا گیا کہ تیرے نکاح میں دو عورتیں آئیں گی۔ ایک کنواری اور دوسری بیوہ۔ اب بقول مرزا قادیانی کنواری والا وعدہ تو پورا ہو گیا۔ مگر بیوہ والا باقی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ بیوہ سے نکاح والا معاملہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی اسی حسرت اور ناکامی کو لے کر ۱۹۰۸ء میں قبر میں چلے گئے۔ اب قادیانی اس بارہ میں مختلف تاویلات کا سہارا لے کر رنگارنگ کی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کا یہ الہام کسی شرط سے مشروط نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ہے کہ دو عورتیں اس کے نکاح میں آئیں گی۔ ایک باکرہ اور دوسری بیوہ۔

اس کے بعد خود مرزا قادیانی نے وضاحت بھی کر دی کہ باکرہ والا حصہ تو پورا ہو چکا ہے۔ مگر بیوہ کا بھی انتظار ہے۔ اب ہم مرزائیوں کو پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ یہ بیوہ کی شادی والا الہام اور پیش گوئی کب اور کیسے پوری ہوئی؟

قادیانی اس الجھن کو تا قیامت حل نہیں کر سکتے۔ مگر وہ قادیانی ہی کیسے ہوا جو ہر قسم کا

جعل و فریب اور کذب و افتراء میں ماہر نہ ہو۔ بات بنے یا بگڑے، مرزائی نے کچھ نہ کچھ ضرور بکنا ہے۔ چنانچہ اسی الہام کی تصحیح کے لئے کذب و افتراء کے پتلے غلام احمد قادیانی کا ایک فرزند مرزا بشیر احمد ایم اے یوں ہرزہ سرا ہے کہ یہ الہام (بکر و شب) اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المؤمنین کی ذات میں ہی پورا ہو گیا جو بکرا آئی اور شب رہ گئیں۔ (تذکرہ ص ۳۹ ح)

اب اس تاویل ابلیسی کو بار بار پڑھئے تو میرے خیال آپ بار بار "لعنة الله على الكاذبين والمفتريين" کی گردان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

ناظرین کرام! اس باطل تاویل کی طرح تمام قادیانی تاویلات سراسر کذب و دجل کا ہی مرقع ہوتی ہیں۔ قادیانی کی ابھی ہوئی اور متضاد ہفوات کو سلجھانے کے لئے اسی قسم کی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔ تمام کتب قادیانیہ اس کی شاہد عدل ہیں۔ اسی بناء پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تمام تر قادیانیت محض دجل و فریب، کذب و افتراء اور جہالت و حماقت کا پلندہ ہے۔

اس کے کسی بھی پہلو میں حق و صداقت، علم و تحقیق کا شائبہ تک نہیں۔ لہذا میں بصد خیر خواہی ہر فرد بشر کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اس خباثت و ضلالت اور حماقت و جہالت سے بالکل اجتناب کیا جائے اور وہ افراد جو شامت اعمال کی بناء پر اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑا کر جادہ حق پر آنے کی التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیاری مخلوق کو بد بختی اور ہلاکت ابدی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

ناظرین کرام! سابقہ تفصیلات سے آپ پر واضح ہو گیا کہ جناب قادیانی ایک عجیب ترین شے ہے۔ اس کا ہر قول و فعل عجیب اور نرالا ہے۔ خود ایک معیار اور ضابطہ طے کرتا ہے۔ مگر خود ہی اس کی پابندی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس چلنے لگتا ہے۔ جس سے اس کا سب کیا کرایا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ کردار اور رویہ کسی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص و متقی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آج تک آپ کسی ولی یا نبی کو نہ جان سکیں گے۔ جس نے مرزا قادیانی کی طرح بلند بانگ معجزہ نمائی کے اکھاڑے قائم کئے ہوں کہ میں اتنے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کر سکتا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں اترنے والا اور ایسے ہی کسی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص و متقی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آج تک آپ کسی ولی یا نبی کو نہ جان سکیں گے۔ جس نے مرزا قادیانی کی طرح بلند بانگ معجزہ نمائی کے اکھاڑے قائم کئے ہوں کہ میں اتنے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کر سکتا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں



اترنے والا، اور ایسے ہی کسی بھی نبی رسول نے کسی سابقہ نبی کی تحقیر و تنقیص نہیں کی کہ وہ کیا ہے؟ میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ معاذ اللہ! معاذ اللہ! حتیٰ کہ خود سالار انبیاء خاتم الانبیاء والرسل ﷺ نے بھی یہی فرمایا کہ: ”لا تفضلونی علی یونس بن متى (بخاری ج ۱ ص ۴۸۵، باب قول اللہ عزوجل وان یونس من المرسلین)“ کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجیح نہ دو۔ مگر مرزا قادیانی ہر موقع اور ہر جگہ ڈینگیں ہی مارتا نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی بڑھک مارتا ہے اور کبھی کوئی۔ گویا اس کی ہر ادا مقصدین اور راست بازوں کے سراسر خلاف ہی ہے۔ ہاں جب اپنے آپ میں ہوتا ہے تو پھر ایسا پستی میں چلا جاتا ہے کہ وہ بھی بے نظیر۔ پھر وہ حد آدمیت سے ہی نکل جاتا ہے۔ کبھی کیڑا بن جاتا ہے، کبھی پیشاب کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔

اب فرمائیے کہ جو ذات شریفہ کسی بھی پہلو سے راست بازوں سے موافقت نہ کرے، اسے کیا کہیں اور کیا سمجھیں۔

اب مندرجہ بالا پیش گوئیوں کے ضابطے ملاحظہ فرمانے کے بعد جناب قادیانی کی پیش گوئیوں کے مزید چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔

..... مثلاً مرزا قادیانی نے ایک موقع پر یہ پیش گوئی فرمائی کہ:

..... ”الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اربعة من البنین وانجز وعده من الاحسان وبشرنی بخامس فی حین من الاحیان وهذه کلهآ آیات من ربی“ (دیکھئے آنجمانی کی کتاب مواہب الرحمن ص ۱۳۹، جزائن ج ۱ ص ۳۶۰) یعنی تمام حمد و ثناء اس ذات کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں چار بیٹے عطا فرمائے اور احسان سے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر مجھے پانچویں بیٹے کی بھی خوشخبری دی جو کسی وقت پیدا ہوگا۔ یہ تمام امور میرے رب کی قدرت کے نمونے ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانچواں فرزند کب پیدا ہوا یا یہ کہیں مرزا قادیانی کی صلب یا نصرت بیگم کے رحم میں ہی تحلیل ہو گیا تھا۔

آئیے! مرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ بلا فصل جناب حکیم نور دین کی زبانی معلوم کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانچواں بچہ پیدا نہیں ہوا۔

(دیکھئے ریویو آف ریلیجیج نمبر ۶، ۷، بابت ماہ جون و جولائی ۱۹۰۸ء ص ۲۷۶) اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی آنجمانی کی یہ پیش گوئی پوری نہ نکلی۔ لہذا وہ اپنے ضابطہ کے مطابق صادق نہیں بلکہ واضح طور پر کذاب ثابت ہوا۔ ہذا ہوا المرام!

۲..... مرزا قادیانی نے مولانا محمد حسین پٹالوی کے ”خلق اپنے بعض خوابوں کی بناء پر پیش گوئی کہ یہ میرے مطیع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا کہ: ”وانی رایت ان هذا الرجل یومن بایمانی قبل موته..... و هذه رویای وارجو ان یجعلها ربی حقاً“ (حجۃ الاسلام ص ۱۹، خزائن ج ۶ ص ۵۹، سراج منیر ص ۲۹ ج ۷، خزائن ج ۱۲ ص ۳۱، ۸۰ پیش گوئی ۳۵) اب دنیا جانتی ہے کہ حضرت مولانا محمد حسین آخوند مرزا قادیانی کے مخالف ہی رہے، اس کی تصدیق بالکل نہیں فرمائی۔ تو صاف نتیجہ نکلا کہ مرزا قادیانی اس پیش گوئی میں صاف کذاب نکلا۔ پھر آتھم کی طرح مرزائی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دل سے ڈر گئے تھے۔ کیونکہ آخری دم تک ڈنکے کی چوٹ اس کی تردید فرماتے رہے۔ اگرچہ کسی کا دل سے ڈرنا بالکل غیر مؤثر ہے۔

۳..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ تمام خبیث مرضوں سے تجھے بچاؤں گا۔“

(ضمیمہ تحفہ گوڑویہ ص ۵، خزائن ج ۱ ص ۱۷۲، اربعین نمبر ۳ ص ۳۰۹، خزائن ج ۱ ص ۳۹۲، ۳۱۹) حالانکہ مرزا قادیانی کو مندرجہ ذیل بیماریاں لاحق تھیں۔

❖ ذیابیطس۔ (حقیقت الوحی ص ۳۰۶، ۳۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۹، ۳۷۷، ضمیمہ اربعین نمبر ۴ ص ۴، خزائن ج ۱ ص ۱۷۱، نزول المسیح ص ۲۱۴، خزائن ج ۱ ص ۵۹۲)

❖ دماغی کمزوری و دوران سر۔

(حقیقت الوحی ص ۳۰۶، ۳۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۷۶، ۳۱۹)

❖ کثرت پیشاب، دن میں سو سو بار۔

(ضمیمہ اربعین نمبر ۴ ص ۴، خزائن ج ۱ ص ۱۷۱، نزول المسیح ص ۲۳۵، خزائن ج ۱ ص ۶۱۳)

❖ درد گردہ جس سے مرگی کا خطرہ ہوتا ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۳۳۵، خزائن ج ۲۲ ص ۳۵۸)

❖ درد سر، دوران سر، کمی خواب، تشنگ قلب دل و دماغ اور حس نہایت کمزور،

حالت مردی معدوم۔

(ضمیمہ اربعین نمبر ۴ ص ۴، خزائن ج ۱ ص ۱۷۱، نزول المسیح ص ۲۰۹، خزائن ج ۱ ص ۵۸۷)

ایک دفعہ قونج زحری سے سخت بیمار ہوا۔ (حقیقت الوحی ص ۲۳۴، خزائن ج ۲۲ ص ۲۴۶)

فالج جس سے نصف حصہ بیکار ہو گیا۔ (حقیقت الوحی ص ۲۳۴، خزائن ج ۲۲ ص ۲۴۵)

دائم المرض۔ (برکات الدعا ص ۳، خزائن ج ۶ ص ایضاً، سراج منیر ص ۱۵، خزائن ج ۱۲ ص ۱۷، نزول المسح ص ۱۷۸، خزائن ج ۱۸ ص ۵۵۶)

۴..... مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ کے نتیجے میں ناکام اور مغلوب ہوا۔ (دیکھئے اشتہار ”مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ“ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰) ۵..... مولوی ثناء اللہ قادیان میں پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے نہیں آئے گا۔

(اعجاز احمدی ص ۳۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۸)

جب کہ مولانا صاحب قادیان میں تشریف لائے۔

(مواعب الرحمن ص ۱۰۹، خزائن ج ۱۹ ص ۳۲۹)

۶..... مرزا قادیانی کے ایک سابقہ مرید ڈاکٹر عبدالحکیم جو کہ بعد میں اس سے منحرف ہو گیا۔ اس نے مرزا قادیانی کے حق میں ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء کو پیش گوئی کی کہ مرزا کذاب، دجال، مفسد ہے۔ یہ تین سال تک ہلاک ہو جائے گا۔ جس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے بھی تیر چلایا کہ یہ ڈاکٹر مفسد ہے، یہ میری زندگی میں ہلاک ہوگا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا دو سال سے بھی قبل ہی بمرض ہیضہ ہلاک ہو گیا اور ڈاکٹر عبدالحکیم باقی رہ گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے مرزا قادیانی کی تحریر بعنوان ”خدا سچے کا حامی ہو“ ملحق ترجمہ حقیقت الوحی ص ۲۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۹، ۴۱۰)

۷..... مرزا قادیانی کی مشہور عالم پیش گوئی کہ: ”مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہوگی۔“

(اربعین نمبر ۲ ص ۲۷، نمبر ۳ ص ۱۳، خزائن ج ۱۷ ص ۳۷۵، ۳۹۹، تجلہ گولڈ ویہ ص ۶۲، خزائن ج ۱۷ ص ۱۹۵) مگر آج تک مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل نہ چل سکی۔ اگرچہ اس زمانہ میں کام شروع ہو چکا تھا۔ مگر اس دجال اعظم کی تکذیب و تذلیل کے لئے وہ منصوبہ ختم کر دیا گیا اور آج تک آسمان وزمین آنجمانی پر نفرین بھیج رہے ہیں۔

۸..... محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں سلطان محمد خاوند محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا پہلے ہلاک ہو جانا، مرزا قادیانی کے کذب صریح کی دلیل قاطع ہے۔

(دیکھئے انجام آتھم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

۹..... محمدی بیگم کے نکاح کا مسئلہ خدا کا وعدہ تھا۔ جس کا ٹلنا ناممکن ہے مگر کیا ہوا؟ نامرادی۔ (دیکھئے ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۲، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

۱۰..... پادری عبداللہ آتھم کے پندرہ ماہ تک مرنے کی پیش گوئی۔

(جنگ مقدس ص ۲۱۰، خزائن ج ۶ ص ۲۹۲)

۱۱..... محمدی بیگم زوجہ منظور لدھیانوی کے ہاں لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی جس

کے چھ نام ہوں گے۔ عالم کباب، بشیر الدولہ، کلمتہ اللہ، کلمتہ العزیز وغیرہ۔

(حقیقت الوحی ص ۱۰۰، ۱۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۳، ۱۰۹)

مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ محض بھنگی کی گپ ہی ثابت ہوئی۔ ”وَكذالك نَخْزِي

“الکافرین

۱۲..... محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں چھ پیش گوئیاں ہیں۔

(آئینہ کمالات ص ۳۲۵، خزائن ج ۵ ص ۳۲۵)

مگر اس پیش گوئی کا تمام تانا بانا تار تار ہو گیا۔ مرزا قادیانی ناکام و نامراد واصل جہنم۔

۱۳..... محمدی بیگم کے حقیقی مسلمان خاوند کا اڑھائی برس بعد از نکاح فوت ہو جانا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۲۵، خزائن ج ۵ ص ۳۲۵) جب کہ وہ مرزا قادیانی کے مدتوں بعد فوت ہوا۔

تمام زندگی وہ مرزا قادیانی کے کذب و افتراء کا اشتہار بن رہا۔

۱۴..... ”انسی اری ان اهل مكة يدخلون افواجا في حزب الله

(نورالحق نمبر ۲ ص ۱۰، خزائن ج ۸ ص ۱۹۷)

“القادر المختار

۱۵..... مرزا قادیانی کی عمر مطابق الہام ۸۴ سال یا کم از کم ۷۶ سال ہونی چاہئے

تھی۔ مگر وہ نہ ۷۶ سال ہوئی نہ ۸۴ سال۔ بلکہ صرف ۶۸ سال ہی پر ملک الموت نے اسے

(حقیقت الوحی ص ۹۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰، استغنا ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۲)

آدبوجا۔

۱۶..... مرزا قادیانی کا ایک مخالف الہی بخش کے متعلق لکھا ہے کہ ”الہی بخش ان

خیالات فاسدہ پر قائم نہیں رہے گا۔ (تمتہ حقیقت الوحی ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۳۹) حالانکہ وہ آخر

تک مرزا قادیانی کا مخالف ہی رہا۔

۱۷..... ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (البشری، تذکرہ ص ۵۹۱)

۱۸..... مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے کہ: ”اجیب کل دعاك الا فی

(حقیقت الوحی ص ۲۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۲۵۴)

”شركائك

اس لحاظ سے مرزا احمد بیگ والی پیش گوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ مرزا قادیانی کے

شرکاء میں سے ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہہ دیا گیا کہ تیرے شرکاء کے حق میں دعاء قبول نہ ہوگی تو پھر اس نے اس فرمان کو نظر انداز کر کے محض نفسانی جوش میں آ کر بلعم باعور کی طرح یہ حرکت کیوں کی؟ اگر یہ کہا جائے کہ پیش گوئی دعاء نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سرسید کے حق میں دعاء پیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تزیان القلوب ص ۱۱۰، ۱۱۳، خزائن ج ۱۵ ص ۳۹۶، ۳۸۷) وغیرہ میں کیا گیا ہے۔ لہذا یہ قادیانی اعتراض بیکار اور فضول ہوگا۔

۱۹..... لیکھرام کی پشاور والی پیش گوئی بھی سچی نہ نکلی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اپنے دشمن یا دوست کا خیال کر کے جب توجہ کی جائے کہ اس کے حق میں برایا اچھا الہام ہو تو وہ الہام شیطانی ہوتا ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۶۲۸، خزائن ج ۳ ص ۴۳۹)

لہذا یہ الہام شیطانی ہوا۔ کیونکہ لیکھرام بقول مرزا قادیانی اس کا شدید مخالف اور دشمن تھا اور بالخصوص مرزا قادیانی اس کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعد اس کے مارے جانے کے متعلق کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اس طرف مستغرق ہو گئے تھے۔ لہذا مراق اور ہسٹریازدہ قادیانی دل و دماغ انہیں خیالات کے تانے بانے میں مصروف رہتا۔ آخر بصراحت اخبارات مرزا قادیانی کرائے کے قاتل سے اسے قتل کرا دیا۔ کیونکہ اس کے مارے جانے کے متعلق الہامات سب شیطانی اور مرزا قادیانی کے ذہن کی بناوٹ تھے۔

ناظرین کرام! قادیانی معیار پیش گوئی کی وضاحت کے بعد بطور نمونہ یہ چند پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ عدم وقوع مرزا قادیانی کی دجالیّت اور کذب و افتراء پر مہر تصدیق ہے۔ ایک قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جناب قادیانی ڈینگیں مارتے وقت جب اپنے آپ میں نہیں رہتے تو بے شعوری میں بڑھانک دیتے ہیں کہ میرے لاکھوں نشانات ہیں۔ میرے کروڑوں نشان ہیں۔ میرے اتنے نشان ہیں کہ ان کو اگر ہزار نبی پر تقسیم کیا جائے تو ان کی نبوت ثابت ہو جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر عجیب بات ہے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کو تفصیلاً اور سیریل نمبر لگا کر بیان کرتے ہیں تو روپیٹ کر ان کا نمبر ۱۸ سے اوپر نہیں پہنچا سکے۔ جیسا کہ ان کی آخری کتاب حقیقت الوحی سے ظاہر ہے۔ ورنہ نزول المسح میں صرف ۱۲۳ اور تزیان القلوب میں صرف ۷۵ پر ہی تھک گئے۔ (دیکھئے تزیان القلوب ص ۱۵۴، خزائن ج ۱۵ ص ۴۷۵) باقی تعداد حوالہ مراق ہوگئی اور یہ بیان کردہ بھی محض عامیاناہ اور گھسے پٹے قسم کے واقعات ہیں۔ جن کو معجزات حقہ کے ساتھ ذرا بھر مس نہیں ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جناب قادیانی محض ایک شعبہ باز کی حیثیت کا مالک ہے۔ اس سے اوپر کچھ بھی نہیں۔ لہذا اللہ کریم ہر فرد کو اس کے چنگل سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ آخَرَ مَا شَقِي حَتَّى يَمُوتَ، مَسِيرُهُ وَهْوَ كَوْنُهُ بِمَنْزِلِهِ

# مرزا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ

## مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی

جناب مہتمم جامعہ شمس الہدیٰ الہدایت ڈسک کے تاثرات

”الحمد لله رب العالمین ولصلوة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین!“ حمد و صلوة کے بعد میں نے تحریر ہذا کا شروع تا آخر مطالعہ کیا ہے۔ جس میں واجب الاحترام حضرت مولانا عبداللطیف مسعود صاحب مصنف جلیل نے ایک افسانوی اسلوب تحریر پر حقائق و شہادت ثقل سے قادیانیت کی ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک کی تاریخ قبیحہ کو جامع مگر مختصر پیش کیا ہے۔ جس میں مرزا قادیانی کو مرزائیت کی ہی تصانیف کثیرہ کے حوالہ جات سے متناقض الکلام، مجبوط الحواس، دروغ گو، احمق ذہن، ایکٹرو ڈرامے باز، انگریزی استعمار کا گماشتہ و ایجنٹ، عقل و خرد سے تہی دست، جسمانی و روحانی امراض کا مرقع، خرافات و اختراعات ساز اور ابلیس ملعون کا فرزند اور جانشین اعظم ثابت کیا ہے اور قادیانی نسل کو ایک فکر صالح دینے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قادیانی تحریک کے مستقبل قریب کے لئے پلید و خطرناک سیاسی اور مذہبی عزائم کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ میرے نزدیک مصنف موصوف کی یہ کاوش انتہائی شائستہ اور مستحسن عمل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک دارین میں اجر عظیم عطاء فرمائے۔ آمین۔ یارب العالمین!

اس رسالہ میں تقریباً تمام قادیانیت، خود مرزا قادیانی کی زبان و تحریر سے نئے طرز اور انداز سے ”فیس ٹوفیس“ بیان کی گئی ہے۔ جس سے اس کے تمام دعوے، مغالطے، چکر بازیاں اور من گھڑت نظریات و کردار بالکل الم نشرح ہو جاتے ہیں اور ہر سطح کے فرد بشر پر اس کی عیاریاں اور مکاریاں کھل جاتی ہیں۔ نیز اس کے تمام خلیفوں کی مکمل کارروائی اور حالات بیان کر کے اس سلسلہ و جالیہ کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔

### پیش لفظ!

قارئین کرام! مرزا قادیانی کو کفر و الحاد کا یہ ڈرامہ رچائے سو سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ اس عرصہ میں جیسے مرزائیت نے مختلف طرز و انداز سے یہ چکر چلایا، کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے۔ اسی طرح علمائے امت نے بھی اس فتنے کا انسداد ہر انداز سے اور ہر سطح پر فرمایا ہے۔ علمی انداز میں بھی اور سیاسی انداز سے بھی، مناظرانہ طور پر بھی اور دعوت و نصیحت کے انداز

میں بھی، چیخ اور مبالغہ کے انداز میں بھی اور دعاء و مناجات کے طور پر بھی، مذہبی عنوان سے بھی اور سیاسی و دنیوی عنوان سے بھی۔ غرضیکہ طرفین کی طرف سے اس میدان کارزار میں ہر طرز و طریقہ آزمایا اور اپنایا گیا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے اہل حق ہر پہلو سے کامیاب اور غالب ہی رہے ہیں۔ ”الحق یعلو ولا یعلیٰ“ ستمبر ۱۹۷۴ء کا ماقبل اور مابعد اگرچہ بظاہر نہایت مختلف رہا ہے کہ پہلے مرزا اور مرزائیت پر طعن و تشنیع و ارتقید قانونی لحاظ سے ذرا گراں تھی۔ کیونکہ ابھی تک ملکی قانون نے قادیانیت کا مسئلہ کلیئر نہیں کیا تھا۔ اس لئے ۱۹۷۴ء سے قبل قادیانیت پر کفر و الحاد کا فتویٰ کئی قانونی مسائل پیدا کر دیتا تھا۔ مگر پھر بھی اہل حق کسی خطرے کی پروا کئے بغیر اظہار حق کرتے رہتے تھے۔ لیکن ۱۹۷۴ء کے بعد یہ مرحلہ نہایت سہل اور آسان ہو گیا ہے۔ کیونکہ اب قانون مسلمانوں کے حق میں اور قادیانیوں کے خلاف ہے۔ اگرچہ اب بھی کئی مقامات پر کافی الجھن پیش آ جاتی ہے۔ مگر مجموعی طور پر اب قادیانیوں کا مقابلہ آسان ہے۔ اب ان کی تردید و تنقید کے ذرائع کچھ وسعت پذیر ہو چکے ہیں۔ ناول، افسانے اور ڈرامے وغیرہ کی حد تک یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تا کہ ہر سطح کا ذہن ان کی خباثت کو سہولت سے سمجھ سکے۔ چنانچہ اس خادم نے بھی فتنہ قادیانیت کی تفہیم کا یہ ایک عام فہم طرز اختیار کیا ہے کہ جس میں حوالہ جات بھی استعمال کئے گئے ہیں اور دعوت فکر بھی دی گئی ہے اور انداز نہایت عام فہم، ابتدائی اور سادہ رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش قارئین پسند کریں گے۔

خادم عبداللطیف مسعود، ڈسکہ!

## ابتدائیہ!

### ابلیس کا ایک معنی خیز خطاب اور اس کا نتیجہ

قرآن مجید نے منج شر اور پیشوائے کفر و ضلالت، ابلیس علیہ ما علیہ کا ایک اہم خطاب یوں نقل فرمایا ہے کہ: ”وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلمونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتُمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم (ابراہیم: ۲۲)“ قیامت کی تمام عدالتی کارروائی ختم ہو جائے، پر جب جہنمی بمع ابلیس جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اہل جہنم کی نوک جھوک اور طعن و تشنیع سے دل برداشتہ ہو کر ابلیس لعین، اپنی پیروکار پارٹی سے ایک اہم خطاب کرے گا کہ: ”اے مجھے الزام دے والے احمقو! مجھے ہرگز ملامت نہ کرو اور نہ ہی تمہیں یہ حق پہنچتا ہے۔ کیونکہ اللہ



کریم نے تمہارے ساتھ (توحید اور رسالت کے اقرار اور اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنے پر حسن انجام کا) سچا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ فرمایا: ”اما یا تینکم منی ہدیٰ فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (البقرہ: ۳۸)“ اس کے برعکس میں نے بھی (بنا پر عداوت و انتقام) تم سے کچھ پر فریب وعدے کئے تھے۔ (کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتب و انبیاء کی باتیں ویسی ہی ہیں۔ وغیرہ) مگر میں نے اپنے وعدوں کا خلاف کیا۔ کیونکہ وہ محض دھوکا اور فریب تھے۔ پھر اس معاملہ میں مرا تم پر کچھ دھونس یا زور بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تمہیں صرف گمراہی کی دعوت ہی دی تھی۔ جسے تم نے نفسانی سہولت کے پیش نظر راضی خوشی قبول کر لیا۔ لہذا اب مجھے کسی قسم کی ملامت اور طعن و تشنیع مت کرو۔ بلکہ اپنے آپ کو ہی کو سو اور ملامت کرتے رہو۔ کیونکہ اب نہ تو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ سنواریا گاڑ سکتے ہو۔ کیونکہ اب سارا موقع گزر چکا ہے۔ اے ناعاقبت اندیشو! تم جو مجھے خالق حقیقی کے مقابلہ میں اپنا کار ساز اور کرتا دھرتا سمجھتے رہے ہو مجھے خدا کی بندگی اور اطاعت میں شریک گردانتے رہے ہو۔ یہ سب کچھ محض تمہاری حماقت اور جہالت تھی۔ لہذا اب میرے دل میں اس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلاشبہ تم جیسے ظالموں اور بے انصافوں کے لئے (جنہوں نے خالق حقیقی کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات قائم کر لئے تھے) نہایت ہولناک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ ابلیس رجیم اپنی فداکار اور بے لوث پارٹی کی ہزاروں سال کی اطاعت و فرمانبرداری اور تعلق داری سے کس طرح طوطا چشتی کرتے ہوئے اور بیزار کی کا اظہار کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ بلکہ ایک منٹ میں اس نے آنکھیں پھیر لیں۔ چنانچہ اس کی پارٹی کے سرکردہ رکن افراد اور سرغنے بھی اپنے اپنے حواریوں اور چہیتوں سے یہی معاملہ کریں گے۔

دیکھئے قرآن مجید ان کا کردار بھی بدیں الفاظ پیش کرتا ہے۔ ”و یوم نحشرہم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم فزیلنا بینہم وقالوا شرکاءہم ما کنتم ایانا تعبدون . فکفی باللہ شہیداً بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین . هنالك نبلوا کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولہم الحق و ضل عنہم ما کانوا یفترون (یونس ۲۸ تا ۳۰)“ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر شرک کرنے والوں کو کہیں گے کہ تم بھی اور جن کو تم شریک سمجھتے تھے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ پھر ہم دونوں کو الگ الگ کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری

پوچھنا کرتے تھے۔ سو اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت ہر کوئی اپنے سابقہ کردار و اعمال کی حقیقت معلوم کر لے گا اور پھر اپنے اللہ کی طرف جو سچا مولیٰ اور مالک ہے رجوع کریں گے اور سب بناوٹی عقیدے اور سہارے کا فوراً اور ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ ﴿

دوسری جگہ یوں مذکور ہے کہ: ”وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْسَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَغْوَيْنَا ۖ اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا اَغْوَيْنَا تَبَرَّءْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (الفصص: ۶۲ تا ۶۴)“ ﴿ اور جس دن وہ ان (مشرکوں) کو بلائے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم کچھ (کرنے والے) سمجھتے تھے۔ پھر جن پر فیصلہ لگ چکا کہیں گے اے ہمارے مالک و مولایہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ اب ہم تیرے حضور گمراہی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ نیز یہ لوگ ہماری تو پوجا نہ کیا کرتے تھے اور پھر مشرکوں کو کہا جائے گا کہ اب اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دہائی دو اور پکارو تو جب وہ ان کو پکاریں گے وہ ان کی بالکل نہ سنیں گے اور پھر یہ لوگ عذاب الہی کا مشاہدہ کر کے کہہ اٹھیں گے کہ ہائے کاش وہ راہ ہدایت (توحید خالص اور بیزاری شرک) پر چلے ہوتے۔ (کہ آج یہ روز بدنہ دیکھنا پڑتا)۔ ﴿

علاوہ ازیں اور بھی ابلیسی کارندوں کی اپنے پیروکاروں اور پارٹی کے ساتھ طوطا چشتی کے کئی واقعات اور منظر قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ مثلاً سورۃ صافات کے دوسرے رکوع میں اور سورہ ابراہیم آیت ۲۱ وغیرہ میں، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نیز ساتھ ہی الاعراف آیت ۱۷، یٰسین، سورۃ زمر وغیرہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟

ہمارا ظن غالب بلکہ تقریباً یقین ہے کہ دیگر آئمہ ضلالت کی طرح رب کریم میدان حشر میں مرزا قادیانی اور ان کے چیلوں کو بھی آمنے سامنے کر کے باز پرس کرے گا۔ یا بصورت دیگر مندرجہ بالا ابلیسی خطاب کے بعد خود جناب قادیانی علیہ ماعلیہ اپنی پارٹی کے طعن و تشنیع اور لعنت و ملامت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک خصوصی اجلاس و خطاب کا اہتمام فرمائیں گے اور بعد از تیاری اسٹیج پر بآواز بلند فرمائیں گے۔

ناظرین کرام! یہ خیال محض خیال ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ روز حشر جب دوسرے گمراہ لیڈروں سے سوال ہو سکتا ہے کہ: ”انتم اضللتُم عبادی ہولاء ام ہم ضلوا السبیل (فرقان: ۱۷)“ تو مرزا قادیانی کو کیوں نہ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا۔ خدا کے مقدس نبی کو امت کی گمراہی (جس میں ان کا کوئی دخل نہیں) کے متعلق سوال ہو سکتا ہے۔ ”انست قلت للناس“ تو مرزا قادیانی کو جس نے لاکھوں بندگان خدا کو گمراہ کیا۔ کیوں نہ سوال ہوگا۔ فرشتوں سے سوال ہو سکتا ہے تو مرزا قادیانی سے کیوں نہ ہوگا۔ لہذا ہمارا یہ محض ظن و خیال ہی نہیں بلکہ ایک امر واقعی ہے۔

”ایہا الہانقۃ القادیانیۃ انصتوا استمعوا باذان القلوب“

اے نادان مرزائیو! بغور سنو، میں تو ایک معذور و مجبور، مجمع الامراض، مجبوط الحواس اور مراقی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن و حدیث میں امام الصلالہ کی تعلیم و تفہیم سے دجل و فریب اور کذب و افتراء کا چکر چلا کر دعویٰ مجددیت، مہدویت، مسیحیت اور نبوت و رسالت کر دیا تھا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اور خارج از اسلام اور جہنمی کہہ دیا تھا تو یہ سب میری ایک طبعی اور معاشی مجبوری تھی۔ آخر ہر مجبور معذور انسان معاشی ضرورت کے لئے کوئی نہ کوئی حیلہ اور چکر چلا ہی لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ رفق زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ میرا بھی یہی معاملہ تھا۔ دیکھو میں نے کسی کو طاقت یا دھونس بازی سے اپنے مکرو فریب میں نہ پھانسا تھا۔ بلکہ صرف پیر ضلالت کی طرح زبانی کلامی دعوت ہی دیتا تھا۔ اپیل اور فرمائش ہی کرتا تھا۔ جسے تم نے اپنی جہالت کی بناء پر قبول کر لیا۔ جب کہ باقی کروڑوں انسانوں نے رد کر دیا۔ بلکہ الٹا میرا ہر روز مقابلہ اور زبردست تعاقب کرتے رہے۔ آخر میں نے ان کا کیا باگڑ لیا تھا۔ تم ویسے ہی مجھ سے دور رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ دیکھو میرے ساتھ برسرِ پیکار ہونے والے رحمت کائنات ﷺ کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے سایہ غلبہ بریں کے وارث بن گئے اور تم میرے ساتھ دائمی عتاب و عذاب کا شکار ہو چکے ہو۔

اداحتقوا! آخر صرف تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ کیوں نہ دیا کہ جو شخص پیدائش ہی سے کسی قابلِ قدر کردار و قابلیت کا اہل نہیں۔ وہ بڑا ہو کر کس قسم کی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔

دیکھئے! میری زندگی کی ابتداء اور انتہاء تمہارے سامنے تھی کہ مجھے بچپن سے ہی بوجہ کسی تکلیف کے چھ ماہ تک افیون دی جاتی رہی۔ (منہاج الطالبین ص ۴۷، از مرزا محمود)

جس سے میری حالت یہ ہو گئی کہ زبان میں لکنت تھٹھلا پن پیدا ہو گیا۔

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۲۵، روایت ۳۳)

گھڑی کا وقت نہ بتا سکتا تھا۔ (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۸۰، روایت ۱۶۵)

خود اپنے جوتے کے دائیں بائیں کی تمیز نہ تھی۔ ایک دفعہ چینی کے بجائے نمک ہی

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۳۲، روایت ۲۳۲)

پھانک لیا۔

ایک دفعہ راکھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۳۵، روایت ۲۳۵)

میں تو استنجے کے ڈھیلے اور گڑ ایک ہی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ میری نفاست طبع کا

(دیباچہ براہین احمدیہ ص ۶۷)

حال تھا۔ پھر خدا جانے کون سی چیز کہاں استعمال ہوتی ہوگی۔

بچپن میں سندھی چڑی مار کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۵، روایت ۵۱)

ماں نے جوتے کے دائیں بائیں پر نشان بھی لگا کر دیا۔ مگر پھر بھی پتہ نہ چلتا تھا۔

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۶۷، روایت ۸۳)

ایک دفعہ چوزہ ذبح کرنے لگا تو بدحواسی میں اپنی انگلی ہی کاٹ لی۔

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۴، روایت ۳۰۷)

بچپن میں شرارتی اتنا تھا کہ ایک دفعہ شرارت کرتے ہوئے گر پڑا تو چوٹ لگنے سے

ایک ہاتھ ہی سے ہمیشہ کے لئے معذور ہو گیا۔ چنانچہ میں اس سے پیالی اٹھا کر منہ تک بھی نہیں پہنچا

سکتا تھا۔ گویا گڑ اور ڈھیلے کی طرح منہ اور استنجا میں بھی ایک ہی ہاتھ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ میرا شعور

تو اتنا مسخ تھا کہ قمیض وغیرہ کا نچلا بنن اوپر کے کاج میں ٹانگ لیتا اور اوپر والے نچلے میں۔ جراب

پہنتے وقت ایڑھی پنچے کی طرف ہو جاتی تھی اور پنچہ ایڑھی کی طرف، کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ داڑھی وغیرہ

کو تیل لگاتے وقت ہاتھ نیچے صدری وغیرہ تک مل لیتا۔ جس سے سب لباس ہی خراب ہو جاتا۔

میں تو اتنا سادہ اور لائی لگ تھا کہ ایک دفعہ میرے چچا زاد بھائی مرزا امام دین صاحب مجھے گھر سے

لے گئے کہ باپ کی پنشن کے ساتھ سو روپے لے آئیں۔ مگر رقم لینے کے بعد وہ بھائی مجھے ورغلاء کر

ادھر ادھر پھراتا رہا اور ہم خوب موجیں مارتے رہے۔ حتیٰ کہ چند دن بعد وہ ساری رقم ختم ہو گئی تو

اب مارے شرم کے گھرانے کی جرأت نہ ہوئی۔ لہذا پھر مجبوراً سیالکوٹ کچہری میں پندرہ روپے

ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود سخت

(سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۱۵۶، روایت ۱۵۰)

محنت کرنے کے ناکام ہو گیا۔

بعد ازاں میری شادی کر دی گئی تو وہاں میرے سرمرزا جمعیت بیگ کے دماغ میں بھی کچھ خلل تھا۔

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۲۲۵، روایت ۲۱۲)

اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا جہاں کی بیماریاں مجھ پر مسلط ہو گئیں۔ جن میں قونج، مرق، ہسٹریا، ذیابیطس، اعصابی اور جنسی کمزوری، دوران سر، کثرت بول اور بد ہضمی وغیرہ عام تھیں۔ اب بتاؤ ایسے حالات میں، میں زندگی کی گاڑی کیسے کھینچتا۔ پیٹ کا دھندا کیسے چلاتا؟ بس زندگی کی گاڑی، ٹانگ وائٹن، یا قوتی، مشک و عنبر، تیترو شیر کے گوشت وغیرہ لاتعداد مقویات اور ٹانگوں کے سہارے ہی گھسکتی رہی۔

(دیکھئے خطوط امام بنام غلام ص ۱۳ تا ۲)

لہذا میں نے اول عیسائیوں اور ہندوؤں سے مباحثے اور مناظرے کرنے شروع کئے تاکہ کچھ شہرت اور ناموری ہو جائے۔ پھر براہین احمدیہ شائع کرنے کا ٹانگ رچایا تاکہ کچھ روپے پیسے سمیٹنے کا جال پھیلایا جاسکے۔ جو کہ خوب چلا۔ اس زمانہ میں ہزاروں روپے اکٹھے ہو گئے۔ کچھ کتاب پر لگائے اور باقی عیش و عشرت میں غرق کرنے لگا۔ ساتھ کچھ شہرت بھی ہو گئی اور کچھ ہدیے اور نذرانے بھی آنے لگے۔ ویسے میں نے آئندہ تمام پروگرام (وحی رسالت مسیحیت وغیرہ) کی بنیاد براہین میں رکھ دی تھی۔ جیسا کہ میری کتاب (شہادۃ القرآن ص ۶۵، خزائن ج ۶ ص ۳۶۱) پر ذکر ہے۔ پھر اس وقت اکثر علماء نے میری تحسین و تائید بھی کی کہ یہ فرد یگانہ اسلام کا بہت بڑا خادم اور وکیل ہے تو میری اور بھی چاندی ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس مکرو فریب کے دھندے کو مزید آگے بڑھایا کہ مختلف کتب و رسائل لکھنے لگا۔ جن میں آہستہ آہستہ اپنے جھوٹے دعوؤں کا مرحلہ وار اظہار و اعلان کرنے لگا۔ یکدم اس لئے نہ کہنے کہ کہیں لوگ فوراً بدک ہی نہ جائیں۔ چنانچہ اس کا اظہار بھی میں نے براہین حصہ پنجم میں کر دیا تھا۔ گویا کتابوں اور رسالوں میں اوٹ پٹانگ مار کر اور ادھر ادھر کی خرافات درج کر کے وحی والہام کا چکر چلانا شروع کر دیا۔ تاکہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے سادہ لوح لوگوں کو الو بناتا رہوں۔ چنانچہ میرے اکثر پیروکار بھی نیم پاگل اور مرق زدہ ہی ہوتے تھے۔

(سیرۃ المہدی حصہ سوم ص ۳۰۲، روایت ۹۶۹)

پھر کبھی کسی دعویٰ یا اعلان میں زیادہ سخت اظہار ہو جاتا۔ جس سے علماء اور عام مسلمان مشتعل ہونے لگتے تو فوراً بساط الہام و وحی لپیٹ کر معذرت بھی کر لیتا کہ اس سے میری مراد یہ تھی وہ تھی۔ کہاں میں اور کہاں دعویٰ نبوت بھی میں تو ایک پکا سچا سنی مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کے تمام ثابت شدہ اجماعی عقائد کو منظور و تسلیم کرتا ہوں۔ اجماعی امور کی خلاف ورزی کو کفر و الحاد سمجھتا ہوں۔

(انجام آتھم ص ۲۷، خزائن ج ۱۱ ص ۱۱۷)

اور جب کبھی عدالت تک نبوت پہنچتی تو فوراً صلح کا عہد نامہ لکھ دیتا کہ سر، میں آئندہ کوئی خطرناک الہام یا پیش گوئی شائع نہیں کروں گا۔ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔

(دیکھئے اربعین نمبر اس ۱، خزائن ج ۷ ص ۳۳۳)

اور جب کبھی لفظ نبی کے استعمال پر لوگ ناراض ہونے لگتے تو فوراً کہہ دیتا اور اعلان کر دیتا کہ اس سے مراد صرف اطلاع غیب ہے۔ حقیقی نبوت مراد نہیں۔ وہ تو آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ میں تو ختم نبوت کا پکا معتقد ہوں۔ کون بے ایمان ختم نبوت کا منکر ہو سکتا ہے۔ اس کا منکر تو پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے یہ لفظ لغوی اور مجازی طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تمہیں گوارا نہ ہو تو اسے کاٹا ہوا سمجھو، اور سنو۔ ”مالی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین“ (حیات البشر ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

غرضیکہ اس موقع پر بڑے زور و شور سے ختم نبوت کا اقرار و اعلان کرنے لگتا۔ تاکہ میرا مکرو فریب اور پیٹ کا دھندا چلتا رہے اور راز فاش نہ ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی ہر کتاب بالخصوص آخری کتاب حقیقت الوحی میں بھی ختم نبوت کا صحیح عقیدہ درج کر دیا کہ ”اللہ نے سب سے آخر میں ہمارے نبی ﷺ کو پیدا کیا جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۵)

اب بتلاؤ کیا تمہیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اولوالعزمی، استقامت، صبر و تحمل اور ذات خداوندی پر بے مثال اعتماد و بھروسہ ان کا زہد و تقویٰ کی قرآنی جھلکیاں نظر نہ آئی تھیں کہ مجھے جیسے تھزد لے بہرو پے پر اعتماد کر کے اپنی عاقبت برباد کر لی۔ بھلا تمہیں میری کتابوں میں بے شمار مواقع پر ختم نبوت کا مندرج اقرار و اعتراف نہ ملا۔ منکر ختم نبوت کے متعلق دو ٹوک کفر کے فتوے نظر نہ آئے۔ میرا اعلان کہ میں اجماع امت کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں۔ لہذا اہل اسلام کے جملہ اجماعی عقائد و اعمال بالکل صحیح اور واجب الاعتقاد و العمل تھے۔ ان کا منکر کھلم کھلا کافر اور بے دین تھا۔ جس کا اظہار میں بھی بارہا کرتا رہا۔ اگرچہ پیٹ کا دھندہ چلانے کے لئے کبھی کبھی ڈنڈی بھی مار لیتا، لیکن یہ میری مجبوری تھی، ضرورت تھی۔ ایسے ہی جب..... اچھا بات ذرا لمبی ہو گئی۔ مجھے تو پیشاب بے تاب کئے ہوئے ہے۔ میں ابھی فارغ ہو کر آیا۔ وقفہ بول، بول، نعروں کی جھنکار، غلام احمد کی جے، کرشن مہاراج کی جے، کفر و باطل کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

اوہ..... اوہ یار مجھے بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ سر بھی چکرا رہا ہے۔ کوئی ٹانگ وائیک کا ایک کپ مل جائے یا یا قوتی کی ایک خوراک ہی مل جائے تو آسائی سے بات جاری رکھ

سکوں گا۔ دیکھو بھائی کچھ ملے گا؟ داروغہ جہنم کی گرجدار آواز آئی۔ قادیانی مکار یہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو صرف حمیم وغساق ہے۔ ضریح اور زقوم ہی ہے۔ یہ پکڑ لے اور گزارا کر۔ وہ دنیا کی چیزیں تھیں جو وہیں رہ گئیں اور یہ دوسرا جہاں ہے یہاں یہی کچھ ملے گا۔ (معاذ اللہ) یہ تو دارالجزاء ہے۔ ”وترکتہ ما خولناکم وراء ظهورکم“

یہ دیکھ کر قادیانی گھبرا کر گرم آہ بھرتا ہے اور چند لمحے سکوت کر کے پھر گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اچھا بھائی مولیٰ کی مرضی مرتا کیا نہ کرے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات و نزول مسیح علیہ السلام کا واضح اعلان بھی کر دیا تھا۔ جس پر تمام افراد امت کا اجماع و اتفاق تھا۔ پھر تمہیں میرے رنگ برنگے دعوؤں (مہدی، مجدد، مسیح، کرشن اوتار وغیرہ) دیکھ کر بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ تو محض کوئی چکر یا ڈرامہ ہے۔ ورنہ سچے نبی تو صرف ایک ہی دعویٰ کرتے ہیں اور نہ امام مہدی دعویٰ کریں گے۔ بلکہ وہ تو خود ہی اپنی علامات اور کردار سے پہچان لئے جائیں گے۔ ایسے ہی سچا مسیح بھی آ کر کوئی دعویٰ نہ کرے گا۔ بلکہ احادیث میں مذکورہ علامات کی روشنی میں انہیں فوراً بغیر کسی شک و تردد اور بحث و مناظرہ کے پہچان لیا جائے گا نہ انہیں کتابیں لکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ مباہلے اور مناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا مکمل تعارف ہمارے رؤف و رحیم نبی کریم ﷺ نے احادیث میں کرادیا ہے۔ لہذا ان کی آمد پر ہمیں کچھ بھی تردد نہ ہوگا۔ نیز انجیل شریف میں بھی جناب مسیح نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ: ”دیکھو بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا۔“

تو اس صورت میں تم نے مجھے کس طرح سچا مان لیا کہ میں مجدد بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مسیح بھی ہوں اور نبی بھی ہوں اور ساتھ ہی کرشن اوتار بھی ہوں۔ بھلا مجدد و مہدی اور مسیح تو مسلمان ہیں اور کرشن کا فر غیر مسلم۔ تمہیں اتنی تمیز بھی نہ آئی کہ دعویٰ کرشن میں تو مجھے پہلے قدم پر ہی ایمان و اسلام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ عقل کے اندھو! ایسے ہی میرا نام جے سنگھ بہادر بھی تھا۔

(تذکرہ ص ۶۷۲)

جو کہ سکھوں کا نام ہوتا ہے۔ بتلاؤ! ایک سکھ کو امام مہدی یا مجدد سے کیا تعلق؟ امام مہدی تو پکا سچا اور کامل ترین مسلمان ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے صاف فرمادیا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر یعنی محمد بن عبد اللہ ہوگا۔ اب بتلائیے! کہاں

محمد بن عبداللہ اور کہاں میں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ؟ رتی بھر بھی کوئی موافقت ہے؟ پھر تم کیوں گمراہ ہو گئے؟ اب بتلاؤ میرا اس میں کیا قصور تھا؟ میں نے تو ایک مداری اور بہروپے کا کردار پیش کیا تھا۔ پاگلؤ! تم نے اسے حقیقت سمجھ لیا۔ پھر میری وحی بھی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی ہندی میں، کوئی سنسکرت میں اور پنجابی، اردو اور انگریزی میں۔ جس کا میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالانکہ قرآن نے سچے نبیوں کا یہ ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی قومی زبان ہی میں وحی ہوتی ہے اور خود میں نے بھی یہ ضابطہ تحریر کر دیا تھا کہ: ”یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

چنانچہ کسی وحی کے متعلق یہ بھی لکھ دیا کہ وحی بہت جلدی میں آگئی تھی۔ لہذا معلوم نہ ہو سکا کہ لفظ پلاطوس ہے یا پڑا طوس۔ نیز میں نے ہوشعنا اور ریناعاج کے متعلق لکھ دیا کہ ابھی اس کے معنی نہیں کھلے۔ نیز میں انگریزی وحی کو سمجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچہ شام لال کی خدمات بھی حاصل کرتا تھا۔ (سبحان اللہ)

”لہم عذاب الیم (البقرہ: ۱۷۳)“

”الیس فی جہنم مثنوی للکافرین (زمر: ۳۲)“

یعنی مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپنی عقل کا ماتم کرو۔ اب تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اور نہ تم ہی میرا کچھ سنو اور یا بگاڑ سکتے ہو۔ اب میں تمہاری ساری عقیدت و محبت، تابعداری، چندے اور فنڈز، بیعت نامے وغیرہ کو جو تے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اب تم جیسے احمقوں اور ناواقبت اندیشوں کے لئے ہمیشہ کا رسوا کن عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ ”فلا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا (فرقان: ۱۴)“ وقفہ اجابت کا اعلان..... اور نعروں کی جھنکار، غلام احمد کی جے۔ جے سنگھ بہادر کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے جے جے وغیرہ۔

مناجات قادیانی بدرگاہ رب العالمین

کچھ لمحات کے بعد دوبارہ نشست جمتی ہے اور قادیانی حسرت و افسوس سے واویلا شروع کر دیتا ہے۔

اے میرے مولیٰ! اے میرے مولائے کریم! تو گواہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مرقی آدمی ہوں اور مرقی آدمی کا کسی بات میں



کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی واضح کر دیا تھا کہ مراقی آدمی کو اس کے وہم میں فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ جس پر وہ نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے ”سودائے مرزا“ نامی کتاب لکھ کر تمام حقیقت واضح بھی کر دی تھی۔ لہذا اے بارالہا، ان احمقوں کو جہنم کے نچلے طبقے میں دال دے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ”فقط دابر قوم الظالمین القادیانین والحمد لله رب العالمین“

اے رب کریم! ان سے دریافت فرمالے کہ کیا سچے نبی کی تمام باتیں اور پیش گوئیاں سچی نہیں ہوتیں۔ جب کہ میں نے جو بھی پیش گوئی کی تھی وہ سو فیصد غلط نکلی۔ جن کا نتیجہ دیکھ کر کئی مخلص پیروکار بھی کھسکنے لگتے۔ جیسے کہ نواب محمد علی مالیر کوئلہ۔ یہ صاحب نہایت عقیدت من تھے۔ مگر آہتم کی پیش گوئی کے غلط نکلنے پر بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ اس نے مجھے نہایت پرسوز اور طویل خط لکھا۔ جس کو میں نے نہایت ہی چکنی چپڑی باتوں سے کور کیا۔ پھر مزید مطمئن کرنے کے لئے اپنی لخت جگر مبارکہ بیگم کا رشتہ دے کر اس کو اپنی ضلالت والحاد پر ہی پکا کیا۔ بھلے مانسو! بتاؤ ایسے گھناؤنی ہتھکنڈے راستبازوں کا کردار ہوتا ہے۔ آخر تم لوگ کچھ تو تدبر کرتے تاکہ یہ روز بد تمہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے ہر جگہ دروغ گوئی اور دجل و فریب سے ہی کام نکالا تاکہ ان الوؤں کو پاگل بنا کر اپنا الو سیدھا کئے رکھوں، آخر میں نے پیٹ کا دھندا بھی تو چلانا تھا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا۔

پھر میں نے تو صاف کہہ بھی دیا تھا کہ یہ سلسلہ قادیانیہ اس گورنمنٹ (برطانیہ) کے ماتحت برپا کیا گیا ہے۔ (نہ کہ خدا کی طرف سے اشتہار واجب الاظہار ص ۳، خزائن ج ۱۵ ص ۵۲۳) یہ مرزا قادیانی ملکہ برطانیہ کی برکت سے آیا۔ (ستارہ قیصرہ ص ۸، خزائن ج ۱۵ ص ۱۸) میں نے تو بالکل صاف لکھ دیا تھا کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں۔

(تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۱۹)

حتیٰ کہ میں نے ملکہ برطانیہ کی خوشامد اور کاسہ لیس کر تے ہوئے دور سالے نخہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ شائع کر مارے دیگر تحریرات اس کے علاوہ تھیں۔ جن سے پچاس الماریاں بھرتی تھیں۔

میں نے صاف لکھا کہ میں گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا خیر خواہ ہوں۔

(ملحقہ تریاق القلوب گورنمنٹ عالیہ میں عاجزانہ درخواست ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۹۱)

اور خدا کی کتاب میں تحریف کرتے ہوئے گورنمنٹ، انگریزی کو اولی الامر میں شامل کر دیا۔ (العیاذ باللہ) اے اللہ اتنی وضاحت کے باوجود کیا یہ احمق اندھے تھے؟ کہ انہوں نے مجھے خدا کی طرف سے سمجھ لیا۔ کہاں مرکز نبوت حقیقیہ عرش الہی اور کہاں تخت ملکہ برطانیہ جو میرے سلسلہ دجالیہ کا مرکز تھا۔ ان احمقوں کو دونوں مرکوزوں میں تمیز نہ تھی۔ بھلا انہوں نے نہ سنا تھا کہ چہ نسبت خاک رابعالم پاک۔ کہاں عرش الہی کہاں کنواری اور بے غسلی عیسائی ملکہ برطانیہ۔ اے مولیٰ کریم! میں نے تو یہ ضابطہ مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انبیاء کی طرف صرف جبرائیل ہی وحی لے کر آتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۵۳۴، خزائن ج ۳ ص ۳۸۷)

جب کہ میری کسی بھی کتاب میں یہ وضاحت نہیں کہ میرے پاس جبرائیل وحی لے کر آتا ہے۔ اگر کہیں ہو تو کوئی مرزائی مر بی بتلائے۔ بلکہ میں نے تو شغل کرتے ہوئے صاف صاف اپنے جعلی فرشتوں کے نام یہ بتلائے تھے۔ ٹیچی صاحب (حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۶) مٹھن لال (تذکرہ ص ۵۶۰) خیراتی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱) جناب شیر علی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۲) درشنی صاحب۔ حفیظ نامی فرشتہ انگریزی فرشتہ (تذکرہ ص ۷۵۷) وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح میں نے اپنے خدا کے نام یہ بتلائے تھے۔ الصاعقہ (البشری ج ۲ ص ۷۶) خدائے یلاش (تحفہ گلزو یہ ص ۶۹، حاشیہ، خزائن ج ۱۷ ص ۲۰۳) ربنا عاج (براہین ص ۵۵۵، خزائن ج ۱ ص ۶۶۲) انگریزی خدا (براہین ص ۳۸۰، خزائن ج ۱ ص ۵۷۱) وغیرہ۔

تو کیا ایسے خدا اور فرشتے بھی کبھی کتب الہیہ میں سنے گئے ہیں۔ میں نے تو محض گپ ماری تھی۔ ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ شاید یہ آو میری ڈرامہ بازی سمجھ کر اپنا دامن بچالیں گے۔ مگر یہ بد فطرت آو کے آو ہی رہے۔ بار الہا، فرمائیے۔ جب میں نے اتنی صراحت کر دی تو میرا کیا قصور؟ ان احمقوں کو کچھ بھی عقل نہ آئی کہ یہ تو ایک شغل، ڈرامہ اور ٹھٹھہ ہے۔ حقیقت نہیں کبھی ایسے خدا اور فرشتے بھی کبھی ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ بے سمجھ ظالم میری خوش گپیوں پر یقین لے آئے اور اپنا آپ تباہ کر لیا۔ پھر ایسے خدا اور ایسے فرشتوں کے الہام بھی اس طرح کے ہی ہوتے تھے۔ مثلاً ملاحظہ فرمائیے! البشریٰ اور تذکرہ کوئی الہام عربی میں کوئی اردو اور فارسی میں، کوئی سنسکرت اور پنجابی میں اور کوئی انگریزی میں کوئی عبرانی میں ہے۔ کوئی کس۔ گویا یہ سب چوں چوں کا مرہ بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے الہام کہ جن کا نہ سر نہ پیر۔ محض گول مول بلا پیندے کے کہ حسب موقع کسی نہ کسی حادثہ یا واقعہ پر فٹ ہو سکیں۔ جیسے ”کلب یموت علی کلب“ اپنے کسی

مخالف کے نقصان یا موت پر اسے فٹ کر لیا کرتا۔ اس کے علاوہ جب کوئی اور واقعہ رونما ہوا اس پر بھی فٹ کر لیا۔ جیسے میرے خلیفوں نے اسے موڑ کر بھٹو کی موت پر فٹ کر کے کوچہ و جاہلیت کو بارونق کر دیا۔

الغرض جیسے میرے خدا اور فرشتے رنگ رنگیلے تھے۔ ویسے ہی الہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک الہام ہوا۔ ”تین اترے ایک عطر کی شیشی“ (تذکرہ ص ۷۷)

دوسرا ”تائی آئی تار آئی۔“ (تذکرہ ص ۷۸)

تیسرا ”کچلہ کوئین فولادیہ دعائے ہمزاد“ (تذکرہ ص ۷۹)

فرمائیے کسی سچے نبی کو ایسے الہام بھی ہوا کرتے ہیں۔ جن کا نہ سر نہ پیر۔ مگر ان ظالموں نے میرے تمام خرافات کو نہایت متبرک سمجھ کر الگ مستقل کتابوں میں جمع کر دیا اور اس کے ٹائٹل پیج پر جلی حروف سے لکھ دیا۔ ”وحی مقدس“ کیا مقدس وحی ایسی ہی ہوتی ہے؟ العیاذ باللہ!

لاہوری پاگلوں نے بشری نامی کتاب میں اور قادیانی اور ربوہ والے آلوؤں نے تذکرہ نامی کتاب میں گویا یہ شیطانی بکواسات صحیفہ آسمانی ہیں۔ یہ خواہ مخواہ پاگل بن کر عوام کو بھی آلو بناتے رہے۔ خاص کر حکیم نور دین جس نے مجھے یہ چکر بازی کی پٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسی چالیں بھی بتاتا رہا۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ یہ نہ ہوتا تو شاید میں اتنی مخلوق کی گمراہی کا سبب نہ بنتا۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی کئی پڑھے لکھے پاگل لگ گئے۔ دیکھو ایک یہ ٹھگ عبدالکریم ہے۔ جس نے پہلے پہل مجھے دعویٰ نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ اکمل پاگل۔ جس نے اپنے شعروں میں مجھے محمد ثانی قرار دیا اور عہد میثاق بنا دیا۔ خدا اسے تباہ و برباد کرے۔ یہ دوسرا شیطان حکیم فضل دین ہے۔ یہ احسن امر و ہوی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی شیطان کے چیلوں نے میرے گرد اکٹھے ہو کر میرا بیڑہ غرق کر دیا۔ خدا ان کو تباہ کرے۔ دوبارہ آمد ہوتی ہے۔

ٹھہر و صبر کرو۔ ہائے اجابت ہائے پیشاب، دونوں راستے چل پڑے ہیں۔ وقفہ اجابت، ایک طرف سے نعروں کی جھنکار اٹھتی ہے۔ میرے غلام احمد کی جے، میرے کرشن اوتار کی جے۔ کفر و ضلالت کی نشانی، مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ آفرین و مرحبا قادیان و ربوہ۔

میرے محبوب حکیم صاحب ذرا وہ یا قوتی کی ڈبیہ تو لاؤ۔ میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے۔ ابھی تو کافی گفتگو باقی ہے۔ ابھی تو یہ ہمارا کنونشن دیر تک چلے گا۔ حضرت وہ تو مطب میں ہی رہ گئی ہے یا آپ کے بیت الفکر میں ہوگی۔ اوہو! افسوس صد افسوس۔ اچھا خیر، چلو بات کرتے ہیں۔ ہاں جی! کوئی اور اشکال یا اہم بات؟ میرے من موہنے امتیو، کھل کر بولو۔

آج ہم پر کوئی پابندی نہیں، کوئی نقص امن کا خطرہ نہیں

ایک منجلا قادیانی: حضرت صاحب! آپ صرف ہمیں ہی لٹاڑتے جاتے ہیں۔ ذرا اپنا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کیا آپ نے اپنی بے شمار کتابوں میں بڑے بڑے دلائل کے ساتھ دعویٰ مسیحیت نہ کیا تھا؟ جس پر قرآن مجید کی تیس آیات بھی پیش کیں۔

(ازالہ اوہام ص ۵۹۸، جزائن ج ۳ ص ۴۲۳ تا ۴۲۸)

پھر آپ نے بے شمار رسائل اور اشتہارات اور زبانی بیانات میں نہایت وضاحت سے اعلان فرمایا کہ وفات مسیح تو تمام صحابہ کا جماعی عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے آئمہ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ جیسے امام بخاری، مالک اور ابن حزم، ابن تیمیہ وغیرہ۔

(انجام آقہم ص ۱۳۴، جزائن ج ۱ ص ۱۱۵، ایضاً، کتاب البریہ ص ۲۰۳، حاشیہ، جزائن ج ۱ ص ۲۲۱)

اسی طرح آپ نے اپنی نبوت کے اثبات کے لئے مستقل رسالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ لکھ مارا۔ جس میں نہایت مکارانہ چالوں سے زمین کو آسمان اور رات کو دن کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کے مصلح موعود مرزا بشیر الدین نے تو حقیقت نبوت وغیرہ کتب لکھ کر حد ہی کر دی کہ حضرت صاحب حقیقی نبی ہے۔ ظلی و بروزی تو آپ نے تو اضعا فرمایا ہے۔

نیز آپ نے اس موضوع پر کئی مباحثات بھی کئے تھے، چیلنج کئے، مبالغہ کی دعوت دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے یہ جانثار حواری اور پیروکار اس مسئلہ پر ہر اہل اسلام سے مدتوں مناظرے کرتے رہے۔ آپ کے اس امر وہی نے تو اس مسئلہ کی تائید میں کئی ضخیم تصانیف بھی شائع کی ہیں۔ تو ہم اس مسئلہ میں پھر کیسے پیچھے رہتے۔ چنانچہ ہم بھی وہی بڑھانکتے رہے جو آپ اور یہ حضرات مربی ہانکتے رہتے تھے۔ حضرت آپ کی تو کوئی کتاب اس مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔ پھر ہم ہی ملزم کیوں؟ اور آپ بری کیوں؟ آپ کی درجنوں کتابیں، بے شمار ملفوظات اور اشتہارات کس کھاتہ میں جائیں گے؟

مرزا قادیانی: اے میرے پیارے امتی! تیری یہ سب باتیں درست ہیں۔ مگر ذرا توجہ اور غور کرتے تو تمہیں یہاں بھی حقیقت نظر آ جاتی اور میری ڈرامہ بازی ظاہر ہو جاتی۔ دیکھئے نا:

اول تو خود رب کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حیات و نزول مسیح کا فیصلہ فرمایا ہے۔ جسے تمام صحابہ کرامؓ اور بعد کے تمام مجددین، مفسرین، محدثین وغیرہ برابر نقل کرتے رہے۔ چنانچہ مجھ سے پہلے کے تمام مفسرین امت نے صاف صاف اس عقیدہ کو بے شمار دلائل و براہین کے ساتھ لکھا ہے۔ کوئی ایک مفسر بھی الگ نہ رہا۔ نیز محدثین کرام نے نزول مسیح کے مستقل ابواب

قائم کر کے حقیقت الم نشرح کر دی۔ ایسے ہی کتب کلام اور تصوف میں بھی اس مسئلہ کو متواتر اور مسلسل نقل کیا جاتا رہا کہ حیات و نزول مسیح پر اجماع امت ہے۔ چنانچہ میں نے خود اس تواریخ کے متعلق اپنی کئی کتب میں صراحت کر دی تھی۔ مثلاً:

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷، شہادت القرآن ص ۸۰۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸، ۳۰۴)

ان تمام شہادات کو نظر انداز کرنا کوئی عقلمندی کی بات تھی جو یہ پاگل اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے؟ نیز میں نے بھی نہایت صفائی سے قرآنی آیات کے حوالہ سے مسیح کے نزول ثانی کا فیصلہ کیا تھا۔ دیکھئے میری اول انعامی کتاب (براین ص ۴۹۸، ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳، ۶۰۱ حاشیہ) وہاں میں نے ”هو الذی ارسل رسولہ“ کے تحت صاف لکھا تھا کہ جب حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ ایسے ہی آیت ”عسیٰ ان یرحمکم“ کے تحت بھی لکھا تھا۔ ایسے ہی بندہ نے اپنی کتاب (شہادۃ القرآن ص ۸۰۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸، ۳۰۴) پر تو اس سے بھی واضح طور پر اس عقیدہ کو بصراحت درج کیا تھا۔ جس میں کسی فرد کو ادنیٰ سا اشتباہ باقی نہ رہنا چاہئے تھا۔ باقی تو سب کہیں تھیں۔

مرزائی: حضرت صاحب اس کے متعلق تو آپ نے صد ہا مقامات پر لکھ دیا تھا کہ یہ عقیدہ حقیقت منکشف ہونے سے پہلے کا ہے۔ بعد میں خدا کی مسلسل وحی نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ بلکہ فرمایا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پہلا مسیح فوت ہو گیا ہے۔

(اعجاز احمدی ص ۶، ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳، ۱۱۴)

مرزا قادیانی: میرے پیارے امتی! اس حوالہ میں بھی وہی وجہ و فریب کا معاملہ ہے۔ جو میں ہر موقع اور ہر مسئلہ میں برابر استعمال کرتا رہا۔ یہی تو میرا پروگرام تھا کہ بات الجھا کر تم لوگوں کو آلو بنانا ہے۔ تاکہ چندے کا چکر قائم دائم رہے۔ ورنہ میرے کوئی بل چلتے تھے۔ بھئی یہ ہیرا پھیری نہ کرتا تو پیٹ کا جہنم کہاں سے بھرتا؟ یہ یا قوتیاں، ٹانک وائٹ، عزیز، مرغ و شیر کہاں سے آئے۔ ہاں پھر میری پیاری محبوبہ نصرت جہاں بیگم کے اللے تلے کہاں سے پورے ہوتے۔ سوچتے نہیں؟ وہ بیچاری انہیں شاہ خرچیوں کے سہارے تو رہ رہی تھی اور میرے پاس کیا تھا؟ نہ میرے پاس مال و دولت تھی نہ کوئی شکل اور عقل ہی تھی۔ بس صرف اللے تلے اور ناز و نخرے ہی تھے۔ پھر اور بھی کچھ نہ تھا۔ جی ہاں تو بات براہین کے حوالہ کی چل رہی تھی تو پیارے سنو! کہ یہ بھی ایک چکر تھا۔ دراصل میں نے ملکہ برطانیہ کے حکم پر اور نور دین کے مشورہ پر سارا پروگرام پہلے ہی مرتب کر لیا تھا کہ میں نے اس اس بہانہ سے یہاں تک پہنچانا ہے۔ پروگرام مکمل طور پر پہلے ہی مرحلہ میں

طے شدہ تھا۔ مگر پیش رفت مرحلہ وار کرنا تھی۔ جسے تم نہ سمجھ سکے۔ دیکھو میں نے پہلی کتاب براہین ہی میں اشارے کنائے سے تمام جزئیات اور تفصیلات جمع کر دی تھیں۔ جسے ظاہر میں علمائے اسلام بھی نہ سمجھ سکے اور جو پختہ علمائے حق تھے وہ سب سمجھ گئے۔ ان کے کان میرے متعلق اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ آپ خود دیکھیں کہ میں نے براہین کا معاملہ اشاعت تو جو تھے نمبر پر ٹھپ کر دیا تھا۔ اگرچہ لوگوں سے مکمل پیشگی رقم بھی وصول کر چکا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے بقیہ کتاب کا مطالبہ بھی کیا مجھے سو قسم کی لعنت ملامت بھی کی۔ مگر میں ایک خاص مقصد کے تحت خاموش ہی رہا۔ جو ہوتا، برداشت کرتا رہا۔ دیکھئے میں نے بعد کی ہر کتاب اور تحریر میں ہمیشہ براہین ہی کا حوالہ دیا ہے۔ گویا وہ میرے مشن کے لئے بطور بنیادی متن کے تھے اور بقیہ کتب اس کی تفصیل و تشریح۔ براہین میں میں نے آئندہ پروگرام کی ایک ایک جزئی سیٹ کر دی تھی۔ جسے بعد میں حسب موقعہ ظاہر کرتا رہا۔ غور سے دیکھئے (براہین احمدیہ ص ۴۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳ حاشیہ) میں اصل مسئلہ بیان کر کے ساتھ اپنا بھی ٹانگا لگا دیا ہے کہ: ”مسیح تو وہی آویں گے مگر میں مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں۔“ گویا یہ پہلے مروجہ مثل مسیح بننے کی تمہید اور آسرا تھا۔ جسے بعد میں آگے پہنچایا گیا۔ سنا آؤ باٹے، تھا تو میں مراقی مگر تم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو خوب حکمہ دیا، احق بنایا۔ آخر میں نے ابوزید سروجی کی مقامات خوب پڑھی تھی تو اس کا بہروپ کیوں نہ بھرتا۔ ورنہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب عمل نہ ہو۔ چنانچہ میں نے (ازالہ اوہام ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲) میں بھی صاف لکھ دیا تھا کہ میں تو مسیح کا مثل ہوں۔ اصل مسیح نہیں جیسا کہ عرصہ سات آٹھ سال یعنی براہین کے زمانہ سے مسلسل شائع کر رہا ہوں۔ تو جو مجھے اصلی مسیح خیال کرے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ ص ۱۹ پھر میں جہاں اس مسئلہ کو آہستہ آہستہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہاں پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مسئلہ نزول مسیح کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہوتا۔ (ازالہ ص ۱۴۰، خزائن ج ۳ ص ۱۷۱) کہ اس پر عوام مشتعل ہو کر فوری طور پر کان نہ کھڑے کر لیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کو غیر اہم قرار دے کر جناب سرسید نے بھی وفات مسیح کا نظریہ لکھا تھا۔ (دیکھئے ان کی تفسیر القرآن) مگر انہوں نے اس پر اپنے کسی دعویٰ کی استواری نہ کی تھی۔ اس لئے وہ اہل اسلام کے عتاب عام سے محفوظ رہے اور میں دھریا گیا۔ کیونکہ میں نے اس پر اپنی مسیحیت کی استواری کر لی تھی۔

علاوہ ازیں میں نے کھل کر پھر اعلان کر دیا کہ میں ہی آنے والا مسیح ہوں۔ اسرائیلی مسیح تو فوت ہو چکا ہے۔ اس کی تو قبر بھی سری نگر محلہ خانیاں میں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کو سب

نے باتفاق قبول کر لیا ہے۔ (ظاہر ہے سب نے جسمانی نزول ہی کو تسلیم کیا ہوا تھا) اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن ثابت نہیں ہوتی۔ تو اتر کا ازل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی حصہ بخزہ نہیں دیا۔ دیکھو میری اہم (کتاب ازلہ اوہام ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰) دیکھئے میں نے اس بیان سے دوسرا فائدہ اٹھایا۔ ایک تو منکرین حیات کی تردید اور دوسرا اپنے ڈرامے کی تمہید اور تیاری۔ پھر اسی حقیقت کو اس سے بھی سو درجہ وضاحت سے میں نے اپنی کتاب شہادت القرآن کے شروع میں درج کر دیا تھا۔ لہذا اب بھی کوئی اندھا بن کر محض میری ذاتی چکر بازی کا شکار ہو جائے تو اس کی اپنی بد بختی ہے۔ میرا اس میں کیا قصور؟ کہاں قرآن وحدیث کی نصوص قطعہ اور کہاں مجھ مرآتی کی گپ بازی۔ فرمائیے از روئے احادیث کثیرہ، آمد دین، مجددین ومحدثین، مفسرین اور متکلمین بالاتفاق شروع سے یہی عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور لکھتے چلے آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرزند مریم تھے۔ صاحب انجیل اور رسول الہی بنی اسرائیل تھے۔ وہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نہ کوئی اور مکار و فریبی۔ ابو زید سروجی کا ہم کردار۔ دیکھئے اناجیل اربعہ مروجہ۔ پھر میرا یہ کہنا کہ میرے اس نظریے کے حامی امام بخاری، مالک، ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن عربی وغیرہ بھی ہیں۔ میرے پیارو! یہ سب محض فریب اور جھوٹ تھا۔ کیونکہ درحقیقت اس کا کوئی بھی قائل نہ تھا۔ بلکہ یہ سب حضرات بالصراحت حیات ونزول مسیح کے جسمانی طور پر قائل تھے۔ سینکڑوں دینی کتب میں اس پر اجماع نقل کیا گیا تھا۔ تمام محدثین اور متکلمین نے نزول مسیح کے ابواب منعقد فرمائے تھے۔ پھر بھی تم آلو کے آلو ہی رہے۔ تمام مرزائی مبلغ کھسی پر کھسی مارتے ہوئے وہی میری جھوٹ بات ہی نقل کرتے رہے۔ سچ کہنے یا لکھنے کی توفیق نہ مل سکی۔ العیاذ باللہ!

چنانچہ یہ عقیدہ تمام بزرگان دین نے صد ہا بلکہ ہزار ہا کتب تفسیر وحدیث میں مسلسل درج فرمایا ہے۔ نیز انجیل متی اور لوقا میں بھی اصل مسیح کے نزول کا واضح تذکرہ ہے۔ دیکھئے متی ۲۴: ۲۷، لوقا ۲۱: ۲۷، مرقس ۱۳: ۱۶، نیز کتاب اعمال ۱: ۱۰، ۳: ۲۱ وغیرہ۔

اب بتلاؤ! ایک طرف اتنی ٹھوس شہادت قرآن کی، احادیث کی اور ان کے ضمن میں ہزار ہا علمائے امت کی۔ نیز کتب سابقہ کی بھی اور دوسری طرف میری ہیرا پھیری اور متضاد باتیں وہ بھی ملی جلی اور پر فریب طور پر۔ کیونکہ صاف وضاحت بھی نہ تھی اور کہیں مکارانہ اور دجالانہ اظہار

اور جھوٹا پروپیگنڈہ بھی تھا تو ایک عقل منل انسان کے لئے فیصلہ بالکل آسان ہے کہ ہزار ہا صاف اور دو ٹوک شہادات کے مقابلہ میں چند پر فریب اور متضاد تحریرات کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ بھی دنیا تو دار امتحان تھا۔ ہر شخص کو اپنی سعادت و شقاوت اور نیک و بد میں تمیز کرنا لازمی تھا۔ پھر جو اپنی عقل و فکر کو کام میں لا کر راہ ہدایت پر چلا وہ کامیاب اور جو ہوائے نفسی میں پھنسا رہا وہ ہلاک ہوا۔

مرزا قادیانی: اچھا یار، پیشاب کبخت پھر زور مار رہا ہے۔ لہذا اعلان وقفہ بول کر دو۔ چاروں طرف سے وقفہ بول کا اعلان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی نعروں کی گونج فضا میں تلاطم برپا کر دیتی ہے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ مکرو فریب کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ ملکہ برطانیہ کا ہر کارہ۔ آفرین و مرحبا۔ قادیاں کا بہر و پیہ، مردہ باد۔ پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔

جناب مسیح دجال قادیانی چند لحظات کے لئے بھاگم بھاگ لیٹرین میں جا گھستے ہیں۔ پھر چند منٹ کے بعد مرجھائے چہرہ کے ساتھ پھر واپس آدھکتے ہیں۔ تو ایک صاحب حکم نور دین صاحب ہو سکتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں۔ حضرت یہ بول و براز کا چکر سلسلہ کلام کو بد مزہ کر رہا ہے۔ حکم ہو تو ہم اسٹیج کے پاس ہی اس کا بندوبست نہ کر دیں تو مرزا قادیانی فوراً تحسین آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شاباش، شاباش۔ نور دین نور دین ہی ہے۔ میرا یہ لنگوٹیا ہی دنیا و آخرت کا جگری یار ثابت ہو رہا ہے۔ تو فوراً کوئی ٹوٹا پھوٹا یا زقوم کا خالی ڈرم سٹیج کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ تاکہ وقت کی بچت ہو اور حضرت صاحب کو دور جانے کی زحمت نہ ہو۔ آواز آتی ہے۔ حضرت آپ تقریر دلپذیر شروع فرمائیں۔ پھر الہامات قادیانی کی دلپذیر تلاوت کے بعد مرزا قادیانی گویا ہوئے۔ ہاں بھی میں اپنی اصل حقیقت تو واضح کر چکا ہوں کہ یہ سب مجبوری تھی، ضرورت تھی، پیٹ کا دھندہ تھا۔ یہ سب چکر بازی تھی، تو عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ ڈرامہ مذکورہ بالا خطوط پر شروع کیا تھا۔ مگر جب اغوائے شیطانی سے اور آگے پیش رفت کرنے لگا تو نہایت لچر اور غیر معقول جھکندے اور بہانے استعمال کرنے لگا۔ جن کو کوئی پاگل بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ مگر احمق! تم نے فوراً اسے وحی آسمانی سمجھ کر قبول کر لیا۔ حالانکہ تمام امت کے مقابلہ میں ایک مخالف اور نئی بات کے متعلق خدا کا صاف اعلان ہے کہ: ”ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسأت مصيراً (نساء: ۱۱۰)“ اور جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت پر اتر آئے اور تمام اہل ایمان کے خلاف راستہ پر چل پڑے تو ہم اسے اسی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ جدھر اس نے رخ کیا۔ بلا آخرا سے جہنم رسید کر دیتے ہیں اور کتنا ہی برا ٹھکانا ہے۔



چنانچہ میں نے بھی لکھ دیا کہ مجددین امت سے انحراف فسق و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انحراف فسق و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انحراف کفر ہے، زندقہ ہے۔ جب کہ یہ مسئلہ حیات و نزول نہایت وضاحت سے تمام مجددین اور آئمہ دین نے بتا دیا تھا اور اس پر اجماع امت نقل کیا تھا تو پھر اس میں شک و شبہ کی کیا گنجائش تھی؟ تم نے خواہ مخواہ میری متضاد خرافات کو سینے سے لگا کر ثابت شدہ حقائق سے انحراف کر لیا اور جان بوجھ کر کفر و فسق اور الحاد و زندقہ میں جا گھسے۔

اتھقوا! پتہ ہے کہ میں مسیح موجود کیسے ٹیکنیکل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (کشتی نوح ص ۳۵، ۳۶، خزائن ج ۱۹ ص ۴۹، ۵۰) اور اپنی دیگر کتب میں لکھا تھا کہ پہلے مجھے مریم بنایا گیا۔ پھر مجھے عیسیٰ کا حمل ہوا۔ جو دس ماہ تک رہا۔ پھر مریمیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ گویا میں سے میں ہی پیدا ہو گیا۔ او جانورو! بتاؤ کبھی ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا بھی ہے؟ اسے کون احق تسلیم کرے گا۔ اس طرح تو ہر کوئی کسی بھی دعویٰ کے لئے ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ دیکھو میرے نور دین نے اپنے بیان ملحقہ ازالہ اوہام میں تاویلات باطلہ کے متعلق صراحت کر دی تھی۔

(ازالہ اوہام ص ۸)

چنانچہ اسی دوران ایک شغلی نے مجھے سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت صاحب آپ کو حمل تو ہوا۔ بچہ بھی ہو گیا تو کوئی حیض و نفاس کا چکر بھی چلا تھا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ بھائی اب حیض کیا دیکھتے ہو وہ تو اب بچہ بن گیا ہے۔ (ہاں پہلے کہتے تو دکھا دیتا) جو خدا کے بچوں جیسا ہے۔ دیکھو میری کتاب (تمہ حقیقت الوحی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱) بتلا اے احق کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو خالص کفر ہے۔ قرآن مجید میں تو اس کی زبردست مذمت آئی ہے کہ فرمایا: ”قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفواً احد“ نیز سورہ مریم، آل عمران، توبہ اور مائدہ وغیرہ میں اس کی نہایت مذمت کی گئی ہے۔ ارے کچھ تو سوچتے تاکہ آج جہنم کا ایندھن نہ بننے اور سنو میرا ایک مخلص اور مراقی مرید قاضی یار محمد بھی تھا۔ جو میرا عاشق زار اور بڑا ہمدرد تھا۔ اس نے ایک رسالہ ”اسلامی قربانی“ تحریر کیا تھا۔ نیز اس کے مختلف حالات و کوائف میرے محبوب بیٹے بشیر احمد ایم۔ اے کی کتاب سیرۃ المہدی میں مذکور ہیں۔ چنانچہ وہ نماز کی حالت میں بھی مجھے نہ چھوڑتا۔ وہاں بھی مجھے چھینڑنا اور ایذا دیتا رہتا تھا۔

(سیرۃ المہدی ج ۲ ص ۲۶۸)

چنانچہ اس نے اپنے ایک رسالہ (اسلامی قربانی ص ۱۲) میں لکھ دیا کہ یہ تمام حالات اور مراحل میرے حضرت صاحب پر گذر چکے ہیں۔ حیض اور حمل اور زچگی کا۔ ہاں ایک اور راز کی بات

یہ حضرت نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ میں کشف کی حالت میں تھا کہ خدا نے میرے ساتھ مردوں والا معاملہ کیا تھا۔ یہ حمل اس طرح ہوا تھا۔ چونکہ یہ ذرا شرم کی بات تھی، پردہ کی بات تھی۔ اس لئے حضرت صاحب نے اسے میں یوں بیان فرمایا کہ: ”سرك سري“ اور خدا نے فرمایا: ”انت منى بمنزلة لا يعلمها انخلق“ (البشری ج ۱ ص ۴۶)

نیز یہ بھی الہام ہوا کہ: ”انت من مائنا وهم من فشل“ (تذکرہ ص ۲۰۴)

نیز فرمایا کہ آواہن۔ یعنی خدا تیرے اندر آتے آئے۔

(تذکرہ ص ۳۱۱، کتاب البریہ ص ۸۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲)

ایسے ہی دیگر ارشادات میں حضرت صاحب نے اس حمل زچگی وغیرہ کے تمام حالات اور جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ذرا اشارے سے۔ ویسے ہمارے حضرت صاحب بڑے رنگین مزاج بھی تھے کہ کبھی خدا کی بیوی بن کر حمل کرا لیتے اور کبھی اس کے پیارا بیٹا بھی بن جاتے۔ دیکھو نا حضرت کا الہام کہ: ”اسمع ولدی“ (البشری ج ۱ ص ۴۹)

اور الہام شریف: ”انت منى بمنزلة اولادى“ وغیرہ (البشری ج ۲ ص ۶۵)

یہ تو چھوٹے مقامات ہیں۔ ہمارے حضرت تو اس سے بھی بالا تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: ”رايتني فى المنام“ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقع میں خدا ہی ہوں۔

(آئینہ کمالات ص ۵۶۴، خزائن ج ۵ ص ۱۵۵، کتاب البریہ ص ۸۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)

مگر پھر یہ بھی فرمادیا کہ: ”ثم صدرت كائنا منتظما“ کہ پھر میں سورخ دار برتن بن گیا۔ (کتاب البریہ ص ۸۵، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)

بھائیو! میرے خیال میں آپ کو کثرت بول کا مرض یہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ کیونکہ سورخ دار برتن میں پانی وغیرہ ٹھہرتا ہی نہیں بلکہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بھائیو! میں تو ایک مرزا قادیانی کا عاشق بے خود ہوں۔ میں آپ کے بہت سے کمالات اور مقامات سے باخبر ہوں۔ لیکن آپ کو اتنے پر اکتفاء کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اکثر تعلقات اور امور بھید میں رکھنے پڑتے ہیں۔ لہذا مجبور ہوں۔

پھر فوراً آواز گر جتی ہے۔ وقفہ بول، بول، بول، وقفہ جمیم، عذرا، وقفہ انحرار کی بھنگاری بلند ہوتی ہے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ جے سنگھ بہادر کی جے۔ دجل و فریب کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

تھوڑی دیر بعد پھر محفل جمتی ہے۔ آئیے آئیے حضرت صاحب فرمائیے۔ مرزا قادیانی یوں گویا ہوئے: ہاں تو میں بیان کر رہا تھا کہ میں نے صاف طور پر بارہا اصل اجماعی عقیدہ حیات و نزول مسیح کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ قرآن شریف کی وہ آیتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بطور پیش گوئی کے تھیں۔ وہ اب میری طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ دیکھو (براہین بنجم ص ۸۵، خزائن ج ۲ ص ۱۱۱) یعنی میں نے وضاحت کر دی کہ آمد مسیح کے بارے میں قرآن مجید کی ایک دو نہیں بلکہ کئی آیات تھیں۔ لیکن اب ان کا مصداق میرے خیال میں مسیح ابن مریم نہیں رہے۔ بلکہ ان کا مصداق اب میں ابن چراغ بی بی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اس مقام سے فارغ کر کے مجھے اس پر فائز کر دیا ہے۔ العیاذ باللہ!

دیکھو کتنی حماقت آمیز بڑا اور گپ ہے کہ پہلے تو از روئے قرآن اسی مسیح علیہ السلام نے آنا تھا جو مریم کے فرزند تھے۔ مگر اب ان کا مصداق وہ نہیں رہے۔ بلکہ خدائے یلاش نے مجھے بنادیا ہے۔ بتلاؤ! کبھی ایسا ہونا ممکن ہے کہ کسی آیت کا مصداق ہی بدل جائے۔ پھر تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا مصداق وہی ابراہیم حنیف ہوں جو کہ اسماعیل اسحاق علیہما السلام کے والد محترم تھے اور ”انی جاعلک للناس اماما“ کے مصداق تھے۔ پھر کسی وقت اس نام کا مصداق وہ نہ رہیں۔ بلکہ معاذ اللہ حکیم نور دین یا اور کوئی عام انسان بن جائے۔ بھلا ایسا ہونا ممکن ہے کہ پہلے تو ابلیس کا مصداق وہی عزازیل ازلی مردود ہو۔ پھر چودھویں صدی میں اس کا مصداق میں مرزا غلام احمد بن جاؤں۔ بھئی یہ بات ناممکن ہے۔ تو حضرت مسیح کے مصداق کی تبدیلی بھی محال اور ناممکن ہے۔ میں نے تو ایک جہالت آمیز گپ لگائی تھی۔ مگر تم امتحانوں نے فوراً پلے باندھ لی۔ تو بھئی میری فنکاری کے جوہر تو ایسے ہی تھے۔ میں تو کبھی حجر اسود بھی بن جاتا اور کبھی کرم خاکی اور بشر کی جائے نفرت بھی بن جاتا۔ میرا کیا تھا۔ میں تو ایک نامی گرامی بھرو پیا تھا۔ آخر تمہیں کس لعین نے میرے ساتھ برباد ہونے کی دعوت دی تھی۔ کیا کھوپڑی قائم نہ تھی۔ کیوں یہ حماقت کی۔ جب تم نے یہ حماقت کر لی تو اب جناب عزازیل علیہ ما علیہ کی طرح اس کا مزہ بھی چکھو۔ دیکھو وہ میرا پیر و مرشد سامنے بیٹھا کس طرح کھیانی مسکراہٹ میں مصروف ہے اور تمہاری اس حماقت پر داد حسین دے رہا ہے۔ علام احمد کس بے کوش۔ کس بے اہلیہ۔ کس بے جنم ہے اور بار بار یہ نعرہ لگاتا ہے۔ کفر و زندہ کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ مردود ازلی، مرزا قادیانی وغیرہ۔ پھر فضا میں سکوت چھا جاتا ہے۔

چند منٹ بعد پھر فضا میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک جذباتی مرزائی اٹھ کر چیخ کر کہتا ہے۔ جناب مرزا صاحب! تم نے تو اس وقت واقعی ابلیس کا کردار ادا کر دکھایا ہے۔ واقعی ہم ہی احمق تھے۔

قادیانی صاحب! بھی وہ کیسے؟

مرزائی: حضرت مراقی صاحب! کیا آپ نے اپنے سے پہلے اس کا خطاب دلو! نہیں سنا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ جھوٹ اور پرفریب وعدے کئے تھے۔ ورنہ میرے پاس کیا تھا۔ وہ سب کچھ ایک چکمہ بازی تھی، جاؤ میری جان چھوڑو۔ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ واقعی ابلیس لعین نے تو انسان کی عاقبت برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا۔ جسے وہ ہر صورت پورا کرتا رہا۔ پھر رب العالمین نے بھی تمام حقیقت پہلے ہی واضح فرمادی تھی کہ: ”ہذا عدو الکفر“ کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا۔ مگر نادان انسان اس کے بھرے میں پھنستے ہی رہے اور آج یہ روز بد دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی آخری کتاب نے اس کی بد فطری غداری اور بے وفائی کے متعلق اعلان کر دیا تھا کہ: ”کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفِرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّنْكَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِیْنَ (الحشر: ۱۶)“ ﴿شیطان کی طرح کہ جب وہ انسان کو کہہ دیتا ہے کہ تو کفر و بغاوت کر لے۔ (اس میں بڑے مزے اور سہولتیں ہیں) تو پھر جب انسان اس کے بھرے میں آ کر کفر کر گزرتا ہے تو یہ لعین فوراً کانوں پر ہاتھ رکھ کر محض فریب کاری سے اور توبہ توبہ کا شور مچاتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے کہ جاؤ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ وہ اپنی نافرمانی اور بغاوت کی صورت میں کبھی معاف نہیں کرے گا۔﴾

اسی طرح سورہ انفال کی آیت ۴۸ میں بھی اس کا یہ پرفریب کردار واضح کیا گیا ہے۔ بعینہ اسی طرح آپ نے بھی ہمیں دنیا میں قرآن وحدیث کے حوالہ سے آئمہ دین کے حوالہ سے اپنے رنگ برنگے دعوؤں (دعویٰ مجددیت، مسیحیت اور نبوت وغیرہ) کی سچائی ظاہر کرتے رہے اور بے شمار کتب و رسائل اور اشتہارات اور بیانات میں اعلان کیا کہ حیات مسیح کا مسئلہ تو ایک کھلا ہوا شرک ہے۔ (الاستغناء ص ۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۰)

کیونکہ اسی طرح تو مسیح کی الوہیت کی تائید ہوتی ہے۔ تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ: ”مَنْ قَالَ بِنَزُولِ الْمَسِيحِ فَقَدْ كَفَرَ بِخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ“ تم نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسئلہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے داخل ہوا ہے۔

ورنہ اصل دین میں یہ مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ نہ قرآن میں نہ حدیث وغیرہ میں بڑے بڑے اکابر نے وفات مسیح کا اعلان کیا ہے۔ تمام صحابہ کما اس پر اجماع ہے اور تمہارے نام نہاد خلیفوں اور چیلوں نے تو اس پر جھوٹے سچے حوالہ جات کے انبار لگا دیئے کہ ہر سادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ مگر اب اگلی طرف دیکھ کر آپ نے ہر بات اور ہر دعویٰ سے انکار کر کے ہمیں ہی مجرم اور احمق قرار دے رہے ہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو کیا تم نے اپنا سارا دھندہ اور کاروبار اسی مسئلہ حیات و وفات کو نہ بنایا ہوا تھا؟ اسی کو تم ختم نبوت کے منافی قرار دیتے تھے۔ قرآن مجید کی تیس آیات بھی اس کی تائید میں بتلاتے رہے اور اب ابلیس کی طرح ہر بات سے مکر رہے ہو؟ کیا اب وہ تیس آیات یاد نہیں رہیں۔ اب بخاری اور اقوال اکابر اور اجماع صحابہ بھول گئے۔ فرمائیے! یہ آپ کے چہیتے خلیفے، نور دین، مرزا بشیر، ناصر، طاہر جن کی تمام شاہ خرچیاں اور اللے تلے آپ کی مسیحیت کے بل بوتے پر ہی چلتے تھے۔ انہوں نے آپ کی مسیحیت کے اثبات کے لئے ساری دنیا میں اودھم نہ مچا رکھا تھا؟ یہ مرزا طاہری تو تمہارے مرکز وار جنم بھومی لندن میں پیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا میں شور مچایا کرتا تھا کہ ہمارے دادا جان ہی مسیح موعود ہیں۔ مسیح ناصری فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی شیطان نے غالباً وصال ابن مریم نامی ایک پر فریب رسالہ بھی لکھا تھا۔ جس پر ہمیں بڑا ناز تھا۔ یہ شریر تو تمام علمائے اسلام کو مباہلے کے چیلنج دیا کرتا تھا۔ مگر جب کوئی مرد مؤمن سامنے آتا تو یہ آپ کے طریقے پر اور آپ کے خلفاء مرزا بشیر اور ناصر صاحب کی طرح خود دم سادھ لیتا۔ پھر مثل مکار لومڑ کے اپنی بھٹ میں ہی گیدڑ بھٹکیاں دیتا رہتا۔ اول فول بکتا، مگر آپ کی طرح سامنے آنے کی جرأت نہ کرتا۔ چنانچہ اس کے چیلنج پر جب ختم نبوت کے تمام نمائندے اس کو للکارتے ہوئے لندن پہنچے تو یہ دم سادھ کر اپنے گھرانے میں دبک گیا۔ خود پاکستان میں بھی ختم نبوت کے نمائندوں نے اسے للکارا۔ موقعہ اعلان پر گئے۔ مگر یہ آپ کا ہونہار گیدڑ سرشت فرزند نہ آیا اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا۔ اب بتلائیے! جب یہ مسئلہ اتنا ہی کچا اور بے ثبوت تھا تو آپ اتنا شور شرابا کیوں کرتے اور کرواتے رہے؟

مرزا قادیانی: یار تم کتنے بے وفا ہو۔ دنیا میں مجھ پر جان اور مال قربان کرتے رہے۔ میرے ہر دکھ درد میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے رہے۔ میری ہر الٹی سیدھی اور غلط اور فضول بات کو وحی الہی سمجھ کر قبول کرتے رہے۔ اب تمہیں اتنا بھی پاس نہیں کہ ذرا پیشاب کا وقفہ کرنے دو۔ ٹھہرو! اعلان ہوتا ہے۔ وقفہ بول، پھر فوراً پاس پڑے ڈرم پر چھا جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد پھر بڑے طمطراق سے اسٹیج پر اپنی نشست سنبھال کر بولنے لگتے ہیں۔

اچھا بھئی! سنو، تم نے جو کچھ لمبا چوڑا بیان دیا وہ سب ٹھیک ہوگا۔ مگر ذرا توجہ سے کام لیتے اور میری کتاب مکمل طور پر غور سے مطالعہ کرتے۔ میرے متضاد کردار کو دیکھتے تو تمہیں لازماً اصل حقیقت مل جاتی۔ دیکھو میں نے اپنا یہ دھندہ کیسے مرحلہ وار اور آہستہ آہستہ شروع کیا۔ تاکہ عوام برداشت کرتے جائیں۔ کیونکہ ایک ہی دفعہ ایسے پرفریب اور خلاف اسلام امور کو کون مانتا تھا؟ لوگ تو شام تک میری ٹکا بونی کر دیتے۔ اس لئے میں نے آہستہ آہستہ اپنی خرافات کا اظہار کیا۔ مثلاً دیکھو پہلے میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے سامنے آیا۔ پھر ملہم کے رنگ میں اس کے بعد محمد اور مہدی کے عنوان سے پھر محض مثیل مسیح کے عنوان سے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں مسئلہ ختم نبوت کو مکمل عقیدہ اسلام کے مطابق ظاہر کرتا رہا۔ بلکہ نہایت زور و شور اور اہتمام کے ساتھ کہ مسلمانو! شرم کرو، دشمن قرآن نہ بنو۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کا ہرگز تصور نہ کرو۔

(آسمانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۳ ص ۳۳۵)

غرضیکہ سینکڑوں بیانات بڑی شد و مد کے ساتھ جاری کر دیا۔ جس سے عوام نہایت خوش ہوئے۔ علمائے حق مطمئن رہے۔ مگر میں اس شدت اہتمام سے اگلے مرحلہ کی تمہید باندھ رہا تھا۔ ورنہ یہ مسئلہ بھلا کس کتاب حدیث یا تفسیر یا عام اسلامی کتاب میں مذکور نہیں تھا؟ یہ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ واقعی حضور ﷺ خدا کے آخری نبی ہیں۔ میں نے یہ شور اس لئے مچا دیا تاکہ عوام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات جم جائے کہ آپ کے بعد واقعی کوئی نبی نہیں آ سکتا تو اس مضبوطی اور چٹنگی سے میں نے یہ مفاد اٹھایا کہ یہ تصور کرایا جائے کہ جب آپ ہی آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی مزید نبی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک نبی ہی ہیں۔ بتاؤ وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں؟ تو جب آئیں گے تو وہ نبی نہ رہیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ان تمام سوالیہ فقروں کا جواب لازماً ہاں میں ملے گا۔ تو اس پر میں اپنی खाاست اور الحاد کی استواری کر لوں گا کہ جب تم مانتے ہو کہ آغضو ﷺ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اور کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی تو خدا کے سچے نبی ہیں وہ کیسے آ جائیں گے؟ اب یا تو ان کو نبی مانو تو ان کی آمد کا انکار کرنا ضرور ہوگا۔ کیونکہ تم آغضو ﷺ کو آخری نبی مان چکے ہو۔ یا پھر ان کو نبی نہ مانو تو یہ بات تمہارے عقیدہ اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب بتاؤ! قرآن کو سچا مان کر آغضو ﷺ کو آخری نبی ماننا ہے تو مسیح علیہ السلام کی آمد کا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا اور اگر آمد مسیح کا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتے تو قرآن اور حضور ﷺ کی ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ یہ بھی لکھ دیا کہ جو نزول مسیح کا قائل ہوگا وہ ختم نبوت کا صاف منکر ہے۔

(تحفہ بغداد ص ۲۸، خزائن ج ۷ ص ۳۳)

بتلائے کون سا راستہ چلو گے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کا مسئلہ بہت واضح اور ضروری ہے۔ اس کے مقابلہ میں آمد مسیح کا مسئلہ اتنا اہم نہیں۔ لہذا اس عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے وفات مسیح کو مان لو۔ اسی میں سلامتی ایمان ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں مسیح کے بارہ میں توفی کا لفظ آیا ہے۔ جس کا عام محاورہ میں بھی معنی موت ہی ہے۔ بھی قرآن مجید میں وفات مسیح پر تیس آیتیں مذکور ہیں۔ پھر دیکھو اسی مسئلہ کے پیش نظر ”قد خلت من قبلہ الرسل“ (ازالہ اوہام ص ۶۰۶، خزائن ج ۳ ص ۴۲۷) کے تحت تمام صحابہؓ نے گذشتہ تمام نبیوں بمع مسیح کی وفات پر اتفاقی فیصلہ دے دیا تھا۔ کسی نے کوئی اعتراض یا اشکال ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بخاری میں توفی بمعنی موت مذکور ہے۔ امام مالک مات کہتے ہیں۔ ابن حزم، ابن تیمیہ جیسے اکابرین امت بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت اسی صورت میں ثابت ہو سکتی ہے تو میں نے اس طرح دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے اور جھوٹے اور غلط حوالے دے کر یہ چکر چلایا۔ جب کہ یہ سب کچھ فراڈ تھا، دھوکا تھا۔ کیونکہ نہ امام مالکؒ وفات مسیح کے قائل ہیں اور نہ ہی ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ۔ ان کی کتب میں تو اس مسئلہ کی تفصیلی وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے، پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں نے جھوٹ جھوٹ یہ بات لکھ دی تھی۔ اسی طرح امام بخاریؒ کا معاملہ تھا۔ دیکھئے میں نے آیت قرآنی ”یا عیسیٰ انی متوفیک“ سے دھوکا دے کر خدائی ارشاد کہ ”میں تجھے وفات دینے والا ہوں“ اس سے میں نے موت مسیح پر بڑا زور مارا۔ مگر بات صاف تھی کہ متوفی صیغہ فاعل ہے جو کہ مستقبل کے لئے آتا ہے تو معنی ہوا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ آئندہ زمانہ میں نہ کہ فی الحال۔ تو آئندہ کے لئے سب مانتے ہیں کہ مسیح پر واقعی موت آئے گی۔ اس سے فی الحال سرت کیسے ثابت ہوگی۔ مگر تم سب احمق نکلے۔ تم نے اسی کو ماضی سمجھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا کہ مسیح مر گئے، عیسیٰ مر گئے۔ حالانکہ وفات مسیح تو ثابت ہوتی جب کہ آپ کے متعلق ”ان عیسیٰ قد مان یا توفی“ یعنی ماضی کا صیغہ ہوتا۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں تو موت کیسے ثابت ہوئی۔

تو اس طرح میں نے آہستہ آہستہ اور مرحلہ وار عوام کو اس طرح لگانے کی کوشش کی۔ جس کے نتیجے میں تم جیسے احمق میرے جال میں پھنس گئے اور سعید روحیں خدا کے فضل سے بچی رہیں۔ پھر چونکہ میرا ذاتی کردار بھی کوئی اتنا اچھا نہ تھا۔ بلکہ ایک عام شریف انسان سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہ کسی وعدے کا پاس، نہ کسی حق کی ادائیگی کی پرواہ نہ خدا خونی کا ذرہ نہ اپنے فرائض کی پرواہ۔ محض نفس

پرستی اور خواہش پرستی ہی مجھ پر سوار رہتی تھی۔ اس لئے میری سابقہ بیوی حرمت بی بی بھی میرے جال میں نہ پھنسی۔ میرا وفادار بیٹا فضل احمد بھی بچ گیا۔ میرے دیگر عزیز واقارب بھی میرے اس دھندے کو ایک ڈرامہ ہی سمجھتے رہے۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی میرے جال میں نہ آیا۔ ہاں نصرت بی بی آئی اس کا باپ آیا تو ایک مجبوری اور چکر بازی سے اور مفاد پرستی کی بناء پر آیا۔ حقیقت پسندی ملحوظ نہ تھی۔ بھلا نصرت جہاں کو جو عیش پرستی میرے گھر میسر آئی تھی وہ اسے کہیں مل سکتی تھی؟ منہ مانگا زیور منہ مانگا کپڑا اور کھانا۔ اس کے زیورات کی توابات ہی عجیب تھی کہ جب مرضی ہوتی، سابقہ زیور کو تڑوا کر دوسرا بنوا لیا۔ جب چاہا اس کو تڑوا کر تیسری چیز بنوا لی۔ حتیٰ کہ اندر کھاتے بعض مرید بھی کہنے لگے کہ نیگم صاحبہ زیورات پر بے تحاشہ روپیہ برباد کر رہی ہے۔ مگر میں نے کبھی اسے نہ روکا۔ وہ جو بھی چاہے اس کی فرمائش ہر حالت میں پوری کی جاتی۔ آرام اور راحت وغیرہ۔ گویا وہ واقعی ایک عیش پرست شہزادی یا ملکہ بن گئی تھی۔ میں نے اسے اتنی عیش و بہار کرائی اتنی جی حضور اور خوشامد کی کہ گلی محلے کی عورتیں بھی کہہ اٹھیں ”کہ مر جا بیوی دی گل بڑی مندا لے“ گویا میں زن مرید بنا ہوا تھا اور وہ خود منہ زور اور مختار ملکہ جو کچھ جب بھی منہ سے نکالتی اس کے کہنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری ہو جاتی۔ سیر پر جانے کا کہتی تو فوراً اس کو لے کر چل پڑتا۔ اگر شاپنگ کا اظہار کرتی تو حسب خواہش مرید کے ساتھ اس کو جہاں چاہتی بھیج دیتا اور جو وہ طلب کرتی مریدوں کو حکم دیتا کہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا کہیں تمہاری ام المؤمنین ناراض نہ ہو جائے۔ ورنہ تمہاری خیر نہیں اور نہ ہی میری۔ مگر آج وہ دیکھو میرے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہے۔ اسے اب نہ وہ زیور یاد ہے نہ شاہانہ لباس نہ خوراک اور دوسرے اللے تللے۔ ہائے ہائے نصرت تو کتنی بد نصیب تھی۔ تو کتنی بد بخت نکلی میں نے اپنے ساتھ تیرا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے معاف کر دے۔ دنیا میں، میں تیری مانتا رہا۔ آج تو میری مان لے۔

نصرت جہاں: مگر فائدہ؟ اب تو ”اجز عنا ام صبرنا ما لنا من محیص (ابراہیم: ۲۱)“ کا دور ہے۔ اب لاکھ معافی مانگی جائے۔ سو ہزار جتن کئے جائیں، توبہ استغفار اور عذر و بہانے پیش کئے جائیں، سب فضول ہیں۔ فیصلہ الہی صادر ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی ترمیم، اپیل، نظر ثانی وغیرہ محال و ناممکن ہے۔ یہ الہی عدالت ہے۔ کوئی بٹالہ یا گوردا سپور کی عدالت نہیں۔ جہاں ہمارا براہ راست کوئی انگریزی جج ہو یا وکیل ہو۔ یہاں قطعاً کوئی اس قسم کا چکر نہیں چل سکتا۔ لہذا اب ابد الابد تک یہیں بہزار حسرت و افسوس رہنا پڑے گا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔



اس کے بعد مرزا قادیانی دنیا کے ایک دور کا تصور کرتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے۔ واہ واہ! اے میری بچپن کی ساتھی حرمت بی بی تو کتنی خوش بخت نکلی، دنیا میں تو بڑی سدھار تھی، سادی تھی مگر اپنی عقل اور ایمان میں کتنی کمی تھی کہ میری ڈرامہ بازی میں نہ آئی۔ تو نے اپنا سہاگ تو اجاڑ لیا۔ مگر اپنی عاقبت سنوار لی اور حرمت بی بی اوجنت کی حور تو کتنی خوش نصیب نکلی۔ میں نے تجھے بہت دکھ دیا۔ خدا کے لئے مجھے معاف کر دینا۔ واقعی میں ہی ظالم اور حق تلفی کرنے والا تھا۔ میری بد بختی غالب آگئی۔ میری عاقبت برباد ہو گئی۔ آہ حرمت! اے بی بی آسیہ کی سہیلی تو کتنی سعید اور خوش نصیب ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ دیکھ تیری قسمت تیرے ساتھ اور میری بد بختی میرے ساتھ، بی بی یہ تو خدا کی ازلی تقسیم ہے کسی کا کیا زور ہے۔ حرمت بی بی چیخ کر کہتی ہے۔ او بد بخت ازلی مردود چل دور ہو۔ تو اسی لائق تھا۔ خدا کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے تیری بد بختی سے محفوظ فرما لیا۔ ”فلله الحمد والنعمة“ وہ بڑا قادر و قیوم ہے۔ وہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ اس کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔ وہ چاہے تو پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ دیکھو حضرت نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویاں تمہارے ساتھ جہنم کی سزائیں گرفتار ہیں اور فرعون کی آسیہ خاتون جنت خلد کی بہاریں لوٹ رہی ہے۔ ”ذالك فضل الله يوتيهِ من يشاء (مائتہ: ۵۴)“ اے خدائے حکیم تو کتنا عجیب ہے۔ چاہے تو کسی عام انسان کو جنت کا شہزادہ بنا دے اور چاہے تو بڑے سے بڑے خاندان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ سب کچھ تیرے قبضہ اختیار میں ہے۔ تیری حکمت و مشیت کا تقاضا ہے۔ نہ تو ظالم ہے اور نہ ہی تیری کسی سے عداوت ہے۔ مولا ہم تیری حکمتوں کو نہیں جان سکتے۔ کریم تو کتنا عجب ہے تو نے مکہ کے گمراہوں کو دنیا کے ہدایت کا امام اور جنت کا وارث بنا دیا۔ مولا کریم تو نے قریش کے بڑے سے بڑے سرکردہ اور معظم انسانوں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابولہب، ولید بن عتبہ اور عتبہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط وغیرہ کو حق کی مخالفت میں ڈٹ جانے کی بناء پر دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر دیا اور دوسری طرف دور دراز سے صہیب، بلال، سلمان فارسی، زید بن حارثہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہم کو لاکر دامن مصطفیٰ ﷺ میں ڈال دیا۔ جہاں وہ تربیت پا کر جنت الفردوس کے شہزادے بن گئے۔ مولا یہ تیرا ہی فضل و کرم تھا اور تو نے نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم کا کندہ بنا دیا۔ تجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اے مالک حقیقی تو بڑا عجیب ہے تو چاہے تو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچے ہوئے کسی فرد کو نکال کر جنت فردوس کا شہزادہ بنا دے اور چاہے تو جنت کے بنے ہوئے مکین کو وہاں سے نکال کر

”اسفل السافلین (التین: ۵)“ میں دھکیل دے۔ ”لا یسئل عما یفعل (انبیاء: ۲۳)“

”انک انت العزیز الحکیم (البقرہ: ۱۲۹)“ تیرے سامنے کون دم مار سکتا ہے۔ بڑے بڑے مقرب رسول بھی تیری جناب میں لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں اور ہر وقت تیری کبریائی کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ہمہ وقت تجھ سے توفیق ہدایت اور استقامت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو چاہے تو بلعم باعور جیسے راست باز کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دے اور چاہے تو سحاح نامی مدعیہ نبوت کو آخر کار جنت کا وارث کر دے۔ مولیٰ کریم یہ سب تیری حکمت اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہمیں ان رازوں کا درک فہم نہیں ہے۔ تو نے ہمارے سامنے بت پرستوں، آتش پرستوں، اتار پرستوں کو اپنا پرستار بنا کر غلہ بریں کا مالک بنا دیا اور کئی بد بختوں کو توحید پرستی اور حق پرستی سے دھکا دے کر نمرود و آزر کے حلقہ میں داخل کر دیا اور تو نے کتنے ہی بد نصیبوں کو محمد رسول اللہ ﷺ کے دامن رحمت سے دور کر کے بت پرست اور صلیب پرست بنا کر جہنم رسید کر دیا۔ مولیٰ کریم یہ تمام کرشمے اور نمونے ہمارے مشاہدہ میں ہیں۔ خود میں بھی ٹھیک ٹھاک تیری رحمت کے راستے پر چل رہا تھا۔ مسلمان تھا، مجھے قرآن وحدیث کا واجبی علم بھی حاصل تھا۔ بس قسمت نے پلٹا کھایا۔ شقاوت و ضلالت کی گھٹائیں مجھ پر محیط ہو گئیں۔ دشمن ازلی کے شکنجے میں آ گیا اور پھر باوجود شعور کے اس دلدل میں آگے ہی آگے دھنستا چلا گیا۔ بلکہ ہزاروں لاکھوں تیرے سادہ لوح بندوں کی بربادی کا بھی سبب بن گیا۔ بس ایک آنکھ، نفسانیت اور انانیت تھی کہ ایک بات غلط کہہ لی تو نفسانی کشمکش میں پھنس کر اس بات کو آگے ہی چلاتا رہا۔ ضد کرتے ہوئے عاقبت کی فکر نہ کی۔ بلکہ آگے ہی چلتا گیا۔ بارالہا، تو میرے حالات کو خوب جانتا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو نے واقعی میری ہدایت کے تمام اسباب و وسائل جمع فرما دیئے تھے۔ مگر میں ہی بد بخت اور شقی بنا رہا۔ دنیاوی عیش و آرام کے مقابلہ میں آخرت کے عذاب سے اندھا بنا رہا۔ واقعی تیرا کوئی قصور نہیں، میں ہی ظالم اور بد بخت تھا۔ اچھا میرے مولیٰ کریم ”ما انت بظلام للعبید“ اچھا بھئی بات لمبی ہو گئی۔ ابھی تھوڑا استالوں اور پیشاب سے بھی جان، ہلکی کر لوں۔ پھر سہی، اعلان ہوتا ہے، وقفہ، وقفہ بول و اجابت۔

ایک مرزائی بول اٹھتا ہے حضرت اتنا پیشاب آخر کیوں؟

مرزا قادیانی: میرے جانثار فدا کار دراصل مجھے بطور تنبیہ کے بے شمار امراض و آزار

گیر تھیں۔ یہ خدائی تنبیہ تھی کہ دیکھو سچا مسیح تو بیماروں کو شفاء دیتا ہے اپنی ہی بیماریوں سے نجات نہیں ملتی۔ دوسروں کو کیا شفا دیتا؟ تو میرا چل چلا تھا۔ لوگ پھر بھی نہ سمجھے۔ تو یہ پیشاب۔

مجھے کثرت سے آتا تھا۔ بسا اوقات رات یا دن میں سو سو بار پیشاب آتا، اب تو کچھ کمی ہے کہ کچھ وقت نفل جاتا ہے۔ دنیا میں میرا معاملہ نہایت اتر تھا۔ بسا اوقات نماز توڑنا پڑتی۔ میں نے ازار بند بھی ریٹھی ڈال رکھا تھا جو جلدی سے کھل سکے۔

تھوڑی دیر بعد..... پھر خطاب شروع ہوتا ہے۔ اچھا میرے بد نصیب اور بد بخت ساتھیو! یہ دار آخرت ہے۔ یہاں دنیوی صبح شام کا معاملہ تو ہے نہیں۔ کوئی ٹائم یعنی گھنٹوں اور منٹوں کا سلسلہ نہیں۔ آؤ سنو! میرے ہوشیار اور جذباتی امتیو! میں بار بار اظہار کر چکا ہوں کہ اصل معاملہ وہی تھا۔ جو کہ قرآن وحدیث کے مطابق تمام امت مسلمہ اپنائے ہوئے تھی۔ چنانچہ میں نے بھی کئی مقامات پر دبی زبان سے بلکہ کھل کر بھی اس کی وضاحت کر دی تھی۔ مگر یہ ہیرا پھیری میں نے صرف پیٹ کا جہنم بھرنے اور دنیاوی ٹیپ ٹاپ قائم رکھنے کے لئے شروع کی تھی۔ ذرا پھر توجہ اور غور سے سن لو کہ میں نے براہین احمدیہ میں صاف صاف بحوالہ آیات قرآنی لکھ دیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ضرور جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر تشریف لا کر تمام عالم دین اسلام سے منور کر دیں گے اور تمام گمراہیوں اور بے دینیوں کو ختم کر دیں گے۔

(براہین ص ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳، ۶۰۱)

پھر دیکھو مزید وضاحت کے لئے میری کتاب (شہادت القرآن ص ۸۰۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶

اب فرمائیے کہ میں نے جیسے ابتداء میں لکھا تھا کہ آمد مسیح جلدی ہوگی۔ اسی طرح درمیانی مغالطے دینے کے بعد پھر لکھ دیا کہ آخر میں ایک قہری تجلی آئے گی۔ یہ دونوں باتیں متفق ہیں۔ درمیان میں محض گپ بازی اور دجل و فریب ہی چلاتا رہا جو کہ اصل حقیقت کو الجھانے کے لئے تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے دوسرا پینترا بدلا کہ پہلے میں نے مسیح موعود کے دعویٰ سے کھلا انکار کر کے مثیل مسیح کا اظہار کیا۔

پھر صاف طور پر کہہ دیا کہ اصل مسیح تو واقعی از روئے نصوص یقینی اور اجماع صحابہ و باقرار اکابرین امت فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والا۔ سے مراد ان کی خوبی اور ہم صفات کسی فرد امت کا آنا مراد ہے۔ پھر میں نے وفات مسیح پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیئے اور کھل کر اعلان کر دیا کہ وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ کیونکہ صرف مجھ ہی میں مسیح کی روحانیت اتر آئی ہے۔

(آئینہ کمالات ص ۴۳۸، خزائن ج ۵ ص ۱۵۷)

چنانچہ میں نے اپنی کتاب (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) پر صاف لکھا کہ واقعی پہلے میں مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق آمد مسیح ناصری کا معتقد تھا۔ مگر وحی الہی مجھے مسلسل خبردار کرتی رہی کہ نہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اب تو ہی مسیح موعود ہے۔ دیکھ ہم نے تجھے یا عیسیٰ کے خطاب سے نواز رکھا ہے۔ جسے تو نے اپنی محکم کتاب براہین میں بھی درج کر دیا تھا۔ مگر میں یہی سمجھتا رہا کہ نہیں آنے والا مسیح وہی صاحب انجیل ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر خدا کی یہ وحی جو مثل قرآن وغیرہ کے قطعی تھی بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی کہ تو ہی اب مسیح ہے۔ پہلے والے تو واقعی فوت ہو گئے ہیں۔ مگر میں ایسا بدھو تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہ تھی۔ آخر جب وحی خدا نے زیادہ زور مارا اور چاروں طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح وحی آنے لگی تب مجھے ہوش آیا کہ اوہ مسیح موعود تو واقعی میں ہی ہوں۔ پھر میں نے دل کڑا کر کے یہ دعویٰ داغ دیا کہ مسیح موعود اور کوئی نہیں بلکہ وہ میں ہی ہوں۔ اس بیان کو میں نے نہایت صراحت سے اپنی کتاب (حقیقت الوحی ص ۱۴۹، ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳) میں بھی لکھ دیا کہ پہلے میں بھی عام اہل اسلام کے عقیدہ پر تھا۔ پھر خدا کی وحی بارش کی طرح آئی اور مجھے جبراً قائل کر لیا گیا کہ پہلے مسیح فوت ہو گئے۔ اب تو ان کی جگہ پر آیا ہے۔ اسی طرح شروع میں، میں اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق اپنے آپ کو نبوت و رسالت کا مستحق نہ سمجھتا تھا۔ بلکہ آنحضرت ﷺ کو آخری رسول جانتا تھا۔ پھر بارش کی طرح خدا کی وحی آئی اور جبراً مجھ سے دعوائے نبوت کرادیا۔ یہ ہے میرا تمام ڈرامہ اور تماشا اور فراڈ۔ کبھی جبراً بھی کسی کو نبوت ملی ہے؟ یہ تو محض ایک ڈرامہ تھا جسے تم نہ سمجھ سکے۔

یہ سب کچھ مکروفریب اور محض بکواس تھی۔ کیونکہ نہ مجھے کوئی وحی آتی تھی نہ میں اس لائق تھا۔ اس لئے میں نے کچھ بہانہ بناتے ہوئے کہہ دیا کہ خدا کا نام یلاش اور صاعقہ بھی ہے اور اپنے فرشتوں کے نام ٹپچی ٹپچی، خیراتی، شیر علی، مٹھن لال بتلاتا رہا۔ بھلا بتلاؤ کہیں میں نے جبرائیل امین کا نام لیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اُو میاں کچھ سمجھے۔ یہ تو سارا جعلی عکس تھا۔ جو تم لوگ نہ سمجھ سکے۔ اچھا اور سنو یہاں تو میں نے لکھ دیا کہ میرا سابقہ عقیدہ وہ مسلمانوں والا تھا اور میں بارہ سال تک باوجود وحی آنے کے بالکل بے خبر اور غافل رہا۔ مگر دوسری جگہ میں نے صاف واضح کر دیا کہ میں نے یہ سراسر بکواس کی ہے۔ بلکہ ”واللہ انسی قد علمت الخ“ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں۔ مگر کسی تاویل کے بنانے میں مصروف ہو کر ۱۰ سال تک اس اظہار کو ملتوی رکھا۔ آخر جب میرے پیرومرشد ابلیس علیہ ما علیہ نے مجھے وہ حمل و حیض والا چکر سمجھا دیا۔ ادھر میرے اس دست راست نور دین نے حدیث دمشقی وغیرہ کی الٹی سیدھی تاویلات سمجھائیں تو میں دلیر ہو کر لدھیانہ چلا گیا کہ وہاں جا کر اس دعویٰ کا اعلان کروں۔ کیونکہ ایک ملنگ نے بھی کوئی اس قسم کی بڑھانکی تھی کہ عیسیٰ اب جواب ہو گیا ہے۔ لدھیانہ میں کر تمام قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ معاذ اللہ

(ازالہ اوہام ص ۷۰۸، خزائن ج ۳ ص ۳۸۲)

چنانچہ میں نے اس کے متعلق بھی کچھری قسم کی کئی گواہیاں مرتب کر کے ازالہ اوہام میں نقل کر دی ہیں۔ تو میں نے اپنی مسیحیت کا اعلان لدھیانہ شریف میں ۱۹۹۱ء میں کر دیا۔ جس پر علمائے لدھیانہ اور دوسرے علمائے اسلام نے میری خوب گت بنائی۔ ہر طرف سے فتویٰ ہائے کفر اور زندقہ شائع ہونے لگے اور یہ بالکل حق بھی تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسے فتوے شائع نہ کرتے تو اکثر عوام گمراہی میں پڑ جاتے۔ اب دیکھو ان دونوں بیانات میں کتنا تضاد ہے کہ پہلے میں عدم علم کا اظہار اور دوسرے میں علم کا حلفی اظہار۔ بھلا جو کسی جھوٹ کو قسم کھا کر بیان کرے۔ اس سے بڑا ملعون کون ہو سکتا ہے؟ اس پر تو خدا رسول اور تمام کائنات کی لعنت برسنے لگتی ہے۔ اُو میاں کچھ سمجھے؟ میرے دونوں بیانات میں کتنا واضح تضاد ہے اور میں نے فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ پیارے کے کلام میں تضاد نہیں ہوا کرتا اور ”جھوٹ بولنا نجاست خوری ہے۔“

(آسمانی فیصلہ ص ۳۱، خزائن ج ۴ ص ۳۴۱)

جھوٹ بولنا مرتد ہونے کے مترادف ہے۔

(ضمیمہ تحفہ گولڑ دیہ ص ۱۳ حاشیہ، اربعین نمبر ص ۲۰ حاشیہ، خزائن ج ۲ ص ۵۶، ۷۰)

مگر دیکھو یہ کتنا ڈبل جھوٹ تھا جو میں نے بول کر دنیا کو اپنے دام تزدیر میں پھانسا رہا۔  
 بھی یہ تو میری ڈرامہ بازی تھی۔ مجبوری تھی۔ مگر تمہاری عقل کہاں ماری گئی تھی کہ کائنات کا وہ سب  
 سے عظیم فرد خاتم الانبیاء ﷺ جو صدق و راستی کا پیکر تھا۔ جس نے کبھی کسی کافر سے بھی جھوٹ نہ بولا  
 تھا۔ وہ عظیم ہستی جو مخالفین میں بھی امین و صادق کے عظیم الشان لقب سے معروف تھی۔ اس نے  
 قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ: ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما  
 عدلا..... الخ! (بخاری ج ۱ ص ۲۹۶، باب قتل الخنزیر، مسلم)“ وغیرہ کہ اس ذات برحق  
 کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عنقریب تم میں مریم صدیقہ کے فرزند ارجمند  
 لازماً نازل ہوں گے۔

نیز فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم بفعج الروحاء (مسلم ج ۱  
 ص ۴۰۸)“ نیز فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ لیقتلہ ابن مریم بباب لد (مسند  
 حمیدی)“ وغیرہ۔ تو بتاؤ ایک طرف اس عظیم ہستی کی قسم اور حلف اور دوسری طرف مجھ جیسے  
 بہرہ و پنے اور مکار و فریبی انسان کی خرافات، کیا دونوں میں کوئی تقابل اور توازن ہے؟ کیا تم اتنی  
 واضح حقیقت کو بھی نہ سمجھ سکے کہ صادق امین کے مقابلہ میں اس نوسر بازی کیا وقعت ہے؟  
 اچھا اور سنئے! اس کے بعد میں نے ایک اور تیسرا پینٹر بدلا کہ وفات مسیح کا مسئلہ کوئی  
 واضح مسئلہ نہ تھا۔ نہ مثبت نہ منفی۔ گویا میں نے اپنے پہلے دونوں بیانات کو فراموش کر کے تیسرا بیان  
 دے دیا کہ اس سے قبل نہ تو حیات مسیح کی صراحت تھی نہ وفات کی۔ (جن کو پہلے میں الگ الگ اور  
 نمبر وار ظاہر کیا کرتا تھا) بلکہ یہ تو ایک سرالہی اور بھید کی بات تھی۔ جو آج سے قبل کسی پر بھی منکشف  
 نہ ہوئی تھی۔ نہ نبی پر (معاذ اللہ) نہ صحابہؓ اور آئمہ دینؒ پر نہ قرآن میں نہ حدیث وغیرہ میں۔ بلکہ یہ  
 تو ایک سرمکتم تھا۔ جسے اب خدا نے صرف اور صرف مجھ پر ہی منکشف فرمایا ہے۔ دیکھئے میری  
 کتاب (اتمام الحجۃ ص ۳، خزائن ج ۸ ص ۲۷۵) ودیگر کتب۔ اب بتلائیے جب میں نے ایک مسئلہ میں  
 اتنے پینٹرے بدلے۔ اتنے پہلو بدلے تو پھر میری کیا پوزیشن طے ہو سکتی ہے؟ کیا پھر میری کسی  
 بھی بات کا اعتماد باقی رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے خود لکھ دیا تھا کہ مناقض الکلام پاگل ہوتا  
 ہے۔ کسی سچار کے کلام میں تناقض نہیں ہوتا اور ادھر میرے ہر ایک مسئلہ اور نظریہ میں کتنے کتنے پہلو  
 تھے۔ کبھی ایک بات کہہ دی اور کبھی اس کے برعکس دوسری بات کہہ دی۔ یہی میرا وظیرہ اور عادت  
 تھی۔ ہر ایک مسئلہ میں چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو چاہے حیات مسیح کا چاہے کوئی اور ہو۔ ہر جگہ  
 میرا یہی رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مند انسان کو مجھ پر کہاں تک اعتماد کرنا ممکن ہے؟

بھی ایسے دورے اور دو غلے انسان کو کوئی بے وقوف بھی منہ نہیں لگاتا۔ یہ تو صرف تمہیں جیسے پاگل تھے جنہوں نے مجھ جیسے بہروپے کو نہ صرف ایک صالح فرد بلکہ مسیح اور نبی تک تسلیم کر لیا۔ صد ہزار افسوس تمہاری اس عقل و دانش پر۔ ”افلا تفکرتم افلا تدبرتم افلا تذکرتم“

اس بھی آگے، او آلو میاں دیکھ۔ جب میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ مثیل مسیح ہونا صرف مجھ پر ہی موقوف نہیں بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ ۱۰ ہزار مثیل مسیح اور بھی آجائیں۔

(ازالہ اوہام ص ۱۹۹، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

ممکن ہے وہ مسیح بھی آجائے تو جو روضہ رسول کے پاس مدفون ہوگا۔

(ازالہ ص ۲۷۰، خزائن ج ۳ ص ۲۵۲)

ہوسکتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں کوئی دمشق حدیث کے مطابق دمشق میں بھی مسیح آجائے۔ ہوسکتا ہے وہ مسیح آجائے۔ جس پر احادیث میں ذکر کردہ علامات ظاہری طور پر صادق آجائیں۔ یعنی مثیل مسیح ہونا صرف میری ذات تک محدود نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

اب بتا تو اس ہیرا پھیری اور اناپ شناپ سے کیا سمجھا؟ کیا یہ خرافات کسی معقول انسان کی ہو سکتی ہیں؟ ایسا انسان کبھی کسی منصب یا مقام کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں میں نے تو یہاں تک صفائی کر دی تھی کہ پہلے مجھے خدا نے مسیح بنا کر بھیجا۔ مگر مسیح کی نرم خوئی سے لوگ چنداں متاثر نہ ہوئے تو مجھے موسیٰ کی جلالی طبیعت پر قائم کر دیا گیا۔

(دیکھئے تترہ حقیقت الوحی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۰)

گویا اب میں مسیح موعود نہیں بلکہ موسیٰ معبود بن گیا ہوں۔ ارے پاگل میں مجدد سے مہدی اور مہدی سے مسیح موعود اور پھر مسیح موعود سے موسیٰ بن گیا تھا۔ مگر تم وہی مرغ کی ایک ٹانگ بتاتے رہے۔ اوجلال دین ”ماسی ماؤدی“ ”ماسی ماؤدی“ خدا برباد کرے۔ تم جیسے احمقوں اور الوؤں کو اور جلال دین اور سرور شاہ، نذیر احمد تم بھی نہ سمجھو؟ اور خبیث غلام رسول راجہ جلی والے، اور فضل دین بھیروی، عبدالکریم ٹھکنے تو بہت خبیث تھا۔ تو نے از خود اختراعات کر کے میرا بیڑہ غرق کیا۔ تو نے میری نبوت کا شوشہ چھوڑا تھا۔ خدا تجھے غارت کرے اور احسن امر وہی تو ساری زندگی پڑھ پڑھا کر بھی بے ایمان ہو گیا۔ توفیق الہی سے بے نصیب ہو گیا اور اللہ دتے تو نے احمدیہ پاکٹ بک لکھ کر دجل و فریب کی حد کر دی۔ خدا تجھے غارت کرے۔ لیکن محمدیہ پاکٹ بک والوں نے تجھ پر بھی اتمام حجت کر دی تھی۔ لیکن تجھے پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تم تو بڑے ماہر فنکار تھے، بال کی کھال اتارنے والے تھے، مناظر تھے، محقق تھے۔ پتہ نہیں اور کیا کچھ تھے۔

جلال دین شمس: حضرت صاحب! ہم سمجھ تو کچھ رہے تھے مگر ایک دفعہ جو تم سے جڑ گئے تو پیچھے ہٹنا ہمارے لئے ایک عار تھی۔ آخر انانیت اور خودی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بڑوں بڑوں کی عقل و دانش برباد کر دیتی ہے۔ مقدمہ بہاولپور میں ہماری بہت بری گت بنی۔ سید انور شاہ نے ہمارا ناک میں دم کر دیا۔ مگر جیسے آپ مباحثہ دہلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن گئے تھے باوجود تہی دست ہونے کے ہار نہ مانی تھی۔ آخر تم کے مقابلے میں ذلت اٹھائی۔ مگر ہار نہ مانی۔ اسی طرح ہم بھی باوجود ہزار ذلتوں کے اپنی خباثت پر ہی اڑے رہے۔ آخر تمہارے فیض یافتہ جو تھے۔ آپ سے بڑھ کر قدم نہ رکھتے تو پھر استفادہ کس کام کا؟

اچھا اچھا شاباش، آفرین، مرحبا میرے چہیتے مربیو۔ بہت خوب، انسان کو ایسا ہی مستقل مزاج ہونا چاہئے۔ دیکھو نوابو جہل کتنا بڑا کافر تھا۔ بارہا ذلیل ہوا۔ مگر مرتے دم تک ہار نہیں مانی۔ مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن ذرا اوپر سے کاٹنا تاکہ سردار کا سر معلوم ہو۔ جی حضور بالکل یہی حقیقت ہے جو ہم تمام مرزائیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ ہم تو ہم تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی مربی بلکہ عام دکاندار یا مزدور بھی ایسا ضدی اور اڑیل ہوتا تھا کہ سراسر ناکامی اور ذلت حاصل ہوتی تھی۔ مگر پھر بھی چپ ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بس مقابلہ میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہی جاتا تھا۔ مجال ہے کہ ذرا نادم ہو کر ہار مان جائے۔ یہ آپ کے سامنے سب موجود ہیں۔ سب سے گواہی لے لیں۔ ہم سب نے یہی کردار بجالایا یا نہیں؟

وایکم! مرحبا، مرحبا آفرین۔ بڑے پکے نکلے تم۔ مگر یہ ڈھیٹ پن کس کام کا؟ اس کی وجہ سے تو آج ہم سب کی یہ حالت ہے۔ سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ ”فضل عنکم ما کنتم تفترون“ قادیانیت کی جے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ اچھا بھئی وقفہ بول اور اجابت.....

معمولی وقفہ کے بعد..... اچھا بھئی توجہ کرو اور سنو۔ احمق حماقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر تم نے میرا کیا دیکھا تھا کہ میرے پیچھے چل کر آج ابدی ہلاکت میں پڑ چکے ہو؟ دیکھو میں تو کسی قابل قدر کردار کا مالک نہ تھا۔ مجھے وحی اور الہام سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا؟ دیکھو بوجہ مجمع الامراض ہونے کے بیچ گانہ نماز کا بھی میں عامل نہ تھا۔ روزے کبھی مجھ سے رکھے نہ گئے۔ تلاوت قرآن مجید اور دیگر مسنون وظائف کا کبھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔ فرض زکوٰۃ اور صدقہ الفطر ادا کرنے کی مجھے کبھی توفیق نہ ہوئی۔ حج و عمرہ تو میری قسمت میں نہ ہوا۔ اگرچہ میں نے بڑا ہانک دی تھی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔

(البشری ج ۲ ص ۱۰۵)



مگر کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ بقول صادق داین خاتم الانبیاء ﷺ سچا مسیح لازماً حج کرے گا۔ (مسلم ج ۱ ص ۴۰۸)

اگر تمہاری عقل قائم ہوتی تو صرف اس ایک نشانی سے حقیقت سمجھ کر مجھے دھتکار دیتے۔ مگر میری طرح تم پر بھی ایسی تسلط مکمل طور پر چھا گیا تھا۔ تمہاری بدبختی اور الہی اضلال تمہیں ہوش ہی نہ کرنے دیتی تھی۔ واقعی ”من یضلل اللہ فلا ہادی لہ“ تو بھی جسے اسلام کے بنیادی ارکان پر ہی عمل کرنے کی توفیق نہ ہو وہ تو عام مسلمان بھی نہیں بنتا۔ وہ مجدد اور مسیح کیسے بن سکتا ہے؟ پھر جو کمر و فریب اور جھوٹ کا رسیا ہو وہ کیسے ملہم ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھو جو مجھ پر توفیق الہی کے تمام دروازے بند ہو گئے اور میں ”احاطت بہ خطیئۃ“ کا پیکر مجسم مصداق اور نمونہ بن گیا تو پھر کون سا کفر و زندقہ تھا جو مجھ سے صادر نہ ہوا ہو۔ کون سا دجل و فریب مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ مثلاً میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ آنحضور ﷺ کے تمام کمالات بمع ختم نبوت میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہو گئے ہیں۔ العیاذ باللہ! (ایک فطلی کا ازالہ ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۹)

کیا اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ کوئی زندقہ ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ کیا خدا کو اپنے نبی کو چھپانے کے لئے وہ گندی اور متعفن جگہ ہی ملی تھی۔ جب کہ اس نے مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! (تحدہ گولڈ ویس ۱۱۲)

بتلائیے! اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ تو ہین رسالت ممکن ہے؟ میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ: ”کیا مسیح کو روضہ رسول میں دفن کریں گے تو نبی کی قبر کھول کر آپ کی ہڈیاں لوگوں کو دکھائی جائیں گی؟ العیاذ باللہ!“ (ازالہ اوہام ص ۷۰، خزائن ج ۳ ص ۴۷۸)

بتلائیے! اس سے بڑھ کر کوئی بکواس ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ! استغفر اللہ! حالانکہ میں پہلے لکھ چکا تھا کہ: ”ممکن ہے کہ کوئی ایسا مسیح آجائے جو روضہ رسول کے پاس مدفون ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۷۰، خزائن ج ۳ ص ۳۵۲)

حضرات میں نے یہ بھی بکواس کر دی کہ: ”اگر میں مسیح موعود نہیں تو اس مسیح کو آسمان سے اتار کر دیکھاؤ۔“ (دیکھو ازالہ اوہام ص ۱۵۳، ۱۵۵، خزائن ج ۳ ص ۱۷۹، ۱۸۹)

جب کہ یہ کردار کفار معاندین کا ہے۔ جس کا اظہار قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ اوہود دیکھو میں نے کہاں تک جسارت کر لی تھی کہ خدا کے پاکباز اور معصوم نبی صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شرابی لکھ دیا۔ العیاذ باللہ! (کشتی نوح ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

بتلائیے! اس سے بڑھ کر کوئی کفر و الحاد اور ارتداد ہو سکتا ہے؟

اوہو! آج اجابت کا بڑا زور ہے۔ لہذا فوری طور پر وقتِ راجابت کا اعلان کر دو۔ کچھ وقفہ کے بعد مرجھائے اور اترے ہوئے چہرے کے ساتھ قادیانی دوبارہ نشست پر آدھمکتا ہے۔ ایک مرید عرض کرتا ہے کہ حضور! آج اجابت کا یہ شور اور جلدی کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں نے دودھ زیادہ پی لیا تھا۔ حضور آپ کا ہاضمہ پہلے ہی کمزور ہے۔ آپ ذرا احتیاط رکھئے۔ فرمایا کہ پرہیز و احتیاط تو راست بازی و ملہم کریں۔ جب کہ میں دوسری قسم کا ہوں۔ یعنی ہر طرح کی بے احتیاطی، بے اصولی کرنے والا۔ لہذا میں نے کبھی بھی احتیاط نہیں کی۔ اجابت ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میں نے پرہیز نہیں کرنی۔ دیکھئے میری دنیا سے رخصتی بذریعہ وبائی ہیضہ بھی تو زیادہ کھالینے کی بناء پر ہوئی تھی۔ کیونکہ اس رات میں نے ایک دوست کی دعوت پر گیا تھا تو وہاں میں نے بے تحاشا پرچسکے دار کھانا کھا لیا تھا۔ جس سے میری یہ درگت بنی۔ لہذا میں احتیاط والا ملہم و مسخ نہیں ہوں بلکہ دوسری جنس کا ہوں۔

### ایک حیرت ناک حقیقت

میرے پیارے ساتھیو! ذرا غور سے سنو۔ میں بار بار بڑی صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ تمام کاروبار محض ایک ڈرامہ تھا۔ جو میں نے محض پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے رچایا تھا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ میں ملہم و مجدد تھا نہ مہدی، نہ مسیح موعود یا کسی قسم کا کوئی رسول یا نبی اور نہ ہی اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر کسی مسیح کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی نئے نبی کی۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ متفقہ طور پر ہر زمانہ اور علاقہ میں انہی حقائق پر قائم ہے۔

دوستو! اب میری کہانی اور ڈرامہ کا ایک مزید نمایاں ترین پہلو ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے میں نے لکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی جسمانی طور پر نازل ہوں گے۔ اس کے بعد بینیترا بدل کر لکھا کہ اصل مسیح علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والے سے مراد میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوں۔ لہذا احادیث میں مسیح موعود کے متعلق جتنی نشانیاں مذکور ہیں وہ سب میرے ہاتھوں پوری ہوں گی کہ تمام عالم میں دین حق پھیل جائے گا۔ مخلوق پرستی اور صلیب پرستی نابود ہو جائے گی اور فضائے عالم تقویٰ اور راست بازی سے بھر جائے گی۔ غرضیکہ میری آمد کے دو مقصد ہیں کہ تمام دنیا میں تقویٰ قائم ہو جائے اور صلیب پرستی ختم ہو جائے۔ لہذا اگر یہ مقصد پورے نہ ہوئے اور میں مر گیا تو سمجھ لینا میں بالکل جھوٹا تھا۔ (ملفوظات ج ۸ ص ۱۲۸)

اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ نزول مسیح کا نظریہ ایک جھوٹا نظریہ ہے۔ میرے تمام مخالف مرجائیں گے ان کی اولاد بھی مرے گی اور پھر ان کی اولاد بھی مرکھپ جائے گی۔ لیکن عیسیٰ علیہ

السلام کو آسمان سے اترتے نہ دیکھ سکیں گے۔ پھر اسی نظریہ سے تمام لوگ بدظن ہو کر ان کی وفات کے قائل ہو جائیں۔ عیسائی، مسلم سب ہی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے۔

(تذکرہ الشہادتین ص ۶۵، خزائن ج ۲۰ ص ۶۷)

پھر کیا ہوا؟ چونکہ مرزا قادیانی کو اپنے جھوٹے ہونے کا پورا یقین بھی تھا۔ اس لئے وہ اس نظریہ کے بارہ میں عجیب تذبذب میں رہتا۔ کبھی ہاں، کبھی ناں۔ کبھی اقرار، کبھی انکار۔

مثلاً ایک دفعہ لکھا کہ مجھے عیسیٰ بنایا گیا جو کہ سراپا شفقت تھے۔ مگر لوگ ان کی نرمی کی وجہ سے متنبہ نہ ہوتے تو اللہ نے پھر مجھے جلائی رنگ دے کر موسیٰ بنادیا تاکہ میرے مخالفین کو سزا دے۔

(تمہ حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۰)

پھر لکھا کہ میرا نام موسیٰ آج ہی نہیں بلکہ عرصہ چھبیس سال سے براہین میں لکھا ہوا ہے کہ: ”انت منی بمنزلۃ موسیٰ“ اور پھر فرمایا: ”ولما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا

وخر موسیٰ صعقا“ (دیکھئے حضرت صاحب کی کتاب تمہ حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۰)

پھر اس کے بعد صاف اقرار کر لیا کہ: ”مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کا حق بجا نہیں لا سکا جو میری مراد تھی۔ (پہلا اقتباس دیکھئے) اور اس کے دین کی

وہ خدمت نہیں کر سکا جو میری تمنا تھی۔ (نہیں بلکہ تیرا فرض منصبی تھا) میں اس درد کو ساتھ لے جاؤں گا کہ جو کچھ کرنا چاہئے تھا میں کر نہیں سکا۔ جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا

ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدمی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔“

(تمہ حقیقت الوحی ص ۵۹، خزائن ج ۲۲ ص ۴۹۳)

ساتھیو! بتاؤ کتنی صاف بات ہے کہ میں نے اپنے سابقہ جھوٹ موٹ، دعوؤں کے متعلق صاف اقرار کر لیا کہ میں اپنی ڈیوٹی میں بالکل ناکام رہا ہوں۔ لہذا نتیجہ سامنے ہے کہ یہ

سب جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ بالکل صحیح حقیقت تھی۔ مرزا یو! اب تو سمجھ جاتے اور اپنی عاقبت برباد نہ کرتے۔ ”ولکن اللہ یفعل ما یشاء ویختار“

نبوت حقیقیہ اور قادیانیہ میں فرق و امتیاز

اس جملہ کو ادا کرتے ہوئے جناب قادیانی کچھ جوش اور اشتعال میں آ گئے اور فرمانے لگے۔ اولوگو! سنو، کان کھول کر سنو۔ اگرچہ اب سب کچھ فضول ہے۔ مگر اظہار حقیقت بھی لازمی

ہے۔ تو بھی حقیقت یہ ہے کہ میں نے واقعی اپنے باطل مقاصد کے تحت ہر قسم کے دعوے کئے تھے اور مرحلہ وار اور قدم بہ قدم کئے تھے۔ تاکہ لوگ یکدم مشتعل نہ ہو جائیں۔ ملہم سے لے کر

مہدویت، مجددیت، مسیحیت اور نبوت وغیرہ کے تمام دعوے یقیناً کئے تھے۔ مگر ان میں سے دو آخری منصوبوں کے متعلق تو سو فیصد واضح اور یقینی حقیقت تھی کہ میں ان کے ساتھ ہر صورت میں غیر متعلق اور ان فٹ تھا۔ کیونکہ منصب نبوت کے متعلق قرآن مجید میں تمام متعلقات کو واضح ترین انداز میں اور متعدد بار بیان فرمادیا گیا ہے۔

..... چنانچہ مقام نبوت کا پہلا فرض مہنبی توحید خالص کی دعوت عام ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا: ”وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون (انبیاء: ۲۰)“ ﴿اور ہم نے آپ سے پہلے تمام رسولوں کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ بے شک میرے بغیر کوئی بھی مستحق عبودیت نہیں۔ لہذا صرف میری ہی بندگی اختیار کرو۔﴾ دوسری جگہ اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا کہ: ”ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطواغوت (نحل: ۳۶)“

اس طرح اجمالی طور پر اور فرداً فرداً بھی ہر نبی کی دعوت میں توحید کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر میرے پروگرام اور دعوت میں یہ حقیقت کوئی نہ تھی۔ بلکہ میں تو صرف حرمت جہاد کی دعوت کے لئے ہی انگریز کی طرف سے مبعوث ہوا تھا۔ لہذا میں نے عوام کو اطاعت انگریز کا ہی سبق دیا۔ یہی میری دعوت تھی۔ میں نے ساری زندگی اسی میں کھپادی تھی۔ نہ میں نے دعوت و اشاعت توحید کا بیڑا اٹھایا اور نہ ہی بت پرستی اور شرک کی تردید کی۔ حالانکہ ہندوستان میں بے شمار بتوں اور دیوتاؤں کی کھلم کھلا پوجا ہو رہی تھی۔ مگر میں کبھی کسی مندر یا بت خانے میں دعوت حق کے لئے نہ گیا اور نہ ہی میں نے کبھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ”ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون (انبیاء: ۵۲)“ کا اعلان کیا اور نہ ہی ”اف لكم ولما تعبدون من دون الله (انبیاء: ۶۷)“ کا نعرہ لگایا اور نہ مجھے ”انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (انبیاء: ۹۸)“ کا اعلان کرنے کی توفیق ہوئی۔ میرا تو کاروبار ہی دوسرا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی عظمت و شوکت جو جذبہ جہاد میں مضمر ہے۔ وہ ختم ہو جائے۔ انگریز کی اطاعت غالب ہو جائے۔ مسلمانوں سے تقویٰ و طہارت ختم ہو کر ہر قسم کی بدعقیدگی اور بد عملی پھیل جائے۔ انگریزی ثقافت اور کلچر مسلم معاشرہ پر چھا جائے۔ یہی میرا مقصد تھا، یہی میرا ہدف تھا۔ جس کے لئے میں نے اپنی جان و مال اور متاع حیات داؤ پر لگا دی تھی۔ مگر تم احق لوگ اتنی واضح حقیقت کو بھی نہ پاسکے۔ افسوس ہزار افسوس۔ میری کتب و رسائل اور اشتہارات سامنے تھیں۔ مگر تم پھر بھی بدھو کے بدھو ہی رہے اور مجھے نہایت صالح مفتی اور راست باز بنانا کر پیش کرتے رہے۔ ”الا لعنة الله على الظالمين“

## تبلیغ دین اور دعوت الی الحق

۲..... انبیائے صادقین کی عام سیرت طیبہ صرف دعوت حق سے ہی وابستہ رہی۔ ان کی بعثت کا مقصد ہی تبلیغ حق تھا۔ جس کو انہوں نے بڑی محنت، جانفشانی اور سرفروشی سے ادا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کی تفصیلات آپ سورہ اعراف، ہود، انبیاء اور سورہ نوح وغیرہ میں نہایت جامعیت اور اکملیت سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ تو امام الموحدین تھے۔ جن کو اللہ نے بار بار ”حنیفاً مسلماً“ (آل عمران: ۶۷) فرمایا ہے۔ آپ نے ہر ایک سے اور ہر قدم پر اس مسئلہ کے لئے بھرپور ٹکری اور آپ کی سیرت طیبہ کا نمایاں نکتہ اور مرکزی کردار دعوت توحید کے ہی باب سے وابستہ ہے۔ اسی طرح بعد کے انبیاء برحق حضرت مسیح علیہ السلام تک اسی پیغام و دعوت پر جانفشانی کرتے رہے۔ پھر آخر امام المرسلین ﷺ نے تو اس محاذ پر سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیئے۔ سابقہ انبیاء علیہم السلام نے تو صرف دعوت دی۔ محنت فرمائی، نتیجہ کیا رہا؟ یہ کوئی نمایاں بات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ مگر سید الانبیاء ﷺ کی دعوت توحید کے نتیجے میں تو عملی طور پر بت پرستی اور شرک کی بساط ہی لپیٹ دی گئی۔ شرک و کفر بالکل مغلوب اور نابود ہو گیا۔ کیونکہ آپ کا اسم گرامی ”الماحی یمحوا اللہ بہ الکفر“ (مشکوٰۃ ص ۵۱۵، باب اسماء النبی ﷺ)

وصفاته) ”بھی تھا، جس کا خوب ظہور ہوا۔ ہر سو قل جاء الحق وزهق الباطل“ کا نعرہ گونجنے لگا۔ یہ تمام انبیائے مقدسین، دعوت توحید کے لئے ہر انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ انفرادی اور اجتماعی دعوت بھی ہوتی تھی۔ تنہائی میں اور مجمع عام میں بھی دعوت حق ہوتی تھی۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں اور منڈیوں میں، مخالفین کے معبدوں اور بت خانوں میں اور معاشرتی اداروں اور حکومت کے ایوانوں میں بھی دعوت توحید و راستی جاری ہوتی تھی۔ غرضیکہ ہر سطح پر دعوت حق کا کام رواں دواں رہتا تھا۔ خدا کے نبی تن تنہا نکل کر ہر مقام پر لفظاً آئے سانسے اعلان حق فرماتے تھے۔ اشتہار بازی یا کتابوں رسالوں کے واسطے سے دعوت نہ ہوتی تھی۔ پھر مخالفین اشتعال میں آ کر بہت کچھ کہتے اور گزندرتے تھے۔ جسمانی تشدد اور ذہنی ایذا سے ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ مگر وہ راست باز بھی برو برداشت اور تقویٰ ولہیت کے کوہ گراں ہوتے تھے۔ کفار کے منفی رد عمل سے بد دل ہو کر دعوت میں کسی قسم کا تعطل و توقف ہرگز پیدا نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ نہایت پامردی اور جرأت اور استقلال سے اس سلسلہ کو رواں دواں رکھتے۔ جب کہ میں نے کبھی اس بازار کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اول تو کسی کو حق کی دعوت ہی نہیں

دی۔ بلکہ میری دعوت کا بنیادی مقصد ہی انگریزوں کا غلبہ اور اس کی اطاعت کلی کا قیام تھا اور پھر میں نے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انبیاء علیہم السلام کا طریقہ دعوت اختیار نہ کیا۔ بلکہ طاغوت والا حربہ ہی اپنایا۔ یعنی اشتہار بازی، غلط پروپیگنڈہ اور کتاب یا رسالہ بازی، میں کبھی بھی کسی بازار، چوک یا اجتماع میں دعوت کے لئے کھڑا نہ ہوا۔ بلکہ اس سے تو میرا کلیجہ ڈھل کر منہ کو آنے لگتا تھا۔ نہ ہی میں نے انبیاء برحق کی طرح کسی مندر یا بت خانے میں جا کر دعوت حق پیش کرنے کا تصور بھی پیش کیا۔ جب کہ انبیاء حق ہر میدان میں مردانہ وار کود جاتے تھے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین!

۳..... انبیاء صادقین علیہم السلام نے ہمیشہ اپنے سے پہلے رسل اور صحائف کی تصدیق و تحسین فرمائی۔ نیز سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر ہی ظاہر فرمائی۔ کبھی بھی ان کی کردار کشی اور توہین و تحقیر کا پہلو اختیار نہ فرمایا اور نہ ہی کبھی ان پر اپنی برتری کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ خود رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا کہ: ”لا تفضلونی علی یونس بن متی“ لا تخیرونی بین الانبیاء (بخاری ج ۲ ص ۶۶۸) ”مگر میں نے کبھی بھی اس رویہ اور ضابطہ کو ملحوظ نہ رکھا۔ بلکہ ہمیشہ سابقہ انبیاء کی توہین و تحقیر کے ہی درپے رہا اور ان کے مقابلہ میں اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار اور اعلان کرتا رہتا۔ حتیٰ کہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام کو بھی معاف نہ کرتا۔ خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ناقابل یقین حد تک کذب و افتراء کا ارتکاب کرتا رہا۔ چنانچہ میری کتب غلیظہ اس پر شاہد ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شرابی، کبابی، کنجریوں سے میل جول رکھنے والا، خدا جانے یہودیوں کی انگلیخت پر کیا کچھ بک دیا۔ حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام پر الزام لگانے میں یہود سے بھی سبقت لے گیا۔ دیکھئے معیار الاخیار اور چشمہ مسیح وغیرہ۔

۴..... سچے نبی علیہ السلام ہمیشہ تواضع و مسکنت کی چادر ہی زیب رکھتے کسی بھی موقع پر کوئی خود پسندی، شیخی یا بڑائی کی بات نہ کرتے۔ نہ کہیں مخالف و منکر کو مالی یا جانی نقصان کی دھمکی دیتے اور نہ ہی اس سے کوئی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لئے الہام بازی کا پریشر ڈالتے اور نہ ہی کسی موقع پر ان کی ایذاء رسانی کے مقابلہ میں غیظ و غضب سب و شتم اور لعن و طعن کا اظہار فرماتے۔ جب کہ میری حالت اس سے سو فیصد مخالف تھی۔ میں تو ہمہ وقت مخلص مخالفین کو بھی الہام بازی کے ابلیسی پریشر تلے دبائے رکھنے میں مصروف رہتا۔ جانی مالی نقصان کی بڑھکیں، لافیں مارتا رہتا۔ ہر دن نشان نمائی کے بلند بانگ دعوے، مختلف قسم کی جعلی فتوحات کے الہامی اشتہارات

جاری کرتا رہتا۔ زیادہ جوش آتا تو نہایت اشتعال میں آ کر لعنت کی طویل گردان بھی شروع کر دیتا اور مقابلہ میں مقابل کی ذاتیات پر اترنے سے بھی نہ شرماتا۔ بلکہ صحیح یا غلط کی پرواہ کئے بغیر اس کی کردار کشی کرنے لگتا۔ ہر ایک مخالف کو انعامی مقابلوں کی چیلنج بازی سے خائف رکھنے کی ہی سعی میں مصروف رہتا اور سب سے بڑھ کر خباثت یہ کرتا کہ ان تمام بکواسات کو انجیل کے ذمے لگا دیتا کہ میری ہر بات انجیل کے حوالہ سے ہے۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان تھا۔ انجیل میں ایسی کوئی غلاط نہ تھی۔ بھائی میں نے تو قرآن کے متعلق بھی بک دیا کہ یہ بھی گالیوں سے پر ہے۔ العیاذ باللہ!

۵..... راست بازی نبی کفار و منکرین کے مطالبہ معجزات پر ”انما الایات عند اللہ (انعام: ۱۰۹)“ اور ”انما انما نذیر مبین (ص: ۷۰)“ اور ”هل کنت الا بشراً رسولا (بنی اسرائیل: ۹۳)“ کا جواب تو دیتے۔ لیکن کوئی بڑھک یا شخی نہ مارتے۔ از خود کبھی بھی اعجاز نمائی کا اعلان و اظہار نہ فرماتے۔ جب کہ میں بلا مطالبہ بھی معجزہ نمائی کے شغل میں ہی مصروف رہتا۔ ہمد وقت مداری کی پٹاری کھولے رکھتا۔ میں پیش گوئیاں کرنے میں اتنا دلیر اور بے باک تھا کہ رات کو نصرت بیگم سے میل ملاپ کر کے صبح ہی اشتہار شائع کرا کے درود یوار پر چسپاں کر دیتا کہ میرے ہاں ان ان صفات اور حلیے کا لڑکا پیدا ہوگا۔ گویا غسل جنابت بعد میں کرتا یا نہ کرتا۔ پہلے اشتہار کا مضمون تیار کر لیتا تا کہ اگلے دن قادیان اور اس کے ماحول میں یہ خبر جان فزا پہنچ جائے۔ مگر جب اس پیش گوئی کا التارخ سامنے آ جاتا تو پھر مجھے بڑی جان توڑ محنت کر کے فضا کو برقرار رکھنا پڑتا۔ کیونکہ ایسے وقت بیگانے تو کجا رہے۔ اپنے معتقد بھی ڈر گانے لگتے۔ جیسا کہ آتھم اور محمدی بیگم کا ڈرامہ میرے کئی عقیدت مندوں کے لئے جان لیوا ثابت ہوا۔ کئی مریدان باصفا مجھ سے کٹ گئے اور کئی ڈاواں ڈول ہو گئے۔ چنانچہ بعض کو میں نے اپنی لڑکی دے کر بھی قائم رکھا۔ جیسے کہ نواب محمد علی کا معاملہ ہے کہ اس کو اپنی بیٹی مبارکہ بیگم دے کر قادیانیت پر پختہ رکھا۔ غرضیکہ میرے کردار کی ہر جزئی اور پہلو انبیاء حق کے سو فیصد کے مخالف تھا۔

۶..... انبیائے حق علیہم السلام ہر حالت میں حق و صداقت کے مبلغ رہتے۔ کسی بھی مرحلہ اور قدم پر وہ کسی مصلحت یا ناجائز اور دست برداری کی سطح پر نہ اترتے۔ اپنی دعوت کے کسی بھی اصول و ضابطہ سے رتی بھر نہ تو دستبردار ہوتے اور نہ ہی کچھ لپک اختیار کرتے۔ بلکہ مکمل طور پر پوری عزیمت اور استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہ کر اسے پوری تندہی کے ساتھ پیش فرماتے رہتے۔ چاہے انہیں اس کے رد عمل میں کتنی ہی مزاحمت برداشت کرنا پڑتی۔ حتیٰ کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی تاریخ اس مرحلہ میں قید و بند، جسمانی اور جنسی اذیت، جسمانی تشدد اور قتل، فقر و فاقہ وغیرہ جیسی ہر

قسم کی صعوبت سے معمور ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہ فرماتے۔ ملاحظہ فرمائیے حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کی قید جسمانی وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی روح فرسا آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کا بے مثال صبر و استقامت، حضرت یونس ذی النون علیہ السلام کی محیر العقول آزمائش، حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی پر عزیمت قید و شہادت جسمانی۔ دیگر انبیاء الہی کی آزمائش بلکہ ان کے متبعین صادقین کی آزمائش کہ: ”مستہم الباء ساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنو معہ متی نصر اللہ (البقرہ: ۲۱۴)“ اور ”وکاین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، فما وھنوا لما اصابھم (آل عمران: ۱۶۶)“ اور ضابطہ عمومی ”ولنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات (البقرہ: ۱۵۵)“ کے تذکرے اور واقعات قدم قدم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کی آزمائش کہ جن کے تصور سے ہی انسانی قلب و ذہن ماؤف اور شل ہو جاتے ہیں۔ شعب ابی طالب کی نظر بندی۔ مکہ کے گلی بازار کی جسمانی اور ذہنی اذیتیں۔ حتیٰ کہ حرم کعبہ میں کفار کی ناقابل تصور زیادتیاں اور طائف کے ہولناک مناظر۔ واقعہ ہجرت کی کڑی صعوبتیں۔ وغیرہ! ہزار ہا روح فرسا واقعات اور پھر آپ کے متبعین صادقین کی آزمائش کہ ”وزلزلوا زللاً شدیداً (احزاب: ۱۱)“ اور ”بلغت القلوب الحناجر (احزاب: ۱۰)“ وغیرہ جیسے ان گنت مواقع جن کے نتیجہ میں وہ قدسی طبع حضرات ”اولئک هم المؤمنون حقاً (انفال: ۴)“ کے مقام رفیع پر فائز ہوئے۔ ان لوگوں نے واقعاً فرزندِ خلیل علیہ السلام کو مشاہدہ تا حق ثابت کر دکھایا۔ جب کہ میں ان حقائق کے مقابلہ میں نقطہ انجماد اور زیر و پوائنٹ سے بھی کہیں فروتر اور ڈاؤن تھا۔ تو تم لوگ اتنے واضح ترین تفاوت کو بھی ذہن نشین نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ظلمت و نور، مشرق و مغرب، آسمان و زمین میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ وہ کاہے کو کسی نیک انجامی یا سعادت کو پا سکے گا۔ اس کا انجام تو سو فیصد حد تک یہی ہونا چاہئے جو آج آپ سب یہاں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور اسی کے شکار ہو چکے ہیں۔ ”و کذالک یجزی اللہ الظالمین“

وقفہ بول و براز۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن اوتار کی جے۔ قادیانی بہروپے کی جے۔ مکرو فریب کی نشانی مرزائے قادیانی، مرزائے قادیانی۔  
چند منٹ کے بعد پھر مرزا قادیانی اپنی مسند واجب اللعنہ پر رونق افروز ہو کر یوں گویا ہوتے ہیں۔



میرے چہیتے جانثارو! یہ موضوع اگرچہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ مگر آپ بور نہ ہوں۔ کیونکہ وقت گزاری کے لئے یہ پروگرام نہایت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ نیز اصل حقیقت بھی نکھر آئے گی۔

اچھا تو آپ انبیائے صادقین علیہم السلام کے اوصاف و شمائل سن رہے تھے۔ اب اسی ضمن میں خاتم الانبیاء ﷺ (جن کی صلیت کا میں نے جعلی دعویٰ کیا تھا) کی زبان اقدس سے مسئلہ جہاد کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے اور پھر میرا موازنہ بھی کر لینا۔

آپ ﷺ نے جہاد کو ذرۃ الاسلام فرمایا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲) آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ: ”الجهاد ماض الى يوم القيامة“ نیز فرمایا کہ: ”لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق . ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال (مشکوٰۃ ص ۳۳۱، کتاب الجہاد الفصل الثانی)“

”وقال من لم یغزولم یجہز غازیاء او یخلف غازیاء فی اہلہ بخیر اصابہ اللہ بقارعة قبل یوم القیامة (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۴۹، باب کراہیۃ ترک الغزو، مشکوٰۃ ص ۳۳۱، کتاب الجہاد الفصل الثانی)“

”وقال ایضاً والذي نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احنی ثم اقتل ثم احنی ثم اقتل ثم احنی ثم اقتل . متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۳۲۹، کتاب الجہاد الفصل الاول)“

ملاحظہ فرمائیے کہ خاتم الانبیاء ﷺ نے جہاد کی کتنی اہمیت واضح فرمائی کہ یہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ کیونکہ یہ دین حق کی عظمت و بقاء کا ذریعہ اور نشان ہے۔ پھر جہاد سے بالکل لاتعلق رہنے والے کی کیسی مذمت فرمائی۔

پیارے ساتھیو! جہاد کے متعلق میرے دل کی بات سنو کہ میں نے جہاد کی مخالفت کی۔ اس کی دو وجہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ غیر ملکی آقا کی نمک حلائی صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ میری ذاتی اور طبعی مجبوری تھی۔ وہ یہ کہ میں چونکہ طبعاً بزدل تھا۔ میں اعصابی کمزوری، دماغی ضعف اور ضعف قلب کی بناء پر نیز قوت مردی میں بھی نہایت ناقص تھا۔ لہذا ان صفات کی موجودگی میں جرأت، حمیت اور شجاعت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسا ناقص انسان نہایت ڈر پوک اور بزدل ہوتا ہے۔ وہ تو آمنے سامنے کسی سے کھل کر گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ ہتھیار بند ہو کر میدان جہاد میں کودنے کی جرأت کرے۔ اسلحہ جنگ کی چکا چوند اور گھن گرج اور چیخ و پکار

میں عزم و استقامت کا اظہار کرتے ہوئے پیش قدمی کی جرأت کرے یا اپنے مقام پر ڈنار ہے۔ ایسے مواقع پر تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ مجھ جیسے ضعیف قلب و دماغ کے مریض کہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے نامردوں اور خسروں کا ایسے تصور سے ہی ہارٹ فیل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اس داخلی اور خارجی مجبوریوں کی بناء پر میں نے جہاد کے خلاف اتنا شور مچایا تھا۔ پھر یہ بات نہایت قابل توجہ اور خطرناک امر ہے کہ اگر کوئی ہمارا مخالف اس مسئلہ کے سلسلے میں یہ کہہ دے کہ قادیانیو! تم نے ۲۹ مئی ۱۹۷۳ء کو جو مسلمان طلباء پر حملہ کیا تھا آیا وہ اپنے مذہب کی حمایت کے لئے تھا یا محض غنڈہ گردی تھی؟ تو ہمارے پاس اس کے جواب میں سوائے ندامت اور شرمندگی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں قادیانیوں کی فرقان بٹالین اور دیگر ایسی تنظیموں کا قیام بھی ہمارے اس اختراعی مسئلہ کا منہ توڑ جواب ہے۔

تو اصل بات وہی ہوئی کہ ہم نے ہر مسئلہ کو محض ایک آڑ اور بہانہ بنایا ہوا ہے۔ ورنہ ہمارا کسی بھی دینی مسئلہ پر کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم نے محض اپنے تحفظ کے لئے اور مسلم علماء کو الجھانے کے لئے ان مسائل کا سہارا لیا ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے میرے بعد میرے گروہ کے لوگوں نے کسی بھی موقع پر مسلمان کو مالی یا جانی نقصان پہنچانے میں ذرا غفلت نہیں برتی۔ ۱۹۵۳ء میں ہمارے کئی پولیس مین یا فوجی نو جوانوں نے قادیانیت کے تحفظ کے لئے کئی مسلمانوں کو بھون ڈالا۔ ایک موقع پر ایک گاؤں موسیٰ والا ضلع سیالکوٹ میں ہمارے لوگوں نے عید گاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے حملہ کر دیا۔ اگرچہ ”و مکروا و مکرا اللہ واللہ خیر الماکرین“ کے مطابق بجائے مسلمانوں کے ہمارے ہی دوزخ و آبی واصل جہنم ہو گئے۔ تو ایسے تمام واقعات دینی جہاد یا جنگ نہیں ہے؟

ہاں تو نبی اکرم ﷺ نے خود اپنے جذبات کا اظہار کیسے موثر ترین انداز میں فرمایا کہ میری انتہائی خواہش ہے کہ میں بار بار راہ حق میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں۔ اب اتنے اہم ترین اصول دین کی بے قدری اور توہین و تحقیر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب کہ دین اسلام کے تمام اصول و فروع قیامت تک کے لئے باقی اور تحفظ یافتہ ہیں۔ مگر میں چونکہ مبعوث ہی جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لئے ہوا تھا۔ لہذا نہایت ڈھٹائی اور بے حیائی سے کہہ دیا۔ دوستو!

چھوڑ دو اب جہاد کا خیال  
دین کے لئے حرام ہے جہاد و قتال

(ضمیمہ تحفہ گلزدیہ ص ۲۶، خزائن ج ۷ ص ۷۷)

گویا میں نے بالکل فرمان رسولؐ کے بالمقابل یہ بڑھانک دی۔ جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ کیونکہ یہ تو واضح ترین مخالفت دین تھی اور کھلی بغاوت تھی۔ جس کی آج تک کسی نے بھی جرأت نہ کی تھی۔ مگر تم لوگ پھر بھی متنبہ نہ ہو سکے۔ دیکھو ایک طرف نبی رحمت ﷺ قسم اٹھا کر راہ حق میں بار بار قربان ہو جانے کو آرزوئے قلب و ضمیر اپنا مقصد قرار دے رہے ہیں اور آپ نے خود بنفس نفیس ۲۷ غزوات میں کمان بھی فرمائی۔ مگر میں اسے کس قدر تحقیر آمیز لہجے سے ذکر کر رہا تھا۔ حالانکہ دوسری جگہ میں نے خود یہ بات لکھی کہ صفات عفت، سخاوت، شجاعت وغیرہ انسانیت کی زینت ہیں۔ مگر یہ صفات صرف دعویٰ کی حد تک ہونا کوئی قابل تعریف چیز نہیں۔ بلکہ ان کا عملاً اظہار لازمی ہے۔ شجاعت کے لئے میدان میں نکل کر اس کا ثبوت مہیا کرنا لازمی ہے۔ (دیکھئے اسلامی اصولوں کی فلاسفی۔ آخری صفحات) مگر میں عملاً ان تمام صفات میں بالکل صفر تھا۔ تاکہ میرے سر پرست صاحب بہادر خوش ہو جائیں۔ محترمہ ملکہ وکٹوریہ دام اقبالہا خوش ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ دو مستقل رسالے بھی شائع کرائے تھے۔ یہ دونوں رسالے اس کی خدمت میں گویا سپانا مے تھے۔ اسی طرح میں نے حکومت برطانیہ کی خوشنودی کے لئے خونی مہدی اور خونی مسیح کی ملعون اصطلاحات بھی بار بار استعمال کی ہیں۔ اب فرمائیے کہ کہاں فرمان اقدس اور کہاں ایک مجبوظ الحواس دیوانے کی بڑ۔ تمہیں اتنا بھی شعور نہ تھا؟ ویسے یا رتم تو بالکل بدھو اور عقل و فکر سے عاری نکلے۔ دیکھو حیات مسیح علیہ السلام کے سلسلہ میں بھی رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم“ مگر تم نے اس صادق و امین ﷺ کی تاکید پر ذرا بھی توجہ نہ کی۔ بلکہ فوراً میری جعل سازی پر یقین کر لیا۔ افسوس صد افسوس تمہاری حالت پر۔

دیکھئے میں نے آنحضور ﷺ کے مقابلہ میں کیا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم“ تو میں نے بھی لاف مار دی کہ: ”ابن مریم مر گیا حق کی قسم“ (ازالہ اوہام ص ۶۴، خزائن ج ۳ ص ۵۱۳)

اور بک دیا: ”خدا کی قسم میں ہی مسیح بن مریم ہوں۔“

خدا کے نبی نے فرمایا کہ: مہدی میری عمرت اور اولاد فاطمہ سے آئے گا۔ میں نے

بک دیا: ”سمعت ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من بنی فاطمہ“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۴۱، خزائن ج ۱۶ ص ۲۴۱ حاشیہ)

.....۷ انبیائے عظام علیہم السلام بالخصوص خاتم المرسلین ﷺ کا زہد و تقویٰ اور فاقہ مستی ان کی حیات طیبہ کی زینت اور سرمایہ تھی۔ خود رحمت کائنات ﷺ نے دعاء مانگی تھی کہ: ”اللہم اجعل قوت آل محمد کفافاً“ نیز فرمایا: ”اللہم احبنا و امتنا مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین“ وغیرہ۔ آپ کے خانہ اقدس میں دو دو ماہ چولہا نہ جلتا تھا۔ محض چند کھجوروں پر گزارا ہو جاتا۔ بسا اوقات تین تین روز فاقہ سے گزر جاتے تو پیٹ کو سکون دینے کے لئے اس پر پتھر باندھ لیتے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہی ناقابل دید حالت دیکھ کر حضرت جابرؓ اور حضرت ابوطالبؓ نے مختصر سی دعوت کا اہتمام فرمایا تھا۔ مگر وہ سب کو با فراغت کفایت کر گئی۔ ایسے ہی کتب احادیث و سیر میں بے شمار ایسے واقعات مذکور ہیں۔ پھر یہی زہد و تقویٰ صحابہ کرامؓ اور بعد کے صالحین کا شعار رہا ہے۔

مگر میری حالت تمہارے سامنے تھی کہ قسم قسم کے کھانوں سے فراغت نہ ملتی۔ گویا خاتم الانبیاء ﷺ کا چولہا مدت تک جلتا ہی نہ تھا۔ مگر میرا کبھی بجھتا ہی نہ تھا۔ کئی قسم کے مشروبات و ماکولات بے دریغ پیٹ میں گھسیڑتا، انگلیٹا رہتا۔ ٹانگ و آٹن، یا قوتیوں اور دیگر مقویات کا شمار نہ تھا۔ ادھر دنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی نیز مال کو اپنی امت کے لئے فتنہ قرار دیا۔ جب کہ مجھے حصول زر ہی کی فکر تھی۔ آمد زر پر فخر و مباہات کیا کرتا۔ اپنی سچائی کے ثبوت میں آمد و روپیہ کو بار بار پیش کیا کرتا کہ مجھے اتنا روپیہ آیا ہے۔ کبھی کتنی آمد روپیہ کا الہام کبھی کتنے کا۔ غرضیکہ میری تمام حیات ناپائیدار نہایت گھٹیا تھی۔ صالحین کے برعکس، بہیمانہ، غیر روحانی اور سفل انداز پر تھی۔ چنانچہ میری موت بھی اسی بیکھی بسیار خوری کا نتیجہ تھی۔ بتلائیے اس سے بڑھ کر حق و باطل کے درمیان کون سا امتیاز اور حد فاصل ہو سکتی ہے؟ ”ولکن ما عقلتم ولا تذکرتم فکنتم من الخاسرین فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم“

.....۸ انبیاء برحق کی شان عالی درجات دیکھئے کہ ان کی ہر جائز اور ضروری حاجت ان کا مالک پوری فرما دیتا۔ مثلاً سید دو عالم ﷺ کو کئی حکمتوں کے تحت کثرت ازواج کی ضرورت تھی تو ان کے حوالہ عقد میں کئی عظیم خواتین جمع فرما دیں۔ پھر مزید اباحت بھی واضح قرمادی اور ایک موقع پر حضرت زینبؓ کے بارہ میں فرمایا کہ ”انما زوجناکھا (احزاب: ۳۷)“ کہ ہم نے اسے آپ کے حوالہ عقد میں دے دیا ہے تو یہ سب چاہیے ہی بلا مزاحمت وقوع پذیر ہو گیا۔ پھر یہ تمام ازواج مطہرات آپ کے ہاں باوجود فاقہ مستی کے بھی خوش و خرم رہیں۔ کسی کو حق تلفی کا کبھی

شکہ پیدا نہ ہو سکا۔ مگر میرے فراڈ خانہ میں تماشہ ہی تماشہ تھا۔ میں مسکین نے جناب مٹھن لال کی اطلاع پر الہام جھاڑ دیا کہ: ”بکرو شیب“

(ضمیمہ انجام آختم ص ۱۴، خزائن ج ۱۲ ص ۲۹۸، تجلہ کلڑ ویہ ص ۳۳، تریاق القلوب ص ۳۳، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۱، ۱۸۷) پھر میں نے یہ الہام مولانا محمد حسین بنالویؒ کو بڑے فخر سے سنایا کہ بکرو تو آگئی ہے۔ جب کہ شیب کا انتظار ہے جولا زما پورا ہوگا۔ مگر دنیا جہاں کو معلوم ہے کہ نصرت کے بعد میرے نکاح میں کوئی بیوہ وغیرہ عورت نہ آسکی۔ ”حتیٰ اتانسی الموت والثبور“ اس کے بعد میں نے مزید حماقت کا اظہار کیا تو خیراتی ابلیس کے کہنے پر محمدی بیگم کے متعلق اشتہار شائع کر دیا کہ وہ ضرور میرے نکاح میں آوے گی۔ چنانچہ میں نے بھی وہی الفاظ قرآنی اس بارہ میں شائع کر دیئے۔ پھر میں نے اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دے دیا اور اسے تقدیر مبرم قرار دیا۔ مگر نتیجہ اور انجام ارض و سما اور جن و انس کے سامنے ہے۔ میری کیا کیا رسوائی ہوتی رہی۔ کونسا ایسا طعنہ تھا جو مجھے نہ ملا ہو۔ کون سی ایسی پھبتی تھی جو مجھ پر نہ کسی گئی ہو۔ مگر میرے مرتے دم تک کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ محمدی بیگم اپنے گھر خوش خوش رہ رہی تھی۔ جب کہ میں داغ مفارقت لے کر ابد الاباد کی جہنم میں جھلس رہا ہوں۔ گویا میں ”ولا تموتن الا وانتم مسلمون“ کی بجائے ”ارایت من اتخذ اللہ ہواہ“ کی تصویر بنارہا۔ لوگو! دیکھو کتنا واضح فرق ہے حق و باطل میں انبیائے برحق اور مسیلمہ کذاب کی ٹولی میں مگر خدا جانے تمہاری مت بالکل ہی کیوں ماری گئی تھی۔ جو اتنی موٹی بات بھی نہ سمجھ سکے۔ ”فلعنة الله على الظالمين“

میرے پیارے دوستو! دیکھو جس ہستی کا ظل و بروز ہونے کا میں مدعی تھا۔ اس کا تقویٰ وللمیت، عبادت و ریاضت ملاحظہ کرو کہ فرائض کے علاوہ اکثر حصہ رات عبادت میں گذرتا۔ لمبی لمبی رکعات، پانچ پانچ پارے ایک ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جس سے پاؤں مبارک متورم ہو جائیں اور دیکھنے والے ترس کھائے بغیر نہ رہ سکتے کہ آقا اتنی مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے تو آپؐ کو ”لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنک وما تاخیر“ کے عظیم اعزاز سے نوازا رکھا ہے تو فرمایا کہ اچھا تو پھر میں ”افلا اکون عبدا شکورا“ نہ بنوں۔ علاوہ ازیں فرائض کے علاوہ متعدد قسم کے سنن و نوافل ہیں۔ اشراق و چاشت ہے۔ اوایین ہے۔ گویا آپؐ کی ذات اقدس سراپا عجز و نیاز اور عبودیت ہیں۔ مگر مجھ جیسا کور باطن، دنیا کا کیرا، پیٹ کا بندہ، کرم خاکی، انسانوں کی عار اور جائے نفرت اس چاشنی سے سو فیصد درو اور

محروم۔ ہائے اس بد نصیب کو تو آقاء کی ایک رکعت کے وقفہ میں تین تین دفعہ پیشاب کی حاجت تنگ کر لیتی تھی۔ میں نوافل اور تہجد وغیرہ تو کجا مجھے تو صحیح انداز سے فرائض بھی نصیب نہ ہو سکتے تھے۔ کبھی پیشاب، کبھی دوران سر، کبھی براز، کبھی ہسٹریا کا دورہ تو کبھی متلی کا چکر۔ غرضیکہ میرا رواں خدا کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے للہیت اور عبودیت سے کیا واسطہ ہو سکتا تھا؟ بھائی میرے تقویٰ کا معیار کچھ اور ہی تھا۔ جس کی کچھ وضاحت میں نے اپنی (براہین بنجم خزائن ج ۲۱ ص ۱۸۴) میں کر دی تھی۔ باقی رہا الہی تقویٰ تو اس سے میں بھی بکلی محروم و نا آشنا تھا اور تم بھی۔ جیسے کہ تمہارے بارہ میں، میں نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن کے صفحہ آخر پر کچھ وضاحت کر بھی دی تھی۔ تم بالکل وہی کچھ تھے۔ ذرا اصحاب خاتم الانبیاء ﷺ کے بارہ میں اور میرے ابتدائی پیروکاروں میں موازنہ کرو کہ وہاں سراسر عبودیت الہی اور عجز و نیاز، اخوت و محبت کے نظارے، اور یہاں سرکاری ٹاؤٹ۔ کوئی تحصیل دار ہے تو کوئی کلرک، کوئی منشی ہے تو کوئی دیگر ملازم۔ یہ سب انگریزی سرکار کے ملازم اور ایجنٹ تھے۔ انہیں للہیت و تقویٰ شعاری سے کیا واسطہ؟ ہاں تو سید دو عالم ﷺ کی نماز کے علاوہ دوسری عبادات سے صرف روزہ کو سامنے رکھتے تو بھی ہمیں واضح تفصیل ملتی ہے کہ آپ فرض روزہ کے علاوہ نفلی روزے بھی بکثرت رکھتے تھے۔ جب کہ تین دن ہر ماہ کے ہر ہفتہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ معمول عام تھا اور بسا اوقات اکثر مہینہ روزہ سے رہتے اور اکثر اوقات بلا خور و نوش مسلسل روزہ یعنی وصال کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ مگر مجھے ایسے جذبہ اطاعت سے کیا واسطہ۔ میں نے تو فرض روزے بھی پورے نہیں رکھے۔ نفلی کو کون پوچھتا ہے؟ العیاذ باللہ! اب بتلائیے کہ ایسا محروم من الخیر فرد آپ کی ظلیت کا دعویٰ کس منہ سے کر سکتا ہے۔ جب کہ یہاں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہاں اعتکاف اور لیلۃ القدر کی شب بیداری کا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔

۹..... سچائی ہمیشہ اور ہر حالت میں محض خدا کی بندگی ہی کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کبھی کسی بھی اوتار یا مظہر وغیرہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ وہ تو محض اپنے مالک حقیقی ہی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی طرح ہونے کی تلقین فرماتا ہے۔ وہ نہ تو کسی بت کو معبود بناتا ہے اور نہ کسی درخت اور پہاڑ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی دیگر مخلوق کو حتیٰ کہ وہ تو اپنے آپ کو اور اپنی قبر کو بھی رکوع سجدہ سے پاک رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ سید دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے ہر ذی روح چیز کی تصویر کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ جس کی تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔ مگر میں نے کون سا کام

اور حرکت نہیں کی۔ میں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ: ”ورایتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہو..... وصرت كأناء منثلماً“ (آئینہ کلمات اسلام ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

اور یہ بھی لکھ دیا کہ: ”اعطیت صفة الاحیاء والافناء“ معاذ اللہ!

(خطبہ الہامیہ ص ۵۵، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً)

اور کہہ دیا کہ مجھے رب نے فرمایا: ”اسمع ولدی“ (البشری ج ۱ ص ۴۰)

دوستو! دیکھو ان خرافات کو کوئی بڑے سے بڑا شاطر و عیار بھی دائرہ کفر سے نہیں نکال

سکتا۔ علاوہ ازیں میں نے اپنے لڑکے کے متعلق بھی لکھ دیا کہ: ”کأن اللہ نزل من السماء“

(ازالہ اوہام ص ۱۵۶، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

اور اپنے آپ کو کئی مقامات پر ولد اللہ ظاہر کیا۔ ”نعوذ باللہ من هذه الخرافات“ گویا میں نے تمام انبیائے برحق کے برعکس تمہاری ایسی تربیت کی کہ تمہارے اندر کسی بھی قسم کا تقویٰ، عبودیت اور اطاعت و فرمانبرداری کا عکس نہ آسکا۔ چنانچہ میں نے تمہارے کردار کی ہلکی سی جھلک شہادۃ القرآن کے آخر میں ذکر کر دی تھی۔ نیز یاد رہے کہ میں نے گھر میں ایک گدی کتاب بھی رکھا ہوا تھا۔ تاکہ رحمت کے تمام دروازے مجھ پر بند ہو جائیں۔ پھر تم نے ہر قسم کی اعتقادی، عملی، کجروی اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ تم نے میری اور میرے خلیفوں کی تصاویر کو گمراہ قوم کی طرح ایک کاروبار کی شکل دے ڈالی۔ تمہارے ہر گھر اور کاروباری ادارہ میں ہماری تصاویر آویزاں کر دی گئیں۔ جب کہ تم اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو بڑا موحد اور راست باز ظاہر کرتے رہتے تھے۔ مگر تمہارا کردار نہایت منفی اور نفرت انگیز ہوتا تھا۔

۱۰..... انبیائے صادقین علیہم السلام کی بعثت کا مقصد خود رب العالمین نے واضح

فرمایا تھا کہ: ”لقد ارسلنا رسلنا البینت وانزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم

الناس بالقسط (الحدید: ۲۵)“

اور خصوصاً رحمت کائنات ﷺ کا مشن تو تھا ہی خدا کی حکومت کا قیام اور انسانی معاشرہ کو ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ اور بے انصافی سے نجات دلا کر ایک صالح اور پر امن اور جنت نظیر معاشرہ کا قیام۔ چنانچہ اس کا تذکرہ بائبل کی کتاب (عیایہ: ۴۳) میں بھی مذکور ہے اور ادھر آپ ﷺ نے بار بار خود بھی قدم قدم پر اس مقصد کو واضح فرمایا اور بالآخر ایسے صالح ترین معاشرہ قائم کر کے بھی دکھا دیا۔ لیروں اور ڈاکوؤں کو محافظ و امین بنادیا۔ ظالموں اور حق تلفی کے خوگر کو مجسم شفقت

ورحمت اور عدل و انصاف کا شعار بنادیا۔ آپ نے اس بد نظم اور لوٹ گھسٹ والے افراد کو عظیم ترین پیشوائے عالم بنادیا۔ جعلی خداؤں اور طاغوتوں کا جنازہ نکال دیا۔ دنیائے عالم امن و انصاف کی خوشگوار فضا میں سانس لینے لگی۔ گویا ہر فرد، ہر فیملی، خاندان، محلہ، دیہات، قریہ، شہر، صوبہ، ملک امن و سلامتی کا گہوارہ، پیکر اور مجسمہ بن گیا۔ نہ اپنوں سے بدسلوکی کا اندیشہ اور نہ ہی غیروں سے بے راہ روی اور بے انصافی یا حق تلفی کا خطرہ۔ مگر میری آمد اور ڈرامہ بازی پر ان امور میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ بلکہ اگر کچھ پہلے کا باقی تھا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں معاشرہ انسانی میں تہذیب و صلاحیت تو کیا قائم کرتا میں تو خود اپنے گھر میں اور اپنے خاص مریدوں میں بھی یہ فضا قائم نہ کر سکا۔ میں خود انصاف کی عدالت قائم کرنے کے بجائے اپنا انصاف لینے کے لئے طاغوت کی عدالت میں حاضری دیتا۔ میرے دور میں ہر قسم کی بد امنی اور بے اطمینانی پورے عروج پر تھی۔ مسلم معاشرہ کی ساکھ دم بدم گرتی ہی چلی گئی۔ کیونکہ میرا تو مشن ہی یہی تھا کہ امت مسلمہ سے روح اسلام نکال پھینکوں۔ میں نے کہنے کو تو ایک موقع پر کہہ دیا تھا کہ میں مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں۔ یعنی غربت اور بے کسی کا مرقع ہوں۔ مگر اس کو ثابت کر کے نہ دکھا سکا۔ بتلائیے مسیح نے کب اس وقت کی رومی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے تھے یا ان کی کاسہ لیس کی تھی؟ اپنی خاندانی ٹھاٹھ باٹھ بنانے کے لئے نکاح کے چکر چلائے تھے۔ مکان اور حویلیاں بنائی تھیں۔ اپنے لئے ان گنت وسائل اور بیوی کے لئے ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کئے تھے۔ ذاتی ضروریات، ٹانک وائن اور یا قوتیاں استعمال کی تھیں اور مختلف قسم کے مرغن اور اعلیٰ درجے کے پکوانوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بتلائیے مسیح علیہ السلام کے ساتھ میری کون سی مشابہت تھی؟ میں نے بار بار اور موقع بموقع اپنے آپ کو مسیح کا ہم صفت اور ہم طبیعت قرار دینے کی سعی کی ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۷۵، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

مگر حقیقت حال سو فیصد اس کے برعکس تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جمیع انبیاء کا ظل اور عکس قرار دیا ہے۔ مگر درحقیقت مماثلت ایک سے بھی نہیں۔ بھائیو! یہ سب فراڈ تھا۔ نہیں کسی بھی نبی یا راست باز کے ساتھ میری قطعاً کوئی مماثلت یا مشابہت نہ تھی۔ سید دو عالم ﷺ کی شان و عظمت تو نہایت دور کی بات ہے۔ تو بھائیو! اتنے نمایاں تضاد کے ہوتے ہوئے بھی تم حق کو نہ پاسکے اور مجھ جیسے ایک مکار بہروپے کے چکر میں آ گئے۔ افسوس اور ہزار افسوس۔ ”اف لکم وما کنتم تعبدون“ غرضیکہ جتنے انبیائے صادقین علیہم السلام کی حقانیت اور صداقت کے



دلائل و براہین قائم تھے۔ اتنے ہی اور بلکہ ان سے بڑھ کر میری تکذیب اور باطل پرست ہونے کے دلائل و براہین فراہم تھے۔ میں نے قصد اور بلا قصد کسی بھی صداقت کو مانڈیا ختم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ خدا اور رسول اور دین حق کے خلاف میں نے ہرزہ سرائی کرنے میں کبھی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ قرآن و حدیث میں لفظی اور معنوی تحریف کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی۔ میں سید دوعالم رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم و عقیدت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ مگر یہ سب فراڈ اور دجل تھا۔ ورنہ میں قول و کردار کے لحاظ سے اول درجہ کا آپ کا مخالف اور باطل کا پرستار اور دل دادہ تھا۔ ذرہ ملاحظہ فرمائیے۔

سید دوعالم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ”انا بشارۃ عیسیٰ (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم)“ اور ”انا محمد وانا احمد (مشکوٰۃ ص ۵۱۵، باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم)“ مگر میں نے نہایت ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ اسمہ احمد کا مصداق میں ہوں۔ یعنی میرا نام احمد ہے۔ لہذا تم سب احمدی ہو۔ اس کے بعد میرے محمود نے اپنی کتاب انوار خلافت میں تو اس بحث میں حد ہی کر دی۔ اس بے وقوف نے نہایت دھڑلے سے دعویٰ کر دیا کہ اس پیش گوئی کا مصداق حقیقی ہمارے مرزا قادیانی ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ پھر اس پر اس نے اپنے مزعومہ ۱۵ دلائل پیش کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی دنیا کا عالم اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کر لے جس کا جواب احسن امر وہی لاہوری مرزائی نے القول المجید میں خوب دیا۔ (اس کے بعد راقم الحروف نے ”القول الارشد فی تفسیر اسمہ احمد“ میں قادیانی دجل و فریب کی خوب صفائی کر دی۔ جس کا جواب تا قیامت کوئی قادیانی نہیں دے سکتا، تجربہ شاہد ہے) میں نے تو مدت تک یہ عنوان عوام الناس میں متعارف کرایا کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا کفر ہی نہیں بلکہ زبردست کفر ہے۔ (اشد کفر ا۔ مسعود) تو ساتھ یودیکھو کتنی جسارت، کتنی جہالت اور حماقت تھی کہ ایک بات کے متعلق صاف صاف فرمان رسول موجود ہو کہ اسمہ احمد کا مصداق میں ہوں۔ مگر میں نے بک دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھر اس پر تمہارا نام بھی احمدی رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آج سے تمہاری ذات احمدی ہے۔ کہئے اس سے بڑھ کر کوئی تو بہن ہو سکتی ہے کہ آپ کے فرمان کے بالمقابل کھڑا ہو کر دعویٰ کر دینا کہ آپ کا فرمان صحیح نہیں۔ میری بات درست ہے۔ الامان والحفیظ۔ الامان والحفیظ!

نیز انبیاء کرام کی شان و عظمت تو بالکل واضح اور مبرہن تھی۔ جن کے مشابہ کوئی نہیں

ہوسکتا اور سب سے افضل خاتم الانبیاء ﷺ تھے۔ جن کا اپنا فرمان ہے کہ: ”انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونہ تحت لوائی (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، باب فضائل سید المرسلین الفصل الثانی)“ مگر اس کے مقابلہ میں میں نے بھی کہہ دیا کہ:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے  
من بعرفاں نہ کمتر ز کے  
کم نیم زان ہمہ بروئے یقین  
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزل المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۸)

استغفر اللہ ثم استغفر اللہ!

فرمائیے مجھے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا نسبت اور واسطہ؟ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ تو بلا استثناء آنحضور ﷺ پر ختم تھا۔ (حماۃ البشری ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

میں نے کہا میں کسی سے بھی کم نہیں۔ نہ موسیٰ سے نہ عیسیٰ سے نہ ابراہیم و داؤد سے نہ خاتم الانبیاء سے۔ جو شخص مجھے کسی سے بھی کمتر کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس پر لعنت ہو۔ کیوں صاحب لعنت کیوں؟ لعنت بازی صد یقوں کا کام نہیں۔ مومن لعان نہیں ہوتا۔ تو میں نبی اور مسیح کیسے بن گیا؟ کچھ عقل کرتے۔

..... انبیائے صادقین علیہم السلام نہایت عقلمند، ذہین، سنجیدہ طبع، کم گو اور نہایت درجہ کے حق گو اور راست باز اور ہر قسم کی فضول گوئی اور زائد از ضرورت قول و فعل سے مجتنب اور ہر قسم کی بناوٹ اور تصنع و تکلف سے مبرا ہوتے ہیں۔ چنانچہ رب العالمین نے رحمت کائنات ﷺ کے حق میں فرمایا کہ: ”وما علمناہ الشعر وما ينبغي له (یسین: ۶۹)“ کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے مناسب ہی تھی۔ نیز فرمایا: ”وما انا من المتکلفین (ص: ۸۶)“ مگر میرے حالات قدم قدم پر ملاحظہ فرمائیے کہ میں ان تمام نقائص و عیوب سے لبریز تھا۔ عقل و ذہانت سے عاری۔ سنجیدگی اور کم گوئی سے سو فیصد ناواقف اور نابلد۔ حق گوئی اور راست بازی کا مجھے کبھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ ہر قسم کے تکلف و تصنع کا میں پرلے درجے کا حریص، فضول گو اور قوال۔ بات کا بنگلہ بنانے والا۔ ہر صحیح بات کی تاویل کرنے میں گویا رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعر و شاعری اور غزل گوئی کا چمپین۔ چنانچہ میں نے ہر

زبان (عربی، اردو اور فارسی میں) شاعری کی تھی۔ جو کہ علیحدہ درمبین نامی رسالوں میں بھی شائع کردی گئی تھی۔ میری کفریہ تعلیمات، نظم و نثر، کتاب و رسائل، تقریر و بیان، ملفوظات و مکتوبات اور مباہلہ جات اور اشتہار بازی ہر سطح پر موجود تھیں۔ گویا میں ہردن بلکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا، شغل اور ہنگامہ آرائی قائم رکھتا تھا۔ فضائے ماحول میں تلاطم اور ارتعاش ہی برپا رکھتا تھا۔ سکون و سکوت سے میں بالکل بے بہرہ تھا۔ پھر میرے بعد میرے بچوں نے اس پر مزید استواری کر کے مقابلہ بازی اور مباہلہ بازی کا خوب بازار گرم کئے رکھا۔ میں نے جس سالانہ جلسہ کو بوجہ عدم ڈسپلن موقوف کیا تھا۔ انہوں نے اسے خوب زور و شور سے اور مسلسل منعقد کرنا شروع کر دیا تا آنکہ ملت اسلامیہ نے بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ الغرض انہوں نے میری لگائے ہوئے اس شجرہ خبیثہ کی خوب آبیاری کی تھی۔ جس کفر و زندقے کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ انہوں نے نہایت مستعدی اور چابکدستی سے اس پر استواری کر لی تھی۔ مقدس ترین گروہ مرسلین علیہم السلام، قدسی صفات جماعت صحابہ کرامؓ، معظم ترین محدثین و مفسرین، مکرم ترین مجددین، مجاہدین، اولیائے کرام اور علمائے حق رحمہم اللہ! جمعین سب ہی کی کردار کشی کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اپنے ہی تفوق کا اظہار کیا۔ ہر قسم کی لاف و گزاف کا خوب استعمال کیا۔ بڑے بڑے مقدسین کی کردار کشی کرتے رہے اور ساتھ ہی بہانہ یہ بنایا کہ میں نے سب کچھ الزام کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میری جملہ خرافات اور ہفوات کا ماخذ اناجیل ہیں۔ اقوال یہود ہیں۔ سابقہ اکابر نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ حالانکہ سوائے اقوال یہود کے سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا، بہتان تھا۔ ہاں اقوال یہود ہو سکتے ہیں سوان کی اتباع کسی معقول انسان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہودی سرشت فرد کا ہی ہو سکتا ہے۔ مگر یہ کوئی قابل ستائش امر نہیں بلکہ قابل صد مذمت ہے اور سابقہ اکابر نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

پھر میں نے یہ بھی بک دیا کہ قرآن بھی گالیوں سے پر ہے۔ العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! میرے ہونہار بچو اور مربو! بتاؤ کیا قرآن میں گالیاں بھری ہیں؟ احسن امر وہی، سرور شاہ، نور دین، فضل دین، بھیروی، او محمود، ناصر اور طاہر وغیرہ، تم ہی نشان دہی کرو کہ کہاں قرآن میں گندی گالیاں بھری ہیں؟ بولو، جلدی کرو۔ دیکھو یہاں مسلم علماء اور مبلغ نہیں، سب احرار اور تحفظ والے بھاگ کر جنت میں پہنچ گئے۔ اس لئے ڈرو نہیں کہ ۲۹۵ سی کا نفاذ ہو جائے گا، بولو بولو۔

ایک خناس: جی سر، دیکھئے نامیہ کے متعلق دس گالیاں لکھی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہوگا؟

قادیانی شاطر: شاباش، شاباش۔ یہی میری مراد تھی۔ مگر عقل سے کام لو اور سوچو، ان میں اور میری بکواسات میں آسمان وزمین سے بھی بڑھ کر فرن ہے۔ کہاں کلامِ علیم وخبیر، کہاں میری ہرزہ سرائی۔ سنو اور آج پوری حقیقت اپنے اندر سمو لو کہ رب العالمین علیم وخبیر ہے۔ نیز وہ اشتعال و انتقام سے منزہ ہے۔ اس نے جو کچھ کسی کے حق میں فرمادیا، وہ سو فیصد حقیقت ہوگی۔ اگر اسے عقل فرمایا تو وہ ایسا ہی تھا۔ اگر زینم فرمایا تو وہ واقعی زینم ہی تھا۔ مگر میری ہرزہ سرائی محض انتقام و اشتعال کا نتیجہ تھی، دل کی بھڑاس تھی۔ پھر میں علیم وخبیر بھی نہیں۔ اس لئے گالی اور بدزبانی وہ ہوگی جو بوجہ نفسانی جوش اور اشتعال میں دی جائے اور خدا اس سے مبرا اور قرآن اس سے پاک اور میری گالیاں محض نفسانی جوش کا نتیجہ تھا۔ لہذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگی، حقیقت نہ تھی۔ ساتھیو! یہ فرق ہے میری بکواسات اور قرآنی الفاظ میں۔ لہذا قرآن کی یہ زبردست توہین ہے جو میں نے کی تھی۔ العیاذ باللہ!

غرضیکہ کون سا ایسا کفر تھا جو ہم نے مل ملا کر اختیار نہ کیا تھا۔ ذات باری کے متعلق ہو یا دربار رسالت ہو یا دیگر کسی حقیقت کے سلسلہ میں۔ دیکھئے میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھ دیا کہ: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ پرانی عادت کی بناء پر یا.....“ العیاذ باللہ!

(کشتی نوح ص ۶۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

پھر سب سے بڑھ کر ظلم یہ کہ اس الزام کو عیسائیوں اور انجیل کے ذمہ لگا دیا۔ ”الا لعنة الله على الظالمين“ حالانکہ انجیل سے ہرگز آپ کی یہ عادت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی مائی کالال جواب بھی اس سے پیش کر کے شاباش حاصل کرے۔

پھر (نیم دعوت ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۴۳۴، ۴۳۵) پر لکھ دیا کہ کسی نے مجھے ایک عارضہ کے سلسلے میں کہا کہ آپ انہون استعمال کریں کہ یہ ذیابیطس (شوگر) میں مفید ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہمدردی کا شکریہ مگر مجھے خطرہ ہے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ پہلا مسیح شرابی تھا اور دوسرا انہونی۔ ”الا لعنة الله على الظالمين“

نیز میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یسوع اس لئے اپنے آپ کو نیک نہ کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کہابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ دعویٰ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے۔

(ست پجن ص ۷۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۰ ص ۲۹۶)

غرضیکہ میں نے تو بہن مسیح کے سلسلہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایک اولوالعزم نبی کو شرابی کہا بی کہنا، یہ کوئی شرافت ہے؟ نیز تم بتاؤ کہ انجیل میں یہ باتیں لکھی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ سراسر میری ہی بکواسات ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ غلط بیانی اور بہتان طرازی بذات آدمیوں کا کام ہے۔ (آریہ دھرم ص ۱۱، خزائن ج ۱ ص ۱۳) بتلائیے پھر میں کیا بنا؟

بتلائیے! شرابی کو آنحضرت ﷺ نے ملعون نہیں فرمایا؟ تو کیا ایک مقدس نبی کو شرابی کہنا کوئی انسانیت ہے؟ کیا ایسا لعنتی بہتان باز فرد نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بوجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہو جاتا ہے۔ آؤ! پھر تم نے مجھے کس حساب سے مجدد اور مسیح وغیرہ مان لیا۔ تمہارے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے۔ فضل دین، جلال دین، شمس اور سرور شاہ۔ اندھو، احمق تمہیں نظر نہ آیا کہ نبیوں پر بہتان باندھنے والا ملعون اور زندیق واجب القتل ہوتا ہے نہ کہ مجدد اور مسیح۔ پھر تم کس بات کو پلے باندھ کر قادیانیت پر اڑے جا رہے تھے اور اس کی حمایت و وکالت کرتے رہے۔

جواب: حضرت صاحب! محض شکم پروری کی خاطر۔ جس طرح آپ نے یہ ڈرامہ شکم پروری کے لئے رچایا تھا۔ ہم بھی اسی بری لت میں پڑ گئے۔ جیسے ابلیس نے آپ کو گھائل کر لیا ہمیں بھی کر لیا۔ بس بات اتنی ہے۔ اچھا جی۔ حتیٰ کہ میں نے ایسی خباثتوں کو اکابر کے ذمہ لگایا جو کہ دیکھئے دوسرے اکابر نے ایسا ہی لکھا ہے اور الزامی لکھا ہے۔ حالانکہ یہ سب بکواس تھی جو میں نے کی۔ مثلاً حضرت کیرانوی کی ازالہ ادہام ص ۳۷۰ کے حوالہ سے میں نے مسیح پر شراب نوشی کا الزام تھوپا۔ مگر اس حوالہ سے کوئی تم میں سے بھی دکھانہیں سکتا۔ یہ تھی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ!

وقفہ بول کا اعلان کرتا ہے۔ اچانک ابلیس پورے زور سے چیختا ہے۔ میرے غلام احمد کی جے۔ قادیانیت کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ حماقت و خباثت کی نشانی، مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔

چند لمحے کے بعد جناب قادیانی پھر اپنی نشست پر آ کر براجمان ہو جاتے ہیں اور باواز بلند پکارتے ہیں۔ کفر والحاد کی نشانی، مرزائے قادیانی۔

اچھا بھائیو سنو! تو جب میں نے قدم قدم پر اپنی ڈرامہ بازی کا اظہار کر دیا تھا جس سے سب نیک بخت بلکہ تم جیسے چند احمقوں کے سوا تمام مسلمان محفوظ رہے۔

تمہاری عقل کہاں گھاس چر نے چلی گئی تھی۔ دیکھو میری حرمت بی بی جو میری راز دان تھی وہ باوجود سادہ لوح ہونے کے میرے دجل و فریب کا شکار نہ ہوئی۔ اپنا سہاگ تو اجاڑ لیا۔

زندگی کا سکون برباد کر لیا مگر ایمان کو تھامے رکھا۔ تمہارا بیڑا کیوں غرق ہو گیا تھا؟ تم نے کیوں عقل و سمجھ سے بیزار ہو کر ضلالت کو اپنالیا۔ دیکھو! میرا نہایت خدمت گار بیٹا فضل احمد، باوجود اس کے کہ بڑا فرمان بردار تھا کہ میرے کہنے پر اس نے اپنا گھر بھی تباہ کر لیا۔ یعنی جب میں نے اسے محمدی بیگم کے چکر میں آ کر حکم دیا کہ بیٹا تم احمد بیگ کی اس عزیزہ کو طلاق دے دو۔ یہ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیتے۔ میں کوئی چوہڑا چمار ہوں؟ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں بیمار ہوتا تو ساری ساری رات میری خدمت میں لگا رہتا۔ مگر اس نے اپنا متاع ایمان برباد نہ کیا۔ میری مجددیت اور مسیحیت وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں مذکور خدائی صابطہ ”وان جاهدك“ پر کما حقہ عمل کر دکھایا۔ او میرے فضل احمد تو کتنا خوش نصیب نکلا کہ تو نے اپنے متاع ایمان کو میرے کہنے پر برباد نہ کیا۔ جب کہ میرے ساتھ وابستہ ہونے میں دنیا جہاں کی راحتیں تجھے مل سکتی تھی۔ مگر تو نے اس متاع دنیا پر لات ماردی اور آخر تک حق پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت نکلا اور میرے سلطان احمد تم بھی خوش نصیب نکلتے۔

اچھا میری نصرت بیگم کے بیٹو اور میرے خلیفہ! ذرا تم بھی سامنے آ کر کچھ دل کی بھڑاس نکال لو۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وقت گزاری کے لئے کچھ نہ کچھ کہتے سنتے رہیں۔ مرزا محمود، شریف احمد، بشیر احمد بتاؤ تمہیں میں نے اتنی تعلیم دے کر تربیت کی تھی۔ آخر تم ہی کچھ عقل کرتے۔ میرے چلائے ہوئے اس ڈرامے کو ختم کر دیتے۔ آخر تمہارا پدری بھائی فضل احمد تو بچ ہی گیا۔

فرزند ان مرزا! پیارے ابا! دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کا تو شعور ہو ہی جاتا۔ مگر کچھ آپ کا قصور اور کچھ ہم قسمت کے ماروں کا۔ دونوں نے مل کر خدائی توفیق کو روک دیا۔ ہمیں ابلیس لعین نے مغلوب کر لیا۔

ابا جان! آپ نے یہ چکر کچھ اتنا پر فریب چلایا تھا کہ سطحی نظر سے یہ حقیقت ہی نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے جو چندے مندے کا ڈرامہ رچایا ہوا تھا کہ قسم کے چندے کچھ لنگر کے نام سے، کچھ خدمت دین کے نام سے، کچھ ہشتی مقبرے کے نام پر۔ الغرض بیسیوں قسم کے فنڈ قائم کر کے متاع دنیا کا خوب پھندا لگا دیا تھا۔ پھر عام لوگوں کے لئے آمدنی اور جائیداد کا ۱۰ فیصد حصہ لازمی قرار دیا اور ہم کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا۔ بلکہ وہ تمام مال و دولت ہمارے ہی تصرف میں آ جاتا تھا۔ سیاہ کریں سفید کریں۔ ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو سکتی تھی۔ تو ایسے عیش و عشرت کی چکا چوند میں کہاں ہوش رہتی ہے۔ پھر اس پر مزید اندر کھاتے خواہشات نفس کی تکمیل کا خوب بندوبست فرما دیا تھا۔ لہذا ہم جو اپنی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی چوں نہ

کر سکتا تھا۔ لہذا ہم اس شیطانی جال میں پھنسے ہی رہے۔ سوچنے اور نکلنے کا ہوش ہی نہ تھا۔ ”لان الشیطان قد استحوذ علینا وصدق علینا ظنہ“

اس ایلیس نے کئی بڑے بڑے نامی گرامی مدعیان معرفت و تقویٰ کو چاروں شانے چت گرایا ہے۔ اگرچہ بیشتر کو اس راستہ پر لانے میں ناکام بھی رہا۔ ذرا اس کی چابک دستی اور ہوشیاری کے چمکے اور کرشمے، ابن جوزی کی کتاب تلخیص ایلیس میں تو ملاحظہ فرمائیں۔ ذرا بلعم باعور جیسے ولیوں کا انجام تو ملاحظہ فرمائیں۔

چنانچہ آپ میرا دور خلافت ملاحظہ فرمائیں۔ کتنا سنہری دور تھا۔ ہر طرف پیش رفت جاری تھی۔ مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ اندر باہر عیش و عشرت کی فضاء قائم ہے۔ کسی کی رکاوٹ کا رگر نہیں ہو سکی۔ مسلم علماء کے ساتھ مقابلے اور مباہلے جاری ہیں۔ میں نے تو قادیان کو مرکز عالم بنادیا۔ اندرون و بیرون ملک اپنی چالبازی سے سیاست کا ایک مضبوط جال پھیلا دیا۔ پاکستان بنا تو اپنی شاطرانہ چال سے اسے آدھ موا کر دیا۔ بننے کے بعد وہاں ہر جگہ اپنے مرید گھسیڑ دیئے۔ جنہوں نے اس کی روح ہی کھینچ لی۔ کسی طرف اسے چلنے نہ دیا۔ مسلم علماء میں سے سید عطاء اللہ بخاریؒ نے اگرچہ میرا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مگر میں بھی آخر آپ جیسے نہایت عیار اور ڈھیٹ باپ کا فرزند تھا۔ اس نے مباہلہ کا چیلنج دیا۔ مگر میں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ہی کی سنت پر چلتا رہا کہ پہلے تیز طراز بیان بازی کر لی۔ مگر جب مخالف نے آکر لکرا تو واپس اپنی کھڈ میں دم سادھ کر بیٹھ گئے کہ خود ہی وہ چیخ و چلا کر خاموش ہو جائیں گے۔ یہ بہترین فارمولا ہے۔ ادھر میں نے آپ کے مولوی نور دین کو تو خلافت کا موقعہ دے دیا تا کہ حق الخدمت ادا ہو جائے۔ مگر پھر کسی اور کو اٹھنے نہیں دیا۔ محمد علی لاہوری نے بڑی کوشش کی کہ خلیفہ بن جائے۔ مگر میں نے ایک نہیں چلنے دی۔ آخر وہ علیحدہ ہو کر اپنی ٹولی بنا بیٹھا۔ میں نے بڑے طمطراق سے مدت تک مسند خلافت پر قبضہ جمائے رکھا۔ ان لاہوریوں، باغیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کئی کتابیں اور رسالے ان کے خلاف لکھے۔ بلکہ میرا دور خلافت کا اکثر حصہ اسی باہمی چپقلش میں گذرا۔ دونوں طرف سے درجنوں کتب شائع ہوتی رہیں۔ رسائل اس کے علاوہ تھے۔ خطبے اور بیانات مزید برآں تھے۔ شاہد ہی کوئی کتاب ہو جو اس موضوع سے الگ ہو۔ پھر ایک اور آفت آن پڑی کہ میرے خلاف چنیوٹ کے ایک ممتاز اور نامور عالم منظور احمد نے مجھے مباہلہ کا چیلنج دے دیا۔ دونوں پلوں کے درمیان وہ مباہلہ کا نفرنس منعقد کرنے لگا۔ میری موت تک ہر سال وہ مجھے دعوت مبارزت دیتا کہ آؤ جو الزامات تجھ پر لگائے گئے ہیں۔ ان کو خلفا ہٹاؤ۔ مگر وہی فارمولا تھا کہ مخالف کی لکاکر پر اپنا دم

سادہ کر آپ کے بیت الفکر میں دبک جاتا۔ آخر سامنے کیسے آتا؟ پھر خود قادیان میں میرے خلاف کئی تحریکیں اٹھیں۔ مگر میں نے سب کو دبا دیا۔ کسی کو پھنسنے نہیں دیا۔ خلافت کا زبردست تقدس قائم کیا تھا کہ مخالفت کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ میرے خلاف کئی حقیقت افروز کتابیں شائع ہوئیں۔ جیسے تاریخ محمودیت، شہر سدوم، کمالات محمودیہ، ربوہ کا مذہبی آمر وغیرہ۔ جن میں صحیح حقائق مندرج تھے۔ مگر میں آپ کی طرح کب ہار ماننے والا تھا۔ عبدالکریم مباہلہ الٹا ناکام ہوا۔ فخر الدین ملتانی اٹھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ عبدالرحمن مصری اٹھا مگر کچھ نہ کر سکا۔ آخر قتل ہو گیا اور بھی کئی مخالف اٹھے اور انہوں نے معقول اور صحیح اعتراضات اٹھائے۔ ہمارے اندرونی راز ظاہر کئے۔ اگر وہ پھیل جاتے تو ہمارا تمام تقدس اور دکانداری ٹھپ ہو جاتی۔ مگر میں نے تمام تحریکوں اور شرارتوں کو ٹھپ کر دیا۔ کسی کو قتل کرا کے راستہ سے ہٹا دیا۔ کسی کو عیسائیوں کی طرح اپنے قائم کردہ محکمہ احتساب کے حوالہ کر کے خاموش کر دیا۔ پیارے اباجی! میں نے بہت مضبوط اور فعال انٹیلی جنس بھی قائم کی ہوئی تھی۔ ذرا کسی مرد عورت نے ہماری پرفریب اور تقدس مآب خلافت کے خلاف کوئی مشورہ کیا۔ بات کی یا پروگرام بنایا۔ فوراً ہمیں اطلاع ہو جاتی تو اس کو نہایت جارحانہ انداز سے متعلقہ محکمہ میں طلب کر کے جھنجھوڑ دیا جاتا۔ جس سے وہ تحریک یا پروگرام وہیں ٹھپ ہو جاتا۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کر بھی لیتا تو اس سے دوسرے طریقہ سے نمٹ لیا جاتا۔ محترم اباجان اس تمام مضبوط ترین بندوبست کے پیش نظر مجھے ربوہ کا مذہبی آمر بھی کہا گیا۔ مگر میں نے بھی پرواہ نہ کی۔ ہمیشہ اپنی دھونس ہی پر قائم رہتا۔ میں جس کی آبرو سے کھیلنا چاہتا بے دھڑک کھیل لیتا۔ کیا مجال کہ کوئی چوں بھی کرے۔ محترم یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ کہاں تک تفصیل کروں۔ پھر میں نے اپنی مذہبی اور علمی دھونس جمانے کے لئے تفسیر القرآن بھی لکھی۔ احادیث کا ترجمہ بھی کیا۔ غرضیکہ میں نے ہر سطح پر اپنی دھونس اور دجالیّت جمانے کے لئے کھل کر کام کیا۔ مؤثر بندوبست کیا۔ یہ لیکچر مرزا قادیانی بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ آخر نہایت خوش ہو کر بشیر الدین کو شاباش دی۔ آفرین کہا۔ ادھر یکا یک نعروں کی گونج اٹھی۔ غلام احمد کی جے۔ دجالی خلافت کی جے۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوا۔ نعروں کی جھنکار، غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔

چند لمحے کے بعد جناب قادیانی پھر اسٹیج پر آن دھمکتے ہیں اور اپنے مغلّے فرزند بشیر احمد کو بلاتے ہیں۔ بشیر احمد ایم اے۔ ایس ڈیڈی جان۔ فرمائیے کیا ارشاد ہے؟  
مرزا قادیانی: پیارے بیٹے تمہارے بڑے بھائی نے تو اپنی کارروائی سنا کر مجھے خوش کر دیا۔ اب تو بھی کچھ اپنی کارروائی سنا۔



مرزا بشیر احمد: ڈیڈی جان! میں بھی اپنی بساط کے مطابق آپ کے سلسلہ دجلالیہ کے لئے انتہائی جدوجہد کرتا رہا۔ مثلاً میں نے ایک تو آپ کی پیاری پیاری اور حقیقت انگیز سیرت لکھی۔ جسے میں نے اپنی مئی جان سے روایت کرتے ہوئے لکھا تھا اور اس کا نام مبارک، سیرت المہدی رکھا۔ میں نے اس میں آپ کے تمام حالات، عادات، کردار، تاریخ، فضائل اور اغراض و مقاصد تحریر کر دیئے۔ غرضیکہ وہ کتاب مبارک ہمارے سلسلہ دجلالیہ کی نہایت مستند دستاویز تھی۔

مرزا قادیانی! میرے پیارے بیٹے بالکل ٹھیک۔ واقعی تو نے یہ بڑا اہم کام کیا ہے کہ میری اصل حقیقت اس کتاب میں واضح کر دی تھی۔ شاباش! جیسے میں نے اپنی اصلیت متفرق طور پر اپنی کتابوں میں درج کر دی تھی تو نے اسے یکجا کر دیا ہے۔ اچھا اس میں میرے حالات بھی درج کئے تھے۔ مثلاً جوتے کے دائیں بائیں کی تمیز نہ ہونا۔ چوزہ کی بجائے انگلی کاٹ لینا وغیرہ۔ جو میرے ایک سدھاڑ اور بدھو ہونے کی دلیل تھی۔ جی ڈیڈی! میں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اچھا بھانوا اور عائشہ کا قصہ بھی لکھا ہے۔ گرم پانی کے لوٹے اور بیوہ شاہدین وغیرہ کے رنگ رنگیلے واقعات۔ پھر وہ لمبے چوڑے منہ والی لڑکیوں کا قصہ اور قاضی یار محمد کی چھیڑ چھاڑ کا قصہ بھی نقل کیا ہے۔ جی ڈیڈی! ضرور میں نے اس میں ایسے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں وغیرہ۔ مئی جان! نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اچھا اچھا۔ خوب میری ہیضہ کی عبرتناک موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ تو ضرور ہونا چاہئے تھا۔ جی ڈیڈی جان! میں نے وہ بھی بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ پھر میرے نانا جان محترم میرا صرناوب صاحب نے مزید اپنی یادداشت پر کھل کر وہابی ہیضہ کا آپ کی زبان سے ذکر کر دیا تھا۔ شاباش بیٹے لائق اور ہونہار فرزند ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا پھر تم نے وہ کتاب خوب شائع کی۔ جی ڈیڈی! ایک دو دفعہ شائع کی۔ اپنے اور غیروں نے اسے بڑا پسند کیا۔ مگر جب مخالفین نے ان منفی حوالوں کو زیادہ اچھال کر ہمارے سلسلہ دجلالیہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے اس کی اشاعت موقوف کر دی۔ جس پر یہ یلغار کچھ رک گئی۔ مگر وہ احراری لوگ بہت شرارتی تھے۔ انہوں نے اس کا عکس لے کر اسے پھر شائع کر دیا تو پھر احراری مبلغ آپ کی اور ہمارے مربیوں اور عوام کی خوب گت بناتے تھے۔ اس سے ہماری بہت بدنامی اور ناکامی ہوتی۔ مگر ہم بھی آپ کی طرح ڈھیٹ بنے رہے۔ ہار ماننے والے نہ تھے۔ اچھا اچھا! شاباش! آفرین، بہت خوب۔ تو اتنی وضاحت کے بعد بھی یہ لوگ میری حقیقت کو نہ پاسکے کہ میں کسی معقول کردار کا مالک نہیں بلکہ ایک عام شریف انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے ان احمقوں نے مجدد اور مسیح اور نبی وغیرہ۔ کیسے مان لیا؟ کیوں اوئے آٹو باٹو، جلال دین، نذیر لائل پوری، سرور شاہ، احمد علی

وغیرہ۔ نادانو، پاگلو کیا اس کردار کا حامل انسان مجدد اور مسیح ہو سکتا ہے؟ جسے انسانیت اور شرافت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ جس نے خود واضح کر دیا کہ بھی میں تو ایک مراتی اور مجمع الامراض آدمی ہوں۔ میں تو گورنمنٹ برطانیہ کا وفادار گماشتہ ہوں۔ میرے پاس جبرائیل نہیں بلکہ ٹیچی اور مٹھن لال وغیرہ جیسے دیسی ولایتی ہر کارے آتے ہیں۔ اواحقو! میں نے تو صاف لکھ دیا کہ:

ہوں کرم خاکی میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

تو کیا مجدد اور مہدی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ! مسیح اور نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ! او پاگلو! جب قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کی نبوت منقطع ہے۔ خود سید دو عالم ﷺ نے بھی سینکڑوں ارشاد فرمائے ہیں۔ واضح کر دیا تھا کہ اب سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا ہے۔ اب اور کوئی فرد عہدہ نبوت پر فائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ تمام محدثین، مفسرین، مجددین اور آئمہ دین اور صلحائے امت نے علی الاعلان ہر کتاب میں یہی فیصلہ دے دیا تھا کہ اب خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کوئی نیا فرد انسانی منصب نبوت نہیں پاسکتا۔ اب ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا ملنا ممنوع اور محال ہے۔ حتیٰ کہ میں نے خود فیصلہ لکھ دیا کہ اب حضرت ﷺ کے بعد جبرائیل امین، ایک جملہ بھی اگر بولیں تو یہ بھی نبوت کے خلاف ہے۔

(ازالہ اوہام ص ۵۷۷، خزائن ج ۳ ص ۴۱۱)

اور لکھ دیا کہ جس سلسلہ وحی کو خدا نے آدم سے شروع فرمایا تھا اسے محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم کر دیا ہے۔ دیکھو میری کتاب (آئینہ کمالات اسلام ص ۴۲۰، خزائن ج ۵ ص ۵۷۸) اور میں نے مزید وضاحت کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی بھی رسول کو نئے سرے سے عہدہ نبوت پر فائز نہ کرے گا اور نہ ہی ایک مرتبہ نبی بنانے بند کر کے دوبارہ کسی کو عہدہ نبوت دینا شروع کر دے گا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۷۷، خزائن ج ۵ ص ۵۷۸)

اور خود خاتم الانبیاء ﷺ نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ: ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی“ (ترمذی ص ۵۳ ج ۲، باب نہبت النبوة وبقیت المبشرات) ”کہ نبی اور رسول بننے بند ہو چکے ہیں تو اب نہ کوئی رسول بنے گا اور نہ نبی۔ میں نے بھی آپ ﷺ کو نبوت کی آخری اینٹ قرار دیا تھا۔ (آریہ دھرم یا ست یجن) اور پھر اس کے خلاف بھی بک دیا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ یا للعجب!

تو میں نے اتنی وضاحت کر دی تھی تو احمق! تم کس بناء پر مجھ بدبودار میلہ کے ساتھ چمٹ گئے تھے۔ کیا تم نے اسلامی کتابیں، تفسیریں اور کتب احادیث و کلام نہ دیکھی تھی۔ تمہیں فرمان صدیق ”تم السدین وانقطع الوحی اینقص واناحی“ نظر نہ آیا تھا اور جب مجھ جیسے سرپھروں طیحہ، اسودغسی اور خاص کر میلہ کذاب نے ذیلی نبوت کا اعلان کیا تھا تو صدیق اکبرؑ نے کس طرح اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ثابت کر دیا کہ حبیب کبریہ ﷺ کے بعد جب کبھی کسی مکار کے سر میں یہ سودا سمایا تو ہر زمانہ کے مسلمان حکمرانوں نے اسے فوراً جہنم کی طرف چلتا کیا۔ کسی نے ذرہ بھر لحاظ نہ کیا۔ کیونکہ افضل الخلق بعد الانبیاء علیہم السلام کا فرمان لاریب امت کے قلوب و اذان میں نقش ہو چکا تھا۔ یہ تو میری بدبختی تھی کہ صلیبی دور تھا جو مسلمانوں کے بڑے مخالف معاند اور دشمن تھے۔ انہوں نے شاہ شہیدؒ کی تحریک جہاد کو ختم یا ٹھنڈا کرنے کے لئے مجھے اپنا گماشتہ بنالیا کہ تو نے آہستہ آہستہ مسیح بن کر حرمت جہاد کی تبلیغ کر کے امت کے ذہنوں کی برین واشنگ کرنا ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں یہ مسئلہ جہاد ”ذروۃ الاسلام“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی آن اور بقاء کا ضامن ہے۔ چنانچہ صدیق اکبرؑ نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب وضاحت کر دی تھی۔ اس لئے مخالفین اسلام ہمیشہ اسلام، جذبہ جہاد سے خائف رہتے ہیں۔ زبور مقدس میں بھی مذکور ہے کہ لوگ تجھ سے قیامت تک ڈرتے رہیں گے۔ (زبور ۷۲: ۵)

پھر یہ صلیبی تو قرون وسطیٰ میں سلطان صلاح الدینؒ کے ہاتھوں مزہ چکھ چکے تھے۔ اس لئے ان کے دلوں پر اسلامی جذبہ جہاد کا بڑا رعب اور دبدبہ طاری تھا۔ نیز عہد قریب میں شاہ شہیدؒ کی تحریک اور اس سے قبل مہدی سوڈانی وغیرہ سے اپنی درگت بنوا چکے تھے اور سلطان ٹیپو شہیدؒ نے تو ان کی وہ گت بنائی تھی کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ لہذا ان تمام تجربوں کی بناء پر یہ تثلیث اور صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذبے کو ماند یا ختم کرنے کے لئے سو قسم کے پاؤ پیلے۔ کہیں ہندوستان کے نصاب تعلیم کو بدلا۔ کہیں مجھ جیسے خناسوں کو اس محاذ پر کھڑا کیا تو محض انہی مقاصد کے پیش نظر انہوں نے مجھ سے یہ اظہار کروائے ورنہ کہاں مہدویت، کہاں مجددیت اور کہاں مسیحیت و نبوت اور کہاں مجھ جیسا فاسق و فاجر فریبی اور مکار انسان۔ مجھے تو حب مال و جاہ نے یہ برے دن دکھائے تھے۔ نادانوں! تم تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میری چکر بازی میں نہ بھی آتے تو پھر بھی تم خاطر خواہ مسئلہ معاش کا بندوبست کر سکتے تھے۔ جب کہ میری حالت نیم ملاں خطرہ ایمان کی سی تھی۔ میں نے تو واجبی سی کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن استعداد ناقص تھی۔ دیکھو نا! میری عربی تحریر کے نمونے، مجھے تو مذکر مونث اور واحد جمع کی تمیز نہیں

تھی۔ بس جوش حماقت و دجالیت میں جو کچھ منہ میں آتا بکتا اور لکھتا چلا جاتا۔ تم عربی کے ماہر لوگ تھے۔ احسن تم تو بہت اونچی استعداد والے تھے۔ آخر تم تو دیکھ لیتے میں نے ایک جگہ لکھ دیا۔  
 ”کلام افصح من لدن رب کریم“ (الاستفتاء ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۳)

ذرا بتلاؤ! یہ عربی گرامر کے مطابق صحیح ہے۔ جی حضرت! کلام افصح اوہو یہ تو درست نہیں کیونکہ کلام مذکر ہے اور افصح اس کا فعل آپ نے مؤنث لکھ دیا۔ اچھا بتلاؤ! ”وہب لہ الجنة“ درست ہے۔ حضرت یہ بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اُلو! اس جیسے بیسیوں نمونے پیر مہر علی صاحب آف گولڑہ نے سیف چشتیائی میں پیش کر دیئے تھے۔ ذرا دیکھ تولیتے۔ اب کہہ رہے ہو کہ غلط ہے اور دنیا میں اندھے بنے رہے۔ پاگلو! تم اتنے ہی بیوقوف اور جاہل بن گئے تھے کہ ذرا عقل نہ آئی کہ ایسا جاہل بھی کبھی کسی منصب کا اہل ہو سکتا ہے، مجدد، مہدی، مسیح اور نبی تو بات ہی بڑی دور کی ہے اور وہ ہے بھی وہی چیز۔ وہ اکتسابی اور مجاہدہ و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بھی دیکھو! میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا۔ بلکہ اپنی دنیاوی تحریرات کے حوالہ سے تمہارے سامنے اصل حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ دنیا میں تم کس غلاظت و خباثت سے چمٹے رہے تھے۔ شرم نہ آئی بے ایمانو! تم نے بڑی بڑی پاکٹ بکس (احمدیہ پاکٹ بک، تعلیمی پاکٹ وغیرہ) لکھ کر دنیا میں اودھم مچایا ہوا تھا۔ مباحثوں اور مباہلوں کا چکر چلایا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار ہی کھائی۔ جیت یا غلبہ تمہاری قسمت میں ہی نہیں تھا۔

اوامحقو! یہ تو قواعد کی غلطیاں ہیں۔ وہاں تو نزکانہ والوں نے یا اور کسی نے میری قرآنی اغلاط بھی شائع کی تھیں کہ دیکھو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں قرآن کی اتنی آیات غلط لکھی ہیں۔ مثلاً براہین کو لے لو وہاں (براہین احمدیہ ص ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۶۰۱) پر میں نے قرآنی آیت یوں لکھ دی تھی۔ ”عسیٰ ان یرحم علیکم“ حالانکہ اصل میں یرحمکم بلاصلے کے تھی۔ نادان اندھو! تمہیں پتہ نہ چلا تھا۔ ہاں ہاں مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ تم نے اپنی شقاوت کو سینے سے چمٹائے رکھا۔ ایڈیشن پرائڈیشن شائع کرتے رہے۔ مگر ان آیات کی تصحیح نہ کی اور جلال دین خبیث تو نے ہی میری کتابوں کو آڈٹ کر کے روحانی خزائن کی صورت میں چھپوایا تھا۔ تو یہ آیات قرآنیہ کیوں درست نہ کیں۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہ آئی کہ آخر مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو درست کر لیتے۔

اور آلو میاں! تمہاری تعلیم کہاں غرق ہو گئی؟ کیا عام کتب حدیث میں مذکور نہیں تھا کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نماز پڑھاتے ہوئے کوئی لفظ چھوڑ گئے۔ مگر صحابہؓ نے اس وقت لقمہ نہ دیا۔ بعد میں جب عرض کیا تو فرمایا کہ صحابہؓ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا تو جب خاتم المرسلین ﷺ کا

یہ معاملہ ہے تو میں بالفرض کچھ ہوتا بھی تو پھر بھی آپ کے مقابلہ میں میری کیا وقعت تھی کہ مجھ سے جو قرآنی الفاظ میں خطا ہو جائے اس کو درست نہ کیا جائے۔ آخر خیثو! اتنی مولیٰ بات بھی تمہاری کھوپڑی میں نہ آئی۔ واقعی تم پر یہی فرمان الہی صادق آتا ہے۔ ”افرايت من اتخذ الله هواه واضله الله على علم (جاثیہ: ۲۳)“ او ظالمو! میں نے خود تو ضلالت میں چھلانگ لگادی تھی۔ مگر تم نے اور مجھے نیچے کودایا۔ ”الا لعنة الله على الظالمين“

او خیثو! تم نے میری کتاب (اربعین نمبر ۲ ص ۲۳) میں علماء کی لعنت پھنکار سے بچنے کے لئے لفظ انبیاء کو تو اولیاء سے بدل دیا۔ مگر تمہیں احکم الحاکمین کا ذرا خوف نہ آیا کہ اس کے کلام برحق کی خطا کو جو مجھ سے غیر اختیاری طور پر صادر ہو گئی تھی اسے درست نہ کر سکے۔ ابلیس نے تمہاری کہاں تک مت ماردی تھی کہ سوائے جہالت و حماقت کے کچھ بھی تمہارے پلے نہ رہا۔ یہ تو خدائی کلام تھا۔ جس کے متعلق خود سرور دو عالم ﷺ سے اعلان کروایا گیا۔ ”قل ما یکون لی ان ابدله من تلقائی نفسی (یونس)“ اسے تو صحیح کر لیتے۔ اسی طرح میں نے احادیث کے متعلق بہت کچھ جھوٹ بچ بولا کہیں سے لفظ نکال دیا کہیں مزید گھسیڑ دیا۔ جیسے من السماء کا لفظ (حماتہ البشری) کہیں قرآن سے نکال دیا۔ جیسے ازالہ اوہام میں ”او ترقی فی السماء“ کا جملہ وغیرہ۔ مگر تمہیں کچھ خیال نہ آیا کہ اسے درست ہی کر لیں۔

ایک قادیانی: مربی: پیر و مرشد۔ یہ آپ کی جھاڑ جھنکار محض فضول ہے۔ ہم تو آپ کو حد سے بڑھی ہوئی یقین دہانی کے نشے میں سب کچھ فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارا ذہن یہی بن چکا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب جو کچھ لکھ گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ چاہے کچھ ہو جائے، ہم اس سے نہ ہٹیں گے اور نہ ہی بدلیں گے اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے آپ ہوائے نفسی کے شکار ہو کر اور پنجہ ابلیس میں پھنس کر اس نارسعیر کے راستے پر چل پڑے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے طفیل وہی لعنت پڑ گئی۔ جیسے آپ دنیاوی عیش و عشرت کے نشے میں سب کچھ تھج کر بیٹھے، ہم بھی دنیاوی عزت اور واہ واہ کے نشے میں اندھا دھند جہنم کے گڑھوں کی طرف سے سرپٹ دوڑ پڑے۔ فرمائیے! آپ نے کتنی دھونس بٹھائی تھی کہ:

.....۱ میری وحی مثل قرآن کے قطعی اور یقینی ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲ ص ۲۲۰)

.....۲ مجھے خدا ایک لمحہ بھی غلطی پر باقی نہیں چھوڑتا۔ بلکہ فوراً متنبہ کر دیتا ہے۔

(نور القرآن ص آخر، خزائن ج ۸ ص ۲۷۲)

۳..... آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اپنی وحی میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں۔ (تجلیات الہیہ ص ۲۰ ج ۲۰ ص ۴۱۲) حضرت تو فرمائیے ایسے زبردست تقدس کے علاؤں کے اندر ہم کس طرح جھانک کر تصحیح کا خیال کر سکتے تھے؟

یکا یک ایک طرف سے نعروں کی جھنکار اٹھی۔ غلام احمد کی جے۔ مرزائیت کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ اس کے بعد وقفہ اجابت کا اعلان ہوتا ہے۔ کفر و ضلالت کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

جند منٹ بعد جناب قادیانی پھر اپنی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھی! ذرا ٹھہرو۔ مجھے ذرا اپنے دوسرے فرزند بشیر احمد سے کچھ مزید دریافت کرنا ہے۔

بشیر احمد! جی ڈیڈی جان! حاضر۔ فرمائیے:

اچھا بیٹا بتلاؤ کہ تم نے سیرۃ المہدی کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی؟ ڈیڈی جان! جان پدر۔ میں نے ایک اہم مضمون بنام کلمہ الفصل بھی شائع کیا تھا۔

عزیز بیٹے! اس میں کیا لکھا تھا؟

ڈیڈی جان! دراصل اس تحریر کا پس منظر بہت عجیب اور تفصیل طلب ہے۔

جان پدر! وہ کیوں؟

بشیر احمد ایم۔ اے۔ ڈیڈی جان! اصل واقعہ یوں ہے کہ جب آپ بذریعہ وبائی ہیضہ جہنم رسید ہو گئے تو بعد میں آپ کے دست راست حکیم نور دین تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کے سامنے تو یوں بھی نہ آ سکتے تھے۔ کیونکہ ان کی شخصیت نہایت اہم اور بلند بالا تھی۔ آپ کی دجالی تحریک کے یہی تور و رج رواں تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ شاید کبھی یہ سلسلہ دجالیہ شروع نہ کر سکتے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ بھیرہ کے حجام اور نائی تھے اور نائی نہایت ذہین ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے آپ کو تمام نشیب و فراز سے مطلع کیا تھا۔ ہر مشکل اور کٹھن مرحلہ پر یہ آپ کے دست راست اور معاون بنے رہے۔ اس لئے ہم کچھ نہ بول سکے۔ یہ آپ کے خلیفہ اور نائب بن گئے۔ انہوں نے آپ کے قائم کردہ سلسلہ دجالیہ کی خوب استواری فرمائی۔ اگرچہ تھوڑی ہی مدت بعد یہ بھی آپ کے پیچھے لپک پڑے۔ مگر بنیاد تو وہی مضبوط فرما گئے۔ لیکن ان کے آپ کے ہاں پہنچ جانے کے بعد قادیان میں بہت شور ہوا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وہ یوں کہ اس واقعہ پر ہمارے برادر مکرم مرزا بشیر الدین محمود صاف آپ کی مسند دجالت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق بھی انہی کا بنتا تھا۔ جس کی تصدیق ان کی تاریخ نے بھی کر دی۔ مگر آپ کا ایک اور مرید محمد علی نام

تھا۔ اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا کہ اب خلافت میرا حق ہے۔ کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا اور گریجویٹ ہوں۔ گویا بظاہر برابر کی چوٹ تھی۔ مگر جب آپ کی روحانی اور جسمانی اولاد اپنے موقف پر ڈٹ گئی تو پھر اس کی کیا سادہ تھی کہ وہ خلیفہ بن جاتا۔ چنانچہ کافی تو نکار کے بعد برادر مکرم خلافت دجالیہ کی گدی کے وارث بن گئے اور تسلیم کر لئے گئے اور محمد علی بری طرح ناکام ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنے حلقہ احباب کو علیحدہ منظم کر کے اپنی الگ پارٹی بنائی۔ جس میں کچھ پڑھے لکھے اور کالجیٹ بھی تھے۔ جیسے احسن امروہی اور خواجہ کمال الدین وغیرہ۔ چنانچہ اس نے اپنی الگ پارٹی کا الگ تشخص قائم کرنے کے لئے کئی مسائل میں ہم سے اختلاف کا راستہ اپنالیا۔ حالانکہ پہلے اس کے وہ نظریات نہ تھے۔ مگر اب اس کی یہ مجبوری تھی کہ اپنا الگ تشخص قائم کرے۔ ڈیڈی جان! اس نے بہت ظلم کیا کہ آپ کے اہم بنیادی مسائل کو اختلافی بنا کر ایک نیا میدان کارزار قائم کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی مرزا قادیانی نے کہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جناب مرزا قادیانی صرف مجدد و محدث ہی ہیں۔ مسیح موعود بھی ہیں۔ مگر کسی بھی سطح پر نبی نہیں ہیں۔ اگر کہیں حضرت نے لکھا ہے تو صرف مجازی اور لغوی معنی میں ایسا لکھا ہے۔ چنانچہ یہ دو مسائل برادر مکرم اور محمد علی کے درمیان نہایت طوالت اختیار کر گئے۔ علاوہ ازیں خلافت کا مسئلہ بھی زیر بحث تھا کہ وہ بجائے خلافت کے ایک انتظامی کمیٹی کا قائل تھا اور ہم سب مسند خلافت کے لہذا یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا اور ادھر محمد علی نے لاہور میں اپنا مرکز قائم کر لیا اور اپنے نظریات کی تائید میں اور ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا۔ اس نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی۔ دیگر کئی کتابیں لکھیں۔ پھر اس کے معاونین نے بھی بہت کچھ لکھا۔ لیکن ادھر بھائی بشیر الدین نے بھی جواب لکھنے میں حد کر دی۔ چنانچہ ان کی کتاب حقیقت النبوة بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں بھائی جان نے آپ کی دجالی نبوت کے اثبات کے لئے دلائل کا انبار لگا دیا تھا۔ تقریباً تین صد صفحات کی کتاب تھی۔ مگر لا جواب اور بے نظیر۔ اس میں محمد علی کو خوب ناک چنے چبوائے۔ اس میں بھائی جان نے ثابت کر دیا کہ آپ بقول خود ظلی نبی تو ہیں۔ مگر یہ ایک متواضعانہ اظہار ہے۔ آپ دراصل حقیقی نبی ہیں اور جو والد کی تحریرات میں نبوت کا انکار ملتا ہے تو وہ اس بناء پر ہے کہ پہلے حضرت کو نبوت کا حقیقی مفہوم اور مصداق ذہن نشین نہ تھا۔ اس لئے آپ نبوت سے انکار کر دیتے۔ بعد میں جب انکشاف تام ہوا تو پھر آپ نے کھل کر دعویٰ نبوت فرما دیا۔ جیسے پہلے آپ کو لفظ تونی کا صحیح مفہوم ذہن نشین نہ تھا۔ مگر جب خدا نے انکشاف تام سے اصل حقیقت کھول دی تو پھر آپ اس کا مفہوم صرف موت ہی لیتے تھے۔ لہذا آپ کی دونوں قسم کی

تحریرات کا حل اور توافق یہ ہے کہ منفی تحریرات قبل از انکشاف تام ہیں۔ جواب منسوخ تصور ہوں گی۔ ان سے استدلال جائز نہیں ہوگا۔ تو اتنی عمیق محنت سے برادرِ مکرم نے محمد علی کو لا جواب کرنے کی پوری کوشش کی اور دیگر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی۔ جس کے نتیجے میں قادیانی احباب اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور اسی نظریہ پر جان و مال کی قربانیاں دینے لگے۔

دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل خوب لکھنے لگے۔ اگر برادرِ مکرم نے حقیقت البدوہ لکھی تو مقابل میں محمد علی نے البدوہ فی الاسلام چھ صد صفحات پر مشتمل کتاب لکھ ماری۔ جس میں تقریباً نصف آخر انکارِ نبوت کے حوالہ جات ہی پر مشتمل تھا۔ ایسے ہی مرزا محمود قادیانی کا قول فیصل نامی ایک رسالہ بھی تھا۔ نیز ایک اور مسئلہ کہ اسمہ احمد کا مصداق کون ہے۔ برادرِ مکرم نے انوار خلافت نامی رسالہ میں اس پر خوب دلائل دیئے کہ اس کا مصداق مرزا قادیانی ہی ہیں اور اس میں مخالفین سے خوب پنجہ آزمائی کے لئے چیلنج کئے۔ جب کہ دوسری طرف القول المجید احسن امر وہی نے لکھ کر اس کا خوب ستیاناس کر دیا۔ بڑا علمی رسالہ تھا۔ اسی طرح مختلف مسائل میں مقابلہ بازی جاری رہی۔ حتیٰ کہ مختلف مسائل و نظریات پر باہمی مقابلہ بازی کا بازار خوب گرم رہا۔ حتیٰ کہ بھائی صاحب کا اکثر دورِ خلافت اس باہمی کشمکش میں مصروف رہا۔ نیز اور بھی کئی داخلی و خارجی محاذ کھل رہے تھے۔ کہیں عبدالکریم مبالغہ اور ان جیسے کئی اور لوگ کھڑے ہو گئے اور مصری کی ہنگامہ خیزی اس کے علاوہ تھی۔ اکثر دورِ تقریباً اس باہمی کشمکش پر ہی مشتمل رہا۔ مگر جیسا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ سب کچھ محض فریب اور فراڈ تھا۔ بھلا واضح تضاد میں بھی کوئی موافقت ہو سکتی ہے۔ بھلا کبھی لغت میں بھی نسخ اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کوئی اس کی سابقہ مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ لیکن آفرین ہے آپ کے اس لائق ترین جیالے سپوت پر کہ اس نے آسمان و زمین کے قلابے ملا کر تمام مریبوں اور عوام کو الو بنائے رکھا۔ اس نے واقعی رات کو دن کر دکھایا۔ اسی طرح مسئلہ تکفیر میں بھی کافی لے دے ہوتی رہی۔ پھر آخر میں دونوں فریقوں نے آپ کے دامنِ اغلظ میں پناہ لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ قادیان والوں نے آپ کی تمام تحریرات سے دعویٰ نبوت کے جملہ حوالہ جات بالترتیب اکٹھے کئے کہ حضرت نے آخر تک دعویٰ نبوت کو برقرار رکھا ہے۔ ادھر لاہوریوں نے بھی آپ کی پٹاری سے ایسے حوالہ جات کا انبار لگا دیا کہ حضرت کا آخر تک دعویٰ نبوت سے انکار ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ دونوں پارٹیوں نے آپ کا آخری سے آخری حوالہ اپنی اپنی تائید میں ڈھونڈ نکالا۔ ایک نے غلبہ حق لکھا دوسروں نے فتح حق۔ لیکن دراصل بات یہ تھی اور جس کا آپ اس وقت بھی بلکہ کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ میں نے یہ ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ کہیں کچھ لکھ دیا کہیں اس کے



خلاف کچھ اور لکھ دیا۔ گویا ایک ایک موضوع پر چار چار پانچ پانچ قسم کے متضاد بیانات میری کتابوں سے نکل سکتے ہیں۔ لہذا آپ کی اسی تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگرچہ غلبہ، غلبہ حق والوں کو ہی ملا۔ کیونکہ آپ نے واقعہ دعویٰ نبوت کیا تھا جس کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ یہ انکار تو محض مداری کی پٹاری تھی جو جس کی مرضی ہوتی ان سے برآمد کر سکتا تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ لاہوری محمد علی کے کچھ ایسے اقتباسات بھی ہمیں مل گئے۔ جن میں اس نے پہلے واضح طور پر آپ کی نبوت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ لہذا ہمارے ہاتھ اس کی یہ کمزوری بھی آگئی۔

دراصل آپ کے پیش نظر چونکہ دین و مذہب ہرگز نہ تھا۔ محض انگریز بہادر کی چاکری تھی۔ لہذا آپ نے کوئی بھی مسئلہ فیصلہ کن اور صاف انداز میں ہرگز نہ لکھا۔ خصوصاً مسئلہ ختم نبوت اور حیات و وفات مسیح کو اتنا الجھا الجھا کر لکھا کہ قیامت تک کوئی بھی اس کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ یہ مسائل آپ نے محض ایک آڑ اور بہانہ بنائے ہوئے تھے۔ ورنہ آپ کے پیش نظر دین ہرگز نہ تھا۔ لہذا آپ نے نہایت چابکدستی سے عوام کی نظروں میں ان مسائل میں دھول جھونکی کہ مدت تک مسلم وقادیانی ان مسائل میں مناظرے اور مباحثے کر کے وقت ضائع کرتے رہے۔ اگرچہ قادیانی ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہے۔

ڈیڈی جان! بھائی جان کے اس جان مار معرکہ میں ہم بھی الگ بے کار بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی اسی تعاون کے سلسلہ میں یہ کلمۃ انفصل نامی رسالہ لکھا۔ جس میں میں نے بھائی جان کی تائید کرتے ہوئے نبوت کی خوب توجیہ کردی کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں۔ تشریحی، غیر تشریحی۔ پھر غیر تشریحی کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک حقیقی دوسری غیر حقیقی یعنی ظلی بروزی اور اکتسابی۔ پھر لکھا کہ یہ تیسری قسم آنحضرت ﷺ سے قبل نہ تھی۔ یہ صرف آپ کے بعد ہی وجود پذیر ہوئی ہے۔ (دیکھئے کلمۃ انفصل ص ۱۱۲) چنانچہ آپ نے بھی یہی بات (حقیقت الوجل ص ۱۵۰) کے حاشیہ پر لکھی تھی۔

”کیونکہ آپ کے پہلے کوئی ایسی کامل کتاب یا نبی نہ آیا تھا کہ جس کے فیض کامل سے کوئی نبی بن سکے۔ یہ تو آپ ہی کی قوت قدسیہ ہے کہ جس کے فیضان سے ظلی طور پر اب نبی بن سکتے ہیں۔“ چنانچہ یہ بنیاد ہمیں آپ کے رسالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ وغیرہ سے بسہولت مل گئی۔ جہاں آپ نے لکھا ہے کہ: ”محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت بمع جمیع کمالات میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہوئی ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

اور دوسری جگہ مارا کہ: ”من فرق بینی وبين المصطفیٰ فما عرفنی وما  
(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً)

”رای“

آپ نے یہ بھی لکھا کہ:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے  
من بعرفان نہ کمتر از کسے  
کم نیم از اں ہمہ بروئے یقین  
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزل المسح ص ۹۹، ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۳۷۷، ۳۷۸)

کہتے اس سے بڑھ کر کیا کفر ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے یہ بھی لکھا مارا کہ حضرت مسیح کی  
روحانیت نے بوجہ فساد امت و دفعہ جوش مار کر اصلاح امت کے لئے اپنا مثیل چاہا۔ چنانچہ پہلے  
جوش پر آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور دوبارہ جوش پر میں آ گیا ہوں تاکہ امت مسیحی کی اصلاح  
(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۲ تا ۳۳۶، خزائن ج ۵ ص ایضاً)  
کروں۔

پھر لکھا کہ اسی طرح ہمارے آنحضرت ﷺ کی روحانیت بھی وقتاً فوقتاً جوش مارتی رہتی  
ہے۔ اصلاح امت کے لئے جس کے نتیجے میں کئی افراد آپ کی صفات کاملہ کے مظہر بن کر اور محمد  
واحمد نام پا کر دنیا میں آتے رہے۔ مگر امت محمدیہ کی حالت عیسائیوں جیسی نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ  
کی امت میں ابھی ہزاروں صالحین موجود ہیں۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۶، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

غور کیجئے کہ ایک طرف تو امت کو یہود و نصاریٰ کے قدم پر اقرار دے کر اس کا مصلح بنتا  
رہا۔ مگر یہاں معاملہ اس کے خلاف ہے۔ نیز جب متعدد محمد احمد ہوئے تو کیا انہوں نے بھی کوئی  
بروزیت کا دعویٰ کیا۔ تاریخ اسلام کے کسی بھی کوئے کھدرے میں کسی ظلی محمد و احمد نے میرے جیسا  
کبھی ڈرامہ رچایا؟ ظلی و بروزیت نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہ ماننے والوں کو کافر و جہنمی قرار دیا؟ کوئی  
ثابت کر سکتا ہے؟ ہر گز نہیں۔ تو دیکھو ساتھیو، میرا سارا وندہ محض ڈرامہ اور تماشا ہی تھا۔ جس کو تم  
حقیقت جان کر مجھ پر لٹو ہو گئے اور آج یہ روز بد دیکھ رہے ہو۔ دیکھئے ایک طرف میرا یہ کردار ہے  
اور دوسری طرف ابلیس کا کردار۔ ایمان داری سے بتلائیے، ابلیس میرا مقابلہ کر سکا؟  
قادیانی مربی: حضرت صاحب، واقعی وہ مقابلہ تو نہ کر سکا مگر یہ طریق کار تو اس نے ہی  
آپ کو سمجھایا ہے۔ بڑا وہی ہوگا، آپ تو اس کے مثیل ہوں گے۔

جی سر! تو گویا جناب نے متعدد مقامات پر دعویٰ نبوت کا واضح اظہار فرمایا۔ اگرچہ کئی مقامات پر بروزی اور ظلی کی جعلی اصطلاح کے رنگ میں۔ لیکن یہ سب آپ کی فریب کاری تھی۔ کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی اصطلاح مستعمل نہیں۔ نہ کوئی ظلی نبی آج تک ہوا ہے۔ درحقیقت آپ نے اس اصطلاح کے پردے میں ہندوؤں کے مسئلہ تناسخ کا اقرار فرمایا تھا۔ اگرچہ کھل کر تناسخ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ یہی تو اپنا کمال اور وصف نمایاں تھا کہ بات بھی کر لیتے۔ مگر لفظوں میں پردہ داری اور پہلوداری کے ساتھ۔ حالانکہ مسلمانوں کے ایمانیات میں ”امنہ باللہ وملئکتہ وکتابہ ورسلہ“ مطلق بلا تقسیم ہے۔ یہ سب کے سب رسول وصف رسالت میں مشترک ہیں۔ ان میں ایک بھی ظلی نہیں تھا۔ کسی کی نبوت بھی اکتسابی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ (انعام: ۱۲۴) اور ”اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً ومن الناس (الحج: ۷۵)“

ایسے ہی بے شمار نصوص قرآنیہ ہیں۔ جن میں نبوت کی تقسیم کی نفی ہوئی ہے۔ نیز اس کا محض وہی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ فیضان یا مجاہدہ و اتباع سے ملنا محض گپ ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کی کتاب (حماتہ البشریٰ ص ۸۲، خزائن ج ۷ ص ۳۰۱) میں صاف لکھا ہے کہ: ”لا شک ان التحدیث موہبۃ مجردۃ لا تنال بکسب البتۃ کما هو شان النبوة“ نیز آپ نے صاف لکھ دیا تھا۔ ”ما نعنٰی من النبوة ما یعنٰی فی الصحف الاولیٰ“ (خزائن ج ۲۳ ص ۶۳۷)

تو جب آپ کی نبوت ہی سابقہ کتب میں غیر مذکور ہے تو ان سے استدلال کیسے جائز ہو سکتا تھا۔ الغرض یہ ہمارا سلسلہ دجالیہ محض فراڈ ہی تھا۔ اس میں رتی بھر حقیقت نہ تھی۔ تو آیت بالا ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ نیز فرمان رسول۔ ”ان الرسالۃ والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (ترمذی ج ۲ ص ۵۳، باب ذہبت النبوة وبقیت المبشرات)“ وغیرہ اسی طرح آپ کا حماتہ میں لکھنا کہ آنحضرت ﷺ بلا استثناء خاتم الانبیاء ہیں۔ (حماتہ البشریٰ ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

یہ جملہ رسول و انبیاء وصف رسالت و نبوت میں مشترک نیز مؤمن بہ ہونے میں بھی مشترک ہیں۔ حالانکہ باہمی فرق مراتب بوضاحت قرآن ”تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعضهم (البقرہ: ۲۵۳)“ ضرور ہے۔ غرضیکہ آپ کی ایجاد کردہ ظلی نبوت کی ہم نے یوں توجیہ کر کے حق البوت اور تربیت ادا کیا۔ پھر میں نے صاف وضاحت کر دی کہ لفظ ظلی سے یہ نہ

سمجھنا کہ یہ کوئی ہلکی یا گھٹیا قسم کی نسبت ہے۔ بلکہ یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی نبوت ہے۔ حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے۔ سن لو کہ آپ کی غلطی نبوت وہ بلند مقام نبوت ہے جس نے آپ کو آنحضور ﷺ کے پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیا۔ (مکتبہ الفضل ص ۱۱۳)

ڈیڈی جان! دیکھئے ہم نے آپ کے دعویٰ نبوت کی پائیداری کے لئے کتنی محنت کی کہ ایک طے شدہ اور مسلم نظریہ اسلام میں رخنہ ڈال دیا کہ نبوت کی تین قسمیں کر ڈالیں۔ جن میں تیسری غیر تشریحی اور غلطی، یعنی اکتسابی اور غیر مستقل نبوت بھی ہے۔ جو کہ آپ کو ہی ملی۔ حالانکہ اسلامی لٹریچر میں یہ اجماعی حقیقت ہے کہ نبوت بہر صورت عطیہ الہیہ ہوتی ہے۔ اکتسابی نہیں ہے اور مزید یہ کہ آپ نے خود (حماۃ البشری ص ۸۲، خزائن ج ۷ ص ۳۰۱) میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ: ”لا شک ان التحدیث موهبة مجردة لا تنال بکسب البتة کما هو شان النبوة“ نیز آپ نے اسی کتاب میں لکھا تھا ہمارے نبی برحق خاتم الانبیاء ہیں۔ اس میں کوئی تقسیم یا استثناء نہیں۔ (حماۃ البشری ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

پھر آپ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے یہ نعمت شکم مادر ہی میں عطا ہو گئی تھی۔ (حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰) گویا میری نبوت اکتسابی نہیں بلکہ وہی ہے۔ جب کہ سینکڑوں مقامات میں آپ نے اسے اکتسابی ظاہر کیا ہے۔ بالخصوص ایک غلطی کے ازالہ میں۔ بس یہ آپ کی تضاد بیانی اور چکر بازی ہی ہم سب کو رو طہ حیرت میں ڈالے ہوئے تھی۔ جس کا جو جی چاہتا تھا اس کی تائید آپ کی پٹاری سے نکال دکھاتا ہے۔ واہ ڈیڈی جان آج تک کوئی ایسا بہروپ یا اور نوسر باز شاہد ہی آپ جیسا خدا نے پیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی یہ بات درست ہے کہ نبی کا نام پانے کے لئے تیرہ صدیوں میں صرف میں ہی مخصوص ہوا۔ (حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۳۰۶)

گر گٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے آپ نے بدل کر دکھادیئے۔ ابوزید سروجی بھی آپ حضور کے سامنے پانی بھرتا نظر آتا ہے۔ یہ میلہ کذاب اور اسود غنسی وغیرہ تو آپ کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے تھے۔ جو کمال آپ کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر نعروں کی جھنکار اٹھی۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن اوتار کی جے۔ قادیانی بہروپے کی جے۔ کفر والحاد کی نشانی۔ مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔

محترم ڈیڈی جان! میں نے وہاں کھل کر لکھ دیا کہ ہمارے مسیح موعود کی نبوت جزو ایمان ہے جو آپ کو تسلیم نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ خاتم الانبیاء ﷺ کا منکر کافر ہے۔ ایسے ہی آپ کی نبوت کا منکر بھی..... پھر دیکھو لا

الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں صرف محمد رسول اللہ ہی مراد نہیں۔ بلکہ اس اسم گرامی میں سابقہ جمیع انبیاء آگئے ہیں۔ وہاں حضرت مرزا قادیانی کی آمد پر کلمہ کے مفہوم میں ایک مزید نبی کا اضافہ ہو گیا ہے تو گویا محمد رسول اللہ ﷺ کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی داخل ہے اور بہت کچھ لکھا جو کچھ آپ کے اور ہمارے پیرومرشد نے اشارہ کیا وہ سب کچھ لکھ دیا۔ ساتھ ساتھ محمد علی لاہوری کی خوب گت بنانا گیا کہ بھی یا تو مرزا قادیانی کے منکرین کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھ لویا پھر خود مسیح موعود کو خارج از اسلام سمجھ لو۔ دونوں میں سے ایک چیز ضرور تسلیم کرنا ہوگی۔ چونکہ آپ نے بھی لکھ دیا تھا کہ، میرا منکر کافر اور جہنمی ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۳۰، ۱۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳، ۱۸۵)

اور برادر مکرم نے تو حد کردی کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتے اگرچہ انہوں نے آپ کا نام بھی نہ سنا ہو وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ (آئینہ صداقت ص ۳۵)

پھر میں نے اور بھائی جان نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قرآن کی آیت کریمہ اسمہ احمد کا مصداق صرف ہمارے ڈیڈی ہیں۔ انحضرت ﷺ قطعاً مراد نہیں۔ ہاں ضمنی طور پر ہو سکتے ہیں۔ العیاذ باللہ! پھر ہم نے اس نکتہ کو نہایت شدت سے بیان کیا۔ جب کہ دوسری طرف سے احسن امر وہی نے اس کے خلاف مستقل رسالہ القول المجید بھی لکھا تھا تو بھائی جان نے انوار خلافت وغیرہ میں جواب لکھا۔ غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب کرتے رہے۔ ادھر بھائی جان کا دور ویسے بھی آپ کے سلسلہ دجالیہ کا سنہری اور کامیاب ترین دور تھا کہ بھائی نے مذہبی علمی اور سیاسی لحاظ سے قابل قدر پیش رفت کی۔ مذہبی پہلو تو حد کمال تک بیان کر دیا گیا۔ اگرچہ سیاسی مسئلہ بھی خوب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو اس وقت ایک سیاسی شاہکار تھا۔ جس کا ہر شمارہ سیاست کا مرقع ہوتا تھا۔ بلکہ وہ تو ہمارا شعلہ نوا آگن تھا۔ برادر مکرم نہایت جرأت اور بے باکی کے ساتھ آپ کے سلسلہ دجالیہ کے اغراض و مقاصد نہایت تفصیل سے بیان فرماتے۔ ہر خطبہ جمعہ بس ایک ایٹم تھا جو ملت اسلامیہ کو ختم یا مضمحل کرنے کے لئے بے تاب تھا۔

اب ذرا ہماری سیاسی پیش رفت اور کامیابیاں مزید سماعت فرمائیں۔ وہ یوں کہ حسب سابق بھائی جان اس میدان میں نہایت جرأت اور بے باکی سے بولتے برستے گرجتے تھے کہ گویا ابھی کچھ ہو جائے گا۔ مطالبہ پاکستان کے موقع پر مسلم لیگ کے قیام پر بھائی یعنی خلیفہ صاحب واضح طور پر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تقسیم ملک کے زبردست خلاف تھے اور نہایت بلند آواز سے اس کا اظہار فرمایا کہ یہ وطن کی تقسیم غیر فطری ہے۔ میرا الہامی عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ

تقسیم نہ ہونی چاہئے اور اگر ہو بھی گئی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک پھر متحد ہو جائے۔ (افضل ۵ اپریل ۱۹۴۷ء) چنانچہ آپ ۱۹۴۷ء تک خوب بیان بازی کرتے رہے۔ ادھر مسلم علماء کی یلغار کے خلاف بھی آنجناب نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ اپنے کارکنوں مبلغین کو حوصلہ دیتے رہے، کئی قسم کی فورسز اور تنظیمیں قائم کر کے ملک میں تہلکہ مچا دیا۔ گویا ہمارا ربوہ شریف عیسائی و بیکن سٹی کی طرح باقاعدہ ایک اسٹیٹ ان اسٹیٹ تھا۔ جس کا ہر محکمہ اور ہر نظام اپنا تھا۔ چنانچہ آپ نے تقسیم ملک کے بعد اس ملک کو توڑنے یا کمزور کرنے کے لئے ہزار ہا جتن کئے۔ اول تو تقسیم ہی میں ایسا رخنہ ڈال دیا کہ جسے کبھی بند نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی اسکیم سے پنجاب کے چار ضلع بجائے پاکستان کے انڈیا کے پاس چلے گئے۔ جس کی بناء پر جموں و کشمیر کا علاقہ جو پاکستان کی شہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خود بخود دکت گیا۔ اگرچہ پاکستان نے کچھ محنت کر کے ۱۹۴۸ء میں کچھ حصہ آزاد کرالیا۔ مگر بقیہ حصہ ہمیشہ کی سردردی کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہاں خون کی ندیاں نہریں بہہ نکلیں۔ مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ ادھر سرپرست اقوام متحدہ والے بھی محض خانہ پری کے لئے بالغ رائے دی کا مطالبہ منظور کر کے انڈیا کو فرمائش کرتا رہتا تھا۔ مگر محض وقت گزاری کے لئے۔ دل سے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان اسی طرح تشویش میں پڑا رہے۔ بلکہ انہوں نے ہی تو اسے خراب کیا تھا۔ پھر بھائی جان نے پہلے کشمیر کمیٹی میں سربراہ بن کر کچھ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر کمیٹی کے دیگر اراکان بڑے ہوشیار نکلے، وہ ہماری نیت سمجھ گئے اور خلیفہ کو سرکانے کی فکر کرنے لگے۔ پھر اور تو اور ڈاکٹر اقبال بھی آپ سے بدظن ہو گیا اور صاف کہہ دیا کہ ”قادیانیت یہودیت کا چہ بہ ہے۔“

پھر برادر مکرم اور طرف پیش رفت کرنے کے منصوبے بنانے اور اپنانے لگے جو نہایت تفصیل طلب ہیں۔ آپ نے پاکستان کے کسی صوبہ مثلاً بلوچستان کے متعلق یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اسے اپنے زیر اقتدار کر لیا جائے تاکہ کم از کم کوئی ملک نہ سہی تو ایک صوبہ تو خالصتاً احمدی کہلا سکے۔ مگر براہو احراری علماء اور دیگر افراد قوم کا کہ انہوں نے اس منصوبہ کو کبھی نہایت بری طرح ناکام بنادیا۔ پھر بھائی نے ۱۹۵۳ء تک ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ بس ایک معرکہ شروع ہو گیا۔ ہماری نمائندہ حکومت نے مسلمانوں کے خلاف زبردست ایکشن لیا اور مارشل لاء کے تحت تقریباً ہزار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو بھون ڈالا۔ تمام احرار بلکہ علمائے اسلام کو جیلوں میں ڈال دیا۔ گویا وہ ہماری کامیابی کی ایک جھلک تھی۔ مگر یہ ڈرامہ بھی ادھورا ہی رہ گیا۔ چنانچہ یہی تحریک آگے چل کر ہماری تباہی کا باعث بنی۔ الغرض بھائی جان نے نصف صدی تک سلسلہ دجالیہ کا پرچم اڑائے

رکھا۔ آخر تک وہ آپ کی طرف گرفت الہی میں جکڑے رہے اور نہایت ذلت و خواری سے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ ”ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسوطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (انعام: ۹۳)“

شاباش بیٹے! تم نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ اچھا اب بیٹھ جاؤ۔ ادھر ایک دفعہ پھر پر جوش نعروں کی جھنکار اٹھی۔ بے غلام احمد کی ہے۔ انگریزی نبی کی ہے۔ خود کاشتہ پودے کی ہے۔ خلیفہ محمود کی ہے۔ کرشن اوتار کی ہے۔ ربوہ کے آمر کی ہے۔ ربوہ کے راسپوٹین کی ہے وغیرہ۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوا اور جناب قادیانی اپنی عارضی ڈرم نمائیرٹین میں گھس گئے۔

چند لمحوں کے بعد مرجھائے ہوئے موڈ میں دوبارہ اپنی نشست گاہ پر اکڑ کر براجمان ہو گئے۔ آواز آتی ہے۔

مرزا قادیانی: اچھا پیارے بیٹے ناصر!

ناصر احمد: جی دادا حضور، بندہ حاضر ہے۔

مرحبا بیٹے: ذرا تم بھی کچھ اپنی رام کہانی سناؤ۔ دیکھو ہمارے سلسلہ دجالیہ کے تمام متعلقین، اراکین، مبلغین اور مربی، بمع عوام مرد و زن کے حاضر ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں نے ہمارا سالانہ میلہ رکھوایا تھا۔ مگر اب روک کر دکھائیں۔ دیکھئے کیسے پنجاب گورنمنٹ اور ڈی سی جھنگ ہمارے خلاف پابندی لگاتا ہے۔ اوگورنر پنجاب اوڈی سی جھنگ، کدھر ہے تو؟ آؤ را لگا ہمارے اس میلہ پر پابندی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر و ناظم، خواجہ خان محمد، مولوی عزیز الرحمن جالندھری، اور طوفانی میاں اور شاہین ختم نبوت بننے والے اللہ وسایا اور دیگر نمائندو! اب کرو احتجاج، مطالبے اور مظاہرے، نعرہ بازی، ملاقاتیں۔ دیکھو ہمارا میلہ لگا ہوا ہے۔ مگر تم کہیں دور دور تک نظر بھی نہیں آتے۔ اب کیوں بھاگ گئے۔ آؤ نا ہمارے خلاف کرو کوشش۔ اب صرف ہماری حکومت ہے۔ دیکھو ہماری شان و شوکت۔ گاؤ نعرہ، سلسلہ دجالیہ زندہ باد۔ غلام احمد کی ہے۔ کرشن اوتار کی ہے۔ ربوہ کا راسپوٹین محمود پائندہ باد۔ رودر گوپال کی ہے۔ بے بے سنگھ بہادر۔ اچھا بیٹے، ذرا تم بھی اپنی اگلی کارروائی سناؤ اور کھل کر بولو۔ اب یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں آج کل ہماری ہی حکومت ہے۔

مرزا ناصر: ڈیڈی جان، حاضر۔ فرمائیے کیا ارشاد ہے؟

مرزا قادیانی: جان پدر بیان کرو کہ تمہارا دور خلافت کیسار ہا؟

مرزا ناصر: ڈیڈی جان! میرا دور خلافت مجموعی طور پر نہایت کامیاب رہا۔ اگرچہ درمیان میں کچھ بد مزگیاں بھی پیدا ہوئیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ دوم کی پیش رفت کو میں نے قائم اور جاری رکھا۔ وہ تمام داخلی منصوبہ بندیاں اور انتظامات کو مزید مستحکم بنانے کی از حد کوشش کرتا رہا۔ جو تعلیمی ادارے ربوہ کالج اور اسکول اور رفاہی ادارے فضل عمر ہسپتال وغیرہ اور دیگر تبلیغی سلسلہ خلافت ثانیہ میں قائم ہوا تھا۔ اس کو مزید سے مزید استحکام ہی ہوا۔ علمی خدمات کے سلسلہ میں ایک کام یہ ہوا کہ میں نے آپ کی تمام تصانیف کو ۲۳ جلدوں میں بنام روحانی خزائن شائع کرادیا۔ اسی طرح آپ کے مجموعہ اشتہارات جو کہ پہلے تبلیغ رسالت کے نام پر طبع ہوئے تھے۔ ان کو نئے سرے سے مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے صرف تین جلدوں میں شائع کرایا۔ اسی طرح دیگر علمی خدمات مناظرین اور مبلغین کے سلسلہ کو مزید مستحکم کیا۔ دارالامان ربوہ کے داخلی انتظامات اور بیرونی روابط کو مزید استحکام اور ترقی دی۔ پاکستانی حکومتیں آئے دن بدلتی رہیں مگر ہم نے بڑی لگن اور پوری محنت سے اپنے گماشتے انتظامی، عدالتی اور رسول اور فوجی محکموں میں اس طرح گھسید دیئے کہ وہ اپنے مقام پر سلسلہ کی ترقی اور ترویج میں مؤثر رول ادا کرنے کے لائق ہو گئے اور پھر وہ اپنی مکمل توانائیاں اس بارہ میں صرف کرتے بھی رہے۔ جس کے نتیجہ میں قوم مسلم کا نفاذ اسلام کا خواب نہ صرف ادھورا رہا۔ بلکہ مزید دور اور سراپ کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ علاوہ ازیں میں نے اندرونی انتظامات کے بعد بیرونی ممالک میں مزید سے مزید رابطے بھی قائم کئے۔ اگرچہ ہمارا ناہور جیال اسپت سر ظفر اللہ خان ابتدائے پاکستان سے ہی بین الاقوامی سطح پر (اندرونی خدمات کے علاوہ) سلسلہ کی ترویج و ترقی کے لئے ناقابل فراموش خدمات ادا کر رہا تھا۔ بلکہ یہ تو ہمارے لئے حکیم صاحب کی طرح ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ جسے ہم نے مزید سے مزید مستحکم کر دیا۔ کیونکہ حکیم صاحب اگر سلسلہ کی بنیاد قائم کرنے میں منفرد حیثیت کے مالک ہیں تو سر ظفر اللہ اس کی استواری اور تعمیر و ترقی میں نمایاں ترین خدمات کے ہیرو ہیں۔ خدا اس کے طبقات ناریہ میں مزید سے مزید اضافہ فرمائے۔ اب مرزا قادیانی وقفہ بول کا اعلان کرنے والے تھے کہ نعروں کی جھنکار بلند ہوئی۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن اتار کی جے۔ انگریزی گماشتہ مرحبا وغیرہ۔ وقفہ بول بول..... چند منٹ بعد مرزا قادیانی استنجے کا ڈھیلا کوٹ میں رکھتے ہوئے مسند ارشاد پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا! جان پدر۔ پھر کیا ہوا؟

ڈیڈی جان، ذرا دیکھئے آپ کو غلطی لگ گئی۔ یہ استنجا کا ڈھیلا کیسا ہے؟ حضور یہ مٹی نہیں، یہ تو میرے خیال میں گڑ لگتا ہے۔



ہاں ہاں جان پدر، واقعی یہ گڑ ہی ہے۔ مجھے غلطی لگ گئی۔ چونکہ مٹی اور گڑ کے ڈھیلے میری اسی جیب میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے کبھی کبھی غلطی لگ جاتی ہے۔ اکثر اندھیری راتوں میں اور کبھی میں پہلے چمک کر استعمال کرتا ہوں کہ یہ مٹی ہے یا گڑ۔ اسی لئے کبھی گڑ کی جگہ مٹی منہ میں آتی ہے اور استنجائیں کبھی گڑ استعمال ہو جاتا ہے۔

واہ رے ڈیڈی جان، یہ کیا حرکت ہے؟ بہر حال ڈیڈی جان! پھر یوں ہوا کہ ہمارے والد صاحب مرزا بشیر الدین علیہ ماعلیہ نے جو سیاسی جال پھیلارکھا تھا کہ یہ ملک کی تقسیم بالکل غیر فطری اور غیر پسندیدہ ہے۔ یہ نہیں ہونی چاہئے۔ اگر ہوگئی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ دونوں ملک ایک ہو جائیں۔ متحدہ ہندوستان ہی رہے۔ کیونکہ ہماری ترقی اور سلامتی اسی صورت میں باقی رہتی ہے۔ لیکن پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے سلسلہ دجالیہ کی خیر نہیں۔ کیونکہ اسلام کا یہ اہل اصول ہے کہ خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد کسی اور مدعی نبوت کی سرانجام دہی قتل ہے۔ چنانچہ خلافت اولیٰ کے وقت سے اس پر بلا تردید اور بلا اختلاف عمل ہوتا چلا آیا ہے اور کوئی مجرم تو شاید بیچ جاتا مگر مدعی نبوت کسی بھی صورت میں بیچ نہ سکتا تھا۔ اگرچہ وقت کا مسلمان حکمران کتنا ہی کمزور یا بے عمل ہوتا۔ امت مسلمہ کی ساری تاریخ اسی بات کی گواہ ہے۔ چنانچہ ابھی عہد قریب میں ایرانی مدعی نبوت کا حشر تمام دنیا جانتی ہے کہ اسے توپ کے دہانے پر باندھ کر بے نشان کر دیا گیا۔ اس کی پارٹی کو خلاف قانون قرار دے کر ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ تو ایک پاکستان تھا جو انگریز کے منحوس سائے تلے تھا۔ جہاں وہ ہر خلاف اسلام تحریک کی تائید کرتا تھا۔ اس لئے ہمارا سلسلہ بچا رہا اور پروان چڑھتا گیا۔ کیونکہ یہ قائم بھی اسی نے کرایا تھا۔ لہذا ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اول تو یہ ملک بن ہی نہ سکے۔ اگر بن جائے تو ٹنگرالولا بنے۔ اس کا سرحدی معاملہ نہایت خراب کر دیا جائے۔ جس کی بناء پر یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے اور پھر ہم اس کے داخلی اور خارجی امور میں ہمیشہ گھن کی طرح گھسے رہے تاکہ کہیں یہ قوم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کیونکہ پھر ہماری خیر نہ تھی۔ نیز جس مقصد کے لئے میں وجود میں لایا گیا تھا وہ پورا نہ ہوتا تھا۔ ہمارے سرپرست ناراض ہو جاتے۔ اسی لئے ہم نے مندرجہ بالا امور کے لئے اور بھی کئی سطح اور محاذ پر پاکستان کو ختم کرنے یا ادھ موا کرنے کے منصوبے بنائے اور چلائے اور خوب چلائے اور پھر اس کے پھل بھی کھائے۔ سول سطح پر بھی اور فوجی سطح پر بھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے مقاصد کے تحت ۱۹۴۸ء سے ہی فوجی ٹکراؤ شروع کر دیا۔ جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ تو ہرگز نہیں ہوا بلکہ نقصان ضرور ہوتا رہا اور فائدہ صرف بھارت کو۔ چنانچہ ہمارے قادیانی جرنیل اور افسران ہر وقت کسی نہ

کسی پلان کی ترتیب و تکمیل میں مصروف رہتے۔ چنانچہ ۱۹۶۵ء کا مشہور پاک و ہند معرکہ ہماری ہی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ جس کی تفصیل کا یہ موقعہ نہیں۔ اس کے بعد ۱۹۷۱ء میں ہم نے ایسا زبردست پلان بنایا کہ دونوں ملکوں کو باہم لکرا دیا۔ جس کے نتیجے میں پہلے نمبر پر پاکستان ہی دو لخت ہو گیا۔ ایک بنگلہ دیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جا گرا اور دوسرا اپنی شہ رگ سے ہندوستان کے الجھاؤ میں پھنس گیا۔ اس معرکہ میں دوسرا کارنامہ یہ سامنے آیا کہ پاکستان کے ۹۰ ہزار فوجی دشمن کی قید میں چلے گئے۔ جس سے پاک فوج کے وقار کو بہت دھچکا لگا۔

ڈیڈی جان! یہاں تک تو ہمارے منصوبوں کا سلسلہ بلا روک ٹوک بڑی کامیابی کے ساتھ آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہماری سازشوں اور منصوبے بندی میں تھوڑی سی مگر پریشان کن ایک آزمائش پیش آ گئی۔ وہ یوں کہ ۲۹ مئی ۱۹۷۳ء کو کچھ مسلم طالب علم سیر و سیاحت کے پروگرام پر نکلے تو ربوہ اسٹیشن پر انہوں نے کچھ دل آزار حرکات دیکھ کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھر آپ کے خلاف بھی نعرہ بازی کی۔ جس سے ہمارے جذبات نہایت مجروح ہوئے۔ کیونکہ ہمارے ابو نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ جو اس سلسلہ دجالہ کی توہین کرے تو تمہارے جسم سے ایک غیض و غضب کا شعلہ نکل جانا چاہئے۔ اس کا منہ توڑ دو۔ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہمارے جذبات اور احساسات کی کافی تربیت اور تکمیل کر دی تھی۔ چنانچہ ہم نے کئی قسم کی فورسز قائم کر رہی تھیں اور ان کو جدید ترین اسلحہ سے مسلح کر رکھا تھا تاکہ موقع ضرورت پر دشمن کو سبق سکھایا جاسکے۔

الغرض اس وقت تو وہ ٹرین گزر گئی۔ مگر ہماری فورسز خون کے گھونٹ پی کر رہ گئیں اور انتقام کے جنون میں بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے حلف اٹھالیا کہ ان سے بلکہ تمام مسلمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جس طرح ہم نے ۱۹۵۳ء میں مسلمانوں سے خوب بدلا لیا تھا۔ اب اس سے آگے قدم رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت ایسے انتظامات کے سربراہ آپ کے پوتے مرزا طاہر تھے جو کہ نہایت ذہین اور فعال نوجوان تھے۔ لہذا جب وہ سٹوڈنٹ واپس آنے والے تھے تو ہم نے ان کی آمد سے قبل ہی اپنے تمام انتظامات مکمل کر لئے تھے۔ اپنے سینکڑوں ہزاروں جیالے رضا کار مرزا طاہر کی قیادت میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ان کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے اور پھر ہم نے مختلف ریلوے اسٹیشن پر اپنے آدمیوں کے ذریعے مسلسل رابطہ قائم کیا ہوا تھا کہ یہ دشمن بچ نہ سکیں۔ چنانچہ وہ ٹرین جب ربوہ اسٹیشن پر رکی تو بس پھر ہماری یلغار قابل دید تھی۔ ہمارے قادیانی جیالے ان سٹوڈنٹوں پر چاروں طرف سے یکبارہ ٹوٹ پڑے۔ ان کو ڈبہ سے کھینچ کھینچ کر اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اور خوب بنایا۔ کوئی بھی ہماری کارروائی سے باقی نہ بچا۔ لیکن پھر

قدرت کا لکھا سامنے آنے لگا۔ ابتلاء سامنے آگئی کہ جب یہ ٹرین فیصل آباد پہنچی تو بس یکدم وہاں ایک کہرام مچ گیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ اور بہترین مدبر مولانا تاج محمودؒ نے اس واقعہ کا گہری نظر سے جائزہ لے کر ایک منظم تحریک شروع کر دی کہ آنا فانا سارا شہر بند ہو گیا۔ ہر طرف تاریں کھڑک گئیں۔ تمام سرکاری افسروں اور ذمہ داریوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر خاتم الانبیاء ﷺ کے نام لیوا ملک کے کونے کونے میں باخبر ہو گئے اور پھر قلیل سے قلیل مدت میں فیصل آباد میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ پھر ایک فعال آل پارٹیز اس عمل تحفظ ختم نبوت وجود میں آگئی۔ جس میں بلا تفریق مسلک و طبقہ ہر ایک مذہبی اور سماجی راہنماء نے بھی حصہ لیا۔ شہر شہر، قریہ قریہ مینگ ہوتی اور تمام انتظام مکمل کر لیا گیا۔ ہر مسلمان ہماری خواہش دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا اور ایک دفعہ قادیانیت کو عالم وجود سے مٹانے کے لئے پورے ایمانی جذبے اور عزم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ پشتوں کے گروہی اختلافات جن کو ہم نے اور ہمارے سرپرست انگریز نے ہوا دے دے کر پروان چڑھایا ہوا تھا اور اب وہ اپنے اپنے فرقہ کا علامتی نشان بن چکے تھے۔ وہ سب یک قلم کا فور ہو گئے۔ سب نے یہ مصنوعی رنجشیں فراموش کر کے ایک صفِ مرصوص بنائی۔ پھر تمام امت ہر جگہ پر سراپا احتجاج بن گئی۔ ہڑتالیں، مظاہرے اور جلسہ و جلوسوں کا ایک ایمان افروز طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کے سامنے قادیانیت اور اس کے ہمنوا نہ ٹھہر سکے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہمارا یہ ڈرامہ اور تماشہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ چنانچہ اہل ایمان نے اس جذبہ ایمانی سے ہر سطح پر کوشش کی کہ مختصر سی مدت میں حکومت وقت کو گٹھنے ٹیکنے پڑ گئے اور انہوں نے پورے خلوص اور صحت نیت کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم ان انگریزی گماشتوں کو قانونی طور پر بھی غیر مسلم قرار دے دیں گے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے مجھے موقعہ دیا کہ میں پورے اطمینان اور آزادی کے ساتھ قادیانیت پر مسلم علماء کے سامنے گفتگو کروں تاکہ کچھ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ حتیٰ کہ میں از خود بنفس نفیس اسمبلی میں تمام ارکان کی موجودگی میں پیش ہوا اور ادھر انارنی جنرل کیجی، بختیار بخت کر رہے تھے۔ جن کو علمائے اسلام نے خوب تیاری کرائی تھی۔ ادھر میرے ساتھ بھی معاونین موجود تھے۔ گویا کھلے اور پرسکون ماحول میں یہ سلسلہ بحث چلتا رہا۔ کوئی دباؤ نہیں تھا کوئی دھونس نہ تھی۔ اب میرے لئے یہ بڑا کٹھن موقعہ تھا۔ کیونکہ عام مناظروں یا مباحثوں میں تو ہم اپنی فطرت، روش اور عادت کے مطابق ہر قسم کا ہیر پھیر اور دجل و فریب سے کام نہ لے کر کوشش کر لیتے تھے۔ جھوٹ سچ بول کر کامیاب ہونے یا کم از کم برابر رہنے کا تاثر قائم کر سکتے تھے۔ یا ابتداء ہی میں مرحلہ شرائط میں کوئی آڑ پیدا کر لیتے۔

مگر یہاں اب یہ تمام حربے ناکام تھے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ گفتگو ارکان اسمبلی کے سامنے تھی جہاں کوئی ہیرا پھیری نہ چل سکتی تھی۔ بھلا سرکاری وکیل کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی کھیل ہے۔ جہاں ہر بات ٹودی پوائنٹ اور با اصول کرنا پڑتی ہے۔ وہاں غلط بحث اور ہیرا پھیری سے کام نہیں چلایا جاسکتا۔ چنانچہ مجھے ہر روز ایسے حوصلہ شکن اور اعصاب توڑ مواقع سے سابقہ پڑتا رہا۔ بجلی، بختیار مجھے ہر بات میں پھانس کر مکمل لاجواب کر دیتا تھا۔ میں کبھی اپنے تھکنے کا بہانہ کر کے موقعہ ٹال جاتا۔ کبھی چیکنگ کا بہانہ بنالیتا اور کبھی ویسے ہی ندامت برداشت کر کے اور ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہتا۔ کچھ نہ کچھ بولتا ہی جاتا۔

ویسے اس نے میرے ایسے اوسان خطاء کئے کہ میں بار بار پانی طلب کرتا۔ میرے پسینے چھوٹ جاتے۔ (یہ) تمام کارروائی کا ریکارڈ مولوی اللہ وسایا نے مرتب کر کے عام سطح پر شائع کر دی ہے۔ دادا جان! یہ تحفظ والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے ذرا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ہر بات کو ظاہر کر کے ہماری خوب گت بناتے۔ پھر یہ اللہ وسایا تو نہایت فعال جماعت کا مخلص، ہوشیار اور خطرناک مسلم مبلغ تھا۔ یہ ظالم تو ہر جگہ پہنچ جاتا۔ چنانچہ میں نے آخر عمر میں آپ کی طرح ایک شادی رچالی، مال بہت نفیس تھا۔ چنانچہ عقد کے بعد اسلام آباد میں نے ہنی مون منانے کا پروگرام بنالیا تو جس بنگلہ میں سکونت پذیر ہوا، ان ظالموں نے اسی کے ساتھ ایک جلسہ رکھ لیا۔ وہاں ان ظالموں نے میرے باپ بشیر الدین کا وہ سر بستہ راز والے خطوط برسر عام پڑھ کر سنانے شروع کر دیئے جو کہ نہایت قابل شرم تھے۔ بس یہ منظر دیکھ کر میری ہنی مون تو وہیں دھرا رہ گیا۔ میرا تو حال برا ہو گیا۔ پھر مجھے دل کے دورے پڑنے لگے۔ تو چند ہی دن بعد میں یہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ لوگ اتنے بے لحاظ اور ظالم ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ الغرض یہ بحث کے ادن میرے لئے نہایت کٹھن اور قیامت خیز تھے ان کا ایک ایک منٹ ہزار سال کا تھا۔

کیونکہ ایک طرف سلسلہ کی لاج کا مسئلہ تھا کہ تمام دنیا کے سامنے رسوائی ہو جائے گی اور پھر اپنے حلقہ ارادت و اثر میں نہایت شرمندگی کا موقع تھا۔ اس لئے ہر لمحہ اور سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ آخر یہ قیامت خیز لمحات گزر گئے۔ پھر میرے بعد ہماری باغی ٹولی لاہوری گروپ کی باری آئی تو وہ بھی میری طرح نہایت ذلت و ناکامی سے دوچار ہوئے۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی پوائنٹ پر ذلیل ہو گئے۔ یہ تمام عدالتی کارروائی تحریک ۱۹۷۴ء نامی کتاب میں اللہ وسایا نے نہایت صفائی اور خلوص سے مرتب کر کے شائع کر دی تھی۔ جس کو نہایت چاہت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔

ایڈیشن پرائیڈیشن نکلتے رہے۔ ادھر ہمارے ہاں بھی کچھ دنوں تک مردنی سی چھائی رہی۔ کیونکہ اتنی ذلت کے ردعمل میں چاہے کوئی انسان کتنا ہی ڈھیٹ اور مجسم ابلیس ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر ہماری اور ہمارے پیروکار کی فطرت اور خیر مآشاء اللہ آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا اور مسخ شدہ واقع ہوئی ہے۔ آپ کی طرح، نہ کسی ناکامی کا چنداں اثر اور نہ کسی ذلت و رسوائی کا فکر۔ دیکھئے آتھم کے مقابلہ میں کتنی خفت ہوئی مگر آپ تھے ایک صبر و ہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے زیادہ چند لمحات متاثر ہوئے اور پھر اسی طرح شیر اور دلیر۔ آخر استقامت ایک گویا نایاب ہے۔ اسے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے۔ پھر آپ کی سیرت غلیظہ میں محمدی بیگم کا عجیب ترین مقصد بھی موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے کتنے پاپڑ بیلے، کتنے جتن کئے۔ مگر ہر طرف سے ناکامی اور ذلت ہی دامن گیر ہوئی۔ آپ نے ہزار قسم کے بلند بانگ الہامی نعرے لگائے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مگر یہ سب محض ایک فراڈ اور چکمہ تھا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ محمدی بیگم بہ سلامتی ایمان سلطان محمد کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ غلظہ پر مومنگ دلتی رہی اور آپ اس کا داغ مفارقت لے کر یہاں نارنجیم میں بھی آوارہ ہوئے۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔

ہاں بیٹے! یہ واقعات میرے لئے بڑے سوہان روح بنے ہوئے تھے۔ آتھم کا بھی اور اس لڑکی کا بھی۔ دیکھو کہ آتھم مقررہ مدت میں نہ مرا تو مہینے کی آخری رات سو قسم کے جنتر منتر کئے۔ رات کو کچھ دانوں پر دم کر کے بھی اندھے کنویں میں ڈالے۔ ادھر ساری رات تمام امت کے افراد مرد و عورت گویا ماتم کر رہے تھے کہ یا اللہ آتھم مر جائے۔ آتھم مر جائے۔ مگر وہ بڑا سخت جان نکلا۔ اگلی صبح عیسائیوں نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا کہ الامان والحفیظ۔ انہوں نے سارے شہر میں اپنا جلوس پھیرایا اور میرے اور میرے سلسلہ کے خلاف بہت کچھ بکا گیا۔ پھر یہ تو خیر ایک عام بات تھی۔ ان ظالموں نے میرے اس ڈرامہ کو بہانہ بنا کر اسلام حتیٰ کہ رحمت کائنات ﷺ کے خلاف بھی بہت کچھ بکا۔ عیسائی بھگتڑے ڈالتے رہے۔ کئی قسم کی اوّل فلول بکتے رہے۔ ادھر ہم سب اندر دیکے بیٹھے رہے۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ ادھر جب کئی مریدوں میں تشکیک کی لہر پیدا ہونے لگی تو میں نے کئی قسم کے عذر بہانے تراش کر کے ان کو مطمئن کرنے لگا کہ یہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ اس لئے بچ گیا ہے۔ اگر میری یہ بات جھوٹ ہے تو اسے کہو کہ وہ قسم اٹھا کر حلف اٹھائے کہ میں اندر سے نہیں ڈرتا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں قسم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیسے قسم کھاتا ہے۔ لیکن اس بہانے میں اٹو کچھ سیدھا ہو گیا۔ کم از کم میرے لایعقل مرید تو مطمئن ہو گئے کہ حضرت صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ حالانکہ بات واضح تھی کہ ایسے موقعہ پر کسی کا دل سے ڈرنا

کیسے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر یہ دل کا خوف ایک طبعی معاملہ ہے۔ اس سے خدائی وعید کیسے ٹل سکتی ہے؟ دیکھئے آنحضور ﷺ کے مقابلے میں ابو جہل صرف ڈرتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ دل سے جانتا بھی تھا کہ آپ واقعی حق پر ہیں۔ مگر پھر بھی اسے یہ قلبی ڈر مفید نہ ہوا۔ دیکھئے کفار کے قلبی ڈر کے متعلق خود عظیم و خیر ذات نے اطلاع دی ہے کہ: ”وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَقِينَهَا انْفُسَهُمْ“ مگر یہ ڈر غیر معتبر ہے۔ امیہ کے متعلق کسے پتہ نہیں کہ وہ آپ کی پیش گوئی کے بعد نہایت خائف اور لرزاں تھا۔ حتیٰ کہ اسے زبردستی جنگ بدر میں لایا گیا وہ بادلِ نخواستہ شریک بھی ہوا۔ آخر ایک موقع پر وہ حملہ آور ہوا تو صحابہؓ نے روکنا چاہا لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ آنے دو میں اسے خود قتل کروں گا۔ چنانچہ آپؐ نے اس کی گردن پر معمولی سی نیزہ کی خراش ہی لگائی۔ جس پر وہ بیل طرح دھاڑتا تھا۔ دوسرے کافر اسے شرم دلاتے کہ ارے بد بخت اس معمولی خراش پر اتنا چلاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ زخم خود صادق و امین کا لگایا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا۔ تو اب گویا مارا ہی گیا۔ میرا بچنا محال ہے۔ کیونکہ اس امین و صادق کے قول میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ ایک عبرتناک موت مر گیا۔ اب بتلائیے وہ دل سے ڈرانہ تھا۔ لیکن یہ ڈر اسے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوا۔ اسی طرح اگر آتھم دل سے ڈر بھی گیا ہوتا۔ (اگرچہ یہ بات درست نہیں اسے میری گیدڑ بھکیوں کا خوب علم تھا۔ لہذا وہ مجھ سے ہرگز نہیں ڈرتا تھا) تو بھی حسب فرمانِ الہی بچ نہ سکتا تھا۔ لہذا میرا یہ بہانہ اور تاویل بھی محض چند و خانے کی ایک گپ تھی جو میں نے محض اپنے احمقوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ماری تھی۔ ورنہ من آئم کہ من دانم۔ کیوں بھی نور دین صاحب اور حکیم فضل دین صاحب اور عبدالکریم اور احسن امروہی وغیرہ۔ میرے جانثارو! کیوں بیٹے بشیر الدین محمود اور بشیر احمد وغیرہ یہ بات درست ہے نا۔ مشترکہ آواز۔ ہاں جی! حضرت والا بالکل درست ہے۔ آخر قرآن حکیم اور واقعیت کو کیسے جھٹلایا جاسکتا ہے؟

بس بالکل اس طرح میں نے محمدی بیگم اور دیگر واقعات میں بھی ہیرا پھیری اور مکر و فریب سے اپنے آؤں کو قابو میں رکھا۔ ورنہ میری کوئی بھی پیش گوئی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ دیکھو میں نے پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (البشری ج ۲ ص ۱۰۵)

مگر دنیا جہاں جانتی ہے کہ میں کہاں اور کیسی عبرتناک موت مرا۔ پھر میں نے ایک دفعہ جاز میں ریل کی لائن پچھتے ہوئے دیکھ کر پیش گوئی ٹھوک دی کہ یہاں ریل چلے گی مگر چونکہ میں نمائندہ ابلیس تھا۔ اس لئے خدا نے لازماً مجھے ہر جگہ جھوٹا ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ گورنمنٹ نے وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا جو کام شروع ہو چکا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور یوں میری

ذلت و رسوائی کا سامان بنا۔ حالانکہ اس موقع پر اگر کوئی عام آدمی نے بھی حالات کے پیش نظر ایسی پیش گوئی کی ہوتی تو اس کی تکمیل بھی متوقع تھی۔ اس میں الہام وغیرہ کو کوئی دخل نہ تھا۔ مگر اللہ کریم نے اپنے بندوں کو میری پوزیشن اور ڈرامہ بازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ایسے مواقع پر بھی جھوٹا ہی ثابت کیا۔ کیوں جی! میرے مراتی امتیو، خلیفو اور مربیو۔ یہی بات ہے نا؟ جی سر یہی بات ہے۔ احمقو! یہاں مان رہے ہو۔ مگر دنیا میں کیوں اندھے بنے رہے۔ وہاں اگر تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہوئی تو آج تم یہ روز بدنہ دیکھتے۔ او ظالمو! تم نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ اندھے ہو کر میرے تماشا پر یقین کر لیا تو خود بھی برباد ہوئے اور مجھے بھی ڈبل ٹرپل برباد کیا اور ساتھ ہزاروں لاکھوں مخلوق خدا کی تباہی کا ذریعہ بھی بنے۔

او میرے نالائق خلیفو! اور بد فطرت حواریو اور مبلغو۔ خبیثو! تم نے خواہ مخواہ چند نکلوں کے عوض دنیا میں گمراہی پھیلائی۔ بلا دلیل علمائے اسلام سے ٹکری۔ جاؤ خبیثو! دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ مجھے میرے پیرو مرشد کی قسم۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تم سب کو مرغان بنا کر تمہاری پستوئوں پر کوڑے برسائوں۔ ظالمو! تم نے اتنی عوام کو برباد کیا۔ تمہیں کسی کی خوشی یا غمی کا ذرا فکر نہ تھا۔ کسی کا عزیز باپ مر جاتا تو تم ظالمو رجسٹر لے کر فوراً جا دھکتے۔ لاؤ بھی ہمارا حساب پھر جنازہ اٹھانے دیں گے۔ ۱۰ فیصد کا حساب کرو۔ پراپرٹی کا حساب لکھاؤ۔ توبہ توبہ! اتنی سنگ دلی اور بدنیتی کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورت بیوہ ہو گئی اور تمہارے اللے تلے ہو رہے ہیں۔ تمہارا سیزن گرم ہو رہا ہے۔ کوئی غریب صبح سے شام تک بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ مگر تم کو یہ فکر نہیں کہ اس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ تم نے ظالمو اپنا عشر لازمی بٹورنا ہے۔ آخر کچھ تو شرم ہونی چاہئے۔ کہیں اخبار کا چندہ، کہیں رسالوں کا فنڈ، کہیں لنگر کا پھندہ، کہیں بہشتی مقبرہ کا چکر گرم کر رکھا ہے۔ کہیں دوسرے چکر چلا رکھے ہیں۔ میں تو ایک معذور آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے لئے تھوڑا بہت چکر چلایا۔ مگر ظالمو تم نے تو لوٹ مار کی حد کر دی۔ میں نے کبھی وسیع مکان کا مصنوعی الہام سنا دیا۔ لوگوں سے چندہ بٹورا اور کبھی منارۃ المسیح کے بہانے لوگوں کی جیبیں ٹٹولیں۔ مگر ظالمو تم نے تو اپنی کوشیاں، بلدنگیں اور ایوان محمود جیسی فضول عمارتیں بنانے کے لئے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جائیدادیں بن رہی ہیں۔ تمہاری اولاد مر سڈیز کاروں پر اللے تلے کر رہی تھی۔ تم نے تو عوام کا خون نچوڑ کر ربوہ کوشد کی بہشت کا نمونہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ ظالمو! ادھر تم اپنی عیش و عشرت میں غرق ہوتے تھے۔ ادھر میری ہڈی پسی ایک کی جاتی رہی تھی کہ خبیث تو نے یہ کیا چکر چلایا ہے۔ میں نے صرف ایک نصرت جہاں کے نازنخرے اٹھانے کے لئے لوگوں کو لوٹا مگر تم

نے اپنے گھروں میں شاہانہ عشرت کدے بنانے کے لئے لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیئے۔ آخر کچھ تو خیال کرتے۔ اچھا خیر، ۱۹۷۴ء کی ناکامی کے بعد کیا ہوا؟

مرزا ناصر: پھر حضرت میرا دور تو ختم ہو گیا۔ اگرچہ ہماری ذلت و رسوائی مزید پیش رفت کر رہی تھی۔ جب کہ میں تو بس اپنی طاہرہ کے چکر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وقفہ بول۔ نعروں کی جھنکار و شور۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن اتار کی جے۔ قادیانیت مردہ باد۔ انگریزی گماشتے کی جے۔

تھوڑی دیر بعد جناب قادیانی پھر اپنی مسند پر براجمان ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ بیٹے طاہر! طاہر احمد! وہ آتا ہے جی دادا جان! حاضر، فرمائیے کیا ارشاد۔

مرزا صاحب: بیٹے اب تم بھی اپنی کچھ تاریخ اور روئیداد پیش کرو تا کہ مزید کچھ وقت پاس ہو جائے۔ مرزا طاہر! دادا جان میرا دور نہایت آزمائش کا دور تھا۔ وہ بڑا کٹھن زمانہ تھا۔ کیونکہ ۱۹۷۴ء کی تحریک اور ہماری ناکامی کے بعد امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی پارٹی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کہ مسلمانوں کے تقریباً مکاتیب فکر کے سنجیدہ علماء کرام پر مشتمل تھی انہوں نے مسلسل ہمارا تعاقب جاری رکھا۔ مگر ۱۹۷۴ء کے بعد ان میں مزید مستعدی ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مزید فعال اور مستحکم کر لیا۔ ادھر چنیوٹ کے مولانا منظور احمد نے بھی بیرون ممالک میں ہمارے خلاف خوب کھل کر اظہار حقیقت کرنا شروع کر دیا اور جگہ جگہ ہم پر غیر مسلم ہونے کے فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ بلکہ ملکی عدالتوں نے بھی ہمارے غیر مسلم ہونے کے فیصلے سنانے شروع کر دیئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ۱۹۳۴ء میں بہاول پور میں ایک نہایت اہم مقدمہ کا فیصلہ سامنے آیا تھا۔ جس میں قادیانیوں کو واضح طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پنڈی اور سندھ وغیرہ میں ایسے عدالتی فیصلے صادر ہوئے اور بیرونی سطح پر رابطہ عالم اسلامی نے اور دیگر تمام مسلم تنظیموں نے مشترکہ فیصلے دیئے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ادارہ کا کام تھا کہ جس نے ملک کے ہر شہر اور گاؤں کے دورے کر کے عوام کو ہمارے اس فتنے سے آگاہ کیا۔ جگہ جگہ اپنے مرکز قائم کئے۔ وہاں مستقل کامیاب مبلغ مقرر کئے اور پھر ہمارے خلاف بے پناہ لٹریچر شائع کیا گیا۔ جس میں ہمارے تمام مکرو فریب اور کذب و دجل واضح کر دیا گیا۔ اس سلسلہ تعاقب میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس بندہ خدا نے اس ادارہ کو زبردست متحرک بنادیا۔ پھر ایک خاموش طبع درویش خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم نے اس ادارہ کی سرپرستی قبول کر کے مزید اس میں روح پھونک دی۔ یہ صاحب شب و روز اس محاذ پر متحرک



ہو گئے۔ عجیب جذبہ تھا۔ کہاں ایک گوشہ نشین درویش اور اب کہاں ہر وقت شہر شہر قریہ قریہ کے سفر اور وہ بھی بڑھاپے میں۔ اگرچہ اس سے پہلے ہمارے ہی تربیت یافتہ لال حسین اختر جو کہ ہم سے کٹ کر پھر دائرہ اسلام میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے نمایاں کام کیا۔ کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔ اس لئے ہر مناظرہ میں ان کا سامنا کرنے سے ہمارے گھاگھ مناظر بھی جھجکتے تھے۔ ان کے بعد پھر مولانا محمد علی جالندھریؒ اور مولانا محمد حیات صاحب وغیرہ فعال قسم کے لوگوں نے ہمارے تعاقب میں جان توڑ محنت کر کے ہمیں بس کھڈے لائن لگا دیا۔ ازاں بعد ایک فوجی جنرل نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ یہ ایک سادہ مسلمان آدمی تھا۔ اس نے ملک میں اسلام نظام رائج کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ اگرچہ ہم نے اور دیگر مخالفین اسلام نے اس کی کچھ زیادہ نہ چلنے دی۔ مگر پھر بھی وہ ہمارے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوا۔ ۱۹۷۴ء میں جو قانون بنایا گیا تھا اس نے اسے اپناتے ہوئے ۲۶ اپریل ۱۹۸۴ء کو امتناع قادیانیت کا قانون نافذ کر دیا کہ ہم نہ تو تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریس استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی سالانہ میلہ لگا سکتے ہیں۔ نہ کوئی اخبار نہ رسالہ جاری کرنے کے مجاز ہیں۔ اس طرح ہم سیاسی اور سرکاری سرپرستی سے بھی محروم ہو گئے اور عوامی سادہ لوح سے بھی کٹ گئے۔ کیونکہ سرکاری فیصلے نے ہر چھوٹے بڑے اور ہر سطح کے انسان کو ہماری اصلیت کا پتہ چلا دیا۔ ورنہ اس سے قبل کئی گاؤں اور علاقوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے قربانیاں بھی کر لیتے۔ شادی بیاہ بھی رچا لیتے۔ مسجدیں بھی مشترکہ بنا لیتے تاکہ اپنی تبلیغ لوگوں تک پہنچا کر ان کو اپنے دام تزیور میں پھنساتے رہیں۔ مگر اس مرحلہ پر ہمارا دھندہ بالکل ٹھپ ہو گیا۔ گویا مرزائیت ایک طعن اور گالی بن گئی۔ بڑے بڑے افسر اور با اثر لوگ بھی اپنی حیثیت پوشیدہ رکھنے میں سلامتی سمجھنے لگے۔ ہمارا جلسہ بند اور افضل بند، تبلیغ بند، سب کچھ بند، ہم اپنے سینہ پر کلہ طیبہ کا بیج نہ لگا سکتے اور نہ ہی اپنے مکان یا کاروباری ادارہ کے گیٹ پر اسے لکھ سکتے تھے۔ نہ دیگر کوئی اسلامی علامت کسی بھی سطح پر استعمال کرنے کے مجاز۔ گر کوئی جرأت کر لیتا تو فوراً مجلس تحفظ ختم نبوت والے حوالہ قانون کرا دیتے۔ حکومت اور انتظامیہ بھی سرکاری قانون کے تحت ہمارے خلاف کارروائی کرنے میں مجبور تھی۔

غرضیکہ میرے لئے یہ وقت نہایت کٹھن تھا۔ ایسے حالات میں، میں بہت کٹھن محسوس کرنے لگا اور یہ حالات ایسے اتر ہو گئے کہ میرا اس سے ماحول میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ میں ایک خاص پلان کے تحت رات کو برقع پہن کر وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا اپنے جنم بھومی لندن کی کشادہ اور آزاد فضا میں ہجرت کر آیا۔ یہاں اپنے سرپرستوں کی زیر نگرانی اور حمایت میں نے اپنا

مرکز قائم کر لیا۔ لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت والے بھی بہت چست نکلے۔ انہوں نے بھی میرے قریب ایک گرجا خرید کر اپنا تبلیغی مرکز قائم کر لیا۔ جس میں مختلف تبلیغی پروگراموں کے تحت سالانہ کانفرنس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ مقامی زبان میں ہمارے خلاف لٹریچر بھی شائع ہونا شروع ہو گیا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی یہاں برطانیہ میں مسلمانوں کے کئی مراکز اور مساجد تھیں۔ مگر یہ ادارہ تو مستقل طور پر ہمارے ہی تعاقب کے لئے قائم ہوا۔ پھر ہم نے اگلا قدم اٹھایا کہ ایک چینل حاصل کر کے ڈش کے ذریعے تمام عالم میں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ جس سے علمائے اسلام بہت سنج پا ہوئے۔ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ہماری تبلیغ گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ پاکستان کے جس گاؤں میں قادیانیوں کا ایک بھی گھر ہوتا وہاں وہ ڈش کا انتظام ضرور کرتا۔ یا اسے کر کے دیا جاتا۔ جہاں زیادہ آبادی ہوتی، وہاں اپنے گھر میں ڈش پر میرا خطاب سننے کے لئے تمام افراد جماعت کو بمع خواتین کے جمع کر لیا جاتا۔ نیز مسلم نوجوانوں کو گھیر گھاڑ کر ڈش دیکھنے سننے کی دعوت دیتے۔ چنانچہ کئی نوجوان ڈش پر یہ پروگرام سنتے اور کئی اس سے متاثر ہو کر بیعت فارم بھی پر کر لیتے اور کئی کو ہم شادی کا لالچ دے کر بیعت فارم پر کر لیتے۔ کئی کو ملازمت کا جھانسا دے کر پھانس لیتے اور کئی افراد کو جرمی اور کینڈا وغیرہ کے ویزا اور نیشنلٹی کا چکمہ دے کر پھانس لیتے۔ اس طرح بہت افراد ہمارے چکر میں آ گئے۔ پھر ہم نے بیرونی سطح پر عیسائی مشنریوں والا رول اپنایا کہ غریب علاقوں میں سکول کھول لئے۔ سڑکیں اور رفاہی ادارے مثلاً ڈسپنسریاں یا ہسپتال کھول کر عوام الناس کو مائل کر کے اپنا شکار کر لیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے مالی علاقہ میں پینتیس چالیس ہزار افراد کو حلقہ بگوش قادیانیت کر لیا۔ مگر براہواں مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کا کہ یہ وہاں فوراً پہنچ گئے اور ہمارا دجل و فریب ظاہر کر کے ان قادیانیوں کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور ہم یوں ہی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس طرح کی کئی کارروائیاں ہوئیں۔ مگر ہم پھر بھی ہمت نہ ہارتے تھے۔ کہیں نہ کہیں شب خون مار ہی لیتے۔ مگر آخر باطل باطل ہی ہوتا ہے، تھوڑے وقفے کے بعد ہمارا دجل کھل جاتا اور ہم نامرادی اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔

اس طرح ہماری سرگرمیوں کا سلسلہ پھر سرگرم ہو گیا۔ ہاں ایک آزمائش ابھی سر پر سوار تھی کہ امتناع قادیانیت کے قانون کے تحت ہمارا کوئی فرد اسلامی اصطلاحات اور کلمہ شریف کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ بصورت دیر قید اور جرمانہ کی سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سلسلہ میں ہمارے نوجوانوں بہت جواں مردی اور ہمت کا ثبوت دیا۔ سینے پر کلمہ کا بیج لگا لیتے یا دروازوں پر کلمہ طیبہ آویزاں کر لیتے۔ مگر رپورٹ ہونے پر انتظامیہ فوری کلمہ کو محفوظ کر لیتی اور ملزم کو گرفتار کر

کے جیل میں بھیج دیتی۔ اسی طرح ہم اپنی انگوٹھیوں میں آپ کی نشانی ”الیس اللہ بکاف عبده“ نقش نہیں کر سکتے تھے۔ ورنہ قید کی سزا سامنے ہوتی۔ اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے دفن نہیں کر سکتے تھے۔ اس سلسلہ میں بھی کافی مقدمات یا جھگڑے کھڑے ہوئے۔ نیز ہم مسجد یا مسجد نما کوئی عمارت نہیں بنا سکتے تھے اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا عنوان دے سکتے تھے۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام تھا۔ الغرض اب ہم کوئی بھی اسلامی اصطلاح یا شعائر اسلام نہ کر سکتے تھے۔ اس طرح بہت مصیبت پڑ گئی۔ زندگی مشکل ہو گئی۔ اب ہمارے مبلغ اپنے افراد کو تبلیغ کرتے بھی جھجکتے تھے۔ پھر بھی ہمارے مبلغ اور مربی کسی نہ کسی طرح اپنی کارروائیاں جاری رکھے رہے۔ جب کہ اہل اسلام کھل کر ہمارے خلاف تبلیغ کرنے لگے۔ کانفرنس منعقد کر کے ہمارے راز فاش کئے جاتے۔ ہمارے خلاف مسلمانوں کی خوب ذہن سازی کی جاتی۔ منفی نعرے لگوائے جاتے۔ علاوہ ازیں انہوں نے ایک مستقل ہفت روزہ بنام ختم نبوت کراچی سے جاری کیا ہوا تھا۔ جو کہ اندرون و بیرون ملک ہمارا ڈٹ کر کامیاب اور مؤثر تعاقب کر رہا تھا اور پھر انہوں نے ملتان مرکز میں سالانہ تربیتی کورس بھی منعقد کرنا شروع کر دیا۔ جس میں ملک بھر سے علماء، مدرسین، طلبہ اور دیگر تعلیم یافتہ افراد شامل ہو کر خوب تربیت لیتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں میں ہمارا ناک میں دم کر دیتے۔ پھر انہوں نے ہمارے ربوہ کے ساتھ ہی مسلم کالونی میں ایک بہت بڑا تبلیغی مرکز قائم کر لیا۔ جہاں تربیتی کورس کے علاوہ سالانہ ملک گیر کانفرنس بھی منعقد کرانے لگے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوتی۔ وہاں لٹریچر ملتا اور دیگر مفید معلومات حاصل ہوتیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسری مشہور حریف منظور احمد چنیوٹی نے بھی اپنے ادارہ دعوت و ارشاد میں سالانہ تربیتی کورس شروع کر دیا۔ نیز مکمل سٹڈی کے لئے انہوں نے سال بھر کا ایک کورس شروع کرایا۔ جس میں ذہین طلباء کو مکمل اور عالمانہ تیاری کرائی جاتی تھی۔ نیز انہوں نے بھی کئی تبلیغی کتب شائع کیں۔ پھر ایک تیسرا انٹرنیشنل ادارہ بھی عالم وجود میں آ گیا۔ انٹرنیشنل موومنٹ جس کے تحت انوار ختم نبوت نامی ماہنامہ جاری ہو گیا۔ علاوہ ازیں ہمارے تعاقب میں لاتعداد سلسلہ تصنیف شروع ہو گیا۔ جس سے ہمیں ناقابل برداشت نقصان پہنچا۔ ہر جگہ جزوی سٹڈی کورس شروع ہو گئے، جلسے اور کانفرنسیں ہونے لگیں۔ ہاں نیلام بھر کے سلسلہ میں مانسہرہ کے کچھ ساتھی اپنے علاقے میں یہ پروگرام منعقد کرنے لگے۔ جس سے سرحد میں بھی ہر جگہ ہمارا ناطقہ بند ہونے لگا۔ نیز اہل اسلام نے جدید سطح پر لٹریچر شائع کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً ۱۹۵۳ء کی تحریک، ۱۹۷۷ء کی تحریک کے محرکات و اسباب اور دیگر تمام تفصیل و کوائف پر مشتمل کئی ضخیم کتابیں شائع کی گئیں۔ فیصل آباد کے

صاحبزادہ طارق محمودؒ جو کہ ہمارے ہی خلاف ایک ہفت روزہ لولاک نکال رہے تھے جو بعد میں ماہنامہ کی شکل اختیار کر گیا اور بجائے فیصل آباد کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ”قادیانیت کا سیاسی تجزیہ“ نامی نہایت مفصل موثر اور مفید کتب شائع کر دی۔ نیز ایک اہم کتاب ”قادیانیت ہماری نظر میں“ شائع ہوئی۔ جس نے ہمارے تمام راز اور منصوبے ظاہر کر دیئے۔ جس سے ملک کا ہر ہوشمند طبقہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ چنانچہ پہلے تو ہم احمدی کہلاتے تھے۔ مگر پھر اس راز کے منکشف ہو جانے پر سرکاری اور عوامی محاورہ میں بھی قادیانی اور مرزائی کا لقب اور عنوان ہمیں مستقل طور پر الاٹ ہو گیا۔ احمدی کہنا ممنوع اور متروک ہو گیا۔

دادا جان! اس قسم کے کافی امور اور بھی ہیں۔ اتنا کچھ کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ امتناع قادیانیت قانون کے خلاف ہمارے تعلیم یافتہ و کلاء حضرات نے کافی محنت کر کے ملک کی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی۔ بلکہ ایسی متعدد اپیلیں دائر کی گئیں جن میں اس قانون کو حقوق انسانی کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر سپریم کورٹ کے ججز نے نہایت دیانت داری اور مکمل بحث و تحقیص کے بعد یہ اپیلیں مسترد کر دیں اور صاف لکھا کہ قادیانی واقعی غیر مسلم ہیں۔ ان کو اسلامی اصطلاحات کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس طرح اسلام کا تشخص مجروح ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس پر ہم اپنا سامنہ لے کر بیٹھ گئے۔ ہاں ایک اور اہم اور ضروری واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ میں نے کافی محنت کر کے ایک علاقہ کے ہزار ہا افراد کو دائرہ قادیانیت میں لانے کی کوشش کی۔ بیعت بھی لے لی۔ مگر یہ مجلس تحفظ ختم نبوت والے فوراً وہاں بھی پہنچے اور ان لوگوں کو اصل حقیقت سے باخبر کر کے واپس اسلام میں لے گئے۔ گویا ہماری کامیابی زبردست ناکامی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ایک موقع پر ہم نے تاشقند میں کوئی چکر چلایا کہ وہاں کے میئر سے ایک بڑی مسجد کی چابی بھی حاصل کر لی کہ وہاں اپنا اسلامی مرکز بنائیں گے۔ مگر یہ تحفظ والے گویا پہلے ہی انتظار میں تھے۔ فوراً وہاں پہنچے اور ہمارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ پھر ہم ہر سال سالانہ جلسہ ربوہ کی کوشش کرتے تھے، اعلان کرتے تھے مگر ہر بار یہ لوگ ہمیں ناکام کر دیتے۔ انتظامیہ فوراً پابندی لگا دیتی تھی۔ الغرض اس قسم کے کافی مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ مگر ہر موقع پر ناکامی ہمارے ہی مقدر میں ہوتی تھی۔ اگرچہ ایسے کٹھن اور پرٹھن حالات میں ہم نے کافی چکر چلا رکھے تھے۔ جیسے ملازمت کا چکر، مالی تعاون اور رشتہ کا چکر، بیرون ملک ویزہ کا لالچ وغیرہ۔ مگر کامیابی معمولی اور ناکامی زیادہ پلے پڑتی تھی۔ گویا یوں لگتا تھا کہ اب ہم چند دنوں کے ہی مہمان تھے۔ خود میں لندن مرکز میں بیٹھ کر بذریعہ ڈش

اپنے سابقہ مریدوں کو قابو میں رکھنے کے لئے بہت واویلا کیا کرتا تھا۔ کئی قسم کے جھوٹے بلند بانگ دعوے کرتا۔ لاف گزاف مارتا۔ جعلی بیعتوں کی تشہیر کرتا تا کہ یہ نادان مرید بد دل نہ ہوں۔ مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگتیں کہ آج فلاں جگہ اتنے قادیانی مسلمان ہو گئے، آج وہاں قادیانی مربی مسلم عالم کی تاب نہ لاسکا۔ جس کے نتیجے میں اتنے مرزائی دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج فلاں علاقہ میں اتنے خاندان قادیانیت پر لعنت بھیج کر پکے سچے مسلمان ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی خبروں کا تانتا بندھ گیا۔

غرضیکہ میری شب و روز کی محنت کا نتیجہ منفی ہی نکلتا۔ روز بروز ہماری نفری میں کمی ہی ہوتی رہی۔ کہیں سے اگر ہزار جتن کے بعد ایک آدھ آدمی کو پھانسنے کی خبر آتی تو دس مقامات پر کئی افراد کے مسلمان ہو جانے کی خبریں آ جاتیں۔ جی دادا جان! ایک اور پریشان کن مصیبت یہ سامنے آئی کہ نکانہ صاحب میں جہاں سکھوں کا اہم مرکز بھی تھا۔ وہاں سے کچھ فعال قسم کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے خلاف محاذ قائم کر بیٹھے۔ آخر یہ کالجیٹ لوگ تھے بہت ہوشیار اور تربیت یافتہ بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اچھوتا رسالہ یا رنگین پمفلٹ اور ٹریکٹ شائع کر دیتے۔ جس میں نہایت اشتعال انگیز انداز سے ہمارے خلاف لکھا جاتا۔ اہم پوائنٹ اٹھائے جاتے۔ کئی حیران کن انکشاف کئے جاتے۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت دق کیا۔ ان لوگوں نے سینکڑوں کتابچے شائع کر کے بس ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ پھر کئی مقامات پر آپ کا کارٹون بنا کر دلازار ڈرامے بھی پیش کرتے رہتے۔ جس سے عوام بہت خوش ہوتے۔ ہمارے خلاف کارروائی میں دلچسپی لیتے۔ یہ نوجوان طاہر رزاق اور متین خالد تھے۔ جنہوں نے قادیانی تعاقب میں قابل قدر کام کیا۔ مرزاہیت اور قادیانی افسانے وغیرہ نہایت دلچسپ کتابیں شائع کیں۔ جو نوجوانوں میں نہایت مقبول ہوئیں۔ پھر متین خالد نے کافی محنت سے ایک ایٹم بم تیار کیا جس کا نام تھا ”ثبوت حاضر ہیں“ کافی ضخیم کتاب تھی۔ جس میں ہر تحریر اور واقعہ کا دستاویزی ثبوت فراہم کر دیا۔ اس سے ہمارے سلسلہ دجالیہ کو ناقابل برداشت دھچکا لگا۔ ادھر ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ بڑے فعال اور قانون سے واقف بھی تھے۔ چنانچہ میں نے خود لندن میں بیٹھ کر بھی ان کو بہت کوسا۔ مگر سب بے فائدہ۔ یہ لوگ مزید حوصلہ سے اپنی ڈگر پر رواں دواں رہے۔ ان لوگوں نے مزید آگے پیش رفت کرتے ہوئے سالانہ انعامی تحریری مقابلوں کا بندوبست بھی شروع کر دیا تھا۔ جس سے کافی مسلمانوں کو ہمارے خلاف تحقیق و ریسرچ کرنے اور لکھنے کا موقع مل جاتا اور اس سے متاثر ہو کر بے شمار عوام اور خواص ہماری

اصلیت سے واقف ہو جاتے اور کئی قادیانی اس سے پریشان ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح ہمارا کافی نقصان ہو جاتا تھا۔ دادا جان! اگرچہ اس دوران کئی ملحد عالمی تنظیمیں حقوق انسانی کے چکر چلا کر ہماری تائید میں کھڑی ہو گئیں۔ مگر پھر بھی کچھ نہ بنا۔ ان کے مقابلہ میں مسلم علماء اور سکالرز نے اپنا موقف بین الاقوامی قانون کے مطابق پیش کر کے ہماری تائید کو محذو ش کر دیا۔

چنانچہ ایک موقع پر جنوبی افریقہ کی ایک عیسائی خاتون جج نے بھی ہمارے ہی خلاف فیصلہ دے دیا کہ واقعی قادیانی غیر مسلم ہیں۔ پھر ۱۹۹۵ء کے آخر میں تو ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ نے حد کر دی۔ اس عدالت عظمیٰ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ہمارے خلاف طویل اور جاندار فیصلہ دے دیا کہ یہ لوگ واقعی غیر مسلم ہیں۔ ان کے کفر و اسلام کا فیصلہ صرف علمائے اسلام کا ہی معتبر ہو سکتا ہے۔ کوئی غیر مسلم یا سیکولر عدالت اس کی مجاز نہیں۔ غرضیکہ قدم قدم پر ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اگر کہیں کوئی کامیابی کا ایک قدم اٹھتا تو دوسری جگہ ناکامی کے دو قدم اٹھ جاتے۔ پھر اسی جدوجہد میں، میں نے کوشش کی۔ رابطے کئے کہ پاکستان میں تو ہمارا سالانہ میلہ بند ہو گیا ہے۔ آؤ ہندوستان سے کچھ منت سماجت کریں۔ ان کو اپنی وفاداری کا چکمہ دیں کہ ہم تو تمہارے ہی خادم ہیں۔ اسلام سے ہمارا کیا واسطہ؟ یہ ہم نے محض چکر بازی اور فراڈ شروع کر رکھا ہے۔ ورنہ نہ ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ۔ دیکھو ہمارے خلیفہ دوم کا الہام موجود ہے کہ ہندوستان کی تقسیم غیر فطری ہے۔ اگر ہو بھی گئی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارا تو یہ الہامی عقیدہ ہے۔ لہذا ہم تو اپنے عقیدہ کی سطح پر ان حدود کو ختم کرنے کے لئے ہر طرح سرتوڑ کوشش کریں گے۔ کیونکہ ہندوستان میں ہمارا مرکز اول قادیان شریف ہے۔ اس کو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں۔ ہم جو پاکستان منتقل ہوئے تو یہ اس بناء پر نہیں کہ ہم انڈیا کے مخالف ہیں۔ بلکہ اسی کی خدمت کے لئے آئے ہیں کہ یہاں رہ کر ہم ان بناوٹی سرحدوں کو ختم کرانے کے لئے جدوجہد کریں گے۔ چنانچہ ہماری وفاداری کا کھلا ثبوت سامنے ہے کہ ہم نے کوشش کر کے کشمیر کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ پھر ہم نے کوشش کر کے مشرقی پاکستان کو ختم کر کے بنگلہ دیش بنا کر انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا۔ ہمارے حضرت کی روایا تو دیکھو اس میں مذکور ہے کہ میں کشف میں گاندھی جی کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر لیٹا تھا۔ یہ ہمارے اتحاد کی دلیل ہے۔ برہان ہے۔ دیکھئے ہمارا کسی بھی مسلم حکومت کے ساتھ پر خلوص تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ہر مخالف پاکستان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ پیار ہے۔ چنانچہ اسرائیل جو کہ تمام عرب اور عالم اسلام کا کھلا دشمن ہے۔ پاکستان نے آج تک اسے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہمارا وہاں بھی ایک مضبوط مرکز ہے۔ وہاں سے تربیت حاصل کر کے

یہودیوں کے ساتھ ہمارا رضا کار بھی برابر ان کے شریک کار رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب کے سامنے آچکی ہے کہ سینکڑوں قادیانی کمانڈو اور تحریب کار مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کو ختم کرنے یا دبانے کے لئے آچکے ہیں۔ خود اسرائیلی فوج میں چھ سومرزائی کمانڈوز کی اطلاع زبان زد ہے۔ اس لئے عالم کفر کو ہمارے متعلق اپنی حمایت اور وفاداری میں کبھی بھی تردد نہ ہونا چاہئے۔ ہم تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے۔ ہمیں کفر والمجادد دنیا کے جس خطے میں چاہے استعمال کر کے ہمارے خلوص اور وفاداری کا امتحان لے سکتا ہے۔ دیکھو نا! ہماری تاریخ کہ ہمارے جداؤل حضرت مرزا غلام مرتضیٰ قادیانی نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف محاذ میں پچاس گھوڑے بمع سوار انگریز کو پیش کر کے تمغہ وفادای حاصل کیا اور اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ مل کر بھی ہمارا خاندان مسلمان مجاہدین کو کرش کرتا رہا۔ یہ تو ہماری فطرت اور خاندانی کردار ہے۔ جس کے پیش نظر ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لئے دعویٰ مسیحیت اور نبوت پر آمادہ کیا گیا تھا۔ جسے آنجناب نے آبائی سرشت کے پیش نظر ہنسی خوشی قبول فرمالیا۔ تو پھر دادا جان! انڈیا سرکار نے یہ معروف حالات و کوائف جانتے ہوئے ہمیں قادیان میں سالانہ میلہ لگانے کی اجازت دے دی اور خوشی سے دے دی۔ تو ہم نے وہاں بڑے جوش و خروش اور طمطراق سے میلہ لگایا۔ جس میں خود شریک ہوا اور وہاں پاکستانی حکومت کے خلاف خوب زہر اگلا۔ دل کی بھڑاس نکالی۔ مسلم علماء کو خوب لتاڑا۔ یہ ہماری ایک کامیابی کی حوصلہ افزاء شق تھی۔ علاوہ ازیں ایک کامیابی ہمیں ہمارے سرپرستوں عیسائیوں سے یوں حاصل ہوئی کہ ایک موقع پر مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ الگ ہونا چاہئے۔ جس طرح پاسپورٹ میں ہوتا ہے۔ سروس بکوں میں مذہب کا اندراج امتیازی طور پر ہوتا ہے تو اس طرح شناخت کے لئے شناختی کارڈ میں بھی ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس مطالبہ کو معقول جانتے ہوئے حکومت نے تسلیم بھی کر لیا۔ مگر ہمارے مہربان عیسائیوں نے اندرون و بیرون سطح پر اتنا پراپیگنڈہ کیا کہ حکومت کو مجبوراً یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک اہم قدم تھا۔

مرزا قادیانی: شاباش بیٹے بہت خوب تو نے واقعی اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی۔ آفرین ہے تم پر۔ نعروں کی جھنکار۔ قادیانیت کی جے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن اوتار کی جے وغیرہ۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوتا ہے۔ وقفہ بول و براز.....

چند لمحے بعد ہی جناب مرزا قادیانی واپس تشریف لا کر مسند گفتگو سنبھالتے ہیں اور بڑے فکر مند اور سنجیدہ انداز میں یوں گوہر افشانی فرمانا شروع کرتے ہیں۔

ہاں میرے دل کی بھڑاس، بیٹے طاہر کچھ اور سناؤ۔ میرا جی لگ رہا ہے۔

مرزا طاہر: جی دادا جان، ایک اور مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جس طرح آپ کے عہدِ نبوت میں کئی آپ کے مخلص خرید آپ کے چنگل سے آزاد ہو کر حلقہٴ بغوشِ اسلام ہوئے۔ جیسے میر عباس لدھیانوی، حافظ یوسف، منشی الہی یوسف اکاؤسٹ، عبدالحکیم پٹیلوی وغیرہ۔ اس کے بعد خلیفہ دوم کے عہد میں عبدالکریم ناقد، مولانا لال حسین اختر وغیرہ ہمارے دجل و فریب سے نکل کر حلقہٴ بغوشِ اسلام ہو گئے۔ اسی طرح میرے دور میں بھی کئی خوش نصیب ہمارے پر گھٹن حلقہ سے نکل کر شاہراہِ اسلام پر آ گئے۔ خاص کر ۱۹۸۹ء میں فلسطینی نوجوان حسن عودہ جو کہ میرا خصوصی آدمی تھا، عربی مجلہ کا ایڈیٹر بھی تھا۔ مگر آہستہ آہستہ اس کی قسمت نے پلٹا کھایا تو وہ ہمارے راز سے واقف ہو کر حلقہٴ اسلام میں چلا گیا۔ اس نے مجھے بڑا دھچکا لگایا۔ اسی طرح ۱۱ اپریل ۱۹۸۶ء کو انڈونیشیا کا ایک بہترین اور کامیاب مبلغ احمد یار ہادی حلقہٴ بغوشِ اسلام ہو گیا۔ جس پر ہم نے بے پناہ محنت و دولت صرف کی تھی۔ مگر ظلیحہ اور سجاح کی طرح اس کی قسمت بھی اچھی تھی کہ وہ علی وجہ البصیرت ہمارے مکر و فریب سے نکل کر دائرہٴ اسلام میں شامل ہو گیا اور پھر مجھے ہی دعوتِ مہبلہ دینے لگا۔ جیسا کہ ہفت روزہ ختمِ نبوت اور دیگر رسائل و کتب میں تفصیلات درج ہیں۔ اب ایسے مواقع میں، میں بھی بے بس تھا۔ میں نے آپ اور اپنے ابو محمود کی طرح دم سادھنے کا کردار ہی اپنایا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اہم شخصیات حلقہٴ بغوشِ اسلام ہوتی رہیں۔ وقفہ بول اور نعرے۔

کچھ دیر کے بعد.....

میرے جانثارو اور چہیتے امتیو! آپ لوگ یہاں مدت سے میری اور دیگر مختلف حضرات کی زبانی اصل حقائق سن رہے ہو۔ اگر آپ لوگ توجہ سے کام لیں تو ہماری اصل حقیقت یہی تھی اور یہ کچھ صرف اس مقام پر ہی ظاہر نہیں ہوا۔ بلکہ دار دنیا ہی میں سب کچھ موجود تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیادی حقائق درج کر دیئے تھے اور بعد میں خود ہر ذی شعور انسان ان حقائق کو سابقہ بنیاد کے پیش نظر اخذ کر سکتا تھا۔

دیکھو خالق کائنات نے انسان کے سامنے تمام حقیقت، یعنی ہدایت و ضلالت، خیر و شر اور حق و باطل واضح کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔ ”اننا ہدیناہ السبیل اما شاکراً واما کفوراً (الدھر: ۳)“ ﴿ہم نے انسان کے سامنے راہِ ہدایت کھول دی ہے۔ اب وہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بن جائے یا اس کو نظر انداز کر کے کفر و ضلالت میں جاگے﴾



ہاں یہ بات ضرور تھی کہ دار دنیا میں انسان کے ذہن و قلب پر نفسانی خواہشات کا غلاف بھی پڑا ہوا تھا۔ جس کی بناء پر اس کا شعور اتنا اجاگر نہ تھا۔ اس میں اتنی فکر مندی اور رغبت الی الاخرۃ کا جذبہ اتنا قوی نہ تھا۔ لہذا وہ راہ حق کے مقابلہ میں خواہشات کے چنگل میں بہت جلد پھنس جاتا تھا۔ نیز ایک اور قومی دشمن بھی اس کے درپے رہتا تھا۔ یعنی ابلیس جو اسے ہمیشہ خواہشات ہی کی جانب مائل رکھتا اور حق و صداقت کی طرف سے ہمیشہ بدظن اور دور رکھنے کی تگ و دو میں مصروف رہتا۔ اللہ کریم نے ہزار ہا نبی اور رسول علیہم السلام انسان کو راہ حق پر قائم کرنے کے لئے بھیجے۔ جن کا کردار نہایت اعلیٰ اور فائق ترین ہوتا تھا۔ وہ نہایت بے لوث اور خلق خدا کی ہمدردی میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ ان سے اپنی کوئی غرض بھی نہ رکھتے بلکہ بار بار اعلان کرتے کہ:

”لَا اسئلكم علیہ من اجر (ہود: ۵۱)“ پھر اپنے نظریات اور اعمال و کردار میں ہمیشہ مطابقت رکھتے۔ جو کہتے اس پر خود بھی قائم ہوتے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ زہد و تقویٰ کی زندگی گزارتے۔ وہ اپنے سے پہلے نبیوں اور ان کی تعلیمات کی کبھی ناقدری نہ کرتے۔ کسی کی کردار کشی نہ کرتے۔ ان کی زبان سے کبھی خلاف واقعہ بات نہ نکلتی۔ وعدے کے پکے اور کردار کے سچے ہوتے تھے۔ کسی کو کسی بھی موقع پر ان کے کردار کے کسی بھی گوشے پر انگشت نمائی کا موقعہ نہیں ملتا۔ وہ صداقت و امانت، تقویٰ و طہارت، للہیت اور عبودیت، صدق اور راست بازی کے پیکر ہوتے۔ وہ بلا تمیز اپنے اور غیر ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف، ایثار و ہمدردی اور حسن سلوک کا ہی برتاؤ کرتے۔ ان کی تعلیمات میں کوئی تناقض یا تضاد نہ ہوتا۔ وہ کبھی دھونس بازی، غلط پریشیا بے تکی باتیں نہ کرتے، کبھی انہوں نے معجزہ نمائی کا تماشا نہیں دکھایا۔ بلکہ خدا کی رضا کے تحت ہمیشہ عاجزانہ سیرۃ کے پیکر ہوتے تھے۔ مگر میرے جانثارو! میرے تمام حالات و کوائف، سیرت و کردار سراسر ان کے خلاف تھی۔ نہ میرا کوئی ذاتی کردار ہی نمایاں تھا۔ جیسا کہ تم نے ملاحظہ کر لیا۔ نہ مجھے قول و قرار اور وعدے کا ہی پاس ہوتا۔ بلکہ ادھر بات کر کے ادھر اس کے خلاف دوسری کر دی۔ نہ مجھ میں زہد و تقویٰ کی کوئی بو تھی۔ دیکھو ہمہ وقت مال و دولت کی ہوس۔ عیش و عشرت کے سامان کی فراہمی کی فکر۔ ہر شخص کے مال و دولت پر حریصانہ نظر۔ میں نے تو اس سلسلہ کو حصول زر کا بہترین ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ تقویٰ کے مفہوم سے مجھے رتی بھر واقفیت اور لگاؤ نہ تھا۔ ہاں ایک دفعہ دورہ جو پڑا تو میں نے تقویٰ کی حقیقت وہ بیان کی جو براہین میں مذکور ہے۔ دیکھو (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۳، خزائن ج ۲۱ ص ۹۴) دیکھو میرا تقویٰ۔

مخلوق کی ہمدردی اور پیار اتنا تھا کہ ذرا کسی نے مخالفت کی فوراً الہام جزدیا۔ پیش گوئی کھڑکادی کہ یہ عنقریب مرجائے گا۔ یہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ حالانکہ سچے نبی ایسے ڈرامے نہیں دکھاتے۔ کوئی بیماری پھیلتی، زلزلہ آتا یا کوئی اور حالت ظاہر ہوتی تو میں فوراً اسے اپنی مخالفت سے جوڑ دیتا۔ حالانکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہہ چکا تھا کہ اس کے یہ معجزے ہیں کہ کال پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مگر خود انہی امور کو اپنی حقانیت میں پیش کرتا مسیح سے برتری کا اور اگر کہیں ناکامی ہوتی یا کوئی کپ غلط ہو جاتی تو فوراً کہہ دیتا کہ سچے نبیوں کی پیش گوئی بھی غلط ہو جاتی تھیں۔ (معاذ اللہ) تاکہ اپنے فراڈ پر پردہ ڈال سکوں۔ میں کسی بھی شریف اور نیک انسان کی پرواہ نہ کرتا۔ حتیٰ کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں بھی بے دھڑک کچھ نہ کچھ ضرور بک دیتا تھا۔ نہ مجھے قرآن کا لحاظ نہ حدیث کا۔ دیکھئے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی۔ (آل عمران، ماندہ)

مگر میں نے یہ بک دیا کہ مسیح نے ایک یہودی عالم سے سبقاً سبقاً تورات پڑھی تھی۔ العیاذ باللہ! اور اپنے متعلق لکھا کہ میں نے کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ جب کہ یہ سب بالکل جھوٹ تھا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ میں نے فضل الہی، فضل احمد اور غلام علی شاہ وغیرہ کئی اساتذہ سے بہت کچھ پڑھا تھا۔ میں نے لکھ دیا کہ مسیح سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ جب کہ مجھ سے ۱۰ لاکھ نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ اچھا اگر کہیں ان کو شمار کر کے کتاب میں لکھتا تو ۱۸۷۷ء سے اوپر نمبر ہی نہ جاتا۔ دیکھو میری حقیقت الوحی وغیرہ۔ میں تو اسے ایک ہزار تک بھی نہ پہنچا سکا۔ یہ میری کذب بیانی اور دجل و فریب کا نتیجہ تھا۔ دیکھئے کسی نبی برحق نے امت سے چندہ مانگ کر اپنا مکان وغیرہ نہیں بنایا۔ مگر میں نے طاعون کا بہانہ بنا کر وسیع مکانات کا الہام نکال مارا۔ ہر نبی برحق بنفس نفیس میدان تبلیغ میں جاتے۔ کٹھن سے کٹھن مرحلہ پر بھی میدان سے نہ ہٹتے۔ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام نے خود مردود سے مقابلہ کیا۔ کسی نمائندہ کو نہیں بھیجا یا تحریری مقابلہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے دربار میں مردانہ وار گئے۔ کسی نمائندہ کو نہ بھیجا۔ ساحروں کے مقابلہ میں بھی خود ہی گئے۔ اسی طرح ہر نبی کی شان ہے۔ خود ختم المرسلین ﷺ کی شان دیکھئے کہ ہر میدان میں خود تشریف لے گئے۔ بدر میں خود قیادت فرمائی۔ احداً و احزاب میں بنفس نفیس قیادت فرمائی۔ جب مشکل مرحلہ آتا تو مردانہ وار فرماتے: ”ہلموا الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب“ ایک دفعہ نصاریٰ نجران سے گفتگو کا مرحلہ آیا تو بھی بنفس نفیس ان سے گفتگو

فرمائی۔ کسی نمائندہ کے ذریعے نہیں اور نہ ہی تحریری مباحثہ کیا۔ مگر میری حالت بالکل اس کے برعکس تھی۔ مباحثہ دہلی ہوا تو وہ بھی تحریری۔ آتھم کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ تحریری۔ ایسے ہی دیگر مواقع پر اور جب کوئی مخالف لکارتا۔ جیسے پیر مہر علی صاحب تو میں بہانہ بنالیا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ میری اوقات تھی۔ ادھر سید دو عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہاں زمانہ کو نہایت شاہانہ انداز سے پیغام حق دیا کہ اطاعت اختیار کر لو بیچ جاؤ گے۔ مگر میں نے بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی چالپوسی ہی میں زندگی برباد کر دی۔ کبھی عدالت کے رو برو معذرت، کبھی گورنر کے حضور جی حضوری۔ یہ میرا کردار ہے جو میری تاریخ سے واضح ہے تو بندگان خدا۔ آخر تم کیوں اس دلدل میں پھنس گئے تھے۔ تمہیں حق و باطل اور کھرے کھوٹے میں فرق کیوں معلوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز تلاوت اور بے مثال فصاحت و سلاست اور کہاں میری خرافات۔ مثلاً ”تین استرے، عطر کی شیشی“ کیا بکواس ہے؟ کہاں قرآن کا دعویٰ اور اعلان۔

”قل للذین کفروا استغلبون وتحشرون الیٰ جہنم (آل عمران: ۱۶)“  
جو چند ہی دنوں بعد میدان بدر میں سب نے دیکھ لیا اور کہاں میری بڑکے آج یہ میرا مقابلہ کرنے والے بٹالوی وغیرہ میرے مطیع ہو جائیں گے۔ آتھم مرجائے گا۔ محمدی بیگم عقد میں آجائے گی۔ بکروثیب وغیرہ۔

وقفہ اجابت۔ نعرے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ کذب و افتراء کی نشانی، مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ جے سنگھ بہادر کی جے، جے، جے۔

چند منٹ بعد دوبارہ مسند پر براجمان ہو کر ذرا نیم باز آنکھ کو منٹکا کر یوں گویا ہوئے کہ:  
میرے چہیتے جانثارو! دیکھو، کیا میرے مخالفین محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ کوئی بھی میرا مطیع ہوا۔ ہرگز کچھ بھی نہ ہوا۔ ہاں بٹالوی نے تو آخر تک میرا نطقہ بند کئے رکھا اور ثناء اللہ نے تو مجھے یہاں جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ جب کہ سید دو عالم رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سابقہ انبیاء کے مخالفین ان کے سامنے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیہ کو میں ہی قتل کروں گا تو وہ ہوا کہ نہیں؟ ادھر میرا آتھم میرے سامنے دندانہ پھرا۔ باقی الہام بکروثیب۔ جس کو میں نے بڑے طمطراق سے بٹالوی صاحب کو بھی سنایا تھا۔ وہ آخر تک پورا نہ ہو سکا۔ وہ بکر ہی بکر (نصرت بیگم) میرے پاس رہی۔ وٹیب کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر تحلیل ہو گئی۔ باقی محمدی بیگم کا قصہ تو ایک طویل رونا ہے۔ جس کا

دکھ لے کر میں قبر میں پہنچ گیا تھا اور پھر یہاں بتائیے میں نے کون سا الہامی اعلان نہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اگر کچھ نہ ہوا تو مجھے ذلیل کیا جائے مجھے جھوٹا سمجھا جائے۔ الغرض میں نے اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا اور کہہ دیا کہ، کسی ملہم کا اپنی پیش گوئیوں میں جھوٹا نکلنا سب سے بڑی رسوائی ہے۔ (ترياق القلوب ص ۱۰۷، خزائن ج ۱۵ ص ۳۸۲)

مگر نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ میں اس کی صورت بھی نہ دیکھ سکا۔ آخر میں تو اس کا داغ جدائی لے کر واصل حجیم ہوا اور وہ مزے سے مدت تک پرسکون زندگی گذارتی ہے۔ تو یہ میری پیش گوئی کا حال تھا۔ آخر تم کسی مرحلہ پر کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ دیکھو خود یہ محمدی بیگم اور اس کے خاندان کے لوگ جو میری مکاری سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے میری ہر الہامی بات کو چنڈ و خانے کی گپ سمجھ کر جوتے کی نوک پر رکھا۔ نہ یہ بی بی متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کا خاندان۔ آخر تم اسی واقعہ ہی سے کچھ عبرت حاصل کرتے۔ اب بتائیے ایسا مکار اور فریبی کسی بھی باعزت منصب کا اہل ہو سکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ مجدد بن جائے۔ مسیح یانی بن جائے۔ العیاذ باللہ!

باقی رہا مسیحیت کا معاملہ تو وہ بھی نہایت عجیب ہے۔ میں نے وہاں بھی معاندانہ اور طعنانہ روش کا ہی اظہار کیا۔ دیکھئے خاتم المرسلین ﷺ صاف فرماتے ہیں کہ: ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوٰۃ ص ۴۷۹)، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)“ اور میں اس کے مقابلہ میں یوں جسارت کرتا رہا ہوں کہ مسیح ناصری مرگیا حق کی قسم۔ یعنی آپ کے ارشاد کے خلاف قسم کھا رہا تھا۔ آخر کچھ تو حیا ہونی چاہئے۔ اس رسول معظم ﷺ کے فرمان کو کاٹ رہا ہوں اور وہ بھی قسم کھا کر بتائیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کفر اور الحاد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ باقی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں۔ بھائیو! میری ایسی ہی مکاریوں سے واقف ہو کر کئی مریدان خاص پلٹ کر دوبارہ دامن خاتم الانبیاء ﷺ سے وابستہ ہو گئے۔ جیسے میر عباس علی، حافظ محمد یوسف، عبدالکریم ناقد وغیرہ اور کئی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی مثال بن گئے۔ جیسے عبدالکحیم اور چراغ دین جمونی وغیرہ۔

ہمارے مراکز اور دارالامان اور ربوے۔ ساتھیو، ملاحظہ کرو اور غور کرو۔ ابتداء میں میں نے سلطنت برطانیہ جس کا میں خود کاشتہ پودا تھا، اس کے متعلق لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ”جعل لی السلطنة البرطانیة ربوة امن وراحة ومستقرا حسننا فالحمد لله“

(ضمیمہ حقیقت الوحی الاستثنائی ص ۴۶، خزائن ج ۲۲ ص ۶۶۸)

کہ اللہ نے میرے لئے سلطنت انگریزی کو ربوہ امن و راحت بنایا اور یہ مستقر و مرکز بہت خوب ہے۔ فللہ الحمد!

پھر مزید لکھا کہ اے بھائیو! جان لو کہ ہم نے ملکہ و کنویریہ کی حکومت کے سائے میں ظالموں کے ہاتھوں سے نجات پائی ہے۔ ہم اس حکومت کے زیر سایہ اس طرح سرسبز ہوئے جیسے زمین موسم بہار میں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۱، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

تیسری جگہ لکھا کہ: ”لولا ہیبة سيف سلہ عدل سلطنة البریطانية لحث الناس علی سفک دمی“ (دفع الوسواس ص ۱۸، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

دیکھئے ان اقتباسات میں مرزا قادیانی نے قادیان کو کس طرح دارالامن اور مرکز امن قرار دیا حکومت انگریزی کے زیر سایہ۔ حتیٰ کہ وہاں دارالامان بھی بنایا اور کعبہ والی صفت من دخلہ کان آمنابھی لکھ دیا۔ مگر حقیقت دنیا کے سامنے ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد یہ دارالامن اور پناہ گاہ برباد ہو گئی۔ امن بے امنی سے بدل گیا۔ حتیٰ کہ مرزا محمود اور ظفر اللہ گورنر پنجاب کے سامنے اپنے وعدے یاد کراتے رہے۔ مگر اس نے بھی اپنی لا چاری کا اظہار کیا تو نہایت حسرت و یاس کے ساتھ وہاں سے نکلے اور لاہور آ کر پھر نیا ربوہ اور دارالامن تلاش کرنے لگے۔ حتیٰ کہ موجودہ ربوہ کو آباد کیا۔ پھر یہاں سے بھی ایک مرکز قادیانیت اکھڑا اور مرزا طاہر نہایت حسرت سے تیسرا ربوہ تلاش کرنے لندن براجمان ہو گیا۔ اب وہاں سے گروگنیش کی طرح کہیں آگے جانے کا پروگرام ہے۔ چونکہ یہ سب تماشا اور ڈرامہ تھا یہ خدائی پیغام اور پروگرام نہ تھا۔ لہذا قدم قدم پر اجڑتا اور ناکام ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک موقع پر کشمیر کے متعلق بھی کہہ دیا کہ: ”وآوینا ہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین“ مگر سب بکواس ہی ثابت ہوا اور ادھر مکہ مکرمہ شروع سے ہی دارالامن ہے اور آج تک بلکہ قیامت تک دارالامن ہی رہے گا۔ اے احمق! تم اتنی عظیم صداقت دیکھ کر بھی متنبہ نہ ہوئے۔ تف ہے تم پر۔ لعنت ہے تم پر۔ واقعی تمہارا یہی انجام ہونا چاہئے تھا۔ جو ہو چکا ہے۔

تو اب اس رونے دھونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اب تلافی و تدارک کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ حضرات یہ اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت ہے اور اس کی مشیت کا معاملہ ہے۔ ہدایت و ضلالت کی تقسیم اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ آخر وہ خالق ہے وہ صانع ہے تو مخلوق اور مصنوع کو مالک پر اعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہ ہوا؟ وہ چاہے صدیق و فاروق کو امت کا پیشوا بنادے اور ابو جہل اور ابولہب کو جو کہ اسی قریش ہی کے فرد تھے جنہم کا ایندھن بنادے اور پھر ابو جہل

کے فرزند کو مدت تک اسلام کے خلاف برسرِ پیکار رہنے کے بعد آخر قبول فرمالے اور دولتِ ایمان سے عکرمہٴ بہرہ ور کر کے جنت الفردوس کا باسی بنادے۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے۔ طبقہ صحابہؓ میں ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھو ابولہب کفر کا سرغنہ مگر اللہ کریم اسی کے گھر سے اس کی بیٹی درہ کو دامنِ مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ کر کے بہشت بریں کا وارث بنادیا۔ ابو جہل کے فرزند کو حضرت عکرمہؓ بنادیا۔ اس کی حکمتوں اور قدرتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟

ادھر دیکھو! میری پہلی بیوی اور اس کی اولاد کا مسئلہ کہ وہ میرے مکر و فریب سے بچ کر کامیاب ہو گئے اور دوسری بیوی اور اس کی تمام اولاد میرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ میری مریدوں کی صف میں آنے والوں میں پھر کئی خوش نصیب افراد دوبارہ واپس اسلام میں چلے گئے۔ دیکھو عبدالکریم ناقد۔ لال حسین اختر جس پر میرے محمود کو بڑا فخر تھا کہ یہ بڑا لائق مبلغ ہے۔ کسی کی دال گلنے نہیں دیتا۔ مگر اس کی قسمت اچھی تھی دوبارہ خادمِ اسلام بن گیا اور ہماری ہی مرمت کرنے لگا۔ ادھر نصرت جہاں بیگم اچھی بھلی تھی۔ بس قسمت نے پلٹا دکھایا تو میرے جال میں پھنس کر آج جہنم میں جل رہی ہے۔ جب کہ وہ محمدی بیگم کے متعلق میں نے لاکھ جتن کئے مگر وہ میرے قابو نہ آ سکی اور آج جنت الفردوس میں بہاریں لوٹ رہی ہے۔ او محمدی بیگم! تو کتنی خوش نصیب نکلی۔ تجھ پر خدا کا کیسا فضل سایہ فلکں رہا کہ تو میرے چنگل سے بچ گئی، میں نے لاکھوں ہاتھ پاؤں مارے مگر تیرے بخت نہایت بیدار تھے۔ تیرا متاعِ ایمان شیطانی حملے سے بالکل محفوظ رہا اور میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ آہ محمدی بیگم! تو دنیا میں بھی میرے لئے سوہانِ روح بنی رہی اور یہاں بھی تیرا تصور میرے لئے ڈبل جہنم بنا ہوا ہے۔ مگر پھر مجھے اس تصور سے کچھ مسرت اور سکون بھی ہو رہا ہے کہ تو نصرت جہاں بیگم کی طرح میرے ساتھ نارجم کا ایندھن نہ بنی۔ بلکہ تیرے مالکِ حقیقی نے تجھے اپنے فضل و کرم سے شقاوت سے بچا کر سعادت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ تیری قسمت اور بخت اچھے نکلے اور تو بھی میری حرمت کی طرح آج خلد بریں کی بہاریں لوٹ رہی ہے۔ میں نے دنیا ہی میں عیش و عشرت کے مزے لوٹے۔ نصرت نے بھی میرے ساتھ دنیا کی ہر راحت اور نعمت سے لطف اٹھایا۔ مگر آج ہم دونوں دائمی محرومیوں اور دکھوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ او محمدی بیگم مجھے حرمت اور تیری قسمت پر انتہائی رشک آ رہا ہے کہ تم آج جنتی حوریں بنی بیٹھی ہو اور میں دروغہ جہنم کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہمہ قسم کی تکالیف اور دکھوں میں سلگ رہا ہوں۔ دنیا کے ٹانک وائٹن اور یا قوتیوں کے عوض آج غساق و جمیم اور ضریح و زقوم سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔

ہائے میری قسمت، ہائے میری بدبختی! کاش میری ماں چراغِ بی بی مجھے نہ جنتی، کاش

میں بھی اپنی بہن جنت کے ساتھ اسی وقت مر گیا ہوتا۔ ”اللہم انی ادعوا ثبورا“  
میرے مولیٰ کریم! تو کتنا عظیم ہے تو کتنا عظیم ہے۔ مولیٰ تو نے ہدایت و اضلال کا کتنا  
عجیب نظام مرتب کر رکھا ہے۔ میرے مولائے حقیقی تو نے آزر کے گھر موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام پیدا  
کر دیا۔ تو نے نوح کے ہاں کنعان پیدا کر دیا اور تو نے ہی ابولہب کے گھر درہ اور ابو جہل کے ہاں عکرمہ  
بھی پیدا کیا تھا۔ مولا کہیں میری پیدائش بھی سعادت کے دائرہ میں کر دیتا تو تجھے کیا فرق پڑ جاتا؟

میرے مولیٰ کریم! تو نے مکہ اور عرب کے جدی مشرکوں کے ہاں صحابہ کرامؓ کی مقدس  
ترین جماعت کو پیدا فرما کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ تو مجھ پر بھی اپنی رحمت کا کوئی قطرہ  
انڈیل دیتا۔ مولا تو کتنا عظیم ہے تیری قدرت سے کیا بعید تھا تو تو علیؑ کل شئیٰ قدر ہے۔ تو نے فرعون  
کے نامی گرامی اور کافر ترین جادو گروں کو صرف موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی ایک جھلک دکھا کر  
”القی السحرة ساجدين“ کا ایمان افروز منظر دکھا دیا۔ مجھے بھی سعادت پر قائم رکھتا تو تیری  
قدرت سے کیا بعید تھا۔ مولیٰ تو نے مدینہ کے اوس و خزرج کو ظلمت کفر سے چند لمحوں میں نکال کر نور  
ایمان سے منور کر دیا تو مجھ جیسے عبد ضعیف کو بھی راہ ہدایت پر قائم رکھ لیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا۔ اے  
مولیٰ حقیقی تو جہش سے بلال کو روم سے صہیب کو یمن سے ابو ہریرہؓ اور خدا جانے کس کس کو کہاں  
کہاں سے لا کر اپنے حبیب کریم ﷺ کی جھولی میں ڈالتا رہا تو مولیٰ مجھے بھی اگر آپؐ ہی سے  
وابستہ رہنے دیتا تو تیرا کیا بگڑتا تھا؟ مولیٰ کریم ہائے میری بد نصیبی، ہائے تیری قہری تجلی جو مجھے تباہ  
کر گئی۔ اے میرے پروردگار تو نے ہر زمانہ میں ہزاروں لاکھوں کو کفر و ضلالت سے نکال کر نور  
ہدایت میں لایا۔ مولیٰ اگر مجھے بھی سابقہ ہدایت پر قائم رہنے دیتا تو کیا حرج تھا۔ میرے مولیٰ،  
میرے مالک تیری حکمتیں نہایت عمیق ہیں۔ بندہ کیا اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے۔ مگر ہمارے  
محدود ذہن میں یہ الجھن رہتی ہے کہ ایک طرف سرکش باغیوں کو نوازا جا رہا ہے اور دوسری طرف  
مجھ جیسے کمزور ناقص فرماں برداروں کو اپنی جناب سے دھکیلا بھی جا رہا ہے۔ ”فاللہم لا تسئل  
عما تفعل“ پھر گریہ و زاری کا شور مٹھتا ہے۔ اچانک الہی اعلان ہوتا ہے۔ ”اخشو فیہا  
ولا تکلمون“ کچھ دیر بعد پھر ایک دھیمی سی آہوں اور سسکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے۔  
اچھا میرے پیارے جانثارو! اب اس اجلاس اور اجتماع کو ختم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کافی وقت گزر چکا  
ہے۔ اب تو سواء ”علینا اجز عنا ام صبرنا مالنا من محیص“ پھر ایک طرف سے  
ابلیس پورے زور سے چیختا ہے۔ میرے غلام احمدؑ کی جے۔ کرشن اوتار کی جے۔ مرزا ایت کی جے۔  
میرے دل دا جانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی، کفر و دجل کی نشانی، مرزا قادیانی،

الحمد لله الذي جعل في كتابه  
سبحانك يا ذا الجلال والإكرام  
سبحانك يا ذا الجلال والإكرام

# پنجابی نبوت کے کرشمے

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ



## پنجابی نبوت کے کرشمے

### پیش لفظ!

بسم الله الرحمن الرحيم!

”الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الكائنات  
وخاتم النبيين وعلى آله وعلى اصحابه الطاهرين . اما بعد قال الله تعالى  
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً“

برادران اسلام! قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ آخر الزمان ﷺ پر سب سے آخری نمبر  
پر بموقع حجتہ الوداع بمقام عرفہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے اکمال دین  
اور اتمام نعمت اور پسندیدگی اسلام کا اعلان فرمایا۔ لہذا اس کے بعد نہ کوئی دین نہ کوئی کتاب نہ کوئی  
نبی آئے گا۔ ان میں سے کسی چیز کی قیامت تک مطلق ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ نبی اور نئے دین  
کی ضرورت دو وجہ سے ہوتی ہے یا تو سابقہ نبی کا دین مکمل نہ ہو یا اس میں تحریف ہو چکی ہو۔ اسلام  
میں دونوں احتمال مرتفع ہیں۔ دین کی تکمیل نہی۔ پہلے تحریف سے حفاظت بھی سنئے۔ ”انا نحن  
نزلنا الذكر وانا له لحافظون (حج: ۹۰)“ ہم نے اس نصیحت (قرآن) کو اتارا ہے اور  
ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لہذا اس دین اسلام کی ایک ایک جزئی اور ایک ایک حکم قیامت تک محفوظ  
رہے گا۔ مگر بہت سے دجالوں نے ان حتمی عقیدوں میں خلل اندازی کرتے ہوئے کسی نے نبوت  
کا دعویٰ کیا کسی نے مہدویت کا تو کسی نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا۔ مگر خاتم الدجالین قادیانی سب  
کے جامع ہوئے۔ اس کے حالات و وزمانوں میں منقسم ہیں۔ ایک قبل از مرقا دوسرا بعد از مرقا  
دیا بھڑ لیا۔

جب دوسرا دور شروع ہوا تو عجیب دعاوی بتدریج ظاہر کرنے شروع کئے۔ پہلے  
محدثیت کا دعویٰ کیا ملاحظہ ہو۔

”میں نبی نہیں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اس کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی

تجدید کروں۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، خزائن ج ۵ ص ۱۵۱)

..... ”مٹیل مسیح ہونے کا دعویٰ مجھے تو صرف مٹیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔“

(تلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۱، ازالہ اوہام ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

۲..... دلالت اور مجددیت کا دعویٰ: ”مجھے صرف دلالت اور مجددیت کا دعویٰ

(تخلیف رسالت ج ۶ ص ۲۸۲)

” ہے۔

۳..... عین مسیح ہونے کا دعویٰ: ”مجھے اس خدا کی قسم ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے۔

جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے۔ اس نے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے۔“ (تخلیف رسالت ج ۱۰ ص ۱۸)

۴..... اُمّی نبی ہونے کا دعویٰ: ”اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا ہے۔

مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے اُمّی۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳)

۵..... ختم نبوت کا اقرار: ”بدی نبوت مسئلہ کذاب کا بھائی ہے۔“

(انجام آختم ص ۲۸، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

”میں ان تمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت

جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت

ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے بدی نبوت و رسالت کو کذاب

اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدمی صلی اللہ سے شروع ہوئی اور رسول

اللہ ﷺ پر ختم ہو گئی۔“ (تخلیف رسالت ج ۲ ص ۲۸)

۶..... بروزی نبوت: ”اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ

کے میرے آئینہ ظلمت میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحدہ طور پر نبوت

کا دعویٰ کیا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۴)

۷..... ختم نبوت کا انکار: خاتم النبیین کے بارے میں مرزا قادیانی نے فرمایا کہ:

”خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر

لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کی مہر

اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔“ (اس کا جواب)

”اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی۔ یعنی جس طرح میں نے ابھی بتایا۔ میرے ساتھ

ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے لگی اور بعد میں میں نکلا اور میرے

بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی اولاد نہ ہوئی اور میں ان کے ہاں خاتم الاولاد ہوں۔“

(تریاق القلوب ص ۱۵۷، خزائن ج ۱۵ ص ۱۷۹)

کیا اس کی مہر لگانے سے اس کے بہن بھائی پیدا ہوتے۔ مکمل تشریح خود کر لیں۔  
 ۸..... حقیقی نبوت کا دعویٰ: ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“ (دفع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) ”میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گذرے ہیں۔ جنہیں تم لوگ سچا جانتے ہو۔“ (اخبار الفضل ص ۱۸) ”پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“ (حقیقت النبوت ص ۱۷۴) ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷)

آدم نیز احمد مختار  
 دربرم جامہ ہمہ ابرار  
 آنچہ داد است ہر نبی راجام  
 داد آن جام رامرا اتمام

(نزل المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۱۷۷)

۹..... خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ: ”ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔ آئندہ کا حال پردہ غیب میں ہے۔“ (حقیقت النبوة ص ۱۳۸) ”آنحضرت ﷺ کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔“ (تشیذ الاذہان ج ۱۲ ص ۱۱، ماہ اگست ۱۹۱۷ء) ”خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ﷺ نے مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا اور تمام نبیوں نے اس (مرزا قادیانی) کی تعریف کی۔“ (نزل مسیح ص ۱۸، خزائن ج ۱۸ ص ۳۲۶)

۱۰..... عین محمد ہونے کا دعویٰ: ”من فرق بینی وبين المصطفى فما عرفنی وما رائی“ جس نے میرے اور محمدؐ کے درمیان فرق کیا۔ پس اس نے مجھے نہ دیکھا اور نہ پہچانا۔ (خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، خزائن ج ۱۶ ص ۱۶۶ ایضاً)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں  
 اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں  
 محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل  
 غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار البدن نمبر ۴۳ ج ۲ ص ۱۳)

”پس اس خدا تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے ایک گذشتہ نبی سے تشبیہ دی۔ میرا نام وہی رکھ دیا۔ چنانچہ آدم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یوسف، عیسیٰ وغیرہ یہ تمام نام میرے رکھے گئے۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔“ (نزول اسح ص ۴، خزائن ج ۸ ص ۳۸۲) ”خدا کے نزدیک اس (مرزا قادیانی) کا نزول مصطفیٰ ﷺ کا ظہور مانا گیا ہے۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۲۰۰) ”جو کوئی میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً) ”ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی کے تھا۔ جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است وعین محمد است۔“ (مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۱۵ء) ”اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت (اسمہ احمد) کے مصداق مرزا قادیانی ہیں۔“ (انوار خلافت ص ۲۱)

۱۱..... ختم المرسلین سے بھی فوقیت: ”اس (نبی کریم ﷺ) کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔“ (اعجاز احمدی ص ۱۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) ”غلبہ کاملہ حضور ﷺ کے زمانہ میں دین اسلام کو نہیں ہوا۔ یہ غلبہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔“ (چشمہ معرفت ص ۸۳، خزائن ج ۲۳ ص ۹۱) ”آنحضرت ﷺ کے تین ہزار معجزات“ (تحفہ گوڑویہ ص ۴۱، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳) ”مگر مرزا قادیانی کے دس لاکھ نشان“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۴۱، خزائن ج ۲۰ ص ۴۳) ”آنحضرت ﷺ کے وقت دین کی حالت پہلی رات کے چاند کی طرح تھی۔ مگر مرزا قادیانی کے وقت چودھویں رات کے بدر کامل جیسی ہوگی۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۲۷۵، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً) ”خدا نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھائے کہ اگر وہ ایک ہزار نبی پر تقسیم کئے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

انبیاء گرچہ بود ند بے  
من بعرقان نہ کم ترم ز کسے  
آنچه دادست ہر نبی را جام  
داد آن جام را مرا بہ تمام  
کم ینم زان ہمہ بروئے یقین  
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول اسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷، ۴۷۸)

”مرزا قادیانی نبی تھے۔ آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم ﷺ کے شاگرد اور آپ کا غل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے سب سے بڑے ہوں۔“  
(الفضل ج ۱۴ نمبر ۸۵)

زندہ شد ہر نبی بہ آدم  
ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم  
(نزل المسح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۸)

اور یہ کہ۔  
میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں  
نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۱ ص ۱۳۳)

.....۱۲..... خدائی دعوے:

دستخط قادر مطلق تیری مسلموں پہ کرے  
اللہ اللہ یہ تیری شان رسول قدنی  
آسمان وزمین نئے تو نے بنائے  
تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی

(اخبار الفضل ج ۱۰ نمبر ۳۰)

(۱)..... ”خدا کی مانند۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۵، حاشیہ، خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۳)

(۲)..... ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں

وہی ہوں۔“ (آئینہ کمالات ص ۵۶۴، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

(۳)..... ”أنت منی بمنزلة اولادی“ اے مرزا تو مجھ سے میری اولاد جیسا

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۲ حاشیہ) ہے۔

(۴)..... ”أعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال“ مجھے خدا کی

طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔

(خطبہ البہامیہ ص ۵۵، ۵۶، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً)

(۵)..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہام کیا کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا۔

”کمان اللہ نزل من السماء“ گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر ا۔ (ازالہ ص ۱۵۶، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰) ۱۳..... عورت ہونے کا دعویٰ: ”بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی اور بیماری پر اطلاع پائے تجھ میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ (حیض) بچہ ہو گیا جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔“ (تمہ حقیقت الوحی ص ۱۴۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

”میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“ (کشتی نوح ص ۴۶، ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد اپنے (ٹریک نمبر ۳۴ موسومہ اسلامی قربانی ص ۱۱) میں لکھتا ہے کہ: ”مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح ہوئی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔“

۱۴..... مرزا کے منکر کافر نہیں: ”ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔“ (تربیۃ القلوب ص ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲) ۱۵..... مرزا قادیانی کے منکر کافر ہیں: ”اے مرزا جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدا رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۵)

”ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاء کم به حتی اذا هلك قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا (مؤمن: ۲۴)“ یعنی (اے اللہ والو) تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے روشن دلائل لے کر آئے۔ پس تم نے اس میں شک کیا۔ (جو کچھ وہ لائے) حتیٰ کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کفار مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کو ختم جانتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کفار کا ہے اور جو نبوت کو بند جانے وہ کافر ہے۔

الجواب: یہ ان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے تھے۔ جیسا کہ: ”فما زلتم فی شک“ سے ظاہر ہے۔ انہوں نے از روئے کفر کہا تھا کہ حضرت یوسف فوت ہو گئے ہیں تو چھکارا ہوا۔ اب خدا کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ قول کفار سے کفار ہی استدلال کر سکتے ہیں اور یہ کفار پر ہی حجت ہو سکتا ہے۔

## عدالتی کارنامے

مزم نمبر ۱: (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال دہ تحریات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو غالباً امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ ہجو قسم نقص امن والے فعلوں سے باز رہے گا۔

(فیصلہ جی۔ ڈی کھوسلہ)

عدالت کا بیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعاً گندہ دہان ہونے میں مشہور تھے اور اس سے پہلے دو عدالتیں انہیں روک چکی ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود راقم ہیں۔ ”ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے یہ عہد کر لیا ہے کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لوں گا۔“

(اشتہار ۳ دسمبر ۱۸۹۷ء)

## خود کاشتہ پودا

”اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔“

(کتاب البریہ درخواست بخسور نواب یفٹینٹ گورنر بہادر دام اقبالہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۳۵۰)

## موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی توہین

”میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موسیٰ و عیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود

(مرزا قادیانی) کی ضرورت اتباع کرنی پڑتی۔“

(کلمۃ الفضل)

## مسیح آنے کا اقرار

”هو الذی ارسل رسوله بالهدی یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر

حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ مسیح کے

ذریعے ظہور میں آئے گا۔ مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کے ہاتھ سے اسلام جمع

آفاق میں پھیل جائے گا۔“ (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، ۳۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۲، ۵۹۳ حاشیہ)

”جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لئے قہر اور سختی کو استعمال کرے گا اور حضرت مسیح علیہ

السلام جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں کو صاف کر دیں گے۔ کج اور ناراست کا

نام و نشان نہ رہے گا اور جلال الہی مگر ابھی کو نیست و نابود کر دے گا۔ مگر یہ میرا زمانہ اس زمانہ کے

لئے بطور ارہاس واقع ہوا۔“ (براہین احمدیہ ص ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۶۰۱)

۱۷..... متوفی کا معنی: ”رات کو عجیب الہام ہوا اور وہ یہ ہے۔“ قبل نصیفک

انسی متوفیک قبل لا خیک انسی متوفیک ”یہ الہام بھی چند مرتبہ ہوا۔ اس کے معنی بھی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم پر اتمام نعت کروں گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں فوت کروں گا۔ معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ اس قسم کے تعلقات کے کم و بیش کئی لوگ ہیں۔ اس عاجز پر اس قسم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وارد ہوتے رہتے ہیں۔“ (حیات احمد ج ۲ ص ۲۷۲ نمبر ۲)

۱۸..... تمام نبیوں کا جامع: ”آنحضرت ﷺ کا ایک فردا وڑواحد وجود ایسا بھی ہوگا

جو آپ کی اتباع سے تمام انبیاء کا واحد مظہر اور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ ظاہر ہوگا اور حسب ذیل کلام سے اپنے نطق حقیقت کو بیان فرمائے تو کچھ خلاف نہ ہوگا۔“

زندہ شد ہر نبی بہ آمدنم

ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم

(نزل المسح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۷۸)

اور یہ کہ۔

میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

(برائین احمد یہ حصہ پنجم ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۱ ص ۱۳۳)

۱۹..... کرشن کا دعویٰ: ”دودفعہ ہم نے روڈیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے

سامنے سجدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں اور کرشن ہیں اور پھر ہمارے

سامنے نظریں رکھتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ الہام ہوا۔ ”ہے کرشن رو در گو پال تیری مہما ہو۔ تیری اشتی

گیتا میں موجود ہے۔“ (ملفوظات ج ۳ ص ۲۷۱)

۲۰..... حیات موسیٰ: ”عیسیٰ صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہے اور وہ اس

نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پر دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھیں۔ یہاں تک کہ اپنی

والدہ کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا۔ کیا یہ

وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم

اس بات پر ایمان لا دیں کہ وہ زندہ ہے اور آسمان پر موجود ہے۔“ ولم یمت ولیس من

المیتین ”وہ مردوں میں سے نہیں۔ مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ سو ہم



نے اس خیال کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ ہم قرآن میں بغیر وفات عیسیٰ کے کچھ ذکر نہیں پاتے۔“

(نور الحق ص ۵۰، ۵۱)

احمدی دوستو! جہاں آنحضرت ﷺ کے پہلے انبیاء سے موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں مہربانی کر کے مسیح کو بھی سمجھ لیجئے۔

۲۱..... مرزا پر درود کی فرضیت: ”آپ پر درود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود پر (مرزا قادیانی) درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آنحضرت ﷺ پر۔“ (رسالہ درود شریف ص ۲۲۳)

۲۲..... چشم نیم باز: ”مولوی شیر علی بیان کرتے ہیں کہ باہر مردوں میں بھی حضرت (مرزا قادیانی) کی یہ عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتیں۔ ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ اچھی تصویر اچھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف سے آنکھیں کچھ زیادہ کھولیں۔ مگر وہ پھر بند ہو گئیں۔“ (سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۷۷)

۲۳..... بدزبانی: ”قادیان میں ایک بدگو مخالف آیا ہوا تھا۔ جس نے حضرت (مرزا قادیانی) کے خدام میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا۔ جو اس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔ جب اس امر کی حضرت (مرزا قادیانی) کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا ایسے خبیث مفسد کو اتنی عزت نہیں دینی چاہئے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات چیت کرے۔“ (ملفوظات احمدیہ حصہ چہارم ص ۱۳۵)

۲۴..... مرزا کی وحی: ”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات انجیل اور قرآن کریم پر۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۰، خزائن ج ۱ ص ۲۵۴)

اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہو اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔“

(ضمیمہ تحفہ گلزدیہ ص ۱۰، خزائن ج ۱ ص ۵۱ حاشیہ)

۲۵..... آخری وحی: ”مرزا قادیانی ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء کو لاہور تشریف لے گئے۔

اس روز بوقت ۴ بجے صبح آپ پر یہ وحی ہوئی۔ ”مباش ایمن از بازی روزگار“ اس کے بعد قادیان میں کوئی موقع نہ ملا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ اس لئے قادیان میں آخری وحی تھی۔“

(اخبار الحکم قادیان خاص نمبر مؤرخہ ۲۱ مئی ۱۹۳۳ء، تذکرہ ص ۱۵۴)

۲۶..... وحی کی بھرمار: مرزا قادیانی پر نماز میں جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ بیتاب ہو کر اندر چلے جاتے۔ (رسالہ دگداز لکھنؤ بابت مارچ ۱۹۱۶ء)

۲۷..... قرآن وحدیث: ”اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہو اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔“ (ضمیمہ تحفہ گوڑویہ ص ۱۰، خزائن ج ۱ ص ۵۱ حاشیہ)

۲۸..... ہندو عورتوں سے نکاح جائز: ”ہندوستان میں ایسی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے۔ بہت کم ہیں۔ کثرت ایسے لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ پر عمل کرنے میں زیادہ دقتیں نہیں۔ سوائے سکھوں اور جینیوں کے عیسائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔“ (اخبار الفضل ج ۱۷ نمبر ۶۵، مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۰ء)

۲۹..... بوٹ کا تحفہ: ”ایک دفعہ ایک شخص نے بوٹ تحفہ میں پیش کیا آپ نے (مرزا قادیانی) نے اس کی خاطر سے پہن لیا۔ مگر اس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر اس غلطی سے بچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پر سیاہی کا نشان لگانا پڑا۔“

(منکرین خلافت کا انجام ص ۹۶)

۳۰..... نزول جبرائیل: ”اور چونکہ حضرت احمد (مرزا قادیانی) بھی نبی اور رسول تھے اور آپ پر اعلیٰ درجہ کی وحی کے ساتھ فرشتہ ضرور آتا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس فرشتہ کا نام تک بتا دیا ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہی ہے۔“ (النہو فی الہام نمبر ۵، ۶، ۷)

۳۱..... دیگر فرشتے: پیچی ٹیچی۔ (حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲۲ ص ۳۴۶)

خیراتی، شیرعلی۔ (تزیین القلوب ص ۹۴، ۹۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱، ۳۵۲)

۳۲..... قادیان کا قرآن: ”خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگا۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۷)

۳۳..... حج: ”اس جگہ نقلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ (یعنی قادیان میں) اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر کیوں کہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۵۲، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

۳۴..... مرزا کی نئی شریعت: یعنی تشریحی نبی ہونے کا دعویٰ۔ ”یہ بھی تو سمجھ کہ شریعت

کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر ونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا پس میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے۔ اس میں امر ونہی دونوں ہیں۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۴۳۵)

۳۵..... دو بیماریاں: ”مجھے دو مرض دامن گیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں۔ یعنی سردرد اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پاؤں سرد ہو جانا۔ نبض کم ہو جانا اور دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ کثرت پیشاب اور اکثر دست آتے رہنا۔ دونوں بیماریاں قریب تیس برس کے ہیں۔“ (نسیم دعوت ص ۷۰، خزائن ج ۱۹ ص ۴۳۵)

۳۶..... حرمت جہاد:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال  
اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے  
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے  
دشمن ہے خدا کا کرتا ہے جواب جہاد

دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال  
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے  
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے  
منکر ہے نبی کا جو رکھتا ہے یہ اعتقاد

(ضمیمہ تحفہ گلزوئیہ ص ۲۶، خزائن ج ۷ ص ۷۷)

۳۷..... قادیانی رنگروٹ: ”جو گورنمنٹ ایسی مہربان ہو اس کی جس قدر بھی فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن بنتا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والیٹر ہو کر جنگ یورپ میں چلا جاتا۔“ (انوار خلافت ص ۹۶)

۳۸..... اصل حقیقت: ”قول مرزا! میں ایک دائم المریض آدمی ہوں۔ ہمیشہ درد سر اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنگی دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال ہیں۔“ (ضمیمہ اربعین نمبر ۳ ص ۴، خزائن ج ۷ ص ۷۷، ۷۸)

”مریض کے اکثر اوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“ (اکسیر اعظم ج ۱ ص ۱۸۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن  
معلمًا للناس في كل شيء

القول الارشد في تفسير اسمہ احمد  
المعروف به

مرزا نیوں کو احمدی کہنا  
زبردست کفر ہے

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعودؒ

## القول الارشد فی تفسیر اسمہ احمد

المعروف بہ

### مرزا یوں کو احمدی کہنا زبردست کفر ہے

”الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ولا رسول بعده ولا امة بعده اما بعد . فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصداق لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (الصف: ٦)“ ﴿اور وہ (وقت یاد کرو) جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اسے بنی اسرائیل (یہود) میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب توراة کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول ﷺ کی بشارت سنانے والا ہوں۔ جن کا اسم گرامی احمد (ﷺ) ہوگا۔ پس جب وہ رسول معظمؑ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔﴾

ناظرین کرام! اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس عظیم الشان رسول ﷺ کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ از روئے قرآن وحدیث، سیرت وتاریخ وتفسیر اور بائبل حضرت ختم الانبیاء محمد ﷺ ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا آخری حصہ ”فلما جاءهم“ اور اس سے اگلی آیات بھی اس پر واضح دلیل ہیں۔

..... خود سید المرسلین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”ساخبرکم باول امری دعوة ابراهيم وبشارة عيسى (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، باب فضائل سید المرسلین ﷺ)“ یعنی میں تمہیں اپنے ابتدائی معاملہ سے مطلع اور آگاہ کرتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء ”ربنا وابعث فیہم رسولا (البقرہ: ۱۲۹)“ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت (آیت مذکورہ بالا) کا مصداق ہوں۔ (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۳۳۲، مسند امام احمد)

۲..... فرمایا کہ: ”دعوة ابراهيم وبشرى عيسى (تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۳۴۲، ابن سعد)“

۳..... فرمایا کہ: ”قد بشر بی عیسیٰ بن مریم ان یتیکم رسول

اسمہ احمد (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۳۱، درمنثور ج ۱ ص ۹۱) ”بلاشبہ میری بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔

۴..... حضرت جبیر بن مطعمؓ اپنے والد مطعمؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ: ”ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدہ (رواہ البخاری ج ۱ ص ۵۰۱، باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ، ج ۲

ص ۷۲۷، باب یأتی من اسمہ احمد، مسلم ج ۲ ص ۲۶۱، باب فی اسماء ﷺ، روی الترمذی وانا العاقب لا نبی بعدی ج ۲ ص ۱۱۱، باب ماجاء فی اسماء رسول ﷺ) ”فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ یعنی وہ ہستی کہ جس کے ذریعہ اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا۔ یعنی میرے بعد قیامت آجائے گی اور میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا۔ (کما قال بعثت انا والساعۃ کھا تین) اور میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی بھی نبی نہ ہوگا۔

۵..... فتح الباری شرح بخاری لابن حجر العسقلانی (جز ۱ ص ۳۱۲) میں ہے کہ: ”قیل

سمی احمد لا نہ ہو اسم علم منقول من الصفة (للکرمانی ج ۶ ص ۱۷) ”یعنی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ کیونکہ یہ اسم علم (ذاتی نام) ہے جو صیغہ صفت سے بنا ہے۔

۶..... آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کی اولاد دکھائی تو وہ ایک دوسرے کی فضیلت اور برتری ملاحظہ فرمانے لگے تو سب کے آخر میں ایک پیکر نور ہستی دیکھی۔ کہا کہ اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تیرا فرزند احمد (ﷺ) ہے جو خلق میں اوّل اور بعثت میں آخر ہوگا۔ وہی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (کنز العمال بحوالہ ابن عساکر)

۷..... ”انا دعوة ابراهيم وكان اخر من بشر بی عیسیٰ بن مریم

(کنز العمال ج ۱۱ ص ۳۸۴، حدیث نمبر ۳۱۸۳، بحوالہ القول الممجذ از احسن امروہی مرزائی لاہوری ص ۳۷)“

۸..... ”قال ان اللہ اعطانی حظالم یعط احد قبلی سمیت احمد

(الحديث رواه الحكيم عن ابي بن كعب بحواله القول المجدد ص ۳۶) ”فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ شان دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ میرا نام احمد رکھا گیا۔“

۹..... ”عن ابي موسى الاشعري قال كان رسول الله ﷺ يسمي لنا اسماء فقال انا محمد وانا احمد (مشکوٰۃ ص ۵۱۵، مسلم ج ۲ ص ۲۶۱)“ حضرت ابو موسیٰؓ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے اپنی ذات مقدسہ کے کئی نام لیتے تھے۔ فرماتے کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔

۱۰..... ”اخرج ابو نعيم وغيره عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم قال قيل لموسى عليه السلام يا موسى انما مثل كتاب احمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضة اخرجت زبدته“ (القول المجدد ص ۴۱) حافظ ابو نعیم وغیرہ نے عبدالرحمن بن زیاد سے نقل کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جناب احمد کی مثال دوسری کتب کی بہ نسبت ایک ایسے برتن کی ہے جس میں دودھ ہو۔ جب بھی تو اسے بلوئے تو اس کا مکھن نکالے گا۔ یعنی جتنا بھی اس میں غور و فکر کیا جائے نت نئے معانی اور اسرار برآمد ہوں گے۔

۱۱..... ”عن كعب ان الحواريين قالوا يا عيسى روح الله هل بعدنا من امة قال نعم امة احمد حكماء علماء ابرار اتقياء كانهم من الفقه انبياء يرضون عن الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل (كشاف تحت هذه الامة، القول المجدد ص ۴۲، از احسن امروہی مرزائی)“ کعب احبارؓ سے منقول ہے کہ حواریوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا، اے روح اللہ کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہوگی تو فرمایا ہاں امتہ احمد ہوگی۔ وہ بڑے دانا، عالم، نیکو کار، تقویٰ شعار، گویا وہ فقاہت میں انبیاء علیہم السلام ہیں۔ وہ خدا کی تقسیم کردہ قلیل روزی پر راضی رہیں گے اور اللہ بھی ان سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔

۱۲..... ”اخرج ابن ابي حاتم عن عمرو بن مرة قال خمسة سموا قبل ان يكونوا محمد ﷺ ومبشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد ويحي انا نبشرك بغلام اسمه يحيى وعيسى مصدقا بكلمة من الله واسحاق يعقوب فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (قال الراغب وخص لفظ احمد فيما بشر به عيسى تنبيها على انه احمد منه)“

۱۳..... ”واخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس لم یکن من الانبیاء علیہم السلام من له اسمان الا عیسیٰ ومحمد ﷺ (الاتقان للسیوطی ج ۲ ص ۲۳۸) ”بن ابی حاتم عمرو بن مرثد سے نقل کرتے ہیں کہ پانچ رسولوں کے نام ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، محمد ﷺ!

(۱)..... جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ”ومبشرا برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد“ (صف: ۶)“

(۲)..... حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے متعلق بھی فرمان الہی ہے۔ ”انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ (مریم: ۷)“ یعنی ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔

(۳)..... ”یحییٰ مصدقا بکلمة من اللہ (آل عمران: ۳۹)“ یعنی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا خدا کے کلام کی۔

(۴)..... حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام فرمایا: ”فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب (ہود: ۷۱)“

۱۴..... مکہ مکرمہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ جس رات سید دوعا علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ ”فقال یا معشر یہود طلع نجم احمد الذی یولد فی هذه الليلة (رواہ البیہقی وابو نعیم، القول ص ۶۶)“ یعنی اے گروہ! یہود، اس احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ جو اس رات پیدا ہوا۔

۱۵..... امام محمد باقر حضرت علیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”سمیت احمد“ یعنی میرا نام احمد رکھا گیا تھا۔ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۸۳، باب ذکر اسماء الرسول ﷺ وکنیتہ)

۱۶..... حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب چارود مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس ذات الہی کی قسم جس نے محمد ﷺ کو حق دے کر بھیجا۔ میں نے آپ کی صفت و ثناء انجیل میں دیکھی مریم، بتول علیہا السلام نے آپ کی ہی بشارت دی ہے۔

(الخصائص الکبریٰ للسیوطی ج ۱ ص ۳۵)

۱۷..... حضرت سہل مولیٰ عثمہ کہتے ہیں کہ اہل مرہ میں ایک نصرانی تھا۔ جو انجیل پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے محمد رسول اللہ ﷺ کا وصف انجیل میں ملاحظہ کیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں گے اور اسم گرامی احمد ہوگا۔

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۱ ص ۸۳، باب ذکر اسماء الرسول ﷺ وکنیتہ)



قرآن کریم کی اس بشارت میں دو لفظ قابل غور ہیں۔

”من بعدی“ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والا شخص وہی ہو جس کی آپ نے بشارت دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب بشارت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو۔ ”جس کا نام احمد ہو۔“ یہ مفہوم صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ شفاء میں قاضی عیاض اور جلال الدین سیوطی نے خصوصیات صغریٰ میں اور انسان العیون میں ابن دعلان نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد ایسا نام ہے جو خاتم الانبیاء سے قبل کسی بھی شخص کا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصداق علی وجہ یقین صرف ذات خاتم الانبیاء ہی ہے۔ دیگر کوئی نہیں۔ (رحمۃ للعالمین ج ۲ ص ۲۱۳)

ف..... بندہ حقیر اقم السطور عرض کرتا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے بھی اپنی ذات اقدس کو بشارت عیسیٰ کا مصداق قرار دیا ہے تو اس سے قادیانیوں کی تکذیب واضح ہو جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس بشارت کا مصداق مرزا قادیانی ہے۔ اس سے تو سید المرسلین ﷺ کی رسالت ہی کا انکار لازم آئے گا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت ﷺ مبعوث ہی نہیں ہوئے بلکہ مرزا آگیا ہے۔ (العیاذ باللہ لعنة اللہ علی الکاذبین)

علاوہ ازیں عہد رسالت سے لے کر آج تک۔ تمام صحابہ کرامؓ، تابعین، تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، فقہائے کرام، جملہ محدثین، مفسرین، محکمین اور اولیائے کرام اسی بات پر متفق ہیں کہ اسمہ احمد کا مصداق صرف اور صرف خاتم الانبیاء سید المرسلین ﷺ ہی ہیں۔ آپ کے سوا کوئی بھی دوسری شخصیت اس کا مصداق نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

چند تفاسیر کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

..... ”(یأتی من بعدی اسمہ احمد) واحمد

اسم نبینا ﷺ اسم علم منقول من صفته لا من فعل..... فمعنی احمد احمد الحامدین لربہ والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون للہ ونبینا احمد ای اکثرہم حمدا (ج ۱ ص ۸۳) یعنی احمد ہمارے نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی ہے اور یہ آپ کا اسم علم ہے۔ (یعنی ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں۔ ”کما قالت المرزائیہ الضالۃ“) جو کہ صفت حمدیت سے منقول ہے نہ کہ فعل سے۔ پس ”احمد“ کا معنی ہے کہ اپنے رب کی تمام تعریف کرنے والوں سے بڑھ کر تعریف کرنے والا۔ تمام انبیاء علیہم السلام تو اللہ کے حامد (تعریف کرنے والے) ہیں۔ مگر ہمارے نبی کریم ﷺ احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ پھر مفسر جلیلؒ فرماتے ہیں کہ:

پہلے آپ احمد ہیں پھر محمدؐ۔ گویا پہلے آپؐ نے اپنے رب کی تعریف کی تو اللہ نے آپؐ کو رفعت و شرف سے نوازا۔ اس لئے آپؐ کا اسم احمدؐ۔ محمدؐ سے مقدم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپؐ کا اسم گرامی احمدؐ ذکر فرمایا ہے اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اسم مبارک ذکر فرمایا ہے۔ جب کہ ایک دفعہ خداوند قدوس نے ان کو فرمایا کہ یہ تو احمد کی امت ہے تو آپؐ نے دعا فرمائی۔ ”اللہم اجعلنی من امة احمد“ یعنی اے اللہ مجھے احمد کی امت میں کر دے۔ تو پہلے احمد کا تذکرہ فرمایا پھر محمدؐ کا۔ کیونکہ تمام لوگوں سے پیشتر آپؐ نے اللہ کی تعریف کی۔ تو جب آپؐ مبعوث ہوئے تو آپؐ بالفعل (حقیقتہ) محمدؐ ہو گئے۔ اسی طرح جب آپؐ مقام شفاعت پر اپنے رب کی بے مثال تعریف کریں گے تو احمدؐ ہو جائیں گے۔ یعنی تمام کائنات سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ اس کے بعد آپؐ شفاعت فرمائیں گے تو تمام کائنات آپؐ کی تعریف کرے گی تو پھر آپؐ محمدؐ ہو جائیں گے۔ یعنی بہت ہی تعریف کئے گئے۔

ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ توراۃ میں میرا نام احید ہے۔ یعنی ہٹانے والا۔ کیونکہ میں اپنی امت کو آگ سے ہٹاتا ہوں اور زبور میں میرا نام ماحی ہے۔ یعنی اللہ میرے ذریعے سے بت پرستی مٹا دے گا اور انجیل میں میرا نام احمدؐ ہے اور قرآن میں میرا نام محمدؐ ہے۔ (علیہ السلام) کیونکہ میں آسمان وزمین والوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف اور ستائش ہوں۔ (تفسیر قرطبی ج ۱۸، ص ۸۴)

۲..... تفسیر مظہری میں ہے کہ احمدؐ غرضوہ علیہ السلام کے دو ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تمام نبی تو حامد ہیں۔ مگر آپ احمدؐ ہیں۔ یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ایسے ہی دوسرے انبیاء علیہم السلام تو محمود (قابل تعریف) ہیں۔ مگر آپ محمدؐ یعنی آپ کی تعریف سب سے بڑھ کر اور ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ (روح المعانی ج ۱۰، ص ۴۶۰)

۳..... تفسیر روح المعانی میں ہے: ”اسمہ احد، هذا الاسم الجلیل علم لبیننا علیہ السلام وعلیہ قول حسان“

صلی الالہ لہ ومن یحف بعرشہ  
والطیبون علی المبارک احمدؐ

(روح المعانی ج ۱۰، ص ۸۶)

۱۔ چونکہ باب تفعیل میں مبالغہ اور تکرار و تسلسل کا خاصہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے اسم محمدؐ میں بھی مبالغہ اور تسلسل و دوام پایا جائے گا۔

یعنی اسمہ احمد۔ یعنی جلیل الشان نام ہمارے نبی کریم ﷺ کا علم (ذاتی نام) ہے اسی پر حضرت حسان کا یہ شعر ہے۔

اللہ تعالیٰ۔ حاملین عرش۔ دیگر معصوم فرشتے اور تمام صالحین اس ذات بابرکات (خاتم الانبیاء علیہم السلام) پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جن کا اسم گرامی احمد ہے۔

اس کے بعد مفسر جلیل نے اسم احمد کی اشتقاقی تشریح بیان فرما کر توراۃ، زبور و صحف انبیاء علیہم السلام اور انجیل میں مذکور آپ کے متعلق متعدد بشارات کا ذکر فرمایا۔ خاص کر انجیل یوحنا کی فارقلیط والی بشارت عیسوی کا تفصیل اور مدلل بیان فرما کر واضح کر دیا کہ ان تمام بشارات کا حقیقی مصداق صرف سید المرسلین ﷺ ہی ہیں۔

ایسے ہی تفسیر حقانی میں تفصیلی وضاحت موجود ہے۔ ملاحظہ کیجئے تفسیر سورہ القف، مذکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اول سے لے کر آخر تک ہر ایک مفسر نے اسمہ احمد کا مصداق صرف اور صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہی کو قرار دیا ہے۔ کسی دوسری شخصیت کا امکان بھی ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ آج تک کسی بھی مسلمان کے حاشیہ خیال میں کسی دوسری ہستی کا وہم تک نہیں گذرا۔ حتیٰ کہ کئی انصاف پسند عیسائی محققین نے بھی بڑی فراغ دلی سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

۴..... تفسیر فتح المنان میں اس آیت کی تفسیر مذکور ہے کہ: ”وہو علم منقول من الصفۃ وہی تحتل ان تکون مبالغۃ من الفاعل فیکون معناہا انہ اکثر حمد اللہ غیرہ وقال الکرخی انہ لما خصہ بالذکر لانہ فی الانجیل مسمی بهذا الاسم ولانہ فی السماء احمد فذکر باسمہ السماوی لانہ احمد الناس لربی لان حمدہ لربہ بما یفتح اللہ علیہ یوم القیامۃ من المحامد قبل شفاعتہ لانہ سابق علی حمدہم للہ“ (القول المجہد ص ۴۷)

وہ (احمد) ہمارے نبی ﷺ ہیں۔ اور وہ (اسم احمد) ذاتی نام ہے جو صفۃ سے منقول ہے اور اس صفۃ میں احتمال ہے کہ وہ مبالغہ اسم فاعل سے ہی ہو۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ دوسری مخلوق سے اللہ کی زیادہ حمد و ثناء کرنے والے ہیں اور امام کرخی نے فرمایا اور جب خاص کر آپ کا اسم گرامی ذکر فرمایا تو اس لئے کہ انجیل میں آپ اسی نام سے موسوم ہیں اور اسی لئے آپ آسمان میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کا آسمانی اسم ذکر فرمایا۔ اس واسطے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بروز قیامت شفاعت سے پہلے جب آپ اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کریں گے تو اس کی بدولت آپ پر بے مثال حمد و ثناء

کے الفاظ متکشف ہوں گے۔ کیونکہ سب سے اوّل اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔  
(بحوالہ القول المجدد ص ۴۷)

۵..... امام راغب فرماتے ہیں کہ: ”قوله عزوجل ومبشرا برسول  
ياتي من بعدى اسمه احمد، فاحمد اشارة الى النبي ﷺ باسمه وفعله تنبيها  
انه كما وجد اسمه احمد، يوجد وهو محمود فى اخلاقه واحواله وخص  
لفظة احمد فيما بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم تنبيها انه احمد منه ومن  
الذين قبله (المفردات ص ۱۳۰، بحوالہ القول المجدد ص ۴۲)“

۶..... نووی اور سراج الوہاج میں ہے: ”قال ابن فارس وغيره وبه  
سمى نبينا ﷺ محمدا واحمد اللهم الله ان يسموه به مما علم من جميل صفاته  
(بحوالہ القول المجدد ص ۳۶)“

### اشعار عرب

آئمہ تاریخ کے ہاں مسلمہ اشعار عرب کی شہادت کسی واقعہ کے متعلق ایسی ہی یقینی ہے۔  
جیسا کہ آئمہ لغت کے نزدیک کسی لفظ کے استعمال کے لئے اشعار قدما کی شہادت یقینی اور قطعی ہے۔

### اشعار قبل از ولادت خیر الانام ﷺ

تبع جس کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا۔ ایک  
دفعہ اس نے یثرب (مدینہ طیبہ) پہنچ کر اوس و خزرج اور یہود سے جنگ شروع کر دی۔ اہل یثرب  
دن کو لڑتے اور رات کو اس کی مہمانی کرتے۔ تین شب تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تبع نادم ہو کر صلح  
کرنے پر آمادہ ہو گیا اور معاہدہ صلح کے لئے اجمہ بن الحلاج اوسی اور بنیامین قرظی مقرر ہوئے۔  
اجمہ تبع سے کہنے لگا کہ ہم تو آپ کی قوم کے لوگ ہیں۔ تم ہم سے کیوں لڑائی کرتے ہو۔ بنیامین  
یہودی کہنے لگے کہ آپ اس شہر کو گھسی فتح نہیں کر سکتے۔ تبع نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ شہر ایک نبی کی  
فردگاہ ہے جو قریش سے ہوگا۔ تبع نے اس پر یہ شعر پڑھا:

القی الى نصيحتي اذ دجر

عن قرية محجورة بمحمد

اس نے مجھے یہ نصیحت کی کہ میں اس آباد سے ہٹ جاؤں جو محمد کی وجہ سے محفوظ کی گئی ہے۔

شهدت على احمد انه

رسول من الله باري النسم

میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول برحق ہیں جو کہ جان آفرین ہے۔

فلو مد عمری الی عمره

لکننت وزیر آلہ و ابن عم

اگر میری عمر اس کی عمر تک لمبی ہوگئی تو میں ضرور آپ کا وزیر اور ابن عم (مددگار) بنوں گا۔

ف..... علامہ تلمسانی کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا اشعار بطور تواتر منقول ہیں اور تسلیم

کئے جاتے ہیں۔

۲..... قس بن ساعدہ بخزانی جو کہ حکمائے عرب سے تھا وہ کہتا ہے۔

الحمد لله الذی

لم یخلق الخلق عبثا

ارسل فینا احمددا

خیر نبی قد بعث

لم نحینا منه سدی

من بعدی عیش و اکثرت

صلی الله علیه وسلم

حج لہ ركب وحث

۳..... مداح خاتم المرسلین ﷺ حسان بن ثابتؓ۔

متی یبد فی اللیل البہیم جبینہ

یلح مثل مصباح الدجی المتوقد

جب شب تاریک میں اس کی پیشانی نمایاں ہوتی ہے تو چراغ روشن کی طرح چمکا

کرتی ہے۔

فمن کان او من قد یکون کا احمد

لحق او نکالاً لملحد

حق کو مستحکم کرنے اور ملحد کو رسوا کرنے میں احمد جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ یہ

شعر دیوان حسانؓ میں موجود ہیں۔

۴..... حضرت کعب بن مالکؓ بھی دربار رسالت کے ممتاز شعراء میں سے تھے وہ

کہتے ہیں۔

غداۃ اجابت باسیافہا  
 جمیعاً بنوا الاوس والخزرج  
 بوقت صبح تمام اوس و خزرج نے اپنی اپنی تلواریں سنبھال کر آنحضرت ﷺ کے فرمان کی  
 تعمیل کی۔

و اشیع احمد اذا شایعوا  
 علی الحق ذی النور والمنج  
 اشیع احمد (مہاجرین) نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ سب کے سب خاتم الانبیاء کے ساتھ  
 حق پر چلتے تھے۔

.....۵ حضرت کعب بن مالکؓ تحیر کے متعلق فرماتے ہیں۔

و نحن وردنا خیبرا و فروضہ  
 بکل فتی عاری الا شاجع ندود  
 ہم خیبر اور اس کے قلعوں تک پہنچے۔ ہمارا ہر جوان پھر تیرا اور احتیاط سے اڑنے  
 والا تھا۔

یری القتل مجدا ان اصاب شہادۃ  
 من اللہ یرجوہا وفوزا باحمد  
 ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اگر شہادت ملی تو ایسی موت خدا کے ہاں سے فضیلت  
 اور احمد کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہوگی۔ (یہ اشعار صحابہؓ نے بعد از وفات نبیؐ پڑھے)  
 شاعر اسلام حسان بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ:

لطالت وقوفا تذرف العین جہدھا  
 علی طلل الذی فیہ احمد  
 آنکھ پورے زور سے بہہ رہی ہے اور میں قبر کے اس ڈھیر پر دیر سے کھڑا ہوں جس  
 میں احمدؓ ہیں۔

فبورکت یا قبر الرسول و بورکت  
 بلاد ثوی فیہ الرشید المسدد  
 اے قبر رسول ﷺ تو مبارک ہے۔ اے عرب تو مبارک ہے کہ بڑے صاحب رشد  
 و سداد معظم تجھ میں استراحت فرما ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ نے بمقابلہ خوارج فرمایا:

یا شاہد الخیر علی فاشہد

انی علی دین النبی احمد

من شک فی اللہ فانی مہتدی

اے خدا لگتی بات کہنے والے تو گواہ رہنا کہ میں دین احمد پر ہوں۔

اگر کوئی خدا کے بارے میں شک میں ہو تو ہوتا رہے۔ میں تو یقیناً ہدایت پر ہوں۔

جگر گوشہ رسول مقبول ﷺ فاطمہ الزہراءؑ نے اپنے والد مکرّم ﷺ کے بارے میں کہا کہ:

صبت علی مصائب لو انھا

صبت علی الايام صرن لیا لیھا

ماذا علی من شم تربة احمد

ان لا یشم مدی الزمان غوالیا

مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو وہ بھی راتیں بن جاتے۔ جو

کوئی قبر احمد سونگھ لے اسے ساری زندگی کوئی اور خوشبو سونگھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس کے علاوہ بھی ایسے بکثرت اشعار موجود ہیں مگر یہاں اتنے ہی پر اکتفاء کی جاتی

(منقول از کتاب رحمتہ للعالمین ﷺ ج ۲ ص ۳۱۶)

ہے۔

ایہا المسلمون! مندرجہ بالا قرآن و حدیث و تاریخ و ادب کے کثیر نصوص اور حوالہ

جات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ سید دو عالم خاتم الانبیاء و الرسل ﷺ کے دو نام علم

ذاتی ہیں۔ محمدؐ اور احمدؐ، جو کہ تو اتر امت مسلمہ میں معروف و مشہور اور مستعمل ہیں۔ نیز سورۃ القف

آیت ۶ کی پیش گوئی اسمہ احمد کا مصداق حقیقی صرف اور صرف ذات خاتم النبیین والمرسلین ﷺ ہی

ہیں۔ دیگر کوئی بھی فرد نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد

رسول اللہ ﷺ ہی اس اسم گرامی سے مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ عالم میں انبیاء علیہم السلام میں

یہ اسم گرامی پایا ہی نہیں جاتا۔ لہذا اگر آپؐ کے علاوہ کسی اور فرد کو اس کا مصداق قرار دے لیا جائے

تو دیگر حقائق کے انکار کے علاوہ سرے سے آپؐ کی بعثت ہی سے انکار لازم آتا ہے۔ معاذ اللہ!

امت مسلمہ کی شناخت اور تشخص

ہر مذہب و ملت کے افراد اپنے راہنماء اور بڑے کی طرف نسبت باعث فخر اور ذریعہ

بقاء سمجھتے ہیں اور ان کے نام کو اپنے نام کا جزو بنا کر اسے اپنی شناخت اور پہچان قرار دیتے ہیں۔

جیسے ہندو اپنے نام کے ساتھ رام لگاتے ہیں۔ سکھوں کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ ہوتا ہے۔ عیسائی اپنے نام کے ساتھ مسیح استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انور مسیح اور پرویز مسیح وغیرہ۔ شیعہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ اپنے آئمہ کے نام استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اہل اسلام اپنے ناموں کے ساتھ محمد اور احمد نام مبارک لگا کر اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً منیر احمد، محمد مسعود، اقبال احمد، بشیر احمد اور نصیر احمد وغیرہ۔ نیز ہمارے اکابر محدثین، مفسرین، فقہائے کرام اور اولیائے کرام کے اکثر اسماء گرامی محمد اور احمد ہیں۔ بے شمار روایان حدیث کا اسم گرامی بطور تمین و تبرک احمد ہے۔ حتیٰ کہ تقریب التجذیب جیسی مختصر تصنیف میں ۱۱۹ روایۃ حدیث کے اسماء احمد ہیں۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالا حقائق اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ نبی معظم خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ کا اسم مبارک محمد کے ساتھ احمد بھی ہے۔ جو کہ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل، دور حیات اور بعد از رحلت بھی ہر زمانہ اور ہر علاقہ میں مسلم و محقق اور عام زبان زد رہا ہے۔ قبل از ولادت یہی اسم گرامی عرب و یمن، نجران اور شام کے یہود و نصاریٰ میں مشہور و معروف تھا اور ہر طبقہ اپنی فتح و نصرت کو حضور ﷺ کی تشریف آوری اور رونق افروزی عالم پر منحصر سمجھتا تھا۔ حضور ﷺ کی حیات و ممات میں آپ کے شاعران خاص اور ذوی القربی آپ کو اس نام سے یاد کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ آنحضور ﷺ کی ولادت سے پیشتر عرب میں یا کسی بھی ملک میں، جہاں زبان عربی متداول تھی، کسی شخص کا نام احمد نہیں رکھا گیا۔ یعنی قدرت الہیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بشارت کو جو صرف بحق نبی کریم ﷺ تھی، پونے چھ سو سال تک اس قدر محفوظ کیا کہ کوئی بھی اس نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ اب اسی دلیل کی تذلیل اور فرع میں ہم واضح کرتے ہیں کہ سید کائنات ﷺ کے بعد یہ اسم گرامی احمد بطور تمین و تبرک کس قدر زیادہ مستعمل ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات گرامی کے بعد من بعدی کی شرائط اٹھ چکی ہے اور التباس و اشتباہ کا خطرہ جاتا رہا ہے۔ اب صرف حصول یمن و برکت مقصود رہ گیا تھا۔ اس لئے قدرت الہیہ نے جیسا کہ نبی ﷺ کی ولادت سے پیشتر اس امر کی حفاظت و صیانت فرمائی تھی کہ مبشر اصلی اور موعود حقیقی کے سوا اور کوئی شخص بھی اس اسم سے برائے نام بھی موسوم نہ ہوا۔ اسی طرح رحمت ربانی کا اقتضاء یہ ہوا کہ آنحضور ﷺ کے بعد اس اسم معظم کی خوب اشاعت ہو اور ہر موسوم شخص گویا اپنے ہی سے یہ ثابت کرتا رہے کہ اس اسم کا مبشر دنیا میں آچکا ہے اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت دنیا میں آشکار ہو چکی ہے۔

اب فرمائیے کہ اس قدر وضاحت و شہرت کے بعد قادیانیوں کا خلط و تلبیس اور دجل



و فریب اس اظہر من الشمس کائناتی حقیقت کو کیسے مشتبہ اور مشکوک کر سکتا ہے۔ لہذا یہ بندہ ناچیز و حقیر علی لا اعلان اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ مرزائیوں کو احمدی کہنا صرف کفر نہیں بلکہ شدید ترین اور زبردست کفر ہے۔ کیونکہ دریں صورت تمام حقائق کا انکار کر کے آیت اسمہ احمد کا مصداق مرزا دجال کو قرار دیتا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کی تکذیب اور انکار ہے۔ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کفر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کو قادیانی یا مرزائی کہیں، احمدی بھول کر بھی نہ کہیں۔

**قادیانی عقیدہ اور نظریہ**

ناظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالا قطعی نصوص کی روشنی میں تمام اہل اسلام کا عقیدہ تو معلوم کر لیا۔ اب اس کے برعکس قادیانیوں اور مرزائیوں کا عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

قادیانیوں کی دو پارٹیاں ہیں۔

۱..... قادیانی پارٹی۔ ۲..... لاہوری پارٹی۔

قادیانی پارٹی کے سربراہ حکیم نور الدین، بشیر الدین محمود، مرزا ناصر احمد اور اب مرزا طاہر احمد ہے۔

لاہوری پارٹی کے پہلے سربراہ مولوی محمد علی تھے۔ پھر صدر الدین وغیرہ اور یہ پارٹی بازی مرزا بشیر الدین سے استحقاق خلافت کے سلسلہ میں وقوع پذیر ظاہر کی جاتی تھی۔

**مرزا قادیانی اور مسئلہ اسمہ احمد**

حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی منبع الدجل والالحاد ہیں۔ وہ ہر مسئلہ میں اور ہر بات میں متضاد اور متناقض بیانات دینے کے عادی ہیں۔ ان کی تحریرات سے ہر شخص اپنے مطلب کی منفی یا مثبت چیز نکال سکتا ہے۔ گویا وہ الحاد و زندقہ کے سپیر پارٹ کے لئے خام میٹرل کا سٹور ہیں یا مدار کی پٹاری ہیں۔ جہاں انہوں نے مسئلہ ختم نبوت اور دیگر مسائل میں ذوالوجہ۔ مبہم اور غیر واضح بیانات دیئے ہیں وہاں اس نے مسئلہ زیر بحث میں بھی وہی دورخی اور دجالانہ روش اختیار کی ہے۔ دو ٹوک انداز میں کسی پہلو کو واضح نہیں کیا۔ بلکہ طعنانہ طور پر اس کی ٹھوس بنیاد مہیا کر دی۔ جس پر بعد میں آنے والوں خاص کر مرزا بشیر الدین نے خوب کھل کر اظہار کیا کہ ”اسمہ احمد“ کا حقیقی مصداق صرف مرزا قادیانی ہے۔ سید کائنات ﷺ کسی بھی صورت میں اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ پھر اس پر کئی عقلی اور نقلی دلائل فراہم کئے۔ جیسا کہ آئندہ مع جواب کے آئیں گے۔

**لاہوری پارٹی کا عقیدہ**

یہ ہے کہ اسمہ احمد کے حقیقی مصداق تو محمد ﷺ ہی ہیں۔ مرزا قادیانی ضمنی اور ظلی طور پر

اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں محمد احسن امروہی (جو کہ نور الدین کے ہم پلہ پڑھا لکھا گمراہ مرزائی تھا) نے ایک کتاب بنام (القول المجید فی تفسیر اسمہ احمد) لکھ کر اس مسئلہ کو خوب واضح کر دیا کہ اسمہ احمد کے حقیقی مصداق صرف حضور نبی اکرم ﷺ ہیں۔ چنانچہ جواب میں مرزا بشیر احمد مصنف سیرۃ المہدی نے کلمۃ الفصل کا چوتھا اور دوسرے قادیانی خلیفہ بشیر الدین نے اپنی کتاب انوار خلافت کے ص ۱۸ سے ۲۹ تک خوب کھل کر قلم چلایا ہے اور تمام حدود شرافت اور انسانیت پا مال کر دی ہیں۔

### مرزا قادیانی کا دجل و فریب

مرزا قادیانی نے جن کا پیدائشی اور خاندانی نام غلام احمد تھا۔ اپنی شیطانی وحی اور الہام میں بکثرت اسم احمد کا استعمال کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

۱..... ”یا احمد بارک اللہ فیک“ (حقیقت الوحی ص ۷۰، خزائن ج ۲۲ ص ۷۳، البشرى ج ۱ ص ۱۲) یعنی اے احمد، اللہ نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے۔

۲..... ”یا احمد فاضل الرحمة علی شفتیک“ (حقیقت الوحی ص ۷۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۸، البشرى ج ۱ ص ۱۴، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۲۳۰) یعنی اے احمد تیرے ہونٹوں پر رحمت جاری ہوگئی۔

۳..... ”یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة“ (حقیقت الوحی ص ۷۷، خزائن ج ۲۲ ص ۸۰) یعنی اے احمد (مرزا) تو اور تمہارے ساتھی جنت میں رہیں۔

۴..... ”بورکت یا احمد“ (حقیقت الوحی ص ۷۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۸، اربعین نمبر ۲ ص ۶)

۵..... ”بشری لك یا احمدی“ (ضمیمہ تھمہ گولڈ ویس ص ۱۴، خزائن ج ۱ ص ۵۹، البشرى وغیرہ) یعنی اے میرے احمد تجھے بشارت ہو۔

۶..... ”یا احمد یتیم اسمک ولا یتیم اسمی“ (اربعین نمبر ۲ ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۳۵۳) اے احمد تیرا نام پورا ہوگا میرا نام پورا نہ ہوگا۔ (شاید یہ مہم صاحب جناب مٹھن لال یا

۱۔ اس رسالہ میں قرآن و حدیث تفسیر و فقہ اور صحف سابقہ سے بے شمار دلائل جمع کئے گئے ہیں۔ جس کے مقابلہ میں مرزا بشیر الدین کی تحریرات محض ہذیان اور خرافات کا مجموعہ نظر آتی ہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت کے بالکل متناقض اور متخالف ہیں۔ راقم سطور نے اس رسالہ سے قادیانیوں کے خلاف اور اہل اسلام کے حق میں کافی مواد لیا ہے۔

خیراتی صاحب ہیں۔ ورنہ خداوند قدوس کا نام تو ازل سے لے کر ابد تک پورا اور کامل ہی ہے۔)  
 ..... ”انا ارسلنا احمد الىٰ قومه فاعرضوا وقلوا كذاب اشتر“  
 (کلمۃ الفصل ص ۱۳۸)

ایسے ہی کئی مقامات پر مرزا قادیانی کھل کر بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (خزائن ج ۱۸ ص ۱۲۸، ۱۰۳، ۱۱۷) اور کسی جگہ بات کو گول مول اور الجھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھئے

(خزائن ج ۸ ص ۳۷۸، ج ۱۸ ص ۱۱۷، خطبہ الہامیہ ص ۲۰، اربعین نمبر ۴ ص ۱۷)

مگر کئی مقامات پر اسمہ احمد کا مصداق حقیقی واضح طور پر خاتم المرسلین ﷺ کو ہی قرار دیا۔  
 جیسے مرزا قادیانی کی مشہور کتاب (ازالہ اوہام ص ۶۷۳، خزائن ج ۳ ص ۴۶۳) پر لکھا ہے کہ:

مگر ہمارے نبی ﷺ فقط احمد ہی نہیں، محمد بھی ہیں۔ نمبر ۲، ایسے ہی ایک اشتہار ملحق بہ کتاب (تزیین القلوب ص ۴، خزائن ج ۵ ص ۱۳۳) پر ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے دو نام ہیں۔ ایک محمدؐ اور دوسرا احمدؐ۔  
 ..... ۴ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے بے شمار اشعار ہیں۔ جن میں انہوں نے اسم احمد استعمال کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

شان احمد را کہ داند جز خداوند کریم  
 آنچنان از خود جدا شد کز میاں افتادیم

(توضیح المرام ص ۲۳، خزائن ج ۳ ص ۶۲)

تا نہ نور احمدؐ آید چارہ گر  
 کسی نمی گیرد ز تاریکی بدر  
 برتر گمان و وہم سے احمدؐ کی شان ہے  
 جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے

(حقیقت الوحی ص ۲۷۶، حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۲۸۶)

انبیاء روشن گھر ہستند لیک  
 ہست احمد زان ہمہ روشن ترے  
 زندگی بخش جام احمدؐ ہے  
 کیا ہی پیارا یہ نام احمدؐ ہے  
 لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا  
 سب سے بڑھ کر مقام احمدؐ ہے

باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا  
میرا بستان کلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

## دجال ابن دجال

ناظرین کرام! آپ نے دجال اوّل اور بانی دجالیت کی ڈالی ہوئی بنیاد الحاد کو تو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں ہر رنگ اور پہلو موجود ہے۔ اب ابن دجال یعنی جناب مرزا بشیر احمد ایم۔ اے مصنف کتاب سیرۃ المہدی کی لن ترانی سنے۔

وہ کہتے ہیں کہ: ”اللہ نے مندرجہ بالا الہامات اور دیگر مقامات پر مسیح موعود (مرزا قادیانی لعنہ اللہ) کو (معاذ اللہ) احمد کے نام سے پکارا ہے۔ (پھر اوپر والے الہامات ذکر کئے) دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) بیعت لینے پر اقرار کر لیتے تھے کہ آج میں احمد (مرزا قادیانی) کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر اس پر بس نہیں بلکہ اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس یہ یقینی بات ہے کہ آپ احمد تھے اب معاملہ بالکل صاف ہے۔ قرآن شریف سے سورۃ صف نکال کر دیکھ لو۔ احمد کے نہ ماننے والوں کے لئے کیا فتویٰ ہے۔ وہاں صاف لکھا ہے کہ: ”واللہ، متم نورہ ولو کرہ الکافرون“ یہ آیت بطور الہام مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر اتر چکی ہے۔ جس سے اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچتی ہے کہ آپ احمد ہیں اور ان کے منکر کافر ہیں۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۳۹، از مرزا بشیر احمد پسر مرزا غلام احمد قادیانی) ملاحظہ فرمائیے کہ اندرونی طور پر تمام بات کہہ بھی گئے ہیں۔ مگر کھل کر اس کو (مرزا قادیانی) اسمہ احمد کا حقیقی مصداق قرار نہیں دے رہے۔ کیونکہ یہ بات اور عنوان نہایت اشتعال انگیز تھا۔ بھلا کون اس خبیث دجال قادیانی کو احمد تسلیم کرے گا۔ پھر اس الحاد اور زندقہ کی تشریح یوں کی کہ: ”دراصل احمد صرف سید الانبیاء ﷺ کا ہی اسم گرامی ہے۔ آپ کے سوا کوئی دوسرا احمد نہیں۔ مگر آپ کی دو بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت (تشریف آوری) میں آپ محمد تھے جو کہ جلالی رنگ کا مظہر ہے اور اس دوسری بعثت میں جو مرزا قادیانی کی صورت میں ہے۔ آپ احمد ہیں جو کہ جمالی رنگ یعنی صلح و آشتی اور عدم جہاد و قتال کا مظہر ہے۔ تو گویا بشارت عیسوی آپ کی پہلی بعثت کے متعلق نہیں۔ جس میں آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور جلالی رنگ یعنی جہاد و قتال سے دین پھیلایا۔ (لعنة الله على الكاذبين والملحدین) (دیکھئے! یہ دجال غیر مسلم محمدین کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔) بلکہ یہ پیش گوئی آپ کی

دوسری بحث کے متعلق ہے۔ جس میں آپ کا مثیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہو کر آیا ہے۔ لہذا اس کا نام مثیلی اور بروزی طور پر احمد ہے۔“ (کلمۃ الفصل از مرزا بشیر احمد ص ۱۳۹)

پھر اس نظریہ کی تائید میں دجال اکبر (مرزا غلام احمد قادیانی) کی چند عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ (مرزا قادیانی) (تحدہ گولڑویہ ص ۲۲، خزائن ج ۱ ص ۶۸) پر لکھتے ہیں کہ: ”و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد“ میں یہ اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ایک مظہر آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہے جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا۔ وہ جمالی طور پر حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے رنگ میں دین کو پھیلانے گا۔ پھر اس کے حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی یہ دونوں بعثتیں اور صفیں (محمد جلالی و احمد جمالی) اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہوں گی۔ اسی لئے خدا نے صفت جلالی کو (جو کہ اسم محمد کی مظہر ہے) صحابہؓ کے ذریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو مسیح موعود (مرزا قادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال تک پہنچایا۔ اس کی طرف آیت ”واخرین منهم لما يلحقوا بهم“ میں اشارہ ہے۔

پھر اسی کتاب (تحدہ گولڑویہ ص ۹۶، خزائن ج ۱ ص ۱۷۳) میں لکھتے ہیں کہ: ”آنحضرت ﷺ کا زمانہ ہزار پنجم تھا جو اسم محمد کا مظہر تجلی تھا۔ یعنی یہ بحث اوّل (آپ کی بنفس نفیس تشریف آوری) ہے۔ مگر بحث دوم (دوسری آمد) جس کی طرف آیت کریمہ ”واخرین منهم لما يلحقوا بهم“ میں اشارہ ہے وہ مظہر تجلی اسم احمد ہے جو کہ اسم جمالی ہے۔ جیسا کہ آیت ”و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد“ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے اپنی کتاب (اعجاز المسیح ص ۱۰۰ تا ۱۲۲) تک وضاحت سے ذکر کیا ہے اور کھول کر بتایا کہ نبی اکرم ﷺ کی دو تشریف آوریوں تھیں۔ بحث اوّل میں اسم محمد کی تجلی تھی۔ مگر بحث دوم میں اسم احمد کی تجلی ہے۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۲۰، از بشیر احمد قادیانی) پھر مزید ایک نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ: ”یہ عجیب نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی کریم ﷺ کی دونوں بعثتیں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی بتلائی جا چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو صفت جلالی میں ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی پہلی آمد کی پیش گوئی کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جمالی پہلو عطاء کیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے آپ کی دوسری بعثت یعنی اسم احمد کی پیش گوئی کی۔“

پھر مرزا قادیانی کی کتاب (اعجاز المسیح ص ۱۲۲، خزائن ج ۱ ص ۱۸۵) سے اس کی تائیدی عبارت نقل کی کہ: ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالی اسم یعنی محمد کو اختیار کر کے پیش گوئی کی اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناسبت سے اسم احمد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دونوں نبیوں نے اپنے اپنے کامل مثیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”پھر اسی صفحہ پر مزید وضاحت کی کہ: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کززع اخرج شططا (الفتح) سے ایک دوسری جماعت واخرین منهم اور ان کے امام مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلکہ اس کے نام کی تصریح کر دی۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۴۰، ۱۴۱)

خلاصہ کلام: آخر میں بطور خلاصہ لکھتے ہیں کہ: ”ان تمام حوالہ جات سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سورہ الصف میں جس احمد رسول کی پیش گوئی ہے وہ احمد مسیح (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ جس کی بعثت حسب وعدہ خداوندی واخرین منهم خود نبی کریم ﷺ کی بعثت ہے۔ پھر سورہ الصف میں ہم یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ: ”یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم“ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیش گوئی مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں منہ کی پھونکوں یعنی فتویٰ تکفیر وغیرہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ (بالکل غلط ہے۔ ہر مخالف نے مختلف قسم کے الزامات، طعن و تشنیع اور فتوؤں سے مزاحمت کی) بلکہ مخالفین نے تلوار اٹھائی لیکن مسیح موعود کا زمانہ تلوار کا زمانہ نہیں۔ (یہ بھی سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (یہ تو بعد انقطاع شرفتنہ ہوگا۔ ”کما قال حتی لا تكون فتنة ویكون الدين كله لله“) اس لئے مخالف تلوار نہیں اٹھا سکے مگر انہوں نے ناخنوں تک زور لگایا۔ ”لیطفئوا نور اللہ بافواہم“ لیکن ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کافر مرتے تھے۔ فند بروا! (واہ جی واہ! مرزا کے دم سے کسی کو کیا مرنا تھا، اس کا تو اپنا دم خود قائم نہ تھا)

پھر لکھا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا اللہ نے بار بار الہام میں احمد نام لکھا ہے۔ اس لئے آپ کا منکر کافر ہے۔ کیونکہ احمد کے منکر کے لئے قرآن میں لکھا ہے کہ: ”واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون“ (کلمۃ الفصل ص ۱۴۱) یعنی اللہ اپنے نور (دین حق) کو پورا کر کے رہے گا۔ اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اہل اسلام کی ناگواری اور مخالفت کے باوجود مرزا یت کا میاب ہوگی۔ (مگر بسا آرزو کہ خاک شد)

تنبیہ

..... حضرات گرامی! ذرا توجہ سے مندرجہ بالا اقتباسات ملاحظہ فرمائیے اور انداز لگائیے کہ کس طرح مرزا قادیانی اور اس کی ذریت متفقہ اسلامی عقائد و نظریات کو پلٹ کر عوام اہل اسلام کو راہ مصطفیٰ ﷺ سے بھٹکا رہے ہیں اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ

اپنے آپ کو احمدی کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مصداق مرزا قادیانی ہے۔ (العیاذ باللہ) اور بزعم مرزا اس پر نازل شدہ مندرجہ بالا الہامات میں بھی جو ان کو احمد نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان کے پیروکاروں کو احمدی کہا جائے گا۔ لہذا اگر ہم ان کو احمدی کہنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ واقعی یہ آیت مبارکہ (اسمہ احمد) خاتم المرسلین ﷺ کے بارہ میں نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے متعلق ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام الہامات اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور قرآن مجید کی طرح برحق اور سچے ہیں اور وہ اپنے تمام دعاوی مثل مسیحیت اور نبوت میں بھی سچا تھا۔ (العیاذ باللہ) حالانکہ یہ امور تسلیم کر کے کوئی بھی انسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہمیں کسی بھی صورت میں مرزائیوں کو احمدی نہ کہنا چاہئے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد نے ہمارا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔) (الحج) مگر قادیانی حضرات مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر اپنے آپ کو بجائے مسلمان کے احمدی بطور لقب کے کہلاتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ ثانی لکھتے ہیں کہ (جس دن سے تم احمدی (مرزائی) ہوئے ہو تمہاری قوم احمدیت ہو گئی)

۲..... آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ مرزا قادیانی خود تو صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ”اسمہ احمد“ کا حقیقی مصداق ہونا واضح نہیں کرتے۔ بلکہ مبہم اور ملی جلی بات کرتے ہیں۔ جس سے دونوں باتیں نکل آتی ہیں۔ گویا خام میٹرل مہیا کر دیا اور کہیں کہیں صراحت کے بالکل قریب بھی پہنچ جاتے ہیں یا بالفاظ دیگر معنوں تو مہیا کر دیا۔ لیکن عنوان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی ذریت کے ذمہ لگا دی جو اس نے بطریق کمال پورا کر دیا۔

دوسرے نمبر پر مصنف سیرہ المہدی و کلمۃ الفصل کی چالبازیاں اور طحانہ قلابازیاں بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح اس نے مرزا قادیانی کی فراہم کردہ بنیاد پر تدریجی استواری کا حق ادا کیا ہے۔ شاندار طریقے سے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر ابھی معاملہ کچھ برزخی حیثیت میں رکھا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بھی کچھ کارروائی کا موقعہ رہ جائے۔ (اب اگلے مرحلہ پر مثیل رجال مرزا بشیر الدین محمود کی کارکردگی سماعت فرمائیے)

مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی (قصر دجالیت کا کامیاب معمار)  
الحاد و زندقہ کو حد کمال تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب مصلح موعود  
مرزا بشیر الدین محمود علیہ ما علیہ اپنی مشہور کتاب انوار خلافت میں گوہر افشاں ہیں کہ:

.....۱ ”میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت ”اسمہ احمد“ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔ لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم ﷺ کا ہے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی ہنک ہے۔ (واقعی از روئے قرآن و حدیث اور اجماع امت ایسا ہی ہے) لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں۔ میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہی ہے۔ اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے علماء و فضلاء کے سامنے بیان کرنے کو تیار ہوں۔ حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لئے بھی تیار ہوں۔ اگر کوئی میرے دلائل غلط ثابت کر دے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ احمد نام آنحضرت ﷺ کا تھا۔ صفت نہ تھی اور جو نشانات قرآن کریم نے احمد کے بیان فرمائے ہیں۔ وہ آنحضرت ﷺ پر چسپاں ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ پیش گوئی آنحضرت ﷺ نے اپنے اوپر چسپاں فرمائی ہے تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر تاوان جو فریقین کو منظور ہو، دینے کو تیار ہوں۔“

(انوار خلافت ص ۱۸، ۱۹، مطبوعہ ۱۹۱۶ء)

.....۲ خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”اس آیت کا اصل مصداق مرزا قادیانی ہیں۔ قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے متعلق میں نے آیات پڑھ دی ہیں۔ جن میں احمد کا ذکر ہے۔ اب میں خدا کے فضل سے بتاتا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں اور آنحضرت ﷺ صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں۔ ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔ (یعنی مرزائے قادیانی)“

(انوار خلافت ص ۲۰)

.....۳ مرزا قادیانی، حکیم نور دین اور خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین کا متفقہ عقیدہ: خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ”اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ۲ اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ

۱۔ اس سے مراد لاہوری پارٹی کے احسن امروہی ہیں۔ جنہوں نے اس مسئلہ میں القول المجد نامی ایک علمی کتاب لکھی ہے۔

۲۔ اے جاہل! وہ وہی رسول معظم ﷺ ہے۔ جس کے متعلق خود صاحب رسالت فرما رہے ہیں کہ: ”انا اولی الناس بعیسی بن مریم لانه لیس بینی و بینہ نبی او کما قال“ اس لئے یہاں کسی قسم کا سوال پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)



دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا۔ بلکہ حضرت مسیح موعود (مرزائے قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفہ المسیح الاول (نور دین) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا احمد ہیں۔ (معاذ اللہ) چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔“ (انوار خلافت ص ۲۱)

۴..... خلیفہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”کیونکہ آنحضرت ﷺ کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ محمد تھا۔ چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ ﷺ کو احمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیش گوئی ہے۔ جو خود زیر بحث ہے، کسی بھی جگہ قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ (مرزا کو کب اس نام سے یاد کیا گیا ہے؟) اگر آپ کا نام احمد ہوتا جیسے یہ لوگ (قادیانی) سمجھتے ہیں تو والدہ محترمہ (حضرت آمنہ) کو الہام کے ذریعہ بتلادیا جاتا۔ پھر قرآن مجید میں جو وحی الہی ہے، اول تو احمد نام ہی آتا۔ اگر محمد بھی آتا تو احمد بھی بعض مقامات پر ضرور آتا۔“ (انوار خلافت ص ۲۱، ۲۲)

۵..... نیز لکھتے ہیں کہ: ”(۱)..... کسی حدیث سے احمد نام ثابت نہیں۔ (۲)..... کلمہ شہادت جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اس میں بھی محمد رسول اللہ ﷺ ہی کہا جاتا ہے۔ (۳)..... پنج وقت اذان و اقامت میں بھی ”اشھد ان محمد رسول اللہ“ ہی کہا جاتا ہے۔ (۴)..... درود شریف میں بھی آپ کا اسم گرامی محمد ہی آیا ہے۔ (۵)..... آپ کی مہر مبارک جو خطوط پر لگائی جاتی تھی اس میں بھی لفظ محمد ہی ہے۔ ایک خط میں بھی احمد نام مبارک نہیں آیا۔ تمام صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے کسی وقت بھی احمد نام لیا ہو۔ (۶)..... نہ تاریخ سے ثابت ہے۔ (۷)..... آپ کے سب مخالفین اور چچا سے بھی محمد ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو کبھی کلمہ یا اذان یا درود شریف وغیرہ میں ضرور ذکر ہوتا۔“

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اس امکانی دجل کو اپنے بیان سے خود سید المرسلین ﷺ نے ختم کر دیا ہے۔ نیز یہ بھی سن لیجئے کہ اگر اس آیت کا مصداق مرزا قادیانی کو تسلیم کر لیا جائے تو رسالت خاتم الانبیاء ﷺ کا انکار لازم آتا ہے جو کہ سراسر کفر اور زندقہ ہے۔ وہاں تو صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ:

”فلما جاء هم قالوا هذا سحر مبین“

۱۔ یہ خلیفہ صاحب کا سفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ کئی احادیث اور نقل ہو چکی ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیا جائے تاکہ اس کذاب کو اس بے باکی اور جرأت پر داد کے بجائے لعنتیں پڑیں۔

۶..... ”پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنحضرت ﷺ نہیں ہو سکتے۔“ (انوار خلافت ص ۲۳)

۷..... ”(۱)..... اس پیش گوئی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ قائم النہیں ﷺ کے متعلق ہے۔ (۲)..... نہ کوئی اور لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیش گوئی ضرور آنحضرت ﷺ پر چسپاں کرنی پڑے۔ (۳)..... باوجود آپ کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر یہ پیش گوئی چسپاں کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ آپ نے خود فرمایا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں۔ (یہ بھی ضرور آپ نے فرمایا ہے) لیکن احادیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ نہ سچی، نہ جھوٹی، نہ وضعی، نہ قوی، نہ ضعیف، نہ مرفوع، نہ مرسل۔ کسی حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کو اپنے اوپر چسپاں فرمایا اور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہوا۔ پس جب یہ بات بھی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیش گوئی کو آنحضرت ﷺ پر چسپاں کریں۔“ (انوار خلافت ص ۲۳)

۸..... ایک جگہ جناب خلیفہ صاحب پورے جوش و جہالت میں آ کر فرماتے ہیں کہ: ”کیا خدا کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور صریح طور پر اس کے غلط معنی کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ (جناب والا ذرا دیکھ لیں کہیں اس جرم کے خود آپ ہی مجرم نہ ہوں) جب تک حق نہ آیا تھا۔ اس وقت تک لوگ مجبور تھے۔ (بالکل جھوٹ) لیکن اب جب کہ واقعات سے ثابت ہو چکا ہے کہ احمد سے مراد آنحضرت ﷺ کا ایک خادم ہے تو بھی ہٹ دھرمی سے کام لینا شیوہ مومنانہ نہیں۔“ (انوار خلافت ص ۲۳)

۱۔ جناب خلیفہ صاحب صحیح مرفوع احادیث میں یہ سب کچھ آیا ہے اور تمام محدثین اور مفسرین امت اسی بات پر متفق ہیں۔ جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر ہوا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی اور آنجناب نے خود بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے، ذرا اپنی تفسیر صغیر ہی دیکھ لیں۔ (ص ۷۲۳)

۲۔ جناب مرآتی صاحب حق تو تمام کا تمام لے کر محمد رسول اللہ ﷺ آج سے چودہ سو برس پیشتر ہی تشریف لے آئے تھے۔ اب کوئی نیا حق لانے کا کون مدعی ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہوگا وہ ختم نبوت کا منکر اور مسلمہ کذاب کا بھائی ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی مثل حیات مسیح کے بنادیا کہ پہلے مرزا قادیانی حیات مسیح جسمانی کے قائل تھے۔ مگر بعد میں انگریزی وحی کے تحت ہو کر منکر ہو گئے۔ جہلا کو یہ بھی خبر نہیں کہ نسخ و تبدیلی احکام میں ہو سکتی ہے۔ عقائد و اخبار میں ناممکن ہے۔ پھر جناب اس آیت میں تو حقیقی رسول کی خبر دی گئی ہے۔ ظلی بروزی کا اشارہ بھی نہیں۔ پھر تم نے یہ غل و بروز کا چکر کیوں چلایا؟

## مرزائے قادیانی کے احمد ہونے کا قرآن سے ثبوت

۱۰..... آگے چل کر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی کا مصداق مسیح موعود ہیں۔ (آنحضرت ﷺ احمد کے ضمنی طور پر مصداق ہیں)“

۱۱..... ”پس اس آیت میں ضمنی طور پر رسول اکرم ﷺ کی خبر دی گئی ہے اور اس بیان سے یہ واجب نہیں ہوتا کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نہ ہوں۔ اس کے اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہیں۔“ (انوار خلافت ص ۳۷)

۱۲..... آخر میں لکھتے ہیں کہ: ”غرض یہ دس ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود ہی احمد تھے اور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔ (العیاذ باللہ)“ (انوار خلافت ص ۳۹)

۱۳..... اور سنئے قادیانی روزنامہ (الفضل بابت ۵، ۲ دسمبر ۱۹۱۶ء ص ۵) پر ہے۔  
 ”(۱)..... جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو، ذکر ہے، دو کا نہیں اور اس شخص کی تعین ہم حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کرتے ہیں تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا ہے کہ دوسرا کوئی اس کا مصداق نہیں اور جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ دوسرا کوئی شخص اس کا مصداق نہیں۔“

۱۴..... اسی اخبار کے صفحہ ۶ پر لکھا کہ: ”ہم تو ظلی طور پر آپ کو اسمہ احمد والی پیش گوئی کا مصداق نہیں مانتے۔ (جیسے کہ لاہوری مرزائی اس کا مصداق آنحضرت ﷺ کو حقیقی اور

۱۔ جناب من ہم تمہارے اس قانون اور ضابطہ کو تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ: ”هو الذي ارسل رسوله، محمد رسول الله والذين معه“ اور ”وما ارسلناك الا رحمة للعالمين“ وغیرہ جن کو آپ کے والد محترم مرزا غلام احمد نے اپنے حق میں لکھا ہے۔ کیا ان میں دو نبیوں کا ذکر ہے؟ ذرا دیکھیں ایک غلطی کا ازالہ وغیرہ۔ جب تمام امت اور آقائے امت نے اس رسول اور محمد کی تعین اپنے حق میں کر دی تھی تو تم کون ہوتے ہو جو ایک کو دو بنانے (اصلی و ظلی) کی مذموم کوشش کرتے۔ اسی طرح کسی بھی قرآن کے مفہوم کی تعین کا حق صرف محمد رسول اللہ ﷺ کو ہے۔ تمہیں کس نے اتھارٹی دی کہ ۱۵ سو سال بعد کسی آیت کے مفہوم کا تعین کرتے پھرو۔ اس طرح جب اسمہ احمد کی تعین خود سرور عالم، تمام صحابہ، تابعین و تبع تابعین، محدثین و مفسرین، کرچکے ہیں تو تم کس باغ کی مولیٰ ہو کہ پھر نئے سرے سے اپنی لحدانہ تعین کرتے پھرو۔ آخر کچھ تو حیا ہونی۔

مرزا قادیانی کو ظلی طور پر مانتے ہیں) بلکہ ہمارے نزدیک آپ (مرزا قادیانی) اس کے حقیقی مصداق ہیں۔“

۱۵..... صفحے پر لکھا ہے کہ: ”میرا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے اصل مصداق ہیں اور آپ کا نام احمد تھا۔“ (ایسے ہی الفضل ۱۹ اگست ۱۹۱۵ء اور ۲۸ مارچ ۱۹۱۶ء، ۱۳ جولائی ۱۹۳۵ء میں یہی مضمون ہے۔ بحوالہ قادیانی مذہب ص ۲۵۶)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا ۱۱ اقتباسات سے قادیانیوں کے چند مغالطے سامنے آئے۔

## مغالطات

۱..... سورۃ القف کی آیت ۶ میں ”اسمہ احمد“ سے مراد آنحضرت ﷺ نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہے۔ کیونکہ آپ کا ذاتی نام (علم) صرف محمد ہے۔ احمد آپ کا ذاتی نام نہیں، ہاں صفاتی ہو سکتا ہے۔

۲..... مرزا قادیانی کا نام احمد ہے۔ غلام کا لفظ صرف خاندانی رواج اور بطور علامت ہے۔

۳..... اسم محمد مظہر جلال ہے اور اسم احمد مظہر جمال ہے۔ چونکہ آنحضرت ﷺ جہاد و قتال کے ساتھ تشریف لائے اور یہ امر اسم محمد کا مظہر ہے اور مرزا قادیانی چونکہ صرف دلائل و براہین کے ساتھ آئے ہیں۔ لہذا یہ مظہر اسم احمد ہے۔

۴..... کسی بھی حدیث میں آپ نے اس کا مصداق اپنے آپ کو نہیں قرار دیا اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کے حق میں یہ اسم استعمال کیا ہے۔

۵..... کلمہ شہادت، اذان و اقامت اور درود شریف وغیرہ میں صرف اسم محمد ہی استعمال ہوا ہے۔ احمد استعمال نہیں ہوا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ کا اسم گرامی صرف محمد ہی ہے احمد نہیں۔

۶..... اس آیت مبارکہ میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں۔ جس کی بناء پر ہم اس کا مصداق آنحضرت ﷺ کو قرار دیں۔

## ان مغالطات کے جوابات (بعون الوہاب)

مغالطہ نمبر: ۱..... کہ اس آیت کا مصداق خاتم الانبیاء ﷺ نہیں بلکہ (معاذ اللہ) مرزا قادیانی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اوپر احادیث اور تفاسیر سے یہ بات نہایت وضاحت سے ثابت کر چکا ہوں کہ اس بشارت عیسوی کا مصداق صرف اور صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہی ہیں۔ امکانی حد تک بھی کسی دوسرے کا احتمال نہیں ہے۔ کیونکہ خود آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

”ساخبر کم باؤل امری دعوة ابراهيم وبشارت عيسى (مشکوٰۃ ص ۵۱۳، باب فضائل سيد المرسلین ﷺ)“ کہ میں دعائے غلیل علیہ السلام اور بشارت عیسیٰ کا مصداق ہوں تو جب خود صاحب قرآنی نے وضاحت فرمادی تو اب کسی اور کو اختلاف کرنے کی گنجائش کیسے ممکن ہے؟ باقی ذاتی یا صفاتی نام کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ:

الف..... آپ کے دونوں اسمائے گرامی محمد اور احمد ﷺ۔ ذاتی علم ہی ہیں جیسے کہ (تفسیر قرطبی ج ۱۸ ص ۸۳، تفسیر روح المعانی ج ۲۸ ص ۸۶، تفسیر مظہری ج ۹ ص ۲۷۱) اور دیگر تفاسیر کے حوالہ سے اوپر گزر چکا ہے۔

ب..... صحیحین میں حضرت جبیر بن مطعمؓ سے منقول ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: ”ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب لا نبی بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۱۱۱، باب فی اسماء النبی ﷺ)“ فرمایا کہ بے شک میرے کئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، (مٹانے والا) میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں۔ (اکٹھا کرنے والا) میرے قدموں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی میرے بعد قیامت آجائے گی اور میں عاقب (پچھلا) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

یہ حدیث پاک بخاری کے علاوہ بے شمار دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس حدیث میں آپؐ نے کل پانچ اسمائے مبارکہ ذکر فرمائے۔ پہلے دو کی تشریح نہیں فرمائی۔ جب کہ آخری تینوں کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ ایک تین دلیل ہے کہ پہلے دونوں نام علم یعنی ذاتی نام ہیں۔ کیونکہ اعلام کا ترجمہ نہیں ہوتا اور آخری تین کا ترجمہ اور تشریح فرمائی کیونکہ وہ صفاتی نام ہیں۔

الاعتراض: یہ صفاتی ناموں کی فہرست ہے۔ اگرچہ پہلا اسم گرامی محمد ذاتی ہے۔ مگر دوسرے تمام نام صفاتی ہونے کی وجہ سے یہاں وہ ذاتی بھی بصورت صفاتی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتی نام پر فخر کرنا کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے اور یہاں انا محمد وانا احمد بطور اظہار فخر کے بیان ہو رہے ہیں۔

الجواب بعون الوہاب: جناب من، حقیقت یوں نہیں۔ بلکہ پہلے دو نام ذاتی اور اعلام ہیں۔ جیسا کہ بحوالہ تفسیرات معتبرہ بیان ہو چکا۔ صرف صفاتی ناموں کے ساتھ بیان اور ذکر ہونے سے علمیت سے خارج نہ ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ صفت موصوف (یعنی ذات) کے تابع ہوتی ہے۔ لہذا بطور تعارف ذات کے پہلے دونوں نام بطور موصوف کے ذکر فرمائے، اسی لئے ان

کا ترجمہ بھی نہیں فرمایا۔ تو جب ذات بحیثیت ذات کے خوب متعارف ہو چکی تو پھر اس کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی بے شمار آیات سے تائیدات موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: (۱)..... ”الحمد لله رب العالمین ، الرحمن الرحیم ، مالک يوم الدين“ پہلے علم یا اسم ذات کا ذکر فرمایا پھر اس کی صفات رب رحمن رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ رحمن رحیم کا تذکرہ ”اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم“ نیز ”هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم“ وغیرہ۔ کیا جناب کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ بھی ذات واجب الوجود کا ذاتی نہیں، صفاتی نام ہے۔ کیونکہ یہ صفاتی ناموں کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔

بریں عقل و دانش ببايد گريست

کیا کوئی ذی ہوش انسان کہہ سکتا ہے کہ چونکہ لفظ اللہ بھی صفاتی ناموں کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ لہذا یہ بھی صفاتی نام ہے۔ ذاتی نہیں؟

مزید سنئے: ”قل ادعوا للہ او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی . قل هو اللہ احد“

ویسے بھی آپ کے یہ دونوں ذاتی نام عین حقیقت کے مطابق ہیں۔ گویا آپ اسم با سمس ہیں۔ کیونکہ آپ ہی محمد (جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے) اور آپ ہی احمد (جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو) ہیں۔ دوسرا کوئی نہ ہوا ہوگا۔

جیسے محمد ﷺ علم ذاتی ہے۔ ایسے ہی احمد بھی علم ذات ہے۔ کیونکہ بلا لام تعریف ذکر کئے ہوئے ہیں۔ نیز احمد تو غیر منصرف ذکر ہوا ہے۔ بوجہ علمیت اور وزن فعل کے اور باقی تینوں معرف باللام ذکر فرمائے۔ ملاحظہ فرمائیے کیسی واضح اور دو ٹوک دلیل ہے۔

مرزا قادیانی کی شہادت

الف..... مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ﷺ کے دو نام تھے۔ ایک محمد ﷺ اور دوسرا احمد ﷺ۔

ب..... دوسری جگہ لکھتا ہے کہ: ”فان الله سماه محمدا واحمدا وما سما بهما عيسى ولا كليما“ (عجاز اسح ص ۱۰۵، خزائن ج ۱۸ ص ۱۰۷، ۱۰۹)

ج..... (اخبار الحکم بابت ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۱۱) اور کتاب ملفوظات احمد یعنی (ڈائری ۱۹۰۱ء ص ۵۴) پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام محمد بتلایا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بوجہ جمالی ہونے کے آپ کا نام احمد

بتلایا۔

(بحوالہ تردید مرزائیت بطرز جدید از بابو حبیب اللہ کلرک امرتسری ص ۱۳)

..... ”وما اعطی نصيبا كاملا منهما الا نبينا خاتم سلسلة

النبوة فانه اعطى اسمين ..... اولهما محمد وثانيهما احمد من فضل رب  
الكونين“ (اعجاز المسح ص ۱۰۰، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۱۰۳)ایسے ہی مرزا قادیانی نے اپنے بے شمار اشعار میں آپ کا اسم گرامی احمد ذکر کیا ہے۔  
جن میں سے کچھ اوپر ذکر ہوئے۔ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ احمد آغضو رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی نام ہونا کتنے مضبوط دلائل  
سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب بتلایئے کہ مرزا کو اس نام یا پیش گوئی سے ذرا برابر بھی تعلق ممکن ہے؟  
لہذا ان کو احمدی کہنا تمام حقائق کا کھلا انکار ہے۔قادیانی مغالطہ نمبر ۲: ..... کہ مرزا قادیانی کا ذاتی نام احمد تھا۔ والدین نے یہی نام  
رکھا تھا۔ غلام تو صرف خاندانی رواج اور بطور علامت مشہور ہے۔ اسی لئے آپ کے الہامات میں  
”احمد“ استعمال ہوا ہے اور بیعت میں بھی یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ (خلاصہ انوار خلافت ص ۳۳)  
جواب: یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بلکہ والدین نے آپ کا نام غلام احمد ہی رکھا تھا۔ ملاحظہ ہو:  
الف ..... (اخبار الحکم ۳۰ مارچ ۱۹۰۲ء، ۸، ۷، ۱۷ مئی ۱۹۰۲ء، ص ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱

ناظرین کرام! ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اگر مرزا کا نام صرف احمد ہو تو پھر سارا بنا بنایا ڈرامہ  
فل ہو جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مکمل نام غلام احمد ہی تھا۔ ورنہ عدد ۱۳۰۰ کیسے بن سکے گا؟

..... مرزا قادیانی کے دعوائے مسیحیت کی بنیادی اینٹ گلاب شاہ مجذوب والی  
پیش گوئی ہے جو کہ بروایت کریم بخش (ازالہ ص ۵۵، ۱۹۷۷ء، خزائن ج ۳ ص ۲۸۰ تا ۲۸۷) پر تفصیل سے  
درج کی گئی ہے۔ جس پر پچاس ساٹھ مسلم غیر مسلم تصدیقی شہادتیں بھی مثبت ہیں۔ جس کا خلاصہ  
یہ ہے کہ ایک شخص جناب کریم بخش بیان کرتا ہے کہ آج سے تقریباً تیس برس پیشتر ایک صالح  
مجذوب گلاب شاہ نے پیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی  
غلطیاں نکالے گا۔ قرآن کریم کی رو سے فیصلہ کرے گا اور مولوی انکار کر جائیں گے۔ پھر یہ پوچھنے  
پر کہ عیسیٰ اب کہاں ہے؟ جواب دیا ”بیچ قادیان کے“ پھر جناب کریم بخش کہتے ہیں کہ اسی مجذوب  
نے عیسیٰ کا نام غلام احمد بتلایا تھا۔

معلوم ہوا کہ الہامی، خاندانی اور عام استعمال نام غلام احمد ہی تھا نہ کہ صرف احمد۔ مزید  
ملاحظہ فرمائیے۔

..... جناب مرزا قادیانی نے تقریباً تین صد اشتہار و اعلانات تبلیغ رسالت کے  
نام سے ۱۰ حصوں میں شائع کئے تھے۔ جن کو اب مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے تین جلدوں میں  
چناب نگر ولندن سے شائع کیا گیا ہے۔ ان تمام اشتہارات اور اعلانات کے آخر میں مرزا قادیانی  
نے اپنا نام غلام احمد ہی لکھا ہے۔ ایک جگہ بھی احمد نہیں لکھا۔

..... ایسے ہی متعدد عرضیات و چٹھیات درمیان مرزا غلام احمد قادیانی اور  
گورنمنٹ انگلشیہ کے اسی نام سے گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ کہیں بھی احمد نام درج نہیں ہے۔  
نیز آجناب کی ۸۰ سے زائد تصانیف اسی نام یعنی غلام احمد سے ہی شروع اور اختتام  
پذیر ہوئی ہیں۔

..... اس نام کے الہامی ہونے پر خود بطور نص صریح کے مرزا قادیانی کی ذاتی  
صراحت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جناب مرزا قادیانی اپنے رسالہ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸  
ص ۲۳۳) پر لکھتے ہیں کہ: ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا۔ جو اس سے پہلے مسیح سے  
اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“  
ایسے ہی مرزا قادیانی کا حرمت جہاد کے بارے میں ایک مشہور شعر اسی نام کی  
صراحت کر رہا ہے۔



ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(رسالہ دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰، از مرزا غلام احمد قادیانی)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا سینکڑوں دلائل اور شہادات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو چکی ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندانی، الہامی اور خود اختیاری نام احمد نہ تھا بلکہ غلام احمد تھا۔ لہذا اب اتنی واضح حقیقت کا انکار کرنا کسی ہوشمند انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی محبوظ الحواس اور مراق کا ستایا ہوا ہو تو اور بات ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف قرآن و حدیث تفاسیر اور کتب لغت وغیرہ اور جمیع اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ کہ ”اسمہ احمد“ کا مصداق سید المرسلین ﷺ ہی ہیں۔ امت کے کسی ایک فرد کا انکار ثابت نہیں۔ بلکہ کسی کا وہم و گمان بھی منقول نہیں۔ مگر خلیفہ صاحب بڑے دھڑلے سے مکر گئے کہ کسی حدیث وغیرہ میں اس پیش گوئی کو آپؐ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ اسمہ احمد ہی کہیں وارد نہیں ہوا اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا نام ہر جگہ اور ہر موقع پر غلام احمد مذکور ہے۔ مگر خلیفہ صاحب مراق کے جوش میں آ کر صاف انکار کر دیتے ہیں کہ آپؐ کا نام غلام احمد ہے ہی نہیں بلکہ احمد ہے اور آپؐ ہی اسمہ احمد کے مصداق حقیقی ہیں۔ یا للعجب! ہے کوئی اس رنگ و بو کے عالم میں اس دجل والحاد کی نظیر، ثبوت کی جگہ نفی اور نفی کی جگہ ثبوت ”فلعنة الله على المفترين والملحدين والناس والملائكة اجمعين لعنة بالغة الى يوم القيامة“ قادیانی مغالطہ نمبر: ۳..... کہ آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی محمدؐ ہے۔ احمد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اسم محمد جلالیت کا مظہر ہے اور آپؐ مظہر جلالیت تھے۔ یعنی جہاد و قتال کے ساتھ تشریف لائے تھے اور اسم احمد مظہر جمالیت ہے جو کہ عدم جہاد و قتال پر دلالت کرتا ہے۔ اس رنگ میں تو مرزا قادیانی آئے ہیں۔ لہذا اسمہ احمد کے مصداق صرف مرزا قادیانی ہی ہیں۔

الجواب بعون الوهاب، اسم احمد کے مصداق آنحضرت ﷺ ثابت ہو جانے پر (جیسا کہ اوپر بے شمار دلائل قاطعہ سے ثابت ہو چکا ہے) اس قسم کے دجالی اور لٹھانہ شبہات پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ مگر پھر بھی اس لٹھانہ مغالطہ کی خباثت کو واضح کرنے کے لئے کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ناظرین کرام! اس مغالطہ کی خباثت میرے خیال میں دیگر اکثر مغالطوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ جناب خلیفہ قادیان الحاد و زندقہ کی تمام حدود کو پھاند گئے ہیں اور مخالفین اسلام کے مشہور اور زبان زد بہتان (کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے) کی خوب آبیاری کی ہے اور اس

طرح مخبوط الحواس ہو گئے کہ اپنے باپ متنبی قادیان کی تحریرات بھی یکسر نظر انداز کر گئے۔  
ملاحظہ فرمائیں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

..... ”ہمارے نبی ﷺ کے دو نام تھے۔ ایک محمد ﷺ، دوسرا احمد ﷺ اور اسم محمد جلالی تھا اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ آنحضرت ﷺ ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور صد ہا مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن اسم احمد جمالی نام تھا۔ جس سے یہ مطلب تھا کہ آنحضرت ﷺ (نہ کہ بقول خلیفہ، مرزا قادیانی) دنیا میں صلح و آشتی پھیلائیں گے۔ سو خدا نے ان دونوں ناموں کی اس طرح تقسیم کی کہ اول آنحضرت ﷺ کی مکی زندگی میں اسم احمد کا ظہور ہوا اور ہر طرح سے صبر شکنیبائی کی تعلیم تھی اور پھر مدینہ کی زندگی میں اسم محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی۔“

..... ۲ ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کا نام محمد ﷺ بتلایا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام احمد بتلایا کیونکہ وہ خود بھی جمالی رنگ میں تھے۔“

(ملفوظات یعنی ڈائری ۱۹۰۱ء ص ۵۴، اخبار الحکم ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء ص ۱۱)  
..... ۳ ”مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ”جب مسیح علیہ السلام نے پیش گوئی کی تو احمد ﷺ کے نام سے کی۔ کیونکہ وہ خود جمالی شان رکھتے تھے۔ یہ وہی نام ہے جس کا ترجمہ فار قلیط ہے۔“

..... ۴ ”ایک دفعہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) سے کسی نے سوال کیا کہ ”و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد“ والی پیش گوئی انجیل میں کہاں ہے تو فرمایا کہ انجیل محرف ہو گئی ہے۔ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم تلاش کرتے پھریں۔ قرآن کریم نے اطلاع دی ہے ہم اسے مان لیں گے۔“

(الحکم ۱۷ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۲ کالم ۲۱)  
دیکھیے اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے اسمہ احمد کا مصداق سید الانبیاء کو تسلیم کر لیا۔  
..... ۵ ”مگر ہمارے نبی ﷺ فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں۔ یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۷۳، خزائن ج ۳ ص ۶۶۳)  
ملاحظہ فرمائیے کہ کس وضاحت سے خود ان کے گھر ہی سے تمام مسائل حل ہو گئے کہ:

(۱)..... احمد نام آنحضرت ﷺ کا ہے۔ (۲)..... قرآنی پیش گوئی ”اسمہ احمد“ کے مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ (۳)..... فارقلیط بمعنی احمد (انجیلی پیش گوئی) کے مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ (۴)..... آنحضرت ﷺ جامع صفات جلال و جمال ہیں۔  
عقلی دلائل

جلالیت جمالیت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ جمالیت کے تحفظ اور بقاء کے لئے جلالیت از بس ضروری ہے۔ ورنہ جمالیت جاتی رہے گی۔ خود خداوند قدوس جلال و جمال، مہر و قہر، رحمت و غضب، عفو و انتقام دونوں قسم کی صفات کے جامع ہیں۔ عفو و کرم کا اظہار اور تکمیل اسی وقت متصور ہوگی جب کہ جبر و قہر سے ظالموں کا ہاتھ روکیں گے۔ بحث انبیاء علیہم السلام اور نزول کتب سے مقصود انسانی معاشرہ میں عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا قیام ہے۔ (الحمدید: ۲۵) اور اس کے قیام کے لئے دونوں صفات کی ضرورت ہے ورنہ دشمنان امن و سلامتی، عدل و انصاف کی فضاء کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اخوت و محبت کے پھولوں کو مٹا دیں گے۔ حقوق و فرائض کے نظام کو تباہ کر دیں گے۔

اسی لئے قیم امن و سلامتی، عدل و عالم کا منصب دار، رحمت کائنات ﷺ اور آپ کے قدسی صفات صحابہ کرامؓ دونوں صفات سے متصف کئے گئے۔ فرمایا: ”لیظهرہ علی الدین کلہ“ کی شان والا محمد رسول اللہ ﷺ اور ”والذین معہ اشداء علی الکفار رحما۔ بینہم“ (یعنی وہ امن و سلامتی، عدل و انصاف) کے دشمنوں (کافروں) پر نہایت سخت۔ اور آپس میں نہایت رحیم ہیں۔ (الف: ۲۸، ۲۹)

ناظرین کرام! ناہنجاروں اور ظالموں کو دیکھئے کہ جس ہستی عظیم کو خدا نے تمام کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین (انبیاء: ۱۰۷)“ (یعنی آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لئے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے) ان کو یہ ظالم، صرف صفات جلالیہ (جہاد و قتال) کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ جن کے متعلق فرمایا: ”عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنہ رؤف الرحیم (التوبہ: ۱۲۸)“

”فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك (آل عمران: ۱۵۹)“ ان کو یہ صرف صفت جلالیت کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ وہ ذات اقدس ﷺ جو ہر فرد بشر کی ہدایت کے لئے مضطرب و بیتاب رہتی اور ہدایت و ایمان قبول نہ کرنے کی صورت میں آپ کو اتنا دکھ ہوتا کہ رب العالمین کو بار بار تسلی کے لئے فرماتا پڑا۔ ”فلعلک باخع نفسك علی اثارہم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا (الکہف: ۶)“

آپؐ نے باوجود پوری قدرت ہونے کے ہر موقعہ پر جس عفو و کرم کا اظہار فرمایا، خاص کر فتح مکہ کے دن اس کی ادنیٰ سی جھلک پیش کرنے سے تمام تاریخ عاجز ہے۔ جنگ کی صورت میں بھی جو احکام ارشاد فرمائے کہ عورت اور بچہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ قتل کے بعد اعضاء بدن نہ کاٹے جائیں۔ عہد و معاہدہ کا سختی سے پاس رکھا جائے۔ قیدیوں سے عمدہ سلوک کیا جائے وغیرہ۔ ان کی نظیر کوئی بھی ملت و معاشرہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر ایسی ہستی کو صرف صفات جلالیہ کا مظہر قرار دینا کتنا ظلم اور جہالت ہے۔

اس کے برعکس خود مرزا قادیانی کا یہ حال ہے کہ ذرا کسی نے مخالفت کی یا سوال و جواب کر لیا تو مخبوط الحواس ہو کر سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ کوئی معظم سے معظم فرد بھی مرزا قادیانی کی انتہائی قبیح بدزبانی اور ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ حالانکہ اس کے مظہر جمال ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) لوگوں نے مرزا قادیانی کی زہرناک گل فشانیوں کے مجموعے کتابی صورت میں شائع کر رکھے ہیں۔ جیسے مغلظات مرزا وغیرہ۔ نیز اسی بدزبانی کی بناء پر کئی دفعہ مرزا قادیانی کو معذرت بھی کرنا پڑی ہے۔

### ایک ضروری تنبیہ

خواص و عام کا یہ جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت جلالی تھے۔ گویا ان میں رافت و شفقت نہ تھی۔ یہ بات سراسر خلاف واقع اور منصب نبوت کے خلاف ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام امت کے حق میں نہایت مہربان اور شفیق بھی ہوتے ہیں۔ مگر احکام الہی کی بے حرمتی پر نہایت غیور بھی ہوتے ہیں اور یہ وصف ہر نبی میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اگر قوم کے بگڑ جانے پر غیرت دینی کی بناء پر سرزنش کی تو یہ چیز نامناسب نہ تھی۔ بلکہ ان کے مقام عالی کے عین مناسب تھا۔ خود سید دواعیہ محمدیہؐ کسی حکم الہی کی خلاف ورزی پر نہایت غضب ناک ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپؐ کے اوصاف رؤف رحیم اور رحمت للعالمین ہیں۔ مگر ہر وصف اپنے اپنے موقع پر تمام و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خود رب کریم بھی دونوں صفات (قہر و مہر، عفو و انتقام) سے متصف ہے۔ مگر غضب و قہر کے اتصاف سے اس کی رحمانیت متاثر نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر وصف کا اپنے اپنے موقعہ پر ظاہر ہونا عین مناسب ہوتا ہے۔ اب ذیل میں جمالیات موسوی اور جلالیت عیسوی کے جلوے ملاحظہ فرمائیں۔

### جمالیات موسیٰ علیہ السلام

”واذ قال موسیٰ لقومه یقوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ

الیکم (الصف: ۵)“ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حالانکہ تم خوب جانتے ہو مانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ﴿ف..... فرمائیے کیسی شفقت اور جمالیت کا مظہر ہے۔ بنی اسرائیل جیسی اکھڑ اور بد طینت قوم سے گزارا کرنا صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہی حوصلہ اور حلم و بردباری کا نتیجہ تھا۔ جو قدم قدم پر آپ کی مخالفت، متنوع مطالبے، مظاہرے اور احتجاج کرتے رہتے تھے۔“ اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔“ (کنز: ۱۲: ۳) فرمائیے خدا تو موسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے بردبار اور حلیم اور جمالیت کا مظہر فرما رہا ہے اور یہ دجال قدم قدم پر انہیں جلالیت کا نمونہ کہہ کر ان کی تنقیص شان کر رہا ہے۔ اس طرح اکثر جاہل واعظ اور عوام حضرت کلیم اللہ کو اسی صفت والا تصور کرتے ہیں۔

سنئے! جب بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر یہ منظر دیکھنا پڑا تو خدا کا کلیم یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا اور فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کو اس گناہ امت کے کفارہ کا بندوبست کرنے کا فرمایا اور خود خدا کے حضور سجدہ میں پڑ کر امت کے لئے معافی مانگتا رہا۔ ان سے غضب الہی ٹل جانے کی دعاء کرتا رہا اور آخر میں حد کر دی بار الہی میں عرض کیا کہ اے میرے خدا ”اگر تو ان کو معاف نہیں کرتا تو میرا نام اپنی کتاب سے کاٹ دے۔“ ہائے ہائے، اے موسیٰ کو جلالی کہنے والو۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھو یہ موسیٰ جلالیت والا ہے یا غفور و رحمت کا پیکر ہے؟ ہوش کرو خدا کا خوف کرو۔ (دیکھئے توراۃ کا دوسرا پارہ، خروج باب ۳۲، آیت ۱۱، ۱۲، ۳۵ تا ۳۷، نیز کنز: ۱۶)

### جلالیت عیسیٰ علیہ السلام

دیگر لوگوں کی طرح خود عیسائی بھی مسیح علیہ السلام کو نہایت رحیم و شفیق کہتے ہیں۔ مگر حقیقت وہی ہے کہ دین اور خدا کے لئے غیرت رحمت و شفقت کے منافی نہیں۔ جب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خروج ۲۰: ۵۔ استثناء ۹: ۵۔ خروج ۳۳: ۱۳۔ استثناء ۳: ۲۳، ۶: ۱۵۔ حزقیل ۳۹: ۲۵۔ ناحوم ۲: ۱ وغیرہ) تو اس کے نمائندے اور نبی و پیغمبر وغیرہ اس کے لئے غیرت مند ہوں گے۔

مگر یہ آپ کی حلیمی کے خلاف نہ تھا۔ بلکہ خدا کے لئے غیرت تھی جو ہر نبی ہی نہیں ہر خدا پرست انسان میں ہوتی ہے۔ اے دجال قادیانی ذرا دیکھ حقیقت کو، ہر نبی میں جلال و جمال کے مظاہرے دیکھ۔ محض اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے انبیاء کرام کی توہین کا ارتکاب نہ کر۔ تو انگریز کا ایجنٹ ہے تجھے خدا سے کیا تعلق؟ تو اس بازار میں مت قدم رکھ۔ لعنک اللہ!

اسم محمد جلالی ہے یا جمالی؟ ایک نئی حقیقت کا حیران کن انکشاف

مرزا قادیانی نے اسم محمد کو جلالی اور اسم احمد کو جمالی قرار دیا ہے۔ مگر ان کے دست راست محمد احسن امر وہی اپنے مشہور رسالہ القول المجید فی تفسیر اسمہ احمد میں لکھتے ہیں اور بادل میں لکھتے ہیں کہ: ”اسم محمد جمالی اور اسم احمد جلالی ہے، کیونکہ اسم احمد والی پیش گوئی سورۃ القف میں بیان ہوئی ہے۔ جس میں مسئلہ جہاد کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا گیا ہے اور جہاد کی روح (صف بندی) کو نمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کے اسمہ احمد کے مصداق ہونے کی یہ ایک قوی دلیل ہے۔ پھر از روئے لغت ثابت کرتے ہیں کہ اسم محمد میں جمالی شان پائی جاتی ہے۔ کیونکہ معنار الصالح ص ۱۱۹ وغیرہ میں لکھا ہے ”والمحمد بالتشديد الذی کثرت خصاله المحموده“ یعنی لفظ محمد تشدید کے ساتھ وہ شخصیت ہے۔ جس کی عمدہ صفات بکثرت ہوں۔ ایسے ہی بحر الحیط، قاموس اور صراح اور المنجد وغیرہ میں ہے۔“ (القول المجید ص ۱۷)

پھر (القول المجید ص ۲۸، ۲۹) پر لکھتے ہیں کہ: ”یہ امر تو مسلم ہے۔ آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک میں ایک شان جلالی ضرور تھی۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ: ”نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لی الغنائم وبینا انا نائم اذا اوتیت بمفاتح خزائن الارض فوضعت فی یدی“ یہ الفاظ حدیث متفق علیہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی شان جلالی تھی اور مرزا قادیانی کو بھی یہ امر مسلم ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ شان جلالی ثابت ہوتی ہے۔ ”ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين“ اور چونکہ مادہ حمد میں ایک معنی ایسا ہے جو شان جلالی کی طرف مشعر ہے (کمانی القاموس) ”الحمد والشكر والرضا والجزاء وقضاء الحق“ پس قضاء اور جزاء جس میں سزا بھی داخل ہے، یہ شان جلالی کی مشعر ہے۔ قطر الحیط میں ہے۔ ”حمد حقه قضاء وحمد على الشى جزاه وحمد ابضا يحمد حمدا غضب الحمادى شدة الحر حمدة النار صوت التهابها يوم محمد شديد الحر“ صراح میں ہے۔ ”حمد النار“ آواز آتش۔ اس تمام مواد میں وصف جلالی کی طرف ضرور اشارہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معنی جلالی کی طرف اسم محمد میں اشارہ پایا جاتا ہے یا اسم احمد میں۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ صیغہ محمد مفعول کا صیغہ ہے۔ جس میں افعال پایا جاتا ہے تو اگر معنی غضب ملحوظ رکھے جائیں تو معاذ اللہ یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسی طرح قضاء اور جزاء کے معنی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ غرضیکہ از روئے لغت بلحاظ شان جلالی یہ صیغہ مفعول آپ کے حق میں درست نہیں ہو سکتا۔“

اب رہا صیغہ احمد جو کہ فعل التفضیل ہے۔ اگرچہ کبھی مفعول کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مگر اکثر فاعلیت کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ جس میں شان جلالی پائی جاتی ہے۔ پس جب کہ آپ میں شان جلالی موجود ہے اور اسم محمد میں تو حسب دلائل مذکورہ شان جلالی موجود نہیں تو متعین ہو گیا کہ اسم احمد ہی میں شان جلالی پائی جاتی ہے اور سورۃ القصف میں اسی رسول معظم ﷺ کی پیش گوئی ہے۔ جس میں شان جلالی ہو پس متعین ہوا کہ آیت ”اسمہ احمد“ میں اصلی اور حقیقی مصداق صرف آنحضرت ﷺ ہی ہو سکتے ہیں۔ (لا غیر) کیونکہ مرزا قادیانی تو باتفاق فریقین (لاہور و قادیانی) شان جمالی کے ساتھ آئے ہیں۔ (القول المجہد ص ۲۸، ۲۹)

ناظرین کرام! لیجئے یہ صاحب تو اپنے گرو مرزا قادیانی کو بھی لتاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے صاف لکھا ہے کہ آپ کے دونوں ناموں میں سے اسم محمد جلالی اور اسم احمد جمالی ہے اور آپ میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ مکی زندگی مظہر جمال یعنی اسم احمد کے مصداق اور مظہر تہی اور مدنی زندگی مظہر جلال یعنی اسم محمد کے مصداق تھی۔ مگر مروی صاحب نے سارے کئے کر ائے پر پانی پھیر دیا اور انصاف کی بات کی کہ اسم محمد میں جلالت پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ تو صرف احمد میں ہو سکتی ہے۔

قادیانیت اپنے ہی تیار کردہ جال میں

نیز اگر بقول خلیفہ صاحب آنحضرت ﷺ کا ذاتی نام محمد ہی ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیونکہ آپ جہاد و قتال کے ساتھ تشریف لائے اور مرزا قادیانی احمد ہیں۔ کیونکہ یہ صرف دلائل و براہین کے ساتھ آئے ہیں۔ اب جہاد و قتال کا زمانہ گزر چکا ہے تو پھر جناب مرزا قادیانی خود کو اسم محمد سے کیوں موسوم کرتے ہیں؟ ملاحظہ ہو۔

۱..... منم محمد واحد کہ محبتی باشد۔ یعنی میں ہی وہ محمد اور احمد ہوں کہ جو برگزیدہ تھے۔  
۲..... میں بروزی طور پر محمد ہوں۔ مختلف کتب مرزا خصوصاً ”ایک غلطی کا ازالہ“ جو اسی ظل و بروز کی چکر بازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس رسالہ میں مرزا قادیانی صاف لکھتے ہیں کہ: ”محمد رسول اللہ (اس آیت کو اپنے حق میں نازل شدہ سمجھ کر) اس وحی میں میرا نام محمد احمد رکھا گیا ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۷۷)

۳..... آگے لکھا کہ: ”جو فتانی الرسول ہو جاتا ہے، اس پر ظلی طور پر وہی چادر پہنا دی جاتی ہے جو محمد کی نبوت آخر محمد ہی کو ملی۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۸)

۴..... ”میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔“

..... ”خدا نے مجھے ہر ایک بات میں وجود محمدی میں داخل کر دیا ہے۔“

(نزل المسح ص ۳۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۱)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیں مرزا قادیانی خلیفہ کے دعویٰ کے خلاف بار بار اقرار کر رہے ہیں کہ میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی۔ بلکہ لکھا کہ تمام محمدی کمالات کا مجھ پر انعکاس ہو گیا ہے اور مجھے ہر ایک بات میں وجود محمدی میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم خلیفہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ اور دعویٰ کہ مرزا قادیانی بوجہ احمد ہونے کے جمالی شان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ دلیل و برہان کے ساتھ آئے ہیں۔ جب کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو شان جلالی کا کامل نمونہ قرار دے رہے ہیں جو کہ جہاد و قتال کا مظہر ہونا چاہئے تو اب بتلایئے کہ کیا مرزا قادیانی کو بوجہ محمد ہونے کے جہاد و قتال کرنا چاہئے تھا یا نہ؟ ورنہ اس جلالی نام سے دست برداری کا اعلان کیا ہوتا۔

### مراق کی کزشمہ سازیاں

ناظرین کرام! مندرجہ بالا پیش کردہ اقتباسات پر سرسری نظر ڈالنے سے ہر شخص محسوس کرے گا کہ ان میں واضح طور پر تضاد اور تناقض پایا جاتا ہے۔ بندہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تمام مرزائی لٹریچر ہو، ہوا سی طرح دجل و فریب کی چکر بازی ہے۔ ایک جگہ کچھ لکھ دیا اور دوسری جگہ اس کے بالکل برعکس خامہ فرسائی کر دی گئی اور پھر تیسری جگہ سب سابقہ نظر انداز کر کے ایک تیسرا گل کھلا دیا۔ یہ مراقی اور مخبوط الحواس انسان کی علامت ہے نہ کہ کسی مجدد دینی و مہدی وغیرہ کی۔

مرزا قادیانی چونکہ بقول خود مرض ہسٹریا اور مراق کے مریض تھے، لہذا وہ تو طبعاً شاید معذور ہو سکتے ہوں۔ مگر یہ آنکھیں بند کر کے ان کے متضاد دعاوی کو تسلیم کرنے والے اصل مجرم ہیں۔ کیونکہ از روئے طب و عقل، مراقی آدمی کا کوئی دعویٰ قابل توجہ نہیں ہوتا۔

### ایک جدید انکشاف

مرزا قادیانی نے پہلے تو واقعی دعویٰ مسیحیت کیا تھا۔ مگر خلیفہ قادیان اور ان کے حواریوں کو شاید علم نہیں کہ آنجناب اس مقام جمالیت سے ترقی کر کے مرتبہ جلالیت یعنی مقام موسویت پر براجمان ہو چکے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔

مرزا قادیانی اپنی آخری کتاب تتمہ حقیقت الوحی میں اپنا ایک الہام نقل کرتے ہیں کہ: ”ایک موسیٰ ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اسے عزت دوں گا۔ جس نے میرا

۱۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بقول خود و بقول خلیفہ اپنے فرائض منصبی (جہاد و قتال) ادا

نہ کر سکنے کی صورت میں، کسی بھی مقام کے لائق نہیں۔ وہو المقصود!



گناہ کیا میں اس کو گھسیٹوں گا اور اس کو دوزخ دکھلاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے ظہور سے تو لوگ کچھ بھی متنبہ نہ ہوئے اب میں اپنے اس بندہ کو (مرزا قادیانی) موسیٰ کی صفات میں (صفات جلالیہ) ظاہر کروں گا۔“ (تحریر حقیقت الوحی ص ۸۳، ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۵۱۹)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا اقتباس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی مقام جمالیات سے (دلیل و برہان) سے ترقی کر کے مقام جلالیت (جہاد و قتال) پر فائز ہو چکے ہیں۔ لیکن نہ خلیفہ قادیان کو یہ بات معلوم ہوئی اور نہ کسی دیگر قادیانی کو۔ چنانچہ وہ ابھی تک ان کو احمد (یعنی صفات جمالیہ کا مظہر) ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ جنگ و جدال کے ساتھ نہیں بلکہ صلح و آشتی پھیلانے آئے ہیں۔ جب کہ آنحضرت ﷺ جہاد و قتال (یعنی صفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے تھے۔ خلیفہ صاحب کا دامن جھنجھوڑ کر دریافت کیجئے کہ یہ کیا تماشہ ہے؟ مرزا قادیانی تو اپنے آپ کو دلیل و برہان (مسیحیت) کے مقام سے ترقی کر کے مقام موسوی پر فائز کر رہے ہیں جو کہ صفات جلالیہ کے مظہر تھے۔ بتلائیے اب تمہاری ثابت کردہ جمالیات کے ذرا مد کا کیا حشر ہوگا؟

بتلائیے اب حرمت جہاد کا فتویٰ کس بناء پر ہے؟ نیز ہوش و حواس قائم کر کے بتلائیے کہ جب مرزا قادیانی عیسیٰ سے موسیٰ بن گئے ہیں جو مظہر جلالیت تھے تو تم ابھی احمدی کس بناء پر کہلا رہے ہو۔ کیونکہ احمد تو مظہر جمال ہے۔ یعنی تمہیں اب احمدی نہیں بلکہ متبعین موسیٰ ہونے کی بناء پر یہودی یا اسرائیلی کہلانا چاہئے۔ بینوا و تسلما!

میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تمام قادیانی اس دجل و فریب کی چکر بازیوں پر تین حرف بھیج کر سچے دین اسلام پر ہی آجائیں۔ صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہی کے دامن رحمت و عافیت سے وابستہ ہو کر اپنی عاقبت بنالیں۔ ورنہ قادیانیت تو محض ایک سیاسی چکر بازی اور چال ہے۔

خلیفہ قادیانی کے نظریے کا ایک خطرناک نتیجہ

اگر خلیفہ قادیانی کا نظریہ پیش رکھیں تو پھر دشمنان اسلام کا مشہور بہتان صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ ”اسلام بروز شمشیر پھیلا ہے“ مگر اس میں خلیفہ صاحب کا کوئی خاص قصور نہیں بلکہ قادیانیت کی بنیاد ہی ایسے خاندان سے رکھوائی گئی جو نسلاً بعد نسل دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر مسلم کشی کرتا رہا ہے۔ انگریزی عمل داری سے پیشتر سکھ مہاراجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کراتے رہے۔ جس کی کچھ تفصیل خود خلیفہ کی کتاب ”سیرت مسیح موعود“ میں ہے اور جب انگریز غالب ہوتے نظر آئے تو ان کے ٹوڈی بن کر اپنی مسلم دشمنی کا ثبوت فراہم کرتے رہے۔ جناب مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب تریاق القلوب وغیرہ میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ”۱۸۵۷ء کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں

میرے باپ (مرزا غلام مرتضیٰ) نے ۵۰ گھوڑے بمع سوارانگر بڑی فوج کی امداد کے لئے بھیجے اور مرید بھی بھیجے کا وعدہ کیا اور قدم قدم پر انگریزی ہمنوائی کا اعلان کرتے رہے اور دین اسلام کے مرکزی مسئلہ جہاد کو ایک خطرناک اور خلاف تہذیب مسئلہ کا عنوان دیتے رہے۔ ”حالانکہ خدا کے آخری رسول ﷺ نے الجہاد ذرۃ الاسلام فرمایا ہے اور الجہاد ماضی الی یوم القیامۃ فرما کر اسے اسلام کی آن و شان اور ذریعہ بقاء قرار دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز میں قوت مدافعت ہی نہ رہے وہ باقی نہیں رہ سکتی اور جو چیز اپنا تحفظ نہ کر سکے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی خلافت کے پہلے خطبہ میں بیان فرمایا تھا۔ (تاریخ الخلفاء)

جناب خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ”مرزا قادیانی اس جمالی نام احمد کے مصداق ہیں۔ (معاذ اللہ) کیونکہ اس زمانہ میں دین کے لئے جہاد و قتال جائز نہیں بلکہ دلائل سے دین اسلام کی تائید کا زمانہ ہے۔“ یہ سب باتیں صرف ان لوگوں کا دجل و فریب اور انگریز پرستی ہے۔ جب کہ درحقیقت اس زمانہ میں جہاد کی اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ یعنی یہ خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

تصویر کا دوسرا رخ

مصنف انوار خلافت جناب خلیفہ بشیر الدین کے جمالیاتی فرامین اور صلح و آشتی کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں:

۱..... خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جو مسیح آیا تھا اسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھا دیا۔ (بالکل جھوٹ) مگر یہ مسیح (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارے۔“ (الفضل ۲۹ جولائی ۱۹۳۷ء)

۲..... ایک جگہ باغی اور منحرف مرزائیوں کے خلاف لکھتے ہیں کہ: ”ان دنوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے نیچے ہے۔“ (الفضل ۲۹ جولائی ۱۹۳۷ء)

۳..... ایک موقع پر پیکر جمالیات یوں اعلان کرتے ہیں کہ: ”اگر تم میں رائی کے دانہ کے برابر بھی حیاء ہے اور تمہارا راجح عقیدہ ہے کہ دشمنوں کو سزا دینی چاہئے تو پھر یا تو تم دنیا سے مٹ جاؤ گے یا گالیاں دینے والوں کو مٹا دو گے..... اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں توڑ دیتا۔“ (الفضل ج ۲۵ نمبر ۱۲۹ ص ۶، مورخہ ۵ جون ۱۹۳۷ء) ۲۹ مئی ۱۹۷۷ء کو ربوہ (چناب نگر) اسٹیشن پر نشتر کالج کے طلباء پر تشدد اسی نظریہ کے تحت کیا تھا۔

۴..... پیکر صلح و آشتی کا ایک قاہرانہ اعلان: ”سب سے مقدم اور پہلی چیز جس کے لئے ہر احمدی (قادیانی) کو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ وہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اور سلسلہ کی ہتک ہے۔“ (الفصل ۱۲ راکست ۱۹۳۵ء)

ملاحظہ فرمائیے کہ دین اسلام کے دفاع اور تحفظ کے لئے تو جہاد حرام ہے۔ مگر مرزا ایت کے تحفظ کے لئے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا فرض ہے۔ کیا یہی خدمت اسلام ہے؟ لعنتہ اللہ علی الملحدین والزندیقین۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خدمت دین اور کسر صلیب کا دعویٰ محض فراڈ ہے۔ اصل مقصد مسلم کشی اور انگریزی حکومت کی اتکبائی اور حمایت ہے۔ خود مرزا قادیانی نے اس راز کو فاش کر دیا ہے۔ وہ اپنی خدمت اسلام اور مناظرہ بازی کی غرض و غایت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ: ”مجھ سے جو کچھ پادریوں کے مقابلہ میں (مناظرہ، تحریر، تقریر) وقوع میں آیا ہے، اس کا مقصد محض وحشی مسلمانوں کے جوش کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ (دفاع اسلام مقصود نہیں) ورنہ میں تو اول درجہ کا خیر خواہ حکومت کا ہوں۔“ (تریق القلوب ص ۳۶۳، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۱)

۵..... پیکر حلم و جمال نے جمعہ ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء کو ایک ایسا اشتعال انگیز خطبہ دیا تھا جو ڈی، سی گورداسپور نے حکماً روک دیا اور جو آج تک شائع نہیں ہوا۔

(بحوالہ رسالہ ”خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے“ ص ۲۶، ۲۷)

۶..... ان جہاد حرامیوں کی مزید لن ترانیاں ملاحظہ فرمائیے: ”ہم دنیا میں نابود ہونا منظور کر لیں گے۔ احمدی (قادیانی) جماعت زندہ جماعت ہے۔ وہ ہر قربانی پیش کرے گی۔ مظلومیت کے رنگ میں عمر قید چھوڑ پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو ہم اسے باعث عزت سمجھیں گے۔“ (الفصل ۱۱ جولائی ۱۹۳۷ء، بحوالہ خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے ص ۱۸)

۷..... قول مرزا ”دین کے لئے اب لڑنا حرام“ مگر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ”اگر تبلیغ کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو یا تو ہم اس ملک سے نکل جائیں گے یا اگر اللہ اجازت دے تو پھر ایسی حکومت سے لڑیں گے۔“ (الفصل ۱۳ نومبر ۱۹۵۳ء) دوسری جگہ کہا کہ: ”شاید کابل کے لئے کسی وقت جہاد بھی کرنا پڑے۔“ (۲۷ فروری ۱۹۲۲ء)

فرعونی تعلیٰ کی مزید جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ”جماعت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض حکومتیں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور تو میں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں۔“ (الفصل ۳۰ اپریل ۱۹۳۸ء)

”قبولیت کی رو چلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔“

(الفضل ۱۱ جولائی ۱۹۳۶ء)

خلیفہ قادیان کا مذہبی لبادہ اوڑھ کر سیاست کا کھیل دیکھئے۔ چنانچہ خلیفہ قادیان اکثر کہا کرتے تھے کہ: ”ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی روح کو پھیل دیں گے۔ ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ دفتر امور عامہ ایسے احمدی (مرزائی) آفیسران جو گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس، سول، بجلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے محکموں میں کام کرتے ہیں۔ ان کے مکمل پتے مہیا کرتا ہے۔“ (الفضل ۸ نومبر ۱۹۳۲ء، بحوالہ ناپاک منصوبے ص ۱۹)

یہ داعی امن و سلامتی کبھی یوں گل فشانی کرتا ہے: ”پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں وہ سیاست کو سمجھتے ہی نہیں۔ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ خلیفہ کی بھی سیاست ہے وہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔“ (الفضل ۱۹۲۶ء)

جمالی صفات خلیفہ ہر فرد کو حق بغاوت دیتا ہے۔

خلیفہ قادیان ہر اس فرد کو بغاوت اور مقابلہ کا حق دیتے ہیں۔ جس نے دل سے اور عمل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک دفعہ کسی نے دریافت کیا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہو کیا انہیں حکومت کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو کہا: ”اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی ایسا باقی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نہ عمل سے نہ زبان سے تو وہ آزاد ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کر سکتا ہے۔“

(الفضل ۱۹ ستمبر ۱۹۳۲ء)

جہاد حرامی ٹولے کا اعلان ایک خواب کا سہارا لے کر جماعت کو یہ حکم دیا کہ: ”ٹیری ٹوریل فورس میں احمدیوں (مرزائیوں) کو بھرتی ہونا چاہئے اور مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ فوجی نظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔“ (الفضل ۶ اکتوبر ۱۹۳۶ء)

جماعت کے نوجوان طبقہ کو بار بار یہ تحریک کی جاتی ہے کہ: ”احمدی (مرزائی) نوجوانوں کو چاہئے کہ ان میں سے جو بھی شہری ٹیری ٹوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کریں۔“ (الفضل ۸ مارچ ۱۹۳۹ء)

احمدیہ کور کی سرپرستی، ایک فوجی نظام اور اس کے متعلقات

..... ”حضرت امیر المؤمنین نے احمدیہ (مرزائیہ) کور کو اپنی سرپرستی کے فخر سے سرفراز کرنا بھی منظور فرمایا ہے۔“ (الفضل ۷ اگست ۱۹۳۲ء)

۲..... ”اس فوجی تربیت کی کلاسیں شروع ہو گئیں۔ فوجی طرز پر سلامی ہوتی اور خلیفہ صاحب اس فوجی سلام کا ہاتھ سے جواب بھی دیتے۔“ (الفضل ۱۷ ستمبر ۱۹۳۳ء)

۳..... ”اس فوج کا اپنا خاص پرچم تھا۔ جو سبز رنگ کے کپڑے کا تھا۔ اس پر منارۃ المسیح بنا کر ایک طرف اللہ اکبر اور دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپنگ کے لئے دریائے بیاس کے کنارے بھیجی گئی تھی۔“ (الفضل ۲۲ ستمبر ۱۹۳۳ء)

جبری بھرتی کے احکام خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں کہ: ”میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پینتیس سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کو اس میں جبری طور پر بھرتی کیا جائے۔“

(الفضل ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۳ء، بحوالہ خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے ص ۳۱ تا ۳۲)

ف..... ناظرین کرام! ان اقتباسات سے اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیت محض مغربی استعمال کا آلہ کار ہے۔ یہ محض تحریک آزادی اور مسئلہ جہاد کو ناکام کرنے کے لئے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ اسی لئے اس کے قول و عمل میں اتنا فرق ہے کہ دین کے لئے تو جہاد حرام ہے۔ مگر مرزائیت کے لئے ہر حربہ اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار! مزید سنئے:

ایک تنظیم خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھنے پر خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ: ”خدام الاحمدیہ میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا اور ایک اسلامی فوج تیار کرنا ہے۔“ (الفضل ۱۷ اپریل ۱۹۳۹ء)

پیکر صلح و آشتی ایک موقعہ پر حکم جاری کرتے ہیں کہ: ”جو احباب بندوق کا لائسنس حاصل کرتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تلوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تلوار رکھیں۔“ (الفضل ۲۲ جولائی ۱۹۳۰ء، بحوالہ خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے ص ۳۵)

امن و محبت کے دعوے دار (خلیفہ قادیان) کے جارحانہ منصوبے، قادیان میں احمدیہ (قادیانی) کور کی بنیاد ڈالی۔ جس کا ممبر ۱۵ سال سے ۳۵ سال کا ہر احمدی (مرزائی) تھا اور اسے ٹیری ٹوریل فورس کی انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت لینا ضروری تھا۔ پھر ۱۵/۸ پنجاب رجمنٹ میں خالص احمدی (مرزائی) کمپنی کا ہونا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ صاحب کے عقل و قلب میں بادشاہت کی آرزوئیں لہریں مار رہی تھیں۔ پھر تقسیم کے بعد

سیالکوٹ، بنوں، سرحد پر انہیں احمدیہ (مرزا) کمپنی کے دلنیز ز شدہ سپاہی منظم طور پر خلیفہ قادیان کے حکم کے مطابق پہنچ گئے۔ ان کو دھڑا دھڑا اسلحہ میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان فورس جو خالص قادیانی فورس تھی۔ کشمیر میں کھڑی کر دی گئی اور خلیفہ قادیان نے خود محاذ جنگ پر جا کر اس فوجی تنظیم کا جائزہ لیا اور سلامی لی۔

اس فوج کا استعمال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ: ”انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ گرانڈین یونین چاہئے، صلح سے ہمارا مرکز دے۔ یا جنگ سے ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضروری لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکزی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے۔ آج ہی ہر احمدی (قادیانی) اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔“

(الفضل ۳۰ اپریل ۱۹۴۸ء)

”تقسیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی فوجی تنظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہو گئی تو خلیفہ قادیان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے۔ جہاں اپنے نوجوانوں کو مزید فوجی تربیت دی جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتماد لیوں، غفونتوں، گندگیوں، ناپاکیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالا جاسکے۔ خلیفہ قادیان نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری Base مضبوط نہ ہو۔ پہلے Base مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کو احمدی بنایا جائے تاکہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہہ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب یہ صوبہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ چھین نہیں سکتیں۔“

(الفضل ۱۳ اگست ۱۹۴۸ء، بحوالہ ناپاک منصوبے)

مگر ہوا کیا؟ سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان وہیں ہے۔ مگر قادیانی پھر ریرا دور دور نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان بلکہ تمام پاکستان چھوڑ کر اپنے جنم بھومی (برطانیہ) میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار، یفعل اللہ ما یشاء وهو علی کل شئی قدير“

ناظرین کرام! مندرجہ بالا تفصیلی حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قادیانیت کوئی مذہبی جماعت نہیں۔ بلکہ محض ایک سیاسی چکر بازی ہے جو صرف حکومت انگلشیہ کے استحکام کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ (جیسا کہ تحفہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ وغیرہ کتب مرزا میں یہ حقیقت بالکل عیاں ہے) چونکہ مسئلہ جہاد تحفظ اسلام کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تمام اقوام اس سے خائف ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی اس

مسئلہ کو ہدف تنقید بنا کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ اسلام سے اسے ذرہ برابر ہمدردی اور تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ تریاق القلوب کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ ایسے ہی براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۶۸ کے حاشیہ پر اس حقیقت کو قبول کیا گیا ہے۔ تو پھر ایسے گروہ کی دجالانہ تحریف کے نتیجہ میں سورۃ الصف آیت ۶ کی بناء پر ان کو احمدی کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس کے نتیجہ میں قرآن و صاحب قرآن نیز تمام آئمہ امت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اہل اسلام کو چاہئے کہ ان کو کسی بھی صورت میں احمدی نہ کہیں۔ بلکہ ان کو ان کے حقیقی لقب قادیانی یا مرزائی سے پکاریں۔ تاکہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہوتی رہے اور ان کا صحیح تشخص اور قومیت (غیر مسلم ملحدین و زنادقہ) واضح ہو جائے۔

مخالطہ نمبر: ۴..... کہ اسم احمد کا استعمال صحابہ کرامؓ کے کلام میں کہیں نہیں ہوا۔  
الجواب: یہ بھی اسی طرح جھوٹ ہے۔ جیسے یہ جھوٹ ہے کہ کسی بھی حدیث میں یہ نام نہیں آیا۔

ملاحظہ فرمائیے! حضرت حسان بن ثابتؓ شاعر دربار رسالت کہتے ہیں کہ:

صلی الالہ ومن یحف بعرشہ  
رسول من اللہ باری النسم  
لہ امة سمیت فی الزبور  
بامۃ احمد خیر الامم  
فلو مد عمری الی عمرہ  
لکنت وزیر الہ وابن عم

(بحوالہ فتوح الشام ص ۷۰ ورحمۃ للعالمین ج ۲)

۳..... رفاعہ بن زبیرؓ اپنے بیٹے عامر کو جو کہ مرتد ہو گیا تھا۔ نصیحت کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ:

ابنی غرتک الحیوة	فصرت تکفر بالعلیم
ابنی صرت فی الشفاء	من بعد کونک فی النعیم
ابنی اما تخشی العذاب	اذا عبرت علی الجہیم
اما تستحی من احمد	یوم القیامة والخصوم
اما ابوک فقد غدا	من اجل کفرک فی ہموم

اللہ فی یوم العظیم  
بواحد صمد قدیم

این المفر اذا دعا  
ویقول یا عبدی کفرت

(فتوح الشام ص ۴۲)

۴..... ایک مسلمان کفار کے مقابلہ میں کہہ رہا ہے:

وادخل الجنة ذات تسق  
مجاور لا حمد فی المرفق

(فتوح الشام ص ۴۲)

۵..... حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ:

لا ننی نجم بنی مخزوم  
وصاحب لا حمد کریم

(فتوح الشام ص ۱۴۹)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ اسم مبارک احمد اتنا مشہور معروف ہے کہ عربی، فارسی، اردو ہر زبان میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ مثنوی رومی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی اہل اسلام کے محاورہ میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اکثر کتب و رسائل میں ملتا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ خود مرزا قادیانی نے اس اسم مبارک کو آپ ﷺ کے حق میں بکثرت استعمال کیا ہے۔ اب اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد کیسے کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے محاورہ کلام میں یہ اسم گرامی مستعمل اور معروف نہیں ہے؟ درحقیقت قادیانیت نام ہی کتمان حق اور دجل و فریب کا ہے۔ یہ ٹولہ اپنے سر پرست انگریز بہادر کے اسی فارمولے پر عمل پیرا ہے کہ جھوٹ اس شد و مد سے بولو کہ لوگ اسے سچ تصور کرنے لگیں۔ ہر بات میں قادیانی اسی ضابطہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔

مغالطہ نمبر: ۵..... یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی صرف محمد ہی ہے۔ اس لئے

کلمہ، اذان و اقامت، درود شریف وغیرہ میں یہی اسم آیا ہے۔ اگر احمد بھی ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی موقعہ پر ضرور آتا۔

الجواب: جب قرآن و حدیث، تفاسیر، سیر و تاریخ بلکہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے دونوں نام ذاتی ہیں تو پھر کثرت استعمال سے ایک نام کو ذاتی اور دوسرے کو غیر ذاتی کہہ دینا کوئی عقل و دانش کی بات نہیں ہے۔ اصل تو دلائل



و براہین ہوتے ہیں۔ جب ان سے کوئی حقیقت ثابت ہو جائے تو پھر صرف آثار و قرائن اور حیلے بہانے سے اس کے خلاف اور برعکس کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔

ایک قیمتی نکتہ: اہل زمین اکثر تعریف کے طالب اور متمنی ہوتے ہیں۔ عمدہ افعال و اعمال پر ان کی تعریف و ستائش کی جاتی ہے۔ مگر آسمان والوں کا وظیفہ حیات ہی خدا کی حمد و ثناء اور تسبیح و تحلیل ہے۔ لہذا زمین پر آپ کا اسم گرامی محمد ﷺ رکھا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اگرچہ زمین پر بڑے بڑے قابل تعریف لوگ ہوئے ہیں۔ مگر آپ ان سے بڑھ کر قابل تعریف یعنی محمد ہیں اور آسمان والے چونکہ حامدین ہیں۔ مگر وہاں آپ کا اسم گرامی احمد ہے۔ گویا آپ اہل زمین کے محمودین میں محمد ہیں اور اہل آسمان کے حامدین میں احمد ہیں۔ پھر چونکہ یہ کلمہ شہادت و اذان و اقامت اور درود شریف دائرہ دنیا تک کے احکام ہیں۔ لہذا ان میں آپ کا اسم گرامی محمد ہی مناسب ہے اور جب حامدین کے جہان میں جائیں گے تو وہ احمد کہلائیں گے۔ ویسے بھی کسی نام کا کثرت استعمال اور شہرت کا یہ معنی نہیں کہ کم استعمال والا نام، نام ہی نہیں رہتا۔ جیسے قرآن مشہور زبان زد نام ہے۔ مگر اس سے فرقان، ذکر، تذکرہ وغیرہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابو ہریرہؓ کی کنیت مشہور ہونے اور ذاتی نام مستور ہو جانے سے ان کے اعلام کی نفی نہیں ہو جاتی۔ ”فافہم وتدبر ولا تکن من الہالکین“

قادیان مغالطہ نمبر: ۶..... کہ اس آیت میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں۔ جس کی بناء پر ہم اس کا مصداق آنحضرت ﷺ کو قرار دیں۔

الجواب: سابقہ پانچ مغالطوں کے جوابات میں جو تفصیلات آچکی ہیں۔ ان کی روشنی میں اس مغالطہ میں ذرہ بھی معقولیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام! انہیں دوبارہ مطالعہ فرما کر شیطانی وسوسا کا ازالہ فرما سکتے ہیں۔

### مسئلہ جہاد اور قادیانیت

امت مسلمہ کے تشخص کے تحفظ اور اشاعت حق کے لئے مسئلہ جہاد نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں جہاد اور قتال کے عنوان سے اس کا ۱۰۰ مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے تناظر میں اسے ایمان باللہ والرسول کے بعد اس کا تذکرہ نہایت مہتمم بالشان عنوانات کے تحت فرمایا گیا ہے۔ اسے دنیوی اور آخروی سعادت اور کامرانی کا ایک اہم اور بنیادی سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون الدين لله (البقرہ: ۱۹۳)“

دوسری جگہ ہے کہ: ”وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (الانفال: ۳۹)“ ﴿اور (اشاعت حق کے راستے کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لئے) کفار اور منکرین حق سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ و فساد مٹ جائے اور دین (عبودیت اور اطاعت) صرف اللہ تعالیٰ کی قائم ہو جائے۔﴾

دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یہاں تک کہ تمام عبودیت اور اطاعت محض اللہ تعالیٰ کے لئے قائم ہو جائے۔ (یہ ہر قسم کا شرک و کفر، سرکشی اور بغاوت، اعتقادی اور عملی خرابیاں مٹ کر رہی ہو سکتا ہے)

۳..... رحمت عالم ﷺ نے بھی مسئلہ جہاد کی اہمیت نہایت تفصیل وضاحت سے متعدد ارشادات میں بیان فرمائی: ”الجهاد ذروة الاسلام“ یعنی جہاد (راہ حق میں کفار و منکرین سے مقابلہ کرنا) اسلام کی شان و شوکت ہے۔

نیز فرمایا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ ”الجهاد ماض الى يوم القيامة“ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ: ”میری امت کی ایک جماعت مسئلہ جہاد کو قائم رکھے گی۔ حتیٰ کہ ایک جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔“

۳..... خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی پہلی نشری تقریر میں فرمایا: ”لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا صوبهم الله بالذل“ (تاریخ الخلفاء ص ۵۱) یعنی جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ ذلت اور پستی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ یعنی وہ عروج سے تنزل میں گر پڑتی ہے۔

۴..... ہمارے قومی شاعر علامہ اقبالؒ نے فرمایا:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر ام کیا ہے  
شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

گویا مسئلہ جہاد سابقہ شرائع (توراة و زبور) کی طرح اس آخری اور کامل ترین شریعت میں بھی مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ جہاد کی حیثیت قومی تشخص کے ذریعہ تحفظ اور بقاء کی ہے۔ بلکہ اس سے آسان پیرایہ میں اس کی پوزیشن قوت مدافعت کی ہے تو ظاہر ہے کہ جس فرد یا قوم سے قوت مدافعت ہی ختم ہو جائے۔ وہ اپنے تشخص کا تحفظ ہی نہ کر سکے تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟

دین اسلام قیامت تک کلی طور پر غیر متبدل اور غیر منسوخ ہے۔ اس لئے اس کے دیگر تمام بنیادی امور کی طرح یہ مسئلہ جہاد بھی قیامت تک نافذ اور قابل عمل رہے گا۔ یہ کسی بھی زمانہ میں منسوخ اور کالعدم نہیں ہو سکتا۔ ہاں بعض حکم کچھ اسباب و شرائط سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس حکم پر فی الوقت عمل نہ ہو سکے گا۔

ایسے ہی مسئلہ جہاد کے بھی کچھ شرائط اور اسباب ہیں۔ جن کی عدم موجودگی میں اس فریضہ پر عمل درآمد نہ ہوگا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی پر جہاد زوروں پر ہوگا۔ حتیٰ کہ کفر ختم ہو جائے گا۔ اشاعت حق کی تمام مزاحمت اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرف اسلام ہی اسلام پھیل جائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی نزول مسیح کے وقت اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ (دیکھئے ان کی کتاب براہین احمدیہ ص ۴۹۸، ۴۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) تو اس صورت میں چونکہ ”ویکون الدین کلہ للہ“ کی فضاء قائم ہو جائے گی۔ لہذا جہاد قتال موقوف ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ سرے سے مسئلہ جہاد ہی کالعدم ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے مزاج ہی کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جب کفار نہ رہے تو جزیہ بھی موقوف ہو جائے گا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالا حقائق ذہن نشین کر لینے کے بعد اب قادیانیت کی لن ترانی بھی سنئے:

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں چونکہ مسیح موعود ہوں۔ (محض جھوٹ و فریب) اور حدیث میں آیا ہے کہ مسیح دوبارہ آکر جہاد کو موقوف کر دیں گے۔ لہذا اب میں چونکہ آ گیا ہوں۔ لہذا جہاد ختم ہو گیا۔

جواب یہ ہے کہ جہاد اور اس کی موقوفی کا مفہوم تو آپ نے اوپر ملاحظہ فرمایا۔ قادیانی آگے یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ جہاد صرف مرزا قادیانی نے ہی منع نہیں فرمایا بلکہ اور بھی کئی علمائے اسلام نے ایسا ہی فتویٰ دیا ہے اور ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ مرزا قادیانی اور بعض دوسرے علماء کے فتویٰ میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو مطلق جہاد کو حرام کہتا ہے۔ چاہے کسی بھی علاقہ میں ہو کیسے ہی حالات ہوں کہ دین کے لئے لڑنا بالکل حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ۔

دوستو! چھوڑ دو اب جہاد کا خیال  
دین کے لئے اب حرام ہے قتال

جب کہ علمائے اسلام نے جہاد کو مطلق منع اور حرام نہیں فرمایا بلکہ صرف ہندوستان کے متعلق اظہار کیا تھا کہ یہاں بوجہ فقدان شرائط کے جہاد جائز نہیں۔ جن کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ گویا ان کے ہاں یہ تشخیص زیر بحث ہے کہ آیا ہندوستان میں شرائط جہاد پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ پھر جن کے نزدیک شرائط جہاد مفقود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل ہیں۔ پہلے نظریہ کے قائل مولانا احمد رضا خان بریلوی، بعض علماء دیوبند اور علماء غیر مقلدین ہیں اور دوسرے نظریے کے قائل اکثر علمائے دیوبند ہیں۔ باوجود اس اختلاف عمل کے دونوں فریق نفس مسئلہ کے قائل ہیں۔ لہذا قادیانی اس نظریہ باطل میں مغربی استعمار کے ایجنٹ ہوتے ہوئے تنہا اور اکیلے ہیں۔ کوئی بھی مسلم ان کا ہمنوا نہیں ہے۔

ان حضرات کا اختلاف صرف ایک خاص حالت اور خاص علاقے کے متعلق تھا نہ کہ مرزا قادیانی کے نظریہ کلی حرمت جہاد کے موافق، اس لئے قادیانیوں کا علمائے اسلام کو اپنا ہم خیال بتلانا سراسر دھوکا اور دجل و فریب ہے۔ جملہ اہل اسلام اس کے دیگر مغالطوں اور وسوسوں کی طرح اس دجل سے بھی چوکنے رہیں۔

قادیانیوں کے اس ٹھکانہ نظریہ کے سلسلہ میں ایک ہی بات کافی ہے کہ تم نے ۲۹ مئی ۱۹۷۷ء کو ربوہ الشیشین پر جو نہتے طلباء رحمہ کیا تھا۔ وہ دین کے لئے کیا تھا۔ یا محض غنڈہ گردی تھی؟ آیت کریمہ (اسمہ احمد) کے متعلق چند قادیانی شبہات اور ان کے جوابات قادیانی ٹولہ جیسے ہر نظریہ اور مسئلہ میں دجل و فریب کے تحت شبہات اور وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کریمہ میں بھی کئی شبہات ڈالتے ہیں۔ مثلاً:

قادیانی مغالطہ نمبر: ۱..... وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق مسیح اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ: ”وَمُبَشِّرٌ آتِي بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي“ کہ میں اپنے بعد آنے والے (یعنی موت کے بعد) رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ مسیح فوت نہیں ہوئے تو لازم آئے گا کہ ابھی تک آنحضرت ﷺ کی بعثت ہی نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بات تو بالکل بالبداہت باطل ہے۔ لہذا پہلی بات ہی ثابت ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ بعد کا معنی اور مفہوم موت تو کسی بھی لغت اور محاورہ میں نہیں بلکہ اس کا مفہوم مطلق کسی کی عدم موجودگی ہے۔ وہ موت کے ذریعہ ہو یا ویسے کسی اور بناء پر ہو۔ ویسے قادیانیوں کو ہر طرف سے موت ہی موت نظر آتی ہے۔ جیسے وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں۔

انہیں قد خلعت میں بھی موت ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح لفظ بعد میں بھی انہیں ہی موت نظر آتی ہے۔ مرزا قادیانی کو تو قرآن مجید کی تیس آیات میں بھی موت ہی موت نظر آئی۔ اس کو آیت خاتم النبین میں بھی موت ہی نظر آئی۔ ادھر آپ کے لئے چونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ اس لئے قادیانی قدم قدم پر موت کا شکار ہوئے۔

پہلے تو مرزائی اپنے الہام ”اخرج منه الیزیدیون“ کے تحت قادیان سے نکلے اور دریا کے کنارے سرزمین ربوہ کی شور زمین میں ڈیرے لگائے۔ جو ان کو موڈی نے چند ٹکوں پر لے کر دی تھی، وہاں سے بھاگ کر اب اپنے جہنم بھوی برطانیہ میں اپنے انگریزی خدا اور انگریزی فرشتوں کے زیر کفالت زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے بھی بعض دفعہ دل برداشتہ ہو کر گنیش کی طرح اور کسی جزیرہ میں پناہ لینے بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں۔

ادھر ان کی نظریات موت کے حادثات بھی ملاحظہ فرمائیے:

مرزا قادیانی کے دعویٰ مسیحیت و نبوت کرنے پر تمام وارثان خاتم الانبیاء ﷺ نے ان کی نظریاتی اور ایمانی موت کا سرٹیفکیٹ (فتویٰ) جاری کیا۔ پھر ساتھ ہی عدالتی اور قانونی فیصلہ ہائے موت کے سرٹیفکیٹ جاری ہونے شروع ہو گئے۔ بہاولپور عدالت نے ۱۹۳۵ء میں بعد میں پنڈی عدالت، کراچی عدالت اور دیگر متعدد (۱۲ تا ۱۳) عدالتوں نے قادیانیوں کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ (یعنی ان کو غیر مسلم قرار دیا)

پھر عہد قریب میں رابطہ عالم اسلامی اور دیگر تمام عالمی تنظیموں نے متفقہ طور پر ان کی موت کا (غیر مسلم ہونے کا) سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ حتیٰ کہ مصر، ملائیشیاء، نیز ساؤتھ افریقہ کی عیسائی عدالت نے بھی ان کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ۱۹۷۴ء میں پاکستانی قومی اسمبلی نے پوری بحث و تمحیص کے بعد ان کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ پھر ۱۹۸۴ء میں مزید مؤثر طور پر اس کی تصدیق کر دی گئی۔ حتیٰ کہ قادیانیوں پر ہر طرف سے اور ہر پہلو سے موت ہی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔

بعد کا معنی موت نہیں، دیکھئے! قرآن مجید میں ہے:

..... ”فبای حدیث بعد اللہ و آیتہ یؤمنون (الغاشیہ: ۶)“ ﴿تو

پھر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کسی بات پر ایمان لائیں گے۔﴾

اب فیصلہ فرمائیے کہ یہاں بعد اللہ یعنی اللہ کے بعد کا لفظ ہے تو کیا کوئی قادیانی جیالا

یہاں من بعدی والا اختراعی معنی کرنے کی جرأت کرے گا؟

.....۲ ”قال فاننا قد فتننا قومك من بعدك واضلهم السامري“ ﴿فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے بعد (یعنی آپ کی غیر موجودگی میں) آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور ان کو (قادیانی سرشت) سامری نے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔﴾

اب فرمائیے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا یا ہمارے مفہوم کے مطابق ان کی عدم موجودگی میں یہ فتنہ رونما ہوا۔

.....۳ ”واذ وعدنا موسیٰ اربعین ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده (البقرہ: ۵۱)“ ﴿اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا کہ طور پر آکر عبادت میں مصروف ہو جاؤ پھر تم نے ان کے بعد (یعنی ان کی عدم موجودگی میں) بچھڑے کو معبود بنالیا۔﴾

.....۴ ”وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده (آل عمران: ۱۶۰)“ ﴿اور اگر وہ ذات قدوس تمہیں بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہستی اس کے بعد تمہاری دستگیری اور مدد کر سکتی ہے۔﴾

الغرض اس قسم کی کئی آیات ہیں جو کہ اپنے مفہوم میں واضح ہیں کہ بعد کا معنی حقیقی موت نہیں بلکہ صرف عدم موجودگی ہے۔ یہ عدم موجودگی بذریعہ موت ہو یا کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جانے کی صورت میں ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ قوم سے منتقل ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اس کو بعد کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی من بعدی سے مراد یہی عدم موجودگی ہے کہ وہ انہی رسالت کا پیر یڈ پورا کر کے وہاں سے منتقل ہو کر آسمان پر تشریف فرما ہو گئے تو اس کے بعد خاتم الانبیاء ﷺ ہدایت عالم کے لئے تشریف لائیں گے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو مکاروں نے بڑھا چڑھا کر اہل حق کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ اللہ ہر مومن کو ان ابلیسی وساس سے محفوظ رکھے۔

قادیانی مغالطہ نمبر: ۲..... کبھی کہتے ہیں کہ اگر مسیح زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا۔ کیا پھر بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ میرے بعد وہ اسمہ احمد کا مصداق آئے گا۔

جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو مکمل طور پر تلاوت کیا جائے تو یہ شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ: ”واذ قال عیسیٰ بن مریم“ یعنی اے مخاطب ذرا

یاد کرو۔ جب کہ زمانہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی طرف سے مبعوث ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول بن کر آیا ہوں۔

تو گویا یہ ایک سابقہ واقعہ اور پیش گوئی ذکر کی گئی ہے کہ ایک وقت ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلانات فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان کی یہ پیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہو گئی تو اب بھی آیت اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب یہ کہیں گے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش گوئی تھی اب کتنی صفائی سے پوری ہو گئی۔ گویا پہلے صرف پیش گوئی تھی اور اب اس کی تصدیق بھی ظہور پذیر ہو چکی ہے۔ تمہارے مقابلے میں کہتا ہوں کہ اگر بقول شما اس کا مصداق مرزا قادیانی ہے۔ (العیاذ باللہ) تو اس کی آمد کے بعد یہ آیت کس طرح پڑھتے ہو؟ جیسے تم مرزا قادیانی کی آمد کے بعد پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح ہم بھی مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد پڑھا کریں گے۔ بتلائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟

چنانچہ اس آیت کے آخر میں مذکور ہے۔ ”فلما جاءهم قالوا هذا سحر مبين“، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے عہد رسالت کے بعد وہ اسمہ احمد کے مصداق خاتم المرسلین ﷺ آ گئے تو بنی اسرائیل بجائے ان کو تسلیم کرنے کے الٹا انہیں جادوگر بتلا کر جھٹلانے لگے۔

اس طرح یہ آیت کریمہ پیش گوئی بمع اس کی تکمیل و تصدیق پڑھی جا رہی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے بعد بھی اسی طرح پڑھی جائے گی۔ وہ آکر یہود کو طرز مقرر دیں گے کہ اے ناانصافو! میں تو ہزاروں سال پیشتر ہی صاحب قرآن کے ظہور کی خبر بمطابق توراۃ بمع دیگر صحائف انبیاء کرام دے گیا تھا۔ مگر جب آپ تشریف لے آئے تو تم تسلیم کرنے کے بجائے الٹا ان کی تکذیب اور مزاحمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ دریں صورت تم نے بڑے ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب کیا۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد منجملہ دیگر دعاؤں کے ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی: ”ربنا وابعث فیہم رسولا منهم (البقرہ: ۱۲۹)“ ﴿اے میرے پروردگار تو ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما۔﴾

تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کا مصداق محمد رسول اللہ ﷺ صدیوں پیشتر تشریف لا کر گہوارہ عالم کو ہدایت و اصلاح سے منور فرما کر تشریف بھی لے جا چکے۔ مگر یہ آیت اسی طرح تلاوت ہو رہی ہے کہ اے اللہ ان میں وہ عظیم رسول مبعوث فرما۔

اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ تو سابقہ زمانہ کی ایک دعاء تھی۔ جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ جس سے آنحضرت ﷺ کے حق میں سابقہ پیش گوئیوں کی حقانیت اور آپ کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے۔ ایسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا معاملہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسیح علیہ السلام نے بھی پیش گوئی فرمائی تھی جو کہ پوری شان و شوکت اور آب و تاب کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔

۳..... ”لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين“ ﴿بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معظم کا خواب سچا کر دکھایا کہ تم ضرور انشاء اللہ مسجد حرام میں با امن و امان داخل ہو گے﴾۔

اب دیکھئے یہ بھی ایک اسی طرز پر آئندہ کے لئے پیش گوئی بمع ظہور مذکور ہے جو کہ اپنے وقت پر بعینہ ظاہر ہو چکی ہے۔ مگر آیت کی تلاوت اسی طرح جاری ہے۔ اس کے مفہوم میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ بالا پیش گوئی کا معاملہ ہے کہ وہ بھی بمع تصدیق کے مکمل ہو چکی ہے جو کہ آنحضرت ﷺ کی جلالت شان اور کلام الہی کے برحق ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ اس کے ظہور کے بعد قادیانی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

قادیانی مغالطہ نمبر: ۳..... آیت نمبر ۶ کے بعد یہود کے رد عمل کا ذکر کر کے فرمایا گیا: ”ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدى القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون“ ﴿اور تلاؤ اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور ظالم کون ہوگا، جو خدا کے ذمہ جھوٹ لگائے۔ حالانکہ اسے تو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔﴾ (اگر کوئی نہ مانے تو سن لو کہ) اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کی راہنمائی نہیں کرتا۔ یہ ظالم بجائے حق کو تسلیم کرنے کے الٹا اس تک و دو میں ہیں کہ خدا کے اس نور ہدایت کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ خدا کے اس نور ہدایے (نور ہدایت) کو مکمل کر کے رہے گا۔ اگرچہ خدا کا یہ نور ہدای ناگوار گذرے۔ ﴿

ف..... ملاحظہ فرمائیں کہ ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کی امت اسرائیل کو دعوت اسلام کے رد عمل میں ان کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان بے انصافوں کے، خاتم الانبیاء ﷺ کے پیغام حق کو نہ تسلیم کرنے کی صورت میں ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ مانتے نہیں بلکہ الٹا اسے ناکام کرنے کے لئے تک و دو کر کے اس نور ہدایت کو بجھانا چاہتے ہیں۔ جب کہ اللہ اسے مقام تکمیل تک پہنچا کر رہے گا۔



قادیانی مغالطہ نمبر: ۴..... مرزا بشیر الدین بمع قادیانی گروہ آیت نمبر ۷ کا معنی یوں کرتے ہیں کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ جو خدا کے ذمہ جھوٹ لگا کر یعنی مرزا کی نبوت کا انکار کر کے الٹا اسے اسلام کی دعوت دینے لگے کہ تو مسلمان ہو جا۔ (انوار خلافت و دیگر تحریرات) ناظرین کرام! اب آپ خود ہی دونوں تشریحات کا تقابل کر کے فیصلہ کر لیں کہ حق کیا ہے؟ اور مغالطہ اور دجل و فریب کون سا ہے؟

ظاہر ہے کہ میرا بیان کردہ مفہوم عین الفاظ قرآنی کے مطابق ہے۔ نیز سابقہ اکابرین امت، آئمہ کرام، مجتہدین کرام اور مجددین و ملہمین عظام سب نے یہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ ایک مرزا بشیر الدین اور ان کے پیروکار ہیں جو بالکل بے جوڑ مفہوم بیان کر کے عوام الناس کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دجالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر کردہ معنی کسی بھی مفسر یا مجدد نے بیان فرمایا ہے تو آؤ میدان مقابلہ میں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ ورنہ مجددین کا منکر بقول مرزا قادیانی کافر اور فاسق ہو گا نہ کہ محقق اور مسلم۔

۲..... دیکھئے من کا مصداق یہود اور مجاہد دوسرے منکرین ہیں اور وہو یدعی میں ضمیر اس من کی طرف راجع ہے۔ مرزا قادیانی کا یہاں کیا کام؟ اس کا کام تمام تو ہم نے اسے احمد کی تحقیق میں ہی کر دیا ہے۔ تم پھر اسے قبر سے نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کر رہے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف ملحوظ رکھو۔ آخر تم نے مر کا قبر میں جانا ہے۔ حشر میں محاسبہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، ظالمو وہاں کیا جواب دو گے؟

۳..... مرزا قادیانی نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کا صحیح مفہوم ہر زمانہ میں موجود رہا ہے۔ دیکھئے ان کی کتاب (شہادۃ القرآن ص ۳۵، ۳۵، خزائن ج ۶ ص ۳۳۹) تو اب اس اقرار کے بعد ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس جملہ ”وہو یدعی الی الاسلام“ بلکہ ساری آیات کا۔ نہیں بلکہ تمہارے اپنے نظریات کی تائید میں پیش کردہ تمام آیات کا مفہوم اپنے حق میں سلف صالحین سے ثابت کر دو تو تم جیتے ہم ہارے۔ ورنہ ”فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين (البقرہ: ۲۴)“

”واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## قصر مرزا سیت میں ایک اور شگاف

عدالتی فیصلہ

مسجد کے انتظام و انصرام کے حقدار صرف مسلمان ہیں

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود<sup>رح</sup>

## قصر مرزائیت میں ایک اور شگاف

### عدالتی فیصلہ

۱۹۸۹ء سال ختم نبوت کی پہلی پیشکش

..... ۱۸۸۹ء میں مرزا قادیانی نے اپنی بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں دعویٰ مسیحیت اور ۱۹۰۸ء میں دعویٰ نبوت کیا۔ لیکن محافظان ناموس مصطفیٰ ﷺ کی یلغار کی تاب نہ لاتے ہوئے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو آخری فیصلہ کے نتیجے میں عبرتناک موت (دبائی ہیضہ) سے واصل جہنم ہوا۔  
..... اس کے بعد اس کے نام نہاد خلیفے یکے بعد دیگرے اپنی اپنی ذیلی بجاتے ہوئے حق کی تاب نہ لا کر عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔

..... اہل حق نے مختلف مراحل خصوصاً ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۷ء میں اپنی جدوجہد کو مزید تیز کرتے ہوئے ہمشال قربانیاں پیش کیں۔ جس کے نتیجے میں سرکاری طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔

..... مختلف پاکستانی عدالتوں نے دس مقدمات کے فیصلوں میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ آخر ۲۲ مئی ۱۹۸۸ء کو سول جج ڈسکہ جناب منظور حسین ڈوگر نے تحصیل ڈسکہ کے ملحق گاؤں موسے والا کی متنازع مسجد کے متعلق مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے کر قصر مرزائیت میں ایک اور شگاف ڈال دیا۔

..... ۳۵ مسلم ممالک نے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ حتیٰ کہ بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلم تنظیموں ان کو اپنی تنظیموں سے خارج کر دیا۔ مالدیپ اور ملائیشیا وغیرہ نے ان کی شہرت کو ختم کر کے ان کو دیس نکالا دے دیا۔

..... علمائے حق کی یلغار کی تاب نہ لا کر ان کا امام مرزا طاہر اپنا مرکز (ربوہ) چھوڑ کر راتوں رات اپنے روحانی مرکز (جنم بھومی) اور انگریز کے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور ان کا سالانہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔

..... اہل حق نے نصف کروڑ کی لاگت سے ان کے روحانی مرکز (لندن) میں ایک چرچ خرید کر وہاں ایک بین الاقوامی تبلیغی مرکز قائم کر دیا۔ جہاں سے دنیا کے کونے کونے میں اس دعوت کو پھیلایا جائے گا۔

..... ﴿لَہٰذَا تَنبٰی اَیُّہَا فِتْحٰتُکَ بَعْدَ خَدَاکَ﴾ یہ ادا کرنے کے لئے ۱۹۸۹ء کا سال ختم نبوت کا سال منایا جائے گا۔ اس لئے تمام اہل اسلام متحد ہو کر تن، من، دھن کی قربانی دے کر اس شجرہ خبیثہ کی رہی سہی جڑوں کو بھی نکال پھینکیں۔

﴿.....﴾ چنانچہ اس سلسلہ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے دس لاکھ روپے کی لاگت سے لٹریچر تیار کر کے دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انجمن اشاعت الاسلام ڈسکہ اس کی ابتداء کرتے ہوئے یہ رسالہ مع عدالتی فیصلہ پیش کر رہی ہے۔ ”ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم“

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

### پیش لفظ!

اگرچہ مسجد کے حیثیت کے بارے میں قانونی اور شرعی لحاظ سے جناب منظور حسین ڈوگر سول جج ڈسکہ کا فیصلہ جامع ہے اور اس سلسلہ میں مرزائی وکلاء کے دلائل کا واضح جواب بھی دیا گیا ہے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ مسلمانان پاکستان کو گاؤں مو سے والا تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ اور مسجد متدعو یہ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتادی جائیں تاکہ قادیانی غلط پراپیگنڈہ کر کے اس معاملہ سے ناواقف مسلمانوں اور افسران کی ہمدردی حاصل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اور ان مسلمان وکلاء علماء اور دیگر حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ جنہوں نے اس سلسلہ میں تعاون فرمایا ہے۔

جس گاؤں میں یہ مسجد ہے۔ اس کا نام مو سے والا ہے اور اس کو کم از کم چار پانچ سو سال پہلے موسیٰ نامی کسی مسلمان نے آباد کیا تھا۔ اس لئے یہ اسی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان جہاں کہیں کوئی بستی آباد کرتے ہیں وہاں مسجد ضرور بناتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ مسجد بھی جب سے گاؤں آباد ہوا اس وقت سے موجود ہے اور اس بات سے انکار کسی شخص کو نہیں ہے۔ کیونکہ گاؤں میں کسی دوسری مسجد کا نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے۔ مقدمہ کی شہادتوں میں جس دوسری مسجد کا ذکر ہے اس نے بارے میں فریقین نے اعتراف کیا ہے کہ یہ نئی مسجد ہے اور ایک چاہ پر ہے اور یہ کہ بیس پچیس سال پہلے تعمیر ہوئی ہے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے چند بوڑھے آدمی قادیانی ہوئے۔ جن میں سے اکثر کی اولاد مسلمان ہی رہی اور ان کے خاندان اسلام کی سعادت سے محروم نہ ہوئے۔ بہت ہی کم

قادیانیوں کی اولاد نے مرزائیت کو قبول کیا۔ جن بوڑھے افراد نے ترک اسلام کیا اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی۔ ان میں سے صرف دو تین خاندان جاٹ (زمیندار) تھے اور وہ بھی نقل مکانی کر کے گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس جو زرعی زمین تھی وہ موروثی طور پر انہیں ملی تھی اور شملات اراضی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہ حقیقت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد مذکورہ شملات اراضی میں تعمیر ہوئی تھی اور قادیانیوں کا بھی شملات اراضی میں حصہ ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مسجد تعمیر ہوئی تو گاؤں میں موجود قادیانی مالکان اراضی کے آباؤ اجداد (اگرچہ وہ مسلمان تھے) نقل مکانی کر کے گاؤں نہ آئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان دیہہ کی لاعلمی/ بے حسی اور قادیانیوں کی چالاکی وجہ سے مشرقی پنجاب سے آنے والے قادیانی زمیندار گاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تقسیم ہند کے بعد آنے والے قادیانیوں کا کسی لحاظ سے بھی مسجد کی اراضی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔

قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان قادیانیوں کی پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشوں کی وجہ سے زیادہ حساس ہو گئے اور انہیں غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری طرف مسلمانان دیہہ مذکورہ کی نئی نسل دینی اور دنیوی تعلیم کے حصول کے بعد قادیانیوں کی شرعی حیثیت سے آگاہ ہو گئی۔ تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان گاؤں میں قادیانیوں کی اس پالیسی سے بھی آگاہ ہو گئے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور کچھ ایک فریق کے ساتھ ہو جاؤ اور کچھ دوسرے فریق کے، اور اس طرح مسلمانوں کا نقصان کرتے رہو۔ آخر کار مسلمانان پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور ستمبر ۱۹۷۴ء میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔

مسلمانان دیہہ نے قادیانیوں کو ان کے شرعی اور قانونی طور پر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہا کہ ”وہ مساجد میں نہ آیا کریں“ قادیانیوں نے گاؤں میں موجود دو مساجد میں سے ایک میں بالجبر داخل ہونے اور عبادت کرنے کی کوشش کی۔ مگر وہ مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر جھوٹے فوجداری مقدمات درج کروانے شروع کر دیئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کے تحفظ کے لئے مسلمانوں پر زور دیں کہ وہ مذکورہ مسجد قادیانیوں کو دے دیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر مسلمانوں نے سول عدالت ڈسک میں قادیانیوں کو مسجد میں داخلہ سے روکنے کے لئے حکم امتناعی حاصل کرنے کے لئے دعویٰ دائر کر دیا۔ قادیانی لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کے ساتھ شرارتا جھگڑا کرتے اور فوجداری مقدمہ مخصوص مسلمانوں

کے خلاف دائر کر دیتے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ان مسلمانوں کے افراد خانہ کو مقدمات کی زد میں خاص طور پر لیا۔ جن کے نام پر دیوانی عدالت میں دعویٰ کیا گیا تھا یا جو پیروی کرنے میں پیش پیش تھے۔ اس وقت کی تحصیل انتظامیہ نے قادیانیوں کا پورا پورا ساتھ دیا اور قادیانیوں کے بیان کردہ من گھڑت واقعات کی بنیاد پر کئی مسلمانوں کے خلاف زیر دفعات ت، پ ۲۹۵، ۲۳۸، ۱۳۹/۱۳۸ اور ۱۵۰/۱۰۷ بار بار مقدمات کا اندراج کیا۔ قادیانیوں کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمانوں اور تحصیل انتظامیہ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ مگر مسلمانوں نے حکمت عملی اور صبر تحمل سے کام لیا اور ایسا نہ ہو سکا۔ اس دوران میں جناب گلزار احمد بٹ سول جج ڈسکے نے مقدمہ کی سماعت جاری رکھی۔ مسلمان وکلاء کی بحث ختم ہوئی۔ پھر قادیانی وکلاء کی بحث بھی ختم ہوئی اور صرف مسلمانوں کی طرف سے جوابی بحث باقی تھی کہ ۱۹۷۶ء کی عید الفطر کے بعد ۹ اکتوبر ۱۹۷۶ء کی تاریخ سماعت مقرر ہوئی۔ قادیانی بحث میں اپنی ناکامی اور مسلمانوں کے صبر تحمل کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ۲۶ ستمبر ۱۹۷۶ء کو عید الفطر کے دن مسلمانوں سے لڑائی کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی تحصیل، ضلع اور مرکزی قیادت سے صلاح مشورہ کے بعد عید کے روز مسلمانوں پر عید گاہ میں (جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق اور عملاً اہل اسلام ہے) حملہ کر دیا۔ غیر مسلح ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی۔ لڑائی میں دو قادیانی مارے گئے۔ قادیانیوں نے مخصوص مسلمانوں کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کر دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق (اور حقیقتاً بھی) انہیں حملہ آور قرار دیا گیا۔ آٹھ سال تک (کر اس کیس) مقدمات کی سماعت اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ قادیانی عدالت میں بیان دیتے کہ ہم صلح کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا اصرار تھا کہ مسلمان مسجد انہیں دے دیں تو صلح ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں نے غیر مشروط صلح کی پیش کش کی۔ کیونکہ مقدمات فریقین کے خلاف تھے اور مسلمانوں کو سزا ملنے کا احتمال نہ تھا۔ قادیانیوں کو حملہ آور قرار دیا جا چکا تھا۔ اس لئے انہوں نے بعد از خرابی بسیار آٹھ سال بعد صلح اس خوف سے کی کہ عدالت بالا خیر یہ قرار دے گی کہ مسلمانوں کی عید گاہ (عبادت گاہ) سے قادیانیوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور یہ ایک مثال بن جائے گی۔ جس کی وجہ سے پورے ملک میں انہیں مسلمانوں کی مساجد اور عید گاہوں سے بے دخل کیا جاسکے گا۔

مذکورہ بالا سطور کے سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی زمین میں ان کا بھی حصہ ہے۔ مگر حقائق بیان کرنے کے بعد ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قادیانیوں کی یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح قادیانی لڑائی کا

اور ہلاک ہونے والے دو افراد کا ذکر کر کے حالات سے ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے عید کے روز عید گاہ میں ہونے والی اس لڑائی کا ذکر مختصراً کر دیا گیا ہے تاکہ دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہو سکے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں پر عید گاہ میں جو حملہ کیا اس کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے بنایا تھا اور اپنی ہر سطح کی قیادت سے اس کی منظوری لی تھی۔ مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قادیانی اپنی سازش کا شکار ہو گئے اور لڑائی کو مسجد پر قبضہ کے لئے استعمال نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ قادیانی ایسے فوجداری اور دیوانی مقدمات کے موجب اس لئے بھی بنتے ہیں کہ ان کی نقول کے ذریعے بیرونی ممالک میں پناہ اور روزگار حاصل کر سکیں۔

ہمارے ہاں بعض تعلیم یافتہ افراد قادیانیوں کی ”بنیادی انسانی حقوق“ ”مذہبی آزادی“ اور ”انسانی ہمدردی“ سے متعلق باتیں سن کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور غور نہیں فرماتے کہ حقوق اور فرائض آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اس طرح آزادی اور پابندی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ہمدردی بھی صرف ایک فریق پر لازم نہیں آتی۔ آپ کسی بنیادی حق، مذہبی آزادی کے تحت ایک سکھ کو مسجد پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی مسلمان کو گرجے یا مندر پر قبضہ کرنے کا حق دے سکتے ہیں۔ ایک محفل میں ایک بڑے افسر ایک مولوی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ قادیانیوں کو اذان دینے اور کلمہ طیبہ کا بیج لگانے سے کیوں روکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح اسلام اور نفاق کی تمیز مٹ جاتی ہے اور منافقین / کفار کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد ۱۹۷۷ء کی آئینی ترمیم اور ۱۹۸۳ء کا آرڈیننس جاری کروایا ہے۔ اس کا مقصد ہی کفر و اسلام میں تفریق و تمیز پیدا کرنا ہے۔ مگر بڑے افسر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے دفتر کے پاس ایک کمرہ کے دروازے پر آپ کے عہدہ کی تختی لگا کر کام شروع کر دے تو کیا آپ اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا آپ اور حکومت پاکستان اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے بعد اس افسر کی سمجھ میں بات آ گئی۔

آخر میں ان مسلمانوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیات کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی لاعلمی کی وجہ سے قادیانیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اپنے دنیوی مفادات کے تحت اپنے دلوں میں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بعض تو مختلف سطح کے انتخابات میں ان کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور مسلمانوں پر انہیں بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔

”اے مومنو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ پسند کریں اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں وہی ظالم ہیں۔ (اے نبی ﷺ) فرمادیجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال جو تم نے کمائے ہیں تجارت جس کے مندے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے کے جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے حکم (عذاب) کے نازل ہونے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔“

یہ دونوں آیات ہر مسلمان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ ہم مسلمانانِ موسیٰ والا جناب محمد انور مغل، جناب محمد ارشد رانا اور دیگر ان تمام حضرات کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے مقدمات کے سلسلے میں ہماری بوجہ اللہ تعالیٰ مدد کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔

العارض! عنایت اللہ بٹ

### قادیانیوں کا موقف

یہ ہے کہ مسجد کا لفظ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ سے خاص نہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے غیر مسلموں اور سابقہ نبیوں کی امتوں کے عبادت خانوں کو بھی مسجد فرمایا ہے۔ دیکھئے! (الکہف: ۲۱، بنی اسرائیل: ۱، التوبہ: ۱۰۷) لہذا ہمیں مسجد کہنے سے روکنا ظلم ہے۔ ”ومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ (البقرہ: ۱۱۴)“

الجواب: ہمیں تسلیم ہے کہ قرآن حکیم نے سابقہ امتوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا ہے اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ:

سابقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ امتیں مسلمان ہی کہلاتی تھیں۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا تو انہوں نے اپنے نام بھی بدل لئے۔ ملاحظہ ہو (قاموس الکتاب از پادری خیر اللہ ص ۹۵، ۹۶، ۱۱۸ اور کتاب اعمال باب ۱۱ آیت ۲۶، کتاب اعمال ب ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸،



قاموس الکتاب ص ۱۱۸، طبع لاہور۔ حضرت لوط کا مذہب الذاریات ۵۱، حضرت یوسف علیہ السلام ۱۰۱، حضرت سلیمان علیہ السلام النمل ۳۱، ۳۸، ۴۲، ۴۴، حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی امت کا دین آل عمران ۵۲، ۵۳، مائدہ ۱۱۱، الکہف ۱۲۔ تمام اہل کتاب کا مذہب القصص ۵۲، ۵۳، مائدہ ۴۴ جنات کا مذہب الجن ۴۔

### ساری کائنات کا دین

آل عمران ۸۳، ۸۵، الروم ۳۰، مشکوٰۃ ص ۲۱۔ مزید ملاحظہ فرمائیے: البقرہ ۱۲۸، پارہ ۱۴، النساء ۱۲۵، المؤمن ۶۶، الزمر ۱۲، ۵۴، النمل ۹۱، الانعام ۱۶۳، آل عمران ۱۰۲، مائدہ ۳، الحج ۳۴، النمل ۸۱، النحل ۸۹، ۱۰۲، لقمان ۲۲، الزمر ۲۲، القلم ۳۵، المؤمن ۶۶، آل عمران ۲۰، ۸۴، الانعام ۷ وغیرہ..... جب تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں مسلمان تھیں تو محالہ ان کی عبادت گاہیں مسجد کہلائیں گی۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد اصحاب کبف ملاحظہ ہو۔ مدارک ص ۶ ج ۲ "لنتخذن علیہم مسجد ایصلی فیہ المسلمون"

مزید دیکھئے کہ سابقہ امتوں کے عبادت خانوں کو مساجد فرمایا۔ (الحج ۴۰) مگر جب انہوں نے دین میں تحریف کر دی تو نہ وہ مسلمان رہے نہ ان کی عبادت گاہیں مساجد کہلائیں گی اور نہ ہی آج کل وہ یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔

### اصول دین

جو عبادت گاہ ابتداء مسلمان تعمیر کریں وہ مسجد کہلائے گی۔ بعد میں چاہے اس میں کفار بھی دخیل ہو جائیں۔ مگر وہ مسجد ہی رہے گی تا قیامت اس کی مسجدیت ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کعبہ اللہ، مسجد اقصیٰ کے ابتدائی بانی چونکہ مسلمان تھے۔ لہذا وہ مسجدیں ہی رہیں۔ بعد میں کفار بھی دخیل ہوئے۔ انہوں نے تعمیر وغیرہ کا انتظام و انصرام سنبھالا۔ مگر جب اس کے حقیقی متولی یعنی مسلمان آگئے تو بغیر کسی تنازعہ کے وہی وارث قرار پائے۔ "ان اولیاءہ الا المتقون (الانفال: ۳۴)"

اسی طرح تنازعہ مسجد کا معاملہ ہے کہ ابتداء مسلمانوں نے بنائی۔ لہذا اس کی مسجدیت ثابت ہو گئی۔ بعد میں اس میں کوئی بھی دخیل ہو جائے۔ قادیانی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو اور سکھ ہوں۔ مگر جب اہل اسلام کا معاملہ آئے گا تو بلا تنازعہ اس کے وارث وہی ہوں گے۔ جیسے شاہی مسجد لاہور، مسجد قرطبہ، روس، چین کی ہزار ہا مسجد، دیگر یورپی ممالک جو ترک حکومت کے تحت تھے۔ انڈیا کی ہزار ہا مساجد کا معاملہ ہے۔

جب ابتداء میں مسجد بن گئی تو اب قادیانیوں کو نہیں ل سکتی۔ کیونکہ مسجد کا نام نہیں بدل سکتا اور ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کا نام بدل کر بیت الذکر رکھ لیا ہے۔ یہی ان کے کذب کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کو مسجد دینے کا مطلب ہوگا کہ مسجد کی مسجدیت ختم ہوگئی اور یہ محال ہے..... غیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ مسجد کہلا ہی نہیں سکتی۔ نہ اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ دیکھئے! منافقین مدینہ نے ایک عمارت بنام مسجد تعمیر کی۔ ان کی فرمائش پر آنحضرت ﷺ نے اس میں نماز پڑھنے کا وعدہ بھی فرمالیا۔ مگر جب اس کی حقیقت کھلی تو اس کو مسجد تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے جلانے کا حکم دے دیا۔ (روح المعانی ج ۱۱ ص ۱۶، ذریعہ آیت اتحاد و مسجد اضرام) اس طرح مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہ تسلیم کی گئی۔ پتہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ دیکھئے (سنن دارمی ج ۲ ص ۲۳۵، باب فی النبی عن قتل الرسل) ”انما یعمرو مساجد اللہ من امن باللہ“ التوبہ اور ”ملکان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ (التوبہ ۱۷ تا ۲۰)“

### قادیانیوں کا دوسرا نکتہ

کہ بالفرض ہم غیر مسلم ہی سہی۔ مگر غیر مسلموں کو بھی اسلام مساجد سے بے دخل نہیں کرتا۔ وہ مسجد میں آجاسکتے ہیں۔ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھئے مختلف وفود۔ مشرکین، یہود و نصاریٰ آپ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کو مسجد نبوی ﷺ میں ٹھہراتے۔ حتیٰ کہ وفد نجران کو عبادت کی بھی اجازت فرمائی۔ تمام آئمہ دین، غیر مسلم کا داخلہ مسجد میں جائز رکھتے ہیں۔ متعدد حوالہ جات۔

### الجواب

- ۱..... یہ داخلہ وقتی اور عارضی تھا۔ بطور قبضہ اور اختیار مستقل نہ تھا۔
- ۲..... یہ داخلہ مشروط بالا اجازت تھا۔ مگر ہم انہیں اجازت نہیں دیتے۔
- ۳..... یہ داخلہ دین کی تبلیغ کے لئے تھا۔ تم بھی آ کر ہماری تبلیغ سنو اور اپنی عاقبت کے متعلق فکر کرو۔ جیسے فرمایا! ”وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام اللہ (التوبہ: ۶)“

۴..... یہ داخلہ ”انما المشرکون نجس“ سے قبل تھا۔ بعد میں تمام مشرکوں کو حج سے بھی روک دیا گیا۔

۵..... یہ آنے والے یہود تھے، نصرانی تھے، مشرک تھے۔ مگر تم حضرات کون ہو؟ یہودی ہو یا بت پرست ہو؟

سنو! تم خاتم الرسل ﷺ کی ختم نبوت کے منکر ہو۔ اجر اُنبوت کے قائل اور اس کے دلائل پیش کرتے ہو۔ لہذا تمہارا یہ مسئلہ نہیں۔ تم مسلمان کذاب، اسود غسی کی برادری ہو۔ تمہارا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا ہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟

دیکھئے! جب مسلمان کے قاصد اس کا خط لے کر سید کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کی کوئی خاطر تواضع نہیں فرمائی۔ بلکہ خط سنتے ہی فرمایا! کہ تمہارا اس کے بارہ میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جب کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو وہ تلقین کرتا ہے۔ تو فرمایا ”اما والذی“ خدا کی قسم اگر قاصدوں کا قتل نامناسب نہ ہوتا تو ”لضربت اعناقکم“ تو تم دونوں کی گردن اڑا دیتا..... کیونکہ یہ مرتد تھے اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہی ہے۔ حوالہ جات (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۸، باب بحکم فین ارتد، والحاکم فی مستدرک ج ۲ ص ۲۸۴، حدیث نمبر ۲۶۷۹، باب الرسل لا تقتل، مسند امام احمد ج ۳ ص ۳۸۸، سنن دارمی ج ۲ ص ۲۳۵، مشکوٰۃ ص ۳۳۷، باب الامان) مرتد کی سزا معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات مکمل تفصیل پیش کریں گے۔

### اسلام میں مرتد کی سزا

پہلے اس کو سمجھاؤ۔ جس بناء پر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے۔ ان شبہات کا ازالہ کرو۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو تین دن کے بعد اس کو قتل کر دو۔ آنحضرت ﷺ کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ: ”من بدل دینہ، فاقتلوه“ جو اپنا دین اسلام چھوڑ کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو اس کو قتل کر دو۔ نیز فرمایا کہ مسلمان کا قتل سوائے تین وجہ کے جائز نہیں۔ ۱..... شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ ۲..... کسی مسلمان کو قصد قتل کر دے۔ ۳..... اسلام چھوڑ کر دوسرے کسی دین میں چلا جائے یعنی مرتد ہو جائے۔

حضرت علیؑ نے متعدد مرتدوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلتا تو جلانے نہ دیتا۔ انہیں تو قتل کا حکم ہے، جلا نا نہیں۔ حضرت علیؑ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا کہ ہاں مسئلہ یہی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبرؓ نے مسئلہ ارتداد کا باتفاق جمیع صحابہؓ یہ فیصلہ فرمایا! جب کہ مسلمان کذاب کے مقابلہ میں لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ آج تک تمام صحابہؓ آئمہ دین، علمائے حق اسی فیصلہ پر متفق ہیں۔ خود مرزائیوں کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے۔

(از رسالہ تشہید الاذہان ص ۱۴، مورخہ نومبر ۱۹۱۴ء)

طحاوی شریف کتاب السیر ج ۲ ص ۱۳۶، تاریخ ابن اثیر ج ۲ ص ۱۵۲، بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ ج ۳ ص ۱۹۲، مزید حوالہ جات در بارہ حکم مرتد، البخاری ج ۱ ص ۴۲۳، باب لا یعذب

بغداد اللہ، ج ۲ ص ۲۳، والترنزی ج ۱ ص ۱۷۶، والنسائی ج ۲ ص ۱۴۹، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۰۷،  
وکذا الک البہقی فی السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۹۵، وابن ماجہ ص ۱۸۵، واحمد فی المسند ج ۱ ص ۲۱۷، مسند  
جمیدی ج ۱ ص ۲۴۴، الجامع الصغیر ج ۲ ص ۱۶۸، السراج المنیر ج ۳ ص ۳۲۱، کذا نقلہ المحدث  
الکبیر الصفد رد امت برکاتہ فی مقالۃ المسماة بختم النبوة ص ۳۸، ۳۹۔

وايضاً ابوداؤد ج ۲ ص ۲۴۲، ۲۴۳، الترنزی ج ۲ ص ۱۷۶، والنسائی ج ۲ ص ۱۶۹، وروی  
النسائی روايات و البخاری مختصر ج ۲ ص ۱۰۵۹، ج ۲ ص ۶۲۲، وروی المسلم ج ۲ ص ۱۲۱، والہیثمی فی  
السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۲۰۵، والترنزی ج ۱ ص ۱۶۸، ج ۲ ص ۳۸، البخاری ج ۲ ص ۱۰۶، ۱۰۱۹،  
المسلم ج ۲ ص ۵۹، احمد فی مسندہ ج ۱ ص ۳۸۲، البہقی ج ۸ ص ۱۹۴، ج ۸ ص ۲۰۲، وکذا الک فی  
مقالۃ الشیخ بحوالہ مصنف عبدالرزاق ج ۱ ص ۱۱۴، الطحاوی ج ۲ ص ۱۳۷، کتاب السیر والمالک فی  
الموطا..... ص ۶۳۹، ۶۴۰۔

مسئلہ استتابة المرتد نقلہ مالک وکذا الک الطحاوی ج ۲ ص ۱۳۵، النووی فی شرح المسلم  
ج ۲ ص ۱۲۱ وابن قدامتہ فی المغنی ج ۸ ص ۲۳، بحوالہ مقالۃ الذکور ص ۸۷۔

”ومن اراده التفصيل فليراجع اليه“ اس مسئلہ کی تمام تفصیلات بمع حوالہ  
جات عربی وارد ترجمہ، دیگر علمی نکات، نیز مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام نئے انداز  
پر ہمارے پاس تحریر شدہ ہے۔ ہر طلب گار ہمارے پاس آ کر اس کا فوٹو سٹیٹ کروا سکتا ہے۔  
مسئلہ تولیت مسجد

”ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ (التوبہ: ۱۷)“ کی رو سے  
جب غیر مسلم مسجد تعمیر کرنے کا مجاز نہیں اور اس کی تعمیر کی ہوئی عمارت ہرگز مسجد نہیں کہلا سکتی۔ جیسے  
مسجد ضرار اور مسجد کوفہ کا ذکر گذرا۔ (الدارمی ج ۲ ص ۱۵۳) تو قادیانیوں کو جو کہ باجماع امت مرتد  
ہیں۔ کیسے تعمیر مسجد کا مجاز تسلیم کیا جاسکتا ہے اور جب یہ حضرات تعمیر کے مجاز نہیں تو اس کے انتظام  
وانصرام (جو کہ تعمیر کی فرع ہے) کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مساجد کے انتظام وانصرام سے برطرف کرتے ہوئے  
فرمایا۔ ”وماکانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون (انفال: ۳۴)“ کہ مسجد کے متولی تو  
صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں..... متقی کون ہیں؟ ”الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی  
سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم الفائزون  
(التوبہ: ۲۰)“ ﴿متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان

و مال سے جہاد کرے۔ وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ﴿مُتَّقِیْ﴾ کی صفات میں جہاد جانی و مالی بھی ہے۔ مرزائی چونکہ جہاد کے منکر ہیں۔ لہذا وہ متقی نہیں اور نہ مسجد کے متولی ہو سکتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا: ”ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ“ یہ کتاب متقین کی راہنمائی کرتی ہے۔ آگے متقی کی صفات بیان فرمائیں۔ ”الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ..... وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ وَ مَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ (البقرہ: ۴، ۳)“ متقی وہ ہے جو حضور ﷺ کی وحی کو مانے (قرآن) اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتب (تورات، انجیل، زبور) پر ایمان رکھے۔ بعد والے کسی کلام کو تسلیم نہ کرے۔ (یعنی) ختم نبوت کا قائل ہو کہ آپ اور آپ کے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتا ہو۔ آپ کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم نہ کرے تو جب مرزائی ختم نبوت کے قائل نہیں۔ جہاد کے قائل نہیں تو متقی اور مؤمن کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب مؤمن نہیں، تو بنائے مسجد اور انتظام مسجد کے حق دار کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ حق تو مشرک کو بھی نہیں جو صلح اور جزیہ دینے کی صورت میں اسلامی ملک میں بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن منکرین ختم نبوت قادیانی مرتد ہیں۔ ان سے صلح یا جزیہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب حکومت نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیا تو اب یہ لوگ شعائر اسلام میں سے کسی ایک کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ مسجد، نہ اذان، نہ کلمہ، نہ حج وغیرہ۔ سرظفر اللہ نے خود اس مسئلہ کا فیصلہ کر دیا کہ: ”اگر قادیانی غیر مسلم ہیں تو پھر ان کا مسجد کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔“

### ایک اہم مسئلہ

.....۱ جو عمارت کوئی کافر یا مرتد مثلاً قادیانی خود اپنے خرچ سے تعمیر کرے۔ وہ کسی صورت میں مسجد نہیں کہلا سکتی۔ اس کا گرانالازی ہے۔ جیسے مسجد کوفہ اور مسجد ضرار۔

.....۲ جو عمارت صرف مسلمان بنائیں۔ کوئی کافر یا مرزائی جو کہ مرتد ہیں اگر شرکت کر لے بوجہ عدم علم تو وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ مگر کافر اور مرتد اس میں حصہ دار نہ ہوگا۔ قبضہ صرف مسلمان کا ہی ہوگا۔ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر ثانی ۷ھ میں بعد از فتح خیبر کہ اس میں منافقوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ مگر وضاحت ہو جانے کے بعد ان کو بے دخل کر دیا گیا۔

.....۳ جو مسجد ابتداً مسلمان تعمیر کریں وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ بعد میں اگر وہ خستہ ہو جائے یا منہدم ہو جائے یا ویسے اس کو پختہ یا وسیع کرنا ہو تو اگر اس میں کوئی کافر یا مشرک یا قادیانی بھی

شریک ہو جائے تو اس کی مسجدیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ کیونکہ تعمیرِ اڈل سے وہ مسجد ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے مسجدِ نبوی کی تعمیرِ ثانی۔ بلکہ اگر مکمل طور پر بھی غیر مسلم تعمیرِ ثانی کر دے۔ جیسے کعبۃ اللہ ۳۵ میلاد میں مشرکوں نے تعمیر کیا تھا۔ تو پھر بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ اس کے وارث اور منتظم مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم کوئی نہیں ہوگا۔ مرتد کا معاملہ تو بالکل ہی اور ہے۔ کیونکہ وہ تو واجب القتل ہے۔ مباح الدم والمال ہے۔ لہذا تنازعہ مسجد کسی بھی صورت میں قادیانیوں کو نہیں مل سکتی۔

۴..... جو عبادت گاہ کوئی مرزائی صرف اپنے خرچ پر تعمیر کرتا ہے وہ مسجد نہ کہلائے گی۔ جیسے ضرارو وغیرہ۔ ہاں اس عمارت پر قبضہ ان کا متصور ہوگا۔ وہ ان کی پر اپرٹی تصور ہوگی۔ لیکن وہ نہ تو مسجد کی طرز پر بن سکتی ہے۔ جیسے محراب مینار وغیرہ اور نہ اس میں مسلمان نماز ہی ادا کر سکنے کے مجاز ہیں۔ نہ اس میں اذان ہو سکتی ہے۔

ہم قادیانیوں کو احمدی کیوں نہیں کہہ دیتے اور کلمہ طیبہ کے استعمال سے کیوں روکتے ہیں؟ اس لئے کہ: مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ آیت ”وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ اَتٰی مِنْ بَعْدِیْ اِسْمَہٗ اَحْمَدُ (الصف: ۶)“ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتابِ تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی بشارت سناتا ہوں جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ ﴿

اس آیت میں جس احمد کی بشارت دی جا رہی ہے اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ لہذا اس نسبت سے وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ آیت ہمارے آقائے نامہ ﷺ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ اب بھی یہی بشارت انا جیل اربعہ خصوصاً انجیل یوحنا کے باب ۱۲، ۱۵، ۱۶ میں واضح تر صورت میں موجود ہے۔ بلکہ خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ“ کہ میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آج تک اور کسی بھی دجال نے اس کا مصداق بننے کی کوشش نہیں کی۔ لہذا اس وضاحت کے بعد بھی کوئی شخص مرزائیوں کو احمدی کہتا ہے تو گویا وہ اس آیت مبارکہ میں لفظ احمد سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الانبیاء ﷺ سے انحراف ہے۔ لہذا کوئی باغیرت مسلمان بھول کر بھی مرزائیوں کو احمدی نہ کہے نہ لکھے۔

## کلمہ پڑھنے اور استعمال کرنے سے روکنا

اے امت مرحومہ! اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے اور تمہیں صراطِ مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ اے وہ خدا کی لاڈلی امت جس کے لئے اس کا محبوب ساری ساری رات سجدہ ریز ہو کر رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سنئے کہ ہم ان کو کلمہ سے کیوں منع کرتے ہیں۔

قادیانی کا صاحبزادہ بشیر احمد لکھتا ہے کہ: ”ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پڑ گیا ہے اور وہ یہ کہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گذرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی۔ لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ“ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ اور بھی شان سے چمکنے لگتا ہے۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک نئے رسول (معاذ اللہ) کی زیادتی کر دی ہے اور بس (ارے خبیث یہ تھوڑی بات ہے) علاوہ اس کے اگر ہم بقرضِ محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم ﷺ کا اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں (لعنة الله على المفترين) جب کہ خود مرزا قادیانی کہتا ہے صارو جودی وجودہ نیز من فرق

بنی و بین المصطفیٰ فاعرفنی و مارای (یہ مرزا کا کلام ہے۔ خطبہ الہامیہ ص ۲۵۸، ۲۵۹، خزائن ج ۱۶ ص ایضاً) میرا وجود بالکل اس کا (نبی کریم ﷺ) وجود ہو گیا۔ جو میرے اور مصطفیٰ ﷺ کے

درمیان فرق کرتا ہے۔ یعنی مجھے مصطفیٰ نہیں جانتا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین ﷺ کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ (لعنة الله على الكاذبين) پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔

(معاذ اللہ) جو اشاعتِ اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۵۸)

اے اہل اسلام مندرجہ بالا عبارت کو پڑھ کر فیصلہ کریں کہ کیا قادیانیوں کو ہم اپنا پیارا کلمہ پڑھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

کفریات مرزا و ذریت او

..... اور سنئے: ”ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ

السلام کو نہیں مانتا یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ مگر محمد ﷺ کون ہیں مانتا۔ یا محمد ﷺ کا مانتا ہے۔ مگر مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۱۰)

تو گویا تمام مسلمان جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ صرف چند لاکھ مرزائی مسلمان ہیں۔ (پھر مرزائی ان کافر مسلمانوں میں کیوں گھستے ہیں؟)

۲..... ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار“  
اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔“ (معاذ اللہ)

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)  
کیا کوئی باغیرت مسلمان یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ یہ آیت مرزا پر اتری یہ تو ہمارے آقائے نامد ﷺ پر نازل ہوئی تھی۔

مرزا قادیانی نے بیشار آیات قرآنیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح دوسری وحیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن کو تذکرہ نامی کتاب میں چھپوایا گیا ہے۔ اسی طرح لاہوریوں نے البشری کے نام سے دو حصوں میں ایک کتاب طبع کرائی ہے۔ پھر مرزا اپنی وحی کو قطعی یقینی مثل قرآن سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام قرآن سے پوچھئے۔ دیکھئے: ”ومن اظلم ممن افترئ علی اللہ کذباً (الانعام: ۹۳)“

۳..... مرزا قادیانی کہتا ہے کہ: ”میرا وجود بعینہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ جو میری جماعت میں داخل ہو اور حقیقت وہ صحابہ کرامؓ میں داخل ہوا۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۸، خزائن ج ۱۶ ص ۲۵۸)  
اسی لئے مرزائی اولین قادیانیوں کو ”رضی اللہ عنہ“ کہتے ہیں۔ یہ سراسر توہین صحابہؓ ہے۔  
۴..... ”قادیان میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مرزا کی صورت میں اتارا۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۰۵)

.....۵

صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک  
کہ جس پر وہ بدر الدجی بن کے آیا  
محمد پئے چارہ سازی امت  
ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا



حقیقت کھلی بعثت ثانی کی ہم پر  
کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا

(الفضل قادیان ج ۱۳ نمبر ۱۱، ۲۸ مئی ۱۹۳۸ء)

.....۶

اے میرے پیارے مری جان رسول قدنی  
تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی  
پہلے بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے  
تجھ پر پھر اترا قرآن رسول قدنی

(دیوان اکمل، الفضل ج ۱۰ نمبر ۳۰، ۱۶ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

”محمد رسول اللہ ﷺ کے تمام کمالات مرزا قادیانی میں آ گئے۔“

.....۷

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۳۱۲)

”میں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پر خدا نے میرا نام براہین میں محمد

.....۸

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

احمد رکھا۔“

”کئی تخت آسمان سے اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“

.....۹

(حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

العیاذ باللہ!

”پہلے نبی تو حضور ﷺ کے کسی ایک کمال کے مظہر تھے۔ مگر میں آپ ﷺ

.....۱۰

(ملفوظات ج ۳ ص ۲۷۰)

کے تمام کمالات کا مظہر ہوں۔“

مرزا قادیانی ”پہلے محمد رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر اکمل اور اقویٰ ہے۔“

.....۱۱

(خطبہ الہامیہ ص ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۲)

العیاذ باللہ!

”پہلی صدی میں اسلام مثل ہلال یعنی ابتدائی راتوں کے تھا۔ مگر اب مرزا

.....۱۲

(خطبہ الہامیہ ص ۲۷۵، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۵)

کے زمانہ میں مثل چودھویں کے چاند کے ہے۔“

مرزا اور اس کے تمام حواریوں کا عقیدہ ہے کہ: ”حضور ﷺ نے دنیا میں

.....۱۳

دو دفعہ تشریف لانا تھا۔ ایک دفعہ تو مکہ میں تشریف لائے۔ دوسری دفعہ مرزا قادیانی (دجال) کے

روپ میں قادیان میں آئے۔ یہ دوسری بعثت پہلی سے کامل ترین ہے۔ گویا پہلا محمد پہلی رات کا

چاند تھا اور مرزا چودھویں رات کا چاند ہے۔“ العیاذ باللہ!

(خطبہ الہامیہ ص ۲۷۱، ۲۷۲، خزائن ج ۱۶ ص ۲۷۱) (ایضاً)

- ۱۴..... صرف محمد عربی ﷺ کا کلمہ پڑھنے والا کافر ہے۔ ”جب تک مرزا کو تسلیم نہ کرے۔“ (کلمۃ انفصل ص ۱۳۶، ۱۳۷)
- ۱۵..... مرزا قادیانی کا ”ذنی ارتقاء (معاذ اللہ) حضور ﷺ کے ذنی ارتقاء سے زیادہ کامل ہے۔“ (ریویو آف ریپبلشمنٹ ج ۲۸ نمبر ۵، مئی ۱۹۲۹ء)
- ۱۶..... ”جو مرزا کی بیعت میں شامل نہ ہو۔ چاہے اس نے نام بھی نہ سنا ہو پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ (آئینہ صداقت ص ۳۵)
- ۱۷..... ”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ اگر خدا سے محبت چاہتے ہو تو مرزا کی پیروی کرو۔“ (حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۵)
- حالانکہ یہ تو محمد رسول اللہ ﷺ کا مقام ہے۔ جس پر یہ دست درازی کر رہا ہے۔ ”لعنة الله عليه لعنة دائمة بالغة الى يوم القيامة“
- ۱۸..... مرزا نے تمام کمالات محمدیہ حاصل کر لئے۔ ”حتیٰ کہ خود حضور ﷺ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔“ (کلمۃ انفصل ص ۱۱۳)
- ۱۹..... ”اب قادیان تمام بستیوں کی ماں ہے۔ کیا اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ نہیں گیا۔“ (حقیقت الردی ص ۳۶)
- ۲۰..... قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام محض قصے کہانیوں کا مجموعہ۔ یعنی شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۳۹، خزائن ج ۲۱ ص ۳۰۶، ۳۵۳)

### معاشرتی بائیکاٹ

رحمتہ اللعالمین ﷺ نے مسیلمہ کذاب کے قاصدوں سے کوئی نرمی کا سلوک نہ فرمایا۔ بلکہ قتل کرنے کو تیار ہو گئے۔ صرف ان لوگوں کا قاصد ہونا آڑے آیا۔ بیسیوں احادیث جن کا حوالہ گذر چکا ہے۔ جس میں مرتد کی سزا قتل بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرتی سلوک کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے! ”اذ سمعتم ایت اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم (النساء: ۱۴۰)“ ﴿جب تم سنو کہ اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔﴾ ایسے سورۃ انعام آیت نمبر ۱۸۔

ایک جگہ فرمایا کہ تم خدا اور آخرت کے ماننے والوں کو ہرگز نہ پاؤ گے کہ اللہ اور

رسول ﷺ کے مخالفین کے ساتھ دوستی رکھتے ہوں خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں اور قبیلہ برادری ہو۔  
(بخاری: ۲۲)

سورۃ توبہ آیت ”قل ان کان اباہ کم“ بھی قابل غور ہے۔  
قبیلہ عربینہ وغیرہ کے آٹھ نو افراد جو مرتد ہو گئے تھے۔ ان کو حضور ﷺ نے گرفتار کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں۔ ان کو مدینہ کے کالے پتھروں پر ڈال دیا گیا کہ وہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مرجائیں۔ نہ ان کو پانی دیا گیا نہ کھانا۔  
تین صحابیؓ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ و رسول ﷺ نے تمام مسلم معاشرہ کا ان سے بایکاٹ کروایا۔ حتیٰ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

قدر یہ ایک مشہور گمراہ فرقہ ہے۔ (مسند امام احمد ج ۲ ص ۸۶) اور (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۷۱، باب فی القدر) میں ان کے متعلق فرمان پیغمبرؐ ہے کہ: ”القدریۃ مجوس ہذاہ الامۃ ان مرضوا فلا تعود وہم وان ماتوا فلا تشهدوا ہم“ یعنی فرقہ قدریہ کے لوگ اس امت کے مجوسی ہوں گے۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرنا اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جانا۔  
اسی طرح ہر بدعتی گمراہ فرقہ کا حکم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھل کر کافر نہیں کہا گیا۔ تو جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد بھی ہیں ان کے متعلق رواداری کے برتاؤ کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟  
ہر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے والے کامرانیوں سے مکمل طور پر معاشرتی، معاملاتی بایکاٹ کرنا اہم فرض ہے۔

قادیانی حضرات چونکہ اپنے منافع کا ۱۰/۱ مرکز میں برائے تبلیغ مرزائیت ادا کرتے ہیں۔ لہذا ان سے ہر قسم کا لین دین حرام سمجھیں۔ ان کی مصنوعات مثل ”شیزان“ وغیرہ کا ایمانی غیرت کے تقاضہ پر مکمل بایکاٹ کریں۔

مزید بایکاٹ کے متعلق ملاحظہ کریں۔ ترمذی ج ۱ ص ۲۸۹، باب کراہیۃ المقام بین اظہر المشرکین، عن سمرۃ بن جندب، فتح الباری ج ۸ ص ۹۴، باب حدیث کعب بن مالک اقوال اللہ تعالیٰ علی..... الذین خلفوا، احکام القرآن ص ۱۱۴، ج ۳، ص ۲۱ ج ۲، سنن کبریٰ للبیہقی ص ۸۵ ج ۹ وغیرہ۔

بایکاٹ کی وجہ

چونکہ ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلم معاشرہ کے لئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ظاہر دیکھ کر ان کے باطل نظریات سے متاثر

ہو جاتے ہیں۔ ان کے کفریہ عقائد سے نفرت نہیں کرتے۔ ان کا مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایسے مشتبہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی اور معاملاتی بائیکاٹ حفاظت اسلام کے لئے از حد ضروری ہے۔ جیسے اوپر قدریہ کی مثال گذری۔

### قادیانی اور سوشل بائیکاٹ

قادیانی قیادت نے اپنے پیروکاروں سے مذہبی اور معاملاتی دونوں قسم کا بائیکاٹ کروایا۔ ہر مرزائی کے لئے غیر مرزائی (مسلمان) کے پیچھے نماز پڑھنا۔ کسی مسلمان حتیٰ کہ شیرخوار بچے کا بھی جنازہ پڑھنا سخت حرام قرار دیا گیا۔ مسلمان رشتہ دینا ممنوع قرار دیا۔ معاملاتی بائیکاٹ کی صورت میں یہ پابندی عائد کی گئی کہ کسی غیر مرزائی یعنی مسلمان سے کوئی سودا وغیرہ نہ خریدا جائے۔ چنانچہ ناظر امور عامہ نے قادیان کے ہر قادیانی دوکاندار سے یہ دستخطی عہد نامہ لکھوایا تھا کہ: ”میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر قسم کی اشیاء کی خریداری صرف میں اپنے بھائیوں (مرزائیوں) ہی سے کروں گا۔ اگر میں یا میری بیوی، میرا بچہ یا میرا ملازم یا میرا رشتہ دار اس عہد کی خلاف ورزی کرتے تو میں جو جرمانہ خلیفۃ المسیح (قادیانی) تجویز کرے، ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں نہ مخفی طور پر نہ اعلانیہ طور پر کوئی چیز غیر احمدیوں سے خریدوں گا۔ جو حکم ناظر امور عامہ دیں گے۔ اس کی بھی بلاچون و چرا تعمیل کروں گا اور ہر ہدایت کی پابندی کروں گا۔ اگر میں کسی حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ بھی تجویز ہوگا ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میرا جو بھگڑا کسی احمدی (مرزائی) سے ہوگا۔ اس کے لئے امام جماعت (قادیانی) کا فیصلہ میرے لئے حجت ہوگا۔ ہر قسم کا سودا احمدیوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں بیس روپیہ سے لے کر سو روپیہ تک جرمانہ ادا کروں گا اور بیس روپیہ پیشگی جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپیہ ضبط ہو جائے تو مجھے اس کی واپسی کا حق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی مخالف مجالس میں شریک نہ ہوں گا۔“

(روہ کا مذہبی آمر شخص ص ۱۳۹، ۱۵۰)

لمحہ فکر یہ! ہر مسلمان ذرا توجہ کرے تو یہ مرزائیوں کو اب بھی ان امور کا عامل پائے گا۔ لہذا غیرت ایمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہی برتاؤ کریں۔ جیسے ہمیں بھی اسی قسم کا حکم خدا رسولؐ کی طرف سے ملا ہے اور یہ حکم عین انصاف ہے۔ بے مروتی اور خلاف اخلاق نہیں ہے۔

یہ پابندی اور سختی یہاں تک تھی کہ مرزا بشیر الدین کہتے ہیں کہ: ”احباب جماعت کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے۔ یعنی میاں فخر الدین ملتانی،

شیخ عبدالرحمن مصری، حکیم عبدالعزیز۔ ان کے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ نظارت ہذا کی وساطت سے طے کریں۔ کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔“

(الفضل ج ۲۵ نمبر ۱۵۵ ص ۲، مہد ۷ جولائی ۱۹۳۷ء)

علاوہ ازیں میاں فضل حق موچی، مولوی منیر صاحب، فضل، نرس بیوہ عبداللہ درزی عبدالرب کلرک بیت المال، محمد صادق، مستری جمال دین، چوہدری عبداللطیف۔ امتہ الاسلام اہلیہ ڈاکٹر علی اسلم وغیرہ۔ ایسے افراد ہیں جو کہ خلافتی آرڈر کے تحت شدید قسم کے بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ حتیٰ کہ فخر الدین ملتانی کے نو ماہ کے شیرخوار بچے کا دودھ تک بند کر دیا گیا اور اس کے بازو کی پٹی کرنے سے مرزائی ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ فخر الدین ملتانی، حکیم عبدالعزیز، حافظ بشیر احمد ولد عبدالرحمن مصری پر قاتلانہ حملے کروائے گئے۔ جن میں اوّل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔

خلیفہ ربوہ مرزا بشیر الدین کا آمرانہ اعلان!

فرماتے ہیں کہ: ”اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے مسیح آیا تھا۔ اسے دشمنوں نے صلیب پر چڑھا دیا۔ مگر یہ مسیح اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دے۔“

(الفضل ج ۲۵ نمبر ۱۸۱ ص ۵، مورخہ ۶ اگست ۱۹۳۷ء)

(خلیفہ ربوہ صاحب اب بتلائیے کہ تمہارے ابا کا حرمت جہاد کے فتویٰ کا کیا بنے گا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ دین کے لئے لڑنا حرام ہے۔) خلیفہ صاحب اپنی ریاست میں صرف سوشل بائیکاٹ کا حربہ ہی استعمال نہ کرتے۔ بلکہ ملک کا قانون ہاتھ میں لے کر کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ ملک اللہ یار خان پر قاتلانہ حملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔

مندرجہ بالا حوالہ جات سے قارئین پر خوب واضح ہو گیا ہوگا کہ قادیانی بظاہر جو بھگی بلی نظر آتے ہیں۔ ان کے اندر کھاتے کیا احساسات ہیں۔

اور سنئے: جمعہ ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء کو خلیفہ بشیر الدین نے ایک ایسا اشتعال انگیز خطبہ دیا کہ ڈی۔ سی گورداسپور نے اسے حکماً روک دیا تھا جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اس میں اپنے مریدوں کو اپنے مخالفین پر خوب ابھارا گیا تھا۔ (خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے ص ۲۷، طبع لاہور) اب اس سلسلہ میں ایک عدالت کے فاضل جج کی چند سطور حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ جو انہوں نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں لکھی ہیں۔

”اپنے دلائل کو منوانے اور فرقے کو ترقی دینے کے لئے انہوں (مرزائیوں) نے ان ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ جن کو عام طور پر ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا نہ صرف بائیکاٹ اخراج بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔“

(فیصلہ جی۔ ڈی کھوسلہ مجسٹریٹ ربوہ کا مذہبی آمر ص ۱۵۵)

مسلمانو! جب مرزائیوں میں اپنے جھوٹے سلسلہ کی اتنی غیرت ہے تو تمہیں کچھ ہوش میں آنا چاہئے۔ جب یہ لوگ ہر قسم کا بائیکاٹ عملی طور پر کرتے ہیں تو تمہیں کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا مذہبی فریضہ ہے کہ تمام مرزائیوں سے معاشرتی معاملاتی اور مذہبی ہر قسم کا بائیکاٹ کر کے مذہبی غیرت کا ثبوت دو۔ اس کے متعلق ملاحظہ کیجئے (سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر ۴۳، پ ۲۸)

### ایک اصولی ضابطہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے تو اب یہ شخص یہودی نہیں۔ بلکہ عیسائی یا نصرانی کہلائے گا۔ حالانکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ صرف اپنے ایمانیات میں ایک مزید نبوت کا اقرار شامل کیا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ شخص حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے تو اب یہ شخص باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن نہ یہودی کہلائے گا نہ عیسائی۔ بلکہ اب مسلمان کہلائے گا۔ حالانکہ اس نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن پھر بھی اب وہ ان دونوں کی طرف منسوب نہیں رہا۔ بلکہ آخری ایمان کے لحاظ سے مسلمان کہلائے گا۔

مندرجہ بالا تحریر سے واضح ہوا کہ نئی نبوت کے تسلیم کرنے سے آدمی کا مذہبی نام بدل جاتا ہے تو اسی قاعدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ذرا آگے قدم اٹھائیے کہ جو شخص ان تمام ہستیوں کو تسلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بھی نبی مان لے گا تو اب یہ بد نصیب نہ یہودی کہلائے گا نہ عیسائی اور نہ مسلمان، بلکہ مرزائی کہلائے گا۔ کیونکہ ہر نئی نبوت تسلیم کرنے سے آدمی کا مذہبی نام بدل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت قادیانیوں نے بھی تسلیم کی ہے۔

مرزا بشیر احمد ولد مرزا غلام احمد (کلمۃ الفصل ص ۱۱۰) میں لکھتے ہیں کہ: ”پس اس آیت کے تحت ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ

السلام کو مانتا ہے مگر محمد ﷺ کو نہیں مانتا اور یا محمد ﷺ کو تو مانتا ہے پر مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا۔ وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے۔“

راز فاش ہو گیا

آج تک مرزا قادیانی اور مرزائی یہی کہتے رہے کہ مرزا کا وجود بعینہ حضور ﷺ کا وجود ہے۔ کوئی الگ وجود نہیں۔ مگر اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جیسے سابقہ انبیاء علیہم السلام مستقل اور الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی الگ وجود رکھتا ہے۔ ورنہ حضور ﷺ کے بعد مرزا کو مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں آنا چاہئے۔ کیونکہ آپ کو مانتا ہی کافی ہونا چاہئے۔ اگر آپ کے بعد مرزا کو مانتا ہو تو پھر اس کا وجود مستقل تسلیم کرنا پڑے گا۔ لہذا ظلی بروزی کا چکر محض ایک دھوکا ہے۔ اس لئے بھی کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی بنیاد آیت ”محمد رسول اللہ والذین معہ“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

اور ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی“ پر رکھتا ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۷۱، خزائن ج ۲۲ ص ۷۲)

ایسے ہی متعدد آیات قرآنیہ جیسے ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“

(حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۵)

”یسین انک لمن المرسلین“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

تو سوال یہ ہے کہ کیا ان آیات میں ظلی رسول کا ذکر ہے یا حقیقی کا؟

مسئلہ: اگر کوئی مسلمان بدقسمتی سے عیسائی یا ہندو وغیرہ ہو جائے تو یہ شخص مرتد یعنی دین اسلام سے پھرنے والا کہلاتا ہے۔ مگر اس کی اولاد مرتد نہ کہلائے گی، بلکہ کافر کہلائے گی۔ کیونکہ وہ خود تو دین اسلام کی تارک نہیں ہوئی۔ مگر قادیانیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص ابلیس کے ورغلانے سے مرزائی ہو جاتا ہے تو وہ بھی مرتد ہوگا اور قیامت تک اس کی تمام پشتیں بھی مرتد کہلائیں گی۔ کیونکہ مرزائی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو کر مرزا قادیانی کو نبی مان لے۔ مرزائیت کی حقیقت میں انکار ختم نبوت شامل ہے۔ لہذا یہ ارتداد کے دائرہ سے نہیں نکل سکتے۔

ایک اہم اعتراض اور اس کا جواب

..... قادیانی حضرات عوام الناس کو یہ بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ جن علماء کرام نے ہمیں کافر قرار دیا ہے۔ ان کا کیا اعتبار ہے۔ ان کا تو کام ہی ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ دیکھئے!

اعلیٰ حضرت بریلوی نے تمام غیر مقلدین، دیوبندی حضرات کو کافر کہا ہے۔ مگر جن وجوہ کی بناء پر اعلیٰ حضرت نے ان حضرات کی تکفیر کی ہے۔ علمائے دیوبند خود ان وجوہ کو کفر سمجھتے ہیں۔ مثلاً سید الرسل ﷺ کو مثل بڑے بھائی سمجھنا۔ آپ کی توہین کرنا، آپ کے علم کو مثل بہائم سمجھنا، ابلیس کو علم جاننا، ختم نبوت کا انکار، وقوع کذب باری تعالیٰ وغیرہ..... ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام امور سخت ترین کفر ہیں۔ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی ایسے خبیث مضمون نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ہم ان کے قائل ہوں مگر خاں صاحب بریلوی کو عبارات سمجھنے میں غلطی ہوئی یا بوجہ عناد اور حسد کے ان کے ذمہ یہ الزامات عائد کر بیٹھے۔ لہذا ان کا فتویٰ بالکل بے حقیقت ہے۔

مگر قادیانیوں کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ انہیں تو بالاتفاق تمام حضرات کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر جن وجوہ کی بناء پر قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانی ان وجوہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ان کی تائید میں مناظرے، مباحثے کرتے ہیں۔ کتابیں لکھتے ہیں۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیا قادیانی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ اور کفر لکھا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تو ختم المرسلین ﷺ کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی بعثت کو کفر اور ارتداد سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو سامنے آئیں۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی تو اجرائے نبوت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ مناظرے مباحثے کرتے ہیں۔ گویا بوجہ کفر کا انکار نہیں۔ بلکہ اقرار بطور عقیدہ پیش کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر سے کیسے مشابہ ہو سکتا ہے؟

۲..... مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام سے خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے اور یہ کفر خالص ہے۔ کیا قادیانی لوگ اس گستاخی پر مرزا قادیانی کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہہ دیں تو ہم انہیں مسلمان تصور کریں گے۔ ورنہ ان کا معاملہ خاں صاحب کی تکفیر سے کیسے مشابہ ہو سکتا ہے۔

۳..... مرزا قادیانی نے اپنی وحی کو مثل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا ہے۔ اہل بیت عظام اور امہات المؤمنین کے مقدس القابات کی توہین کی ہے..... وہ آیات قرآنی جو آنحضرت ﷺ کی شان میں آئی ہیں۔ مرزا قادیانی ان کو اپنے حق میں سمجھتے ہیں۔ کیا قادیانی ان سب امور میں مرزا قادیانی کو کذاب و مفتری تسلیم کریں گے؟ اگر کر لیں تو ہم انہیں پکا مسلمان سمجھیں گے۔ ورنہ بصورت دیگر ان کو مرتد اور مسلمہ کذاب کی برادری سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔

ایک نکتہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دنیا میں دوسرے کفار بھی موجود ہیں۔ مثل ہندو، پارسی،



سکھ، عیسائی اور یہودی۔ ان کے متعلق اتنے بغض و اعداوت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ مگر قادیانیوں کا اتنا زبردست تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ انفرادی، اجتماعی، ملکی بلکہ عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے ادارے قائم کر کے ان کا ناک میں دم کر دیا گیا ہے۔

جو اباً عرض ہے کہ مندرجہ بالا تمام کفار اپنے کفر کا صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم لوگ اسلام کے عقائد و اعمال کے پابند نہیں۔ ”لکم دینکم ولسی دین“ والا معاملہ ہے۔ مگر قادیانی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر اسلامی عقائد میں تحریف و انکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاحات میں کفریہ تاویلات کرتے ہیں۔ مثلاً لفظ خاتم النبیین ﷺ کو درست مان کر اس کا مفہوم بگاڑتے ہیں۔ گویا ان کی مثال یوں ہے کہ: ”ایک آدمی تو شراب اور لحم خنزیر فروخت کرتا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے۔ لیبل بھی انہی چیزوں کا لگاتا ہے کہ یہ شراب ہے یہ لحم خنزیر ہے تو ایسے آدمی سے تعرض نہ ہوگا۔ کیونکہ ان اشیاء کی حرمت ہر شخص پر واضح ہے۔“

مگر دوسرا آدمی شراب پر روح افزاء کا لیبل لگا کر اور لحم خنزیر پر دنبہ اور بکرے کا لیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ شخص پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے لوگوں کو ہوشیار اور باخبر کرنا ازہم ضروری ہے۔

لہذا جو شخص کفریہ عقائد و اعمال کو اختیار کرتا ہے اور ان کو اسلام نہیں کہتا تو یہ کھلا کافر ہے۔ یہ آدمی مسلم معاشرہ اور اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے صلح کر کے رہ سکتا ہے۔ مگر جو شخص اسلامی عقائد اور اصطلاحات کو لفظاً اور ظاہراً تو استعمال کرتا ہے۔ مگر اس کا مفہوم بالکل ہی الٹ مراد لیتا ہے تو ایسا شخص زندیق اور ملحد ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ جب کہ مرتد کو توبہ اور غور و فکر کی مہلت مل سکتی ہے۔ تاکہ وہ اپنے شبہات کا ازالہ کر سکے۔ پھر اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو بہتر ورنہ حوالہ جلا دیا جائے گا۔ کیونکہ فرمان نبوی ﷺ: ”من بدل دینہ فاقتلوه“ موجود ہے کہ جو شخص دین اسلام ترک کر کے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ مگر زندیق کو مہلت نہیں۔ قادیانی حضرات مرتد بھی ہیں اور زندیق بھی۔

امت مسلمہ کے تمام فرقے بشمول شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی وغیرہ مرزائیوں کے غیر مسلم ہونے پر متفق ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر انہیں اجرائے نبوت کے عقیدے کی بناء پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور انہیں غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے

جانتے ہیں..... ان فرقوں کے علماء کا ایک دوسرے کو کافر کہنا جزوی مسائل پر مبنی ہے۔ کلینۃ خارج از اسلام قرار نہیں دیتے اور سب سے بڑے مسئلہ پر تمام متفق ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا اجراء تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی بناء پر قادیانیوں کو متفقہ طور پر خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

## اصل حقیقت

مرزا ایت مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ صرف انگریز کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے۔ ہم جو مذہبی شبہات کے جواب دیتے ہیں تو صرف اسلام کا دامن صاف رکھنے اور عوام الناس کے قلوب و ضمائر کو مطمئن رکھنے کے لئے دیتے ہیں۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر وحی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے رہے۔ دوسرا کوئی فرشتہ نہیں لایا۔ اس بات کو مرزا قادیانی خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(ازالہ ابہام ص ۵۸۴، خزائن ج ۳ ص ۴۱۵)

مگر مرزا قادیانی کا معاملہ ہی جدا ہے نہ وہ خدا ہی ہے نہ وہ جبرائیل امین۔ دیکھئے:

مرزا قادیانی کے خدا کے نام:

- ۱..... یلاش۔ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۹، خزائن ج ۱ ص ۲۰۳)
- ۲..... صاعقہ۔ (تذکرہ ص ۴۹۰)
- ۳..... عاج۔ (برائین احمدیہ ص ۵۵۶، خزائن ج ۱ ص ۶۶۳)
- ۴..... انگریزی خدا۔ (برائین احمدیہ ص ۴۸۰، خزائن ج ۱ ص ۵۷۱)

مرزا قادیانی کے فرشتے:

۱..... ٹیچی ٹیچی۔ (بچ وقت پر روپیہ لانے والا)

(حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲ ص ۳۴۶)

۲..... خیراتی۔ (لوگوں کی خیرات و زکوٰۃ چندہ پر ہاتھ صاف کرنے والا)

(تریاق القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱ ص ۳۵۱)

۳..... شیر علی۔ (شیر کی طرح بے دھڑک لوگوں کی تباہی اور موت کی خبریں

(تذکرہ ص ۳۱)

لانے والا)

۴..... مٹھن لال۔ (تذکرہ ص ۵۶۰)

۵..... انگلش فرشتہ۔ (تذکرہ ص ۳۱)

۶..... آئیل۔ (حقیقت الوحی ص ۱۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۶)

۷..... دونامعلوم فرشتے۔ (تزیین القلوب ص ۹۲، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱)

ناظرین! ملاحظہ فرمائیں کہ جب سارا عملہ ہی الگ ہے تو ان لوگوں کو اسلام سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔ دین اسلام بھیجنے والا تو ”فاطر السموات والارض“ ہے اور ”لا الہ الا هو حی القيوم“ ہے۔ وحی لانے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ افضل الملائکہ ”ذومرہ عندی العرش مکین“ ہیں۔ رسول کریم ہیں۔

مسئلہ کذاب کے فرشتے کا نام رجس تھا۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۲۷) وہ صرف ایک تھا۔ مگر اس بروز دجال کے سات فرشتے ہیں۔ گویا یہ مسئلہ کذاب سے سات ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے۔

مسلمان کی تعریف اور مسئلہ جبر و اکراہ

”قال اللہ تعالیٰ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ التغابن“ ﴿پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور ہدایت پر جس کو ہم نے (اپنے رسول پر) اتارا۔﴾

مسلمان اور مؤمن بننے کے لئے جن حقائق پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان سب کو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان لانا مؤمن بننے کی بنیادی شرط ہے۔ جب خدا کو مان لیا تو اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور جب اس کے رسول کو برحق تسلیم کر لیا تو آپ کے پیش کردہ قرآن مجید اور تمام ارشادات کو تسلیم کرنا لازمی ہو گیا۔ عقائد سے لے کر عبادات، معاملات، معاشرت اور آداب تک ہر ایک جزئی کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔ ورنہ ایمان کا تقاضا پورا نہ ہوگا۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا: ”وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم (آل عمران: ۸۴)“ ”وغیرہا من الآیات الکثیرہ“

اسی طرح سید المرسلین ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لا یؤمن احدکم حتی یکون ہو اہ تبعاً لما جئت بہ (مشکوٰۃ ص ۳۰، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)“ اس وقت تک تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اور جذبات میری لائی ہوئی ہدایت یعنی قرآن وحدیث (کی ایک ایک جزئی کے تابع نہ ہو جائیں) یعنی اپنی مرضی اور ارادہ چھوڑ کر صرف خدا اور رسول کے احکامات اور مرضی پر چلنے لگے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ: ”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ (آل عمران: ۳۱)“ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے

تعلق (عبودیت) پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ میری پیروی کرو تو اس کے نتیجہ میں خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ دوسری جگہ فیصلہ کن انداز میں فرمایا: ”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (النساء: ۶۵)“ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر معاملہ میں اپنا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ کے فیصلہ پر اپنے دل میں ذرا بھی ناگواری اور ٹھٹھن محسوس نہ کریں اور پوری طرح شرح صدر اور قلبی انشراح سے اس کو قبول کر لیں۔

”وقال النبی ﷺ من قال لا اله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله (مسلم ص ۳۷ ج ۱، باب الدم يقتل الناس حتى يقول لا اله الا الله)“

”وقال النبی ﷺ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به (مسلم ج ۱ ص ۳۷، باب الدم يقتل الناس حتى يقول لا اله الا الله)“

مندرجہ بالا حقیقت کو آئمہ دین نے یوں تعبیر فرمایا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ: ”التصديق بما جاء به النبی ﷺ“ یعنی ہر اس بات اور حکم کو ماننا جو آنحضرت ﷺ نے پیش فرمایا ہے۔ چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات۔ معاملات اور آداب وغیرہ۔ گویا قرآن وحدیث کی جملہ تفصیلات کو تسلیم کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ چنانچہ خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها امانة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان (متفق عليه مشكوة ص ۱۲، كتاب الايمان)“ ایمان کے ستر سے کچھ اور پر شعبے یعنی اجزاء ہیں۔ سب سے اوّل اور سرفہرست لا اله الا الله یعنی اقرار توحید خداوندی ہے اور کم از کم کسی تکلیف دہ چیز کا راستہ سے ہٹا دینا ہے اور حياءِ ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے۔ ﴿

ان شعبوں میں تمام عقائد عبادات، احکام، معاملات اور معاشرت نیز آداب زندگی کی ایک ایک جزئی سمودی گئی ہے۔ ان تمام پر ایمان لانا مؤمن اور مسلم بننے کے لئے لازمی ہے۔ ”ولكن البر“ الخ! دوسرے لفظوں میں تمام ضروریات دین (ہر وہ چیز جو قرآن وحدیث سے ثابت ہو چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں۔ معاملات یا معاشرت اور آداب) کو تسلیم کرنا

ضروری ہے۔ کسی ایک بھی چیز کا انکار کرنا کفر و ارتداد ہوگا۔ جیسے کہ صدیق اکبرؓ کے زمانہ میں بعض لوگوں نے فرضیت زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا اور بعض نے صرف حکومت کو ادائیگی کا انکار کیا تھا۔ آپؐ نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تو ”قال عمر بن خطاب لا بی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال النبی ﷺ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی اللہ فقال ابوبکر واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلوۃ والزکوۃ فان الزکوۃ حق المال واللہ لو مدعونی عناقاً کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ ﷺ لقاتلتهم علی منعہا (متفق علیہ مشکوٰۃ ص ۱۵۷، کتاب الزکوٰۃ)“ یعنی آپؐ ایسے کلمہ گو لوگوں سے کیسے جہاد کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ نے تو فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کا حکم ملا ہے جب تک کہ وہ لوگ ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہہ لیں۔ پس جو کوئی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لیتا ہے وہ اپنا مال اور جان مجھ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مگر بحق اسلام ”لا یحل دم امر مسلم“ اور اس کا باطنی حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو صدیق اکبرؓ نے فرمایا! خدا کی قسم جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا (یعنی نماز کو تو فرض سمجھے گا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہوگا) میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ (کیونکہ کلمہ کے تقاضے کے خلاف ہے) کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ لوگ ایک اونٹنی کا وہ بچہ بھی روکیں گے جو حضور ﷺ کی خدمت میں ادا کرتے تھے تو پھر بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ گویا صدیق اکبرؓ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا مفہوم اور تقاضا کیا ہے؟

یہ تو ایک عنوان ہے کہ جو شخص خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے خدا اور رسولؐ کے تمام احکام تسلیم کرنے ہوں گے۔ یہ نہ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مان لے اور کسی کا منکر ہو جائے۔ اب اپنی مرضی پر چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے تعظیم سبت کا ارتکاب ہوا تھا۔ فوراً خدائی حکم آ گیا۔ ”یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ“ کہ اے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والو! تمہارے دعویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کسی بھی معاملہ حیات میں خدا اور رسولؐ کے منشاء کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کا مسئلہ جب حضرت عمرؓ سمجھ گئے تو پوری طرح ان کے معاون ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر خود اعلان فرمایا: ”لو ترک الناس الحج لقاتلتهم علیہ کما نقاتلهم علی الصلوۃ والزکوۃ“ (تفسیر مظہری ص ۹۵ ج ۲ حاشیہ)

یعنی اگر لوگ فریضہ حج ترک کر دیں تو ہم ان کے ساتھ اسی طرح جہاد کریں گے جیسے نماز اور زکوٰۃ کے منکروں کے ساتھ جہاد کریں گے۔

باقی یہ جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”من صلی صلوٰتہ واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ (مشکوٰۃ ص ۱۲، کتاب الایمان)“ یعنی جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو یہ ایسا مسلمان ہے جس کا خدا کے ساتھ عہد ہو چکا۔ پس تم اس کے عہد میں رخنہ اندازی نہ کرو۔ یعنی اس کو صحیح مسلمان سمجھ کر اس کی جان و مال اور عزت پر دست درازی نہ کرو۔

یہ تو صرف ظاہری علامات ہیں۔ کیونکہ عام حالات میں یہی امور عام طور پر واضح ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ کرتا پھرے نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ پھر بھی وہ مسلم ہے۔ بلکہ اس میں تو شہادتین کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس کے بغیر بھی وہ مسلم ہوگا؟ ہرگز نہیں۔

اسی طرح جو دوسری بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ: ”المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ (مشکوٰۃ ص ۱۲، کتاب الایمان)“ یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کہیں فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والا مؤمن ہے۔ کہیں فرمایا اگر تم مجھ سے اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر مؤمن ہو جاؤ گے۔

کہیں صرف پانچ چیزوں کو (شہادتین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) بنیاد اسلام فرمایا۔ کہیں فرمایا: اگر تم اپنی نیکی پر خوشی اور سرور محسوس کرو اور گناہ کے صدر سے طبیعت ناگوار ہو جائے تو یہ عین ایمان ہے۔

کہیں فرمایا: ”ان تحب للناس ما تحب لنفسک (مشکوٰۃ ص ۱۶، کتاب الایمان)“ تو یہ سب جب موقعہ اور حسب شخصیت مخاطب ارشادات ہیں۔ کہیں ایک چیز کا ذکر فرمایا، کہیں دو یا تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ یہ صرف عنوانات ہیں۔ پوری حقیقت ان عنوانات کے تحت مندرج ہے۔

آئمہ امت نے صراحت فرمادی ہے کہ تمام ضروریات دین کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک بھی جزئی کا انکار کفر و ارتداد ہوگا۔ چنانچہ عقائد کی مشہور کتاب بڑا شرح (شرح عقائد ص ۳۴۲) میں لکھا ہے کہ: ”فمن انکر شیئاً من الضرویات کحدوث العالم وحشر الا

حساد و علم اللہ سبحانہ بالجزئیات و فرضیۃ الصلوٰۃ و الصوم لم یکن من اهل القبلة ولو کان مجاہداً فی الطاعات و کذاک من باشر شیئاً من امارات التکذیب کسجود الصنم و الہانۃ بامر شرعی و الاستہزاء بہ فلیس من اهل القبلة و قال الامام محمدؑ من انکر شیئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الہ الا اللہ (شرح کتاب السیر الکبیر ج ۳ ص ۳۶۸، باب ما یكون الرجل به صلحا) “  
 متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین یعنی ان تمام عقائد و احکام کو مانتے ہوں۔ جن کا ثبوت شریعت میں یقینی اور معروف و مشہور ہو۔ لہذا جو شخص ضروریات دین میں سے ایک چیز کا بھی منکر ہو۔ مثلاً اس جہاں کو حادث نہ مانے۔ جسمانی حشر و نشر کا منکر ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو یا نماز، روزہ کے فرض ہونے کا منکر ہو۔ ایسا شخص ہرگز اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا۔“

اگرچہ تمام تر عبادات اور احکام شرعیہ کا سختی سے پابند ہو۔ اسی طرح جس شخص میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے۔ مثلاً کسی بت (یا قبر وغیرہ) کو سجدہ کرے یا کسی امر شرعی کی توہین کرے اور مذاق اڑائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ پھر لکھا کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو معاصی اور گناہوں کے ارتکاب کی بناء پر یا غیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کافر نہ کہا جائے۔ اسی طرح (شرح فقہ اکبر ص ۱۸۹) میں ہے۔ اسی طرح (شرح مقاصد ص ۲۶۹ ج ۲) ”و کذاک فی کتب العقائد و الفقہ قاطبہ کما صرح بہ فی اکفار الملحدین (ص ۳۴ تا ۴۲)“

اس مسئلہ کی اصل بنیاد یہ فرامین سید المرسلؐ ہیں۔

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ ولا تکفرہ بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل و الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الرجال لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل ۰ و الایمان بالاقدار (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵۲، باب الغزو مع آئمة الجور)“ ﴿فرمایا تین چیزیں اصل ایمان ہیں۔ یعنی ایمان کی جڑ اور بنیاد ہیں..... ”لا الہ الا اللہ“ کے قائل سے ہاتھ روکنا (یعنی اس کی جان، مال اور عزت کو محفوظ رکھنا) اور کسی حکم عددی پر اس کو کافر نہ کہنا اور کسی بھی عمل (عقیدہ نہیں) کی بناء پر اس کو خارج از اسلام نہ کرنا۔

نمبر ۳ جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ حتیٰ کہ میری امت کے آخری لوگ دجال سے جہاد کریں گے۔ اس جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل موقوف نہیں کر سکتا۔ تقدیر پر بھی ایمان لازمی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ کسی کی عملی کوتاہی کی بناء پر اس کو خارج از اسلام نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر کسی چیز کا منکر ہے تو پھر کافر ہو جائے۔ جیسے کہ اوپر تفصیل گذری۔ بلکہ خود سید کائنات ﷺ نے فرمایا!

”من جحد آیت من القرآن حل ضرب عنقه (ابن ماجہ ص ۱۸۲، باب اقامۃ الحدود)“ یعنی جو شخص قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی منکر ہو جائے۔ اس کو قتل کرنا بجرم انکار و ارتداد جائز ہوگا۔ مثلاً جو شخص نماز کی فرضیت کا قائل ہے۔ مگر عملی طور پر کوتاہی کرتا ہے تو ایسا شخص کافر نہ ہوگا، اگرچہ فاسق و فاجر ہے۔ مگر جو شخص نماز کی فرضیت ہی کا قائل نہیں وہ اگرچہ نماز پڑھتا بھی ہے۔ وہ پکا کافر ہوگا۔ یہی معاملہ تمام ارکان اور احکام اسلام کا ہے۔

مسئلہ! کسی فرض کو فرض سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے انکار سے کافر ہو جائے گا۔ گویا تمام عقائد اور فرائض و احکام کو برحق تسلیم کرنا اور ان کو معظم سمجھتے ہوئے ان کو اپنانا یہ ایمان اور اسلام ہوگا۔ بخلاف اس کے کسی چیز کی فرضیت یا ضرورت کا انکار یا اس کی توہین و استہزاء یہ کفر و ارتداد ہوگا۔

مسئلہ جبر و اکراہ: کسی غیر مسلم کو بذریعہ تبلیغ و تلقین دعوت اسلام دینا فرض ہے۔ لیکن اس کو اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ ڈرا دھمکا کر اسلام لانے پر مجبور کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لا اکراہ فی الدین (البقرہ: ۲۵۶)“ اس آیت کے شان نزول اور پس منظر میں تفسیر مظہری، ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک انصاری بزرگ مسلمان ہوئے۔ ان کے دو صاحبزادے عیسائی تھے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرے بیٹے عیسائی ہوں۔ کیا میں ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف تلقین ہو سکتی ہے۔ اگر دین کے لئے جبر ہوتا تو اہل اسلام کی حکومتیں اتنی پر شوکت رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی رعایا کو جبراً مسلمان بناتے تو سارے اندلس میں کوئی عیسائی نہ رہتا۔ رومی علاقہ اسلام کے نور سے جگمگا رہا ہوتا۔ ہندوستان میں کوئی ہندو نظر نہ آتا، مسلمان ہی مسلمان ہوتے۔ مگر تمام حکمرانوں نے اس مسئلہ پر عمل کیا۔ لہذا آج حالات آپ کے سامنے زندہ برہان کی صورت میں موجود ہیں اور



اسلامی فقہ و احکام کی کتب میں احکام اہل ذمہ اور جزیہ اسی چیز کے زندہ دلائل ہیں۔ حاصل نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلم کو مسلمان بننے کے لئے مجبور نہ کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہو گیا اس کو تمام ضروریات دین کو تسلیم کرنا اور اپنا نالازی ہوگا۔ اب وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ ”قل ان کان آباءکم وابناءکم“ ورنہ ”ورفعنا فوقکم الطور“ پر عمل کر کے اس کو صحیح عقیدہ اور حکم پر کاربند رہنے پر مجبور کیا جائے گا۔

بالفرض اگر کسی بھی عقیدہ یا حکم میں انکار و اقرار کا راستہ اختیار کرنے کی روش اختیار کرے گا تو ”من جحد آیت من القرآن حل ضرب عنقه“ کا فرمان نبوی ﷺ کا نفاذ عمل میں آجائے گا۔ تو ”لا اکراه فی الدین“ کا یہ مفہوم نہیں۔ جیسے اس زمانہ کے مادر پدر آزاد محقق اور مفکر بننے والے لیتے ہیں کہ جیسے کسی کی شیطانی عقل میں آتا ہے وہ اسلام کے کسی حصہ کی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے اور ”افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض“ والی یہودیہ انداز روش جاری کرنے کی ناپاک کوشش اور جسارت کر دیتا ہے۔ خوب سمجھ لیں! دین مکمل طور پر موجود ہے۔ اس کی مکمل تشریح اور مفہوم بالکل واضح اور متعین ہو چکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور نظریہ کی تشریح تشنہ کام نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ پھر ان کے کامل ترین پیروکاروں صحابہؓ اور آئمہ دین نے تمام تر دین کی تفصیلات کو صحیح صحیح مفہوم کے ساتھ بیان کر کے امت مسلمہ کے لئے قیامت تک آسانی کر دی ہے۔ لہذا اگر کوئی نئی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی پیش کردہ تعبیرات ہی کو مشعل راہ بنایا جائے گا۔

لہذا قادیانی وکیل مسٹر مجیب الرحمنؒ کے پیش کردہ مندرجہ ذیل مغالطے کچھ وقعت نہیں رکھتے کہ:

- ۱..... کیا اسلام کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے کا استحقاق یا اجازت مرحمت کرتا ہے؟
- ۲..... کیا اسلام کسی غیر مسلم کو رسول پاک ﷺ کو اپنے دعویٰ میں سچا ہونے کو تسلیم کرنے کا حق یا اجازت دیتا ہے؟
- ۳..... کیا اسلام کسی غیر مسلم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ قرآن کو ایک اچھا نظام حیات دینے والے کے طور پر تسلیم کرے اور اسے قابل اطاعت سمجھے؟ کوئی نہیں روکتا ہم تو ان امور کی دعوت دیتے ہیں۔

۴..... کیا کسی غیر مسلم کو یہ اجازت ہے یا نہیں کہ وہ اگر چاہے تو قرآن کے احکام پر عمل کرے؟

۵..... اگر جواب نفی میں ہو تو قرآن و سنت کا وہ حکم کہاں ہے؟ جس سے اس نفی کی تائید ہوتی ہو؟ پھر مختلف آیات پیش کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ.....

الف..... مذہب قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہئے۔ مسٹر جب کون کرتا ہے؟ ہم تو تمہیں صرف اپنی حیثیت تسلیم کرنے پر زور دیتے ہیں۔

ب..... رضا کارانہ طور پر اسے قبول کرنے کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہونی چاہئے۔ پابندی لگاتا کون ہے؟

ج..... بذریعہ طاقت کسی کو مذہب سے نکالا نہیں جانا چاہئے۔ بالکل نہیں ہم تو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ نکالتا کون ہے؟ آؤ تو سہی۔ اسلامی تعلیمات کو اپنا کر مسلمان ہو جاؤ تمام آلائشوں سے صاف ہو جاؤ گے۔

د..... جو کوئی اپنے مذہب پر کاربند نہ رہنا چاہتا ہو۔ اسے ایسا کرنے سے روکنا نہیں چاہئے۔

مرزا قادیانی نے کیوں عبدالحکیم کو مرتد کہا؟ ایسے خلیفہ بشیر الدین محمود غیر مبالعین کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے؟ مسئلہ تکفیر کیوں کھڑا کیا؟ لاہوریوں کی طرح کیوں نہ رہے؟ آخر پھر پابندی کس چیز کا نام ہے؟ یہ سب مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ جن کو مسٹر مجیب الرحمن نے اس جگہ بڑے طمطراق سے پیش کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم توحید کا اعلان کرے گا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کو دعویٰ نبوت میں سچا تسلیم کرے گا۔ قرآن حکیم کو کتاب اللہ سمجھ کر اس کو بہترین نظام حیات تسلیم کرے گا تو وہ غیر مسلم نہیں۔ بلکہ سچا اور پکا مسلمان بن جائے گا۔ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے دین کے عائد کردہ عقائد اور اعمال کی تعبیر وہی اپنائے گا۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ دین میں وہ من مانی اور خواہشات کی پیروی نہ کر سکے گا۔ کیونکہ ”ماکان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضی اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرة (احزاب: ۳۶)“ کسی مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت کو اپنے معاملہ میں خدا رسول ﷺ کے فیصلہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔

دین میں داخل کرنے کے لئے کوئی جبر نہیں۔ مگر دین میں داخل ہو کر من مانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ”ادخلوا فی السلم كافة“ پر عمل کرنا پڑے گا۔

تو جب دعویٰ ایمان و اسلام کر کے اس کے تمام تقاضے تہ دل سے پورے کرے گا۔ تو حقیقی مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا۔ مگر جب اس کے قلبی احساسات اور ظاہری اعمال، دعویٰ ایمان کے مطابق نہ ہوں گے تو پھر فرمان خداوندی اس کے بارہ میں ”وما ہم بمؤمنین“ اور ”واللہ یشہد ان المنفقین لکذبون“ جاری ہوگا کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا اور تم مسلمان نہیں ہو اور یہ بات جبر نہ ہوگی۔ بلکہ اس کو تسلیم واقعیت اور قبول حق کہا جائے گا۔

### ایک نہایت اہم مسئلہ

کسی غیر مسلم یا مرتد (عیسائی، یہودی، ہندو یا مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لئے اس کو توحید خداوندی اور رسالت خاتم النبیین ﷺ کا اقرار کرایا جائے گا۔ لیکن تکمیل ایمان کے لئے علاوہ اقرار شہادتین کے، اس کے سابقہ مذہب کے ان غلط عقائد کی تردید بھی کرائی جائے گی۔ جس پر اس مذہب کا دار و مدار ہے۔ مثلاً ایک عیسائی کو اگر مسلمان کریں گے تو جہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار لیا جائے گا وہاں اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول تھے۔ اس کے بیٹے نہ تھے۔ کیونکہ توحید کی تکمیل بغیر نفی ابیت و تثلیث کے ناممکن ہے۔ لہذا اس سے اقرار لیا جائے گا کہ خدا ایک ہی ہے، تین نہیں۔ ”لا تقولوا ثلثۃ“

اسی طرح جو شخص کسی اسلام کے بنیادی عقیدے یا کسی ضروری امر کے انکار کی بناء پر اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ مثلاً نماز کی فرضیت کا قائل نہ رہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے یا حجیت حدیث کا منکر ہو جائے تو جب اسے دوبارہ مسلمان کریں گے تو جس بناء پر وہ کافر ہوا ہے۔ اس کا اقرار ضرور کرائیں گے۔ صرف اسی پر اکتفاء نہ کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کر لے۔ کیونکہ اس کا تو وہ منکر ہی نہیں۔ لہذا اس کو کہیں گے کہ اقرار شہادتین کے بعد کہو۔ زکوٰۃ فریضہ اسلامی ہے۔ حدیث واقعی ایک حجت شرعی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ شراب کو حلال جانتا ہے اس لئے کافر ہو گیا۔ تو جب دوبارہ اس کو کلمہ پڑھائیں گے تو اس کو یہ بھی تلقین کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا اعلان کرے۔ صرف اسی پر اکتفاء نہ کریں گے کہ بھی تم شراب کو حلال سمجھ کر یا زکوٰۃ کا انکار کر کے کافر ہو گئے ہو۔ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وہ کہہ دے کہ: ”اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اعبده ورسوله“ شراب کا تذکرہ ہی نہ کرے کہ حلال سمجھتا ہوں یا حرام؟ لہذا صرف اقرار شہادتین کافی نہ ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ (رد المحتار علی در المختار ج ۳ ص ۳۱۵، باب المرتد) میں لکھتے ہیں۔  
 ”جو شخص ضروریات دین سے کسی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہوا ہو اس کی توبہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حرمت خمر) سے بے تعلقی (اور توبہ) کا بھی اعلان کرے۔ (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لینا کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ یہ شخص کلمہ شہادت کہنے کے باوجود شراب کو حلال کہتا تھا۔ (لہذا اس کے کفر وارتداد کا ازالہ اس عقیدہ سے توبہ کئے بغیر نہ ہوگا) جب کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے اور (ہمارے نزدیک بھی) یہی ہے۔ اسی طرح (جامع الفصولین ج ۲ ص ۲۹۸) میں لکھا ہے۔ پھر اگر اس (توبہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شریف زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اس خاص کلمہ کفر سے توبہ نہ کرے جو اس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پر وہ کافر ہوا تھا) اس لئے کہ اس شخص کا کفر محض کلمہ شہادت سے رفع نہ ہوگا۔“

(اکفار الملوحدین مترجم ص ۱۴۱، ۱۴۲، ناشر مجلس علمی کراچی، از محدث کشمیری)  
 اس ضابطہ شرعیہ کے مطابق اگر کسی مرزائی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کو صرف کلمہ شہادت ہی نہ پڑھائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس کو پڑھتا ہے۔ بلکہ مرزائیت کے بنیادی عقائد کی نفی کا اعلان کرائیں گے۔ یہ کلمہ پہلے ہی ان کے اور ہمارے درمیان متنازع فیہ ہے۔ ہم ان کو اس کلمہ کے پڑھنے اور لکھنے سے روکتے ہیں۔ کیونکہ وہ ”کلمۃ حق اریذبھا الباطل“ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے مراد وہ ظلی محمد لیتے ہیں۔ (یعنی مرزا دجال)

اس لئے جب ان میں سے کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس سے مندرجہ ذیل اعلان کروائیں گے۔  
 ..... اقرار کرو کہ محمد رسول اللہ ﷺ خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی (ظلی، بروزی، اصلی) نہ بنایا جائے گا۔

۲..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور بحسب وضاحت قرآن وحدیث دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کوئی ان کا ظل یا مثل نہیں آئے گا۔ بلکہ بعینہ خود تشریف لائیں گے۔

۳..... حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے محض قدرت اللہ پیدا ہوئے تھے۔ خدا کے برگزیدہ اور معصوم نبی تھے۔ یہود ان کو گرفتار نہ کر سکے نہ ان کو سولی دے سکے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جسد غضری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھالیا اور قرب قیامت دجال کے ہلاک کرنے کے لئے ان کو بھیجے گا۔

۴..... مرزا قادیانی مسیلہ کذاب کا جانشین، دجال اکبر کا غل اور بروز ہے۔ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ بہت بڑا کذاب اور دجال تھا۔ ”لعنة الله عليه الف الف لعنة الى يوم القيامة“ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ ملک و ملت کا بدترین غدار تھا۔

۵..... تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات بالخصوص حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام معجزات جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں برحق ہیں۔ معجزہ معراج جسمانی برحق ہے۔ جہاد اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ”الجهاد ماض الى يوم القيامة (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۱، باب لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب)“ ان تقاصیل کا اقرار نہ لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی ظاہر اُکلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ پھر موقعہ پاتے ہی اندرون خانہ مرزائی بن جاتا ہے اور مسلمان منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

قرآن مجید میں بھی اس ضابطہ کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا: ”ان الذين يكتُمون ما انزلنا من البينات (البقرہ: ۱۵۹)“ ﴿بلاشبہ وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ دلائل و براہین کو چھپاتے ہیں۔﴾ جب کہ اس کو کتاب میں واضح طور پر لوگوں کے لئے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت ملے گی۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور وضاحت کرتے رہے۔ (یعنی اپنے تمام باطل نظریات کی تردید کرتے رہے) ایسے لوگوں پر نظر رحمت کروں گا۔ ”وانا التواب الرحيم“

ایک دلچسپ پیرا گراف

نفس الامری حقیقت! قرآن مجید نے منع شر جناب ابلیس کا ایک اہم خطاب نقل فرمایا ہے کہ: ”وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلو موني ولو موا انفسكم وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم (ابراہیم: ۲۲)“ ﴿روز جزاء کی تمام عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد ابلیس لعین اپنی پارٹی سے ایک اہم خطاب کرے گا کہ اے مجھے الزام دینے والے احقو! مجھے ملامت نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ (توحید و اطاعت اختیار کرنے پر) سچا وعدہ فرمایا تھا کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔﴾

دیکھئے: ”فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقرہ: ۳۸)“

اس کے برخلاف میں نے بھی تم سے وعدے کئے تھے۔ لیکن میں نے اپنے وعدوں کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی زور بھی نہ تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں گمراہی کی دعوت دی تھی۔ جسے تم نے بخوشی قبول کر لیا۔ پس اب تم مجھے ملامت نہ کرو۔ ”ولو مو انفسکم“ بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو۔ اب نہ تو میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں اور نہ تم ہی میرے کام آ سکتے ہو۔ اے ناعاقبت اندیشو! تم جو مجھے خالق حقیقی کے ساتھ شریک کرتے رہے ہو۔ میرے دل میں اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں بلاشبہ ایسے ظالموں بے انصافوں کے لئے انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔

ملاحظہ فرمائیے: ابلیس اپنی پارٹی کی ہزاروں سال کی اطاعت و فرمانبرداری سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جو تے کی نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ ایسے ہی اس کی پارٹی کے سرکردہ رکن اپنے حواریوں سے سلوک کریں گے۔ دیکھئے قرآن مجید ان کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ ”وبرزواللہ جمیعاً فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنالکم تبعاً فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شئ قالوا لو هدانا اللہ لهدیناکم سواء علینا اجزنا ام صبرنا ما لنا من محیص (ابراہیم: ۲۱)“ ﴿جب سب لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا آج تم لوگ خدائی عذاب کے سلسلہ میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ یعنی عذاب کا کچھ حصہ ہم سے بانٹ سکتے ہو۔ تو وہ کہیں گے بھی ہم تو خود گمراہ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرتا تو ہم تمہاری بھی راہنمائی کرتے۔ اب تو ہماری چیخ و پکار یا صبر و تحمل برابر ہے۔ ہمارے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔﴾ ایسے ہی سورۃ الصفہ کے دوسرے رکوع میں مفصل مذکور ہے۔

ایک یقینی توقع! ہمارا گمان غالب ہے کہ اپنی پارٹی کی لعنت و ملامت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مرزا قادیانی بھی ایک خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ: ”ایہا الہبانقۃ القادیانیۃ“ اے نادان مرزا یو! میں تو ایک دائم المرض مجبوظ الحواس اور مراقی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن وحدیث میں دجل و تحریف کا چکر چلا کر دعویٰ مجددیت، مسیحیت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر اور جہنمی کہہ دیا تھا تو میری تو یہ طبعی مجبوری تھی۔ تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ نہ دیا کہ جو شخص پیدائش ہی سے لے کر کسی قابل توجہ کردار کا مالک نہیں۔ وہ بڑا ہو کر کون سی قابل قدر صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا

ہے۔ دیکھو! بچپن سے ہی بوجہ کسی تکلیف کے مجھے چھ ماہ تک افیون دی گئی۔ جس سے میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ بوٹ کے دائیں بائیں کی تمیز نہ ہو سکتی تھی۔ گھڑی کا ٹائم صحیح نہ بتا سکتا تھا۔ چینی کی جگہ نمک پھانک لیتا تھا۔ ایک دفعہ چوزہ ذبح کرتے کرتے انگلی کو ہی کاٹ لیا۔ بچپن میں سندھی چڑی مار مشہور تھا۔ سادگی اتنی کہ ایک دفعہ میرے چچا زاد بھائی مرزا امام دین مجھے درغلا کر پنشن کے سات سو روپے سمیت لے کر مجھے ادھر ادھر پھراتا رہا۔ چند دن میں وہ رقم ختم ہو گئی تو مارے شرم کے گھر آنے کی بجائے کچہری میں پندرہ روپے پر ملازمت کر لی۔ ذہین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی لحاظ سے میری شادی بھی ایک نیم پاگل خاتون حرمت بی بی سے ہوئی۔ اس کے بعد دنیا جہان کی بیماریاں مجھ پر مسلط ہو گئیں۔ جن میں قونج، مرق، ہسٹریا، ذیابیطس، اعصابی کمزوری، جنسی کمزوری، دوران سر، بد ہضمی وغیرہ۔ بس زندگی کی گاری ٹانک وائن، یا قوتی، عنبر و مشک، تیتڑ، بیڑ کے گوشت وغیرہ لاتعداد مقویات کے سہارے گھسنتی رہی۔ انہی حالات میں چند کتابوں میں اوٹ پٹانگ مار کر کچھ وحی، الہام کا چکر چکا کر پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے دنیا کو آواز بنا تا رہا۔ جب ذرا عدالت کی دھمکی ملتی فوراً بساط الہام سمیٹنے کا عہد نامہ لکھ دیتا۔

ذیابیطس کی وجہ سے دن یا رات میں سو سو مرتبہ پیشاب کی حاجت ہو جاتی۔ گویا بلدیہ کا فائر بریڈ بن گیا ہوں۔ اسی حالت میں کوٹ کی جیب میں ہی مٹی کے ڈھیلے رکھ لیتا۔ حالانکہ اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی ہوتے اور پھر خدا جانے کون سا ڈھیلہ کہاں استعمال ہوتا تھا۔

کیا تمہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی اولوالعزمی، ثابت قدمی، ذات خداوندی پر بے مثال بھروسہ، بے نظیر صبر و تحمل کی جھلک قرآن نے نہ دکھائی کہ مجھ جیسے بھروپے پر اعتماد کر بیٹھے۔ بھلا تمہیں میری کتابوں سے بے شمار مواقع پر ختم نبوت کا اقرار نہ ملا۔ نزول مسیح برحق کا اظہار نہ ملا۔ جس پر تمام افراد امت کا اتفاق تھا۔ بھلا کبھی اخبار میں بھی نسخ ہوا ہے۔ لہذا اب جاؤ جہنم میں۔ میں بھی اپنے پیرومرشد کا اعلان دہراتا ہوں کہ جاؤ اپنی بد نصیبی اور حماقت کا ماتم کرو۔ ”فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصخرکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم (ابراہیم: ۲۲)“

اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مرقی آدمی ہوں اور مرقی آدمی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھو دنیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ مرقی آدمی کو فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ ”سودائے مرزا“ میں اس کی مکمل تحقیق کر دی گئی تھی۔ یا اللہ ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دے۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

## مسئلہ اصطلاحات اور شعائر

کسی عام لفظ کو ایک مخصوص حلقہ میں استعمال کرنے کو اصطلاح کہتے ہیں۔ مثلاً اہل بیت کا عام معنی ہے۔ گھر والے، چاہے کسی کے گھر والے ہوں۔ مگر اصطلاح شرع میں اہل بیت سے مراد صرف سید الرسل ﷺ کے گھر والے مراد ہیں۔ ایسے ہی لفظ صحابی کا عام معنی ساتھی کے ہیں۔ مگر اصطلاح شرع میں یہ سید کائنات ﷺ کے ساتھیوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ جب کہ اقرب الموارد وغیرہ میں ہے کہ لفظ صحابہ آپ کے ساتھیوں کے لئے علم (ذاتی نام) کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔

ایسے ہی لقب ام المؤمنین صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اور خلیفہ بمعنی نائب، آنحضرت ﷺ کے خلفاء کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ جملہ ”صل اللہ علیہ وسلم“ یعنی آنحضرت ﷺ پر درود و سلام ہو یہ صرف سید الرسل ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جملہ ”علیہ السلام“ یعنی اس پر سلامتی ہو ایک عام دعائیہ کلمہ ہے۔ مگر یہ جملہ از روئے قرآن حکیم انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ جملہ ”رضی اللہ عنہ“ صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ بھی جملہ خبریہ کے طور پر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس قسم کی تمام اصطلاحات شرعاً ایک خاص حلقہ میں استعمال ہوں گی۔ ان کے علاوہ دوسری جگہ ان کا استعمال ناجائز ہوگا۔ ہاں بعض صورتوں میں کوئی جملہ خبریہ ضمناً اور تبعاً دوسرے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور درود ہے کہ: ”اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات“ مگر ابتداء اور مستقل استعمال دوسرے کے لئے جائز نہیں۔ چنانچہ آج تک امت مرحومہ نے اس پر مکمل طور پر عملی شہادت مہیا کی ہے۔ کہیں خال خال کسی بزرگ کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ کا لفظ بطور جملہ انشائیہ کے استعمال ہوا ہے تو وہ ”النادر کالعدم“ کے حکم میں ہوگا۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ استعمال کرنے والا کوئی حجتہ شرعی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ استعمال مقابلہ اور ضد کے طور پر نہیں ہے اور استعمال بھی اہل ایمان کے لئے ہوا ہے۔

ایسے ہی امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، ازواج مطہرات اصطلاحی الفاظ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہیں۔ قادیانیوں کو استعمال کرنا کسی بھی صورت میں ناجائز نہیں۔

## ان شرعی اصطلاحات کا مرزائی استعمال

قادیانی اور اس کی ذریت چونکہ مرزا قادیانی کو حضور ﷺ کا ظل اور بروز سمجھ کر اس کے ساتھیوں کو صحابہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی گھر والی کو ام المؤمنین کہتے ہیں۔ ایسے ہی لفظ اہل بیت اور



خلیفہ وغیرہ کا استعمال ہے۔ یہ لوگ ان اصطلاحی الفاظ کو مستقل طور پر اور حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا ہم کسی بھی صورت میں یہ گوارہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس صورت میں ہم نے گویا مرزا کو نبی مان لیا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے اس کے جملہ متعلقین کے مناصب کا اقرار کر لیا۔ یہ ہمارے ایمان کے قطعاً منافی ہے۔

ضابطہ: ہمارے سامنے دو صورتیں پیش ہیں۔

۱..... اگر ہم مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو تسلیم کر لیں تو ان اصطلاحات کو گوارا

کرنا پڑے گا۔ یہ ارتداد اور کفر ہے۔ ”ونعوذ باللہ العظیم“

۲..... مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تکذیب کی صورت میں ان تمام اصطلاحات کا

استعمال ایک سیکنڈ کے لئے ہم گوارہ نہیں کر سکتے۔ یہ عین ایمان ہے۔ ”وہو المطلوب“

نتیجہ: گویا ان اصطلاحات کو گوارا کرنا مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تصدیق ہے اور یہ کفر ہے اور ان کو گوارا نہ کرنا اس کی تکذیب ہے اور ختم المرسلین ﷺ کی تصدیق ہے اور یہ عین ایمان ہے۔ لہذا ہم ایمان کے بدلہ کفر و ارتداد کی طرف کیوں جائیں؟

شعائر جمع شعیرہ کی ہے

شعائر جمع شعیرہ بمعنی علامت کے ہیں۔ کسی مذہب کے امتیازی اور بنیادی احکام کو جس سے اس مذہب کی پہچان ہو سکے شعائر کہتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کے علامتی احکام صلیب کا لٹکانا ہے۔ سکھوں کے شعائر کچھا، کڑا اور بال وغیرہ ہیں۔ جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے اہل اسلام کے احکام شعائر کہلاتے ہیں۔ جیسے کلمہ طیبہ، مساجد بمع اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار وغیرہ۔ اذان، قربانی، قبلہ، جہاد وغیرہ۔ کوئی بھی مذہب دوسرے کو نہ اپنے شعائر اپنانے دیتا ہے اور نہ خود دوسرے کے شعائر اپناتا ہے۔ ان شعائری احکام کی پابندی نسبتاً دوسرے احکام سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ ان ہی سے اس ملت کا تشخص بنتا ہے۔ ان شعائر سے غفلت یا اس کی توہین اس مذہب سے انحراف کا اعلان تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ان شعائر کے استعمال کی اجازت مرزائیوں کو کسی صورت میں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ بات مذہبی اور ایمانی غیرت کے منافی ہے۔

مرزائی اعتراض

مذہبی شعائر کی تخصیص مسلم ہے۔ مگر کچھ شعائر دو مذہبوں کے درمیان مشترک بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً کلمہ اور اذان وغیرہ۔ جیسے مسلمانوں کے شعائر ہیں۔ اسی طرح ہمارے بھی شعائر

میں اور مطلق شعائر کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ: ”لا تحلوا شعائر اللہ (مائدہ: ۲۰)“ اسی طرح مشترک شعائر کے بارہ میں ہے۔ ”یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم (آل عمران: ۶۴)“ لہذا ان شعائر سے ہمیں روکنا جائز نہیں۔

الجواب: یہ ہے کہ کلمۃ سواء سے مراد کلمہ توحید ہے۔ جو کہ تمام یہود و نصاریٰ کے درمیان ایک امر مشترک ہے۔ جیسا کہ اگلے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ باقی اشتراک شعائر کا نظریہ باطل ہے۔ کیونکہ جن شبہات کی بناء پر یہ نظریہ قائم کیا گیا ہے یا کیا جاسکتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شعائر جن کو مشرکین مکہ بھی قابل تعظیم سمجھتے تھے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، صفا و مروہ کی سعی اور قربانی وغیرہ۔ (جس کے متعلق فرمایا کہ: ”ان الصفا والمروة من شعائر اللہ (البقرہ: ۱۵۸)“ اور ”والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ (الحج: ۳۶)“ تو یہ مشترک سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اصل میں یہ امور..... امام الموحدين والمسلمين حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعائر تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ان کی اولاد اور ان کے دین پر سمجھتے تھے۔ اس لئے یہ امور اپنائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کل صلیب پرست عیسائی اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تصور کرتے ہیں۔ مگر ان کا ان کے ساتھ سوائے ادعائی نسبت کے اور کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی مشرکین کا بھی امام الموحدين کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر یہ چند امور اس دین کے اپنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ سالار انبیاء ﷺ تشریف لے آئے تو اعلان کر دیا گیا کہ: ”ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه هذا النبی والذین آمنوا (آل عمران: ۶۸)“ یعنی ان مشرکین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ان کے تعلق اور قرب والے تو وہ حضرات ہیں۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اور اعلان کیا تھا۔ ”انا براء منکم (مائدہ: ۲۰) حتی تؤمنوا باللہ وحده (الممتحنہ: ۴)“ ان کے بعد ان کی دعاء کا نتیجہ سالار انبیاء ﷺ اور ان کے پیروکار اور امت ہے۔ چنانچہ جب یہ امت دنیائے ہستی پر ظہور پذیر ہو گئی تو ان شعائر کے استعمال سے مشرکین کو سختی سے روک دیا گیا۔ فرمایا: ”انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا (التوبہ: ۲۸)“ اور ”ماکان للمشرکین ان یعمروا المساجد اللہ (التوبہ: ۱۷)“ ”وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون (الانفال: ۳۴)“

ایسے ہی قادیانیوں نے اپنے روحانی آقاؤں کے زیر سایہ اور اہل اسلام کی غفلت یا مجبوری کی بناء پر جو شعائر اسلامی اپنائے تھے۔ (جس کی ناگواری اور عدم اجازت کا اظہار مسلمان

شروع سے کرتے آئے ہیں) اب جب کہ مسلمان حکومت کو اس طرف توجہ ہوئی ہے تو وہ کسی بھی صورت میں ان شعائر کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بلکہ قادیانی حضرات اپنی علیحدگی مذہب کی بناء پر اپنے شعائر خود وضع کریں۔ جیسے ابتداء میں مسلمانوں نے اپنے شعائر منتخب کئے تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں یہود و نصاریٰ کے شعائر مثلاً گرجا، گھڑیاں وغیرہ موجود تھے۔ بلاوے کے لئے گھنٹہ اور قرنا وغیرہ مستعمل تھے۔ مگر ان سے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی تم لوگ بھی اہل اسلام کے شعائر پر دست درازی کے بغیر اپنے شعائر خود وضع کرو۔ تاکہ تمہارا تشخص قائم ہو۔ جب تم اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ امت سمجھتے ہو اور مسلمانوں کو مرزا قادیانی پر ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہارا کوئی علیحدہ تشخص قائم نہ ہوگا۔ لوگ تمہیں بھی انہی کافروں میں شمار کریں گے۔ لہذا تمہیں لازمی طور پر اپنا الگ انتظام کرنا چاہئے۔

### قادیانیوں کے لئے ایک بہترین اور قابل قبول حل

شعائر کے معاملہ میں قادیانیوں کو کوئی الجھن محسوس نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی نے ان کے لئے عبادت خانہ بنام ”بیت الذکر“ مقرر کر دیا تھا۔ (دیکھئے براہین حصہ چہر م) جیسے ان حضرات نے آج کل عملی طور پر اپنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں مسجد کی کوئی علامت نہ تھی۔ نہ آذان، نہ مینار اور نہ محراب۔ چنانچہ آج بھی قادیان میں دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر عبادت کے اوقات کے اظہار کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کا حل بھی مرزا قادیانی نے پیش کر دیا تھا کہ ایک منارہ تعمیر کروایا تھا۔ جس کا نام منارۃ المسیح رکھا گیا تھا۔ اس پر ایک قیمتی گھنٹہ برائے تعین وقت آویزاں کیا تھا۔ تاکہ لوگ وقت پہچان لیں۔ تو یہ لوگ بجائے اسلامی آذان کے اس جیسا گھنٹہ جیسا مینار بنا کر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی سنت مرزا بھی پوری ہو جائے گی۔ بالفرض اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو اس پر ایک بجنے والا گھنٹہ نصب کر لیں۔ جس طرح عیسائی امت کا انتظام ہے اور یہ صورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ یہ شیلی عیسائی بھی مشابہ ہو جائیں گے۔ آخر مرزا قادیانی مثیل مسیح جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن اوتار ہونے کے لحاظ سے ہندوؤں کی کوئی علامت اپنائیں۔ آذان خالص اہل اسلام کی علامت ہے۔

اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے۔ ”لکم دینکم ولی دین“ والا قانون استعمال کریں۔ مقام تعجب ہے کہ شعائر کے معاملہ میں اہل اسلام سے نہ ہندو مزاحم ہوتا ہے نہ سکھ، نہ یہود، نہ نصاریٰ۔ کیونکہ اس صورت میں ان کا مذہبی تشخص مجروح ہوتا ہے۔ آخر یہ مرزائی حضرات کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ لوگ اہل اسلام سے کیوں مزاحم ہوتے ہیں۔ حالانکہ

یہ نیا نیا پودا ہے۔ اس کو اپنے تشخص کے بقاء کے لئے تمام شعائر اپنے وضع کرنے چاہئے تھے۔ دیکھئے ایرانی بہائی انہوں نے سب کچھ اپنا وضع کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی نسبت بھی اپنے پیشوا کی طرف ہی کرتے ہیں تو جب انہوں نے مرکزی چیز بیت الذکر کو اپنا لیا ہے تو اس کے متعلقات کو اپنے طور پر کیوں وضع نہیں کرتے۔ ان کو تو اصولی طور پر قبلہ بھی بدلنا لازمی ہے۔ کیونکہ بقول بشیر الدین مکہ، مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ چکا ہے۔ اب قادیان ہی ام القریٰ ہے۔ معاذ اللہ! اور پھر قرآن میں بقول مرزا قادیانی تین شہروں کے نام بھی قرآن میں موجود ہیں۔ مکہ، مدینہ اور قادیان۔ چنانچہ ان کا حج بھی یہی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مرزا قادیانی اصلی حج کے لئے وہاں نہیں گئے۔ بوجہ مثیل مسیح ہونے کے اصلی عیسائیوں کی طرح۔

مشرق کو قبلہ بنائیں تاکہ قادیان بھی ہاتھ سے نہ جائے اور مثلیت بھی باقی رہے۔ بقول مرزا قادیانی جب ہر معاملہ میں جدائی اور علیحدگی ہے۔ ذات خدا، رسول، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرضیکہ آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ ایک ایک چیز میں اختلاف ہے۔ خطبہ مرزا محمود (الفضل ج ۱۹ نمبر ۱۳، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۳۱ء) تو پھر شعائر میں بھی علیحدگی اختیار کریں۔

مرزا بشیر الدین کہتے ہیں کہ: ”کیا مسیح ناصری نے اپنے پیروں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیا اور ایسے ہی ہر نبی نے اپنی امت کو دوسرے لوگوں سے الگ کیا۔ پس اگر مرزا قادیانی نے جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کیا تو کونسی نئی اور انوکھی بات ہے۔“ (الفضل ج ۵ شماره ۶۹، ۷۰، ص ۳، مورخہ ۲۶ فروری، ۲ مارچ ۱۹۱۸ء)

ایسے (ملائکہ اللہ ص ۴۶، ۴۷) میں اپنی امت کا الگ تشخص قرار دیا گیا ہے۔ تو شعائر میں اشتراک اور مزاحمت کیوں کرتے ہیں۔ یہ صرف عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ہمیں بھی مسلمان تصور کر کے ہمارے دام تزویر میں پھنس جائیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ قادیانیوں نے اپنا کلینڈر علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کے الہامات کے مجموعہ کو تذکرہ کہتے ہیں۔ جو کہ ”کلا انہا تذکرۃ“ کے مطابق قرآن کا ایک نام ہے۔ ایسے ہی ہر معاملہ میں نقل مارتے ہیں۔ لہذا ان کو اپنے شعائر، اصطلاحات اور آذان وغیرہ الگ تیار کرنی چاہئے تاکہ ان کا اپنا تشخص قائم ہو۔ آدھا تیر اور آدھا ٹیر والا معاملہ نہ ہو۔

قادیانیوں کے لئے لمحہ فکر یہ

جب تم لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو اور ان تمام شعائر کا اپنے آپ کو حقدار جانتے ہو۔ حکومت کا تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا اور ان شعائر کے استعمال سے روکنا ظلم اور زیادتی

خیال کرتے ہو تو تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو اپنے نظریات پر نظر ثانی کر کے صراطِ مستقیم یعنی دوسرے مسلمانوں کے ہمنوا ہو جاؤ۔ یا پھر اس پاکستان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اپنے مذہب اور شعائرِ مذہب کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ عدم حفاظت کی صورت میں ترک وطن از روئے قرآن و سنت فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر زمانہ میں اہل حق کا طرزِ عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی معاشرہ میں تبلیغِ حق میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں۔ ”انسی ذاہب الی ربی سیدھین“ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخر کار سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔

جب آپ ﷺ نے دعوتِ حق پیش فرمائی۔ مخالفت ہوئی اہل حق کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ مگر اہل حق نے خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کیا۔ گرم پانی میں ڈبکیاں کھائیں۔ رسیاں ڈال گھسیٹے گئے۔ کعبۃ اللہ سے روکے گئے۔ لوہے سے داغے گئے۔ مگر پائے استقلال میں ذرا بھر بھی جنبش نہ آئی۔ خود سید المرسلین ﷺ پر وہ آزمائشیں آئیں کہ ”الامان والحفیظ“ ان حالات کے پیش نظر نہ تو کوئی شعار بدلا گیا نہ کسی عقیدہ سے انحراف کیا گیا۔ بلکہ دین کے تحفظ کے لئے جشہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا اور پھر مجموعی طور پر ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا۔ اس لئے کہ اس معاشرہ میں دین کا تحفظ نہ ہو سکتا تھا۔

لہذا اگر تمہیں بھی اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے اور یہاں تمہارے دین اور شعائرِ دین میں دخل اندازی ہوتی ہے تو مت برداشت کرو۔ وطن چھوڑ کر اہل حق کی سنت پر عمل کرو۔ برطانیہ ہجرت کر جاؤ کہ وہ تمہارے امام کی جائے ہجرت ہے اور بقول مرزا غلام احمد ”سلطنت برطانیہ تمہارے لئے سایہ رحمت ہے۔“ یہاں سے ہجرت کرنا تم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

”ان الذین توفہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن الارض للہ واسعة فتھا جروا فیھا فاولئک ماؤھم جھنم وساءت مصیرا (النساء: ۹۷)“ ﴿جن لوگوں کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنا برا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تم کن حالات میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔﴾

قادیانی اور شعائر

شعائر کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ کوئی مذہب ہو۔ پس دوسرے کو اپنے شعائر کے استعمال

کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دیکھئے جب کہ قادیان میں مرزا بشیر الدین کی خلافت کا دور دورہ تھا تو قادیانی مسلمانوں کو اپنی مساجد میں اذان سے روکتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ احرار نے کچھ رضا کار مسلمانوں کی مساجد میں آذان دینے کے لئے بھیجے تو قادیانیوں نے ان پر حملہ کر کے زخمی کر دیا اور وہ ہسپتال کے بستروں پر صاحب فراش ہو گئے۔ (تحریک ختم نبوت از شورش کاشمیری ص ۷۸)

لحہ فکریہ! اگر قادیانی اپنے سفید آقاء کے بل بوتے پر اپنے شعائر کی حفاظت میں اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اہل حق سید المرسلین ﷺ کی نمائندہ حکومت کے ذریعہ کیوں سختی سے انہیں اپنے شعائر کے استعمال سے روک نہیں سکتے۔ قادیانی وکیل مسٹر مجیب الرحمن نے استحقاق اذان کے سلسلہ میں دلیل دی تھی کہ قرآن میں اس کو احسن قول فرمایا گیا ہے۔ لہذا اس سے روکنا مناسب نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ قادیانیوں کے قریباً تمام دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی پیش کردہ دلیل کے ابتداء میں یا آخر میں خود ان کے استدلال کا رد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلٍ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (فصلت: ۳۳)“ یعنی اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یعنی اذان کے ذریعہ نماز کے لئے بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

تو کیا کوئی مرزائی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بلکہ وہ تو ان مسلمانوں کو کافر کہہ کر اذان سے بھی روکنے کی کوشش میں لگے رہے۔ کیا اس وقت یہ اذان احسن قول نہ تھی؟  
کفار کی قسمیں

.....۱ مطلق کافر! جو اسلام کا سرے سے قائل ہی نہ ہو اور ظاہر بھی یہی کرے کہ میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسا شخص کافر کہلائے گا۔ جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، بدھ مذہب وغیرہ۔

.....۲ منافق! جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے۔ مگر دل میں اسلام کا منکر ہو۔ نہ قرآن مجید کا قائل ہو اور نہ ہی ختم المرسلین ﷺ کا، اور نہ احکام اسلام مثل نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اگرچہ بظاہر دکھلاوے کے لئے نماز، روزہ کا عامل ہو۔ جیسے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ اقدس میں منافق تھے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور کچھ دوسرے احکام پر بھی عمل کر لیتے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات جہاد میں بھی شامل ہو جاتے۔ مگر قلبی طور پر وہ اسلام کے قائل

نہ تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمادیا کہ: ”وما ہم بمؤمنین“ کہ وہ باوجود دعویٰ ایمان کے مؤمن نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ: ”اذا جاءك المنفقون قالوا نشهد انك لرسول الله (المنفقون: ۱)“ کہ آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جواباً فرمایا: ”والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكذوبون (المنفقون: ۱)“ یعنی اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق اپنے دعویٰ ایمانی میں بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ دل سے آپ ﷺ کی رسالت کے قائل نہیں۔ ان لوگوں کی بار بار مذمت کی گئی ہے۔

۳..... زندیق یا ملحد! جو دعویٰ تو اسلام کا کرے۔ کلمہ پڑھے، نماز، روزہ کا بھی قائل ہو۔ مگر حقائق کی تاویل ایسی کرے کہ ان اشیاء کی اصل حقیقت ہی باقی نہ رہے۔ مثلاً کہے کہ میں نماز کا قائل ہوں۔ مگر اس کا مصداق وہ نماز نہیں جو عام مسلمان پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد فقط دعاء کرنا ہے یا تھوڑی سی پریڈ کرنا ہے۔ گو کہ الفاظ کا قائل اور اس کے مفہوم مسلم عند الامتہ کا منکر ہو۔ گویا کہ وہ اپنے کفر کو اسلام بتائے اور صحیح اسلام کو کفر کہے۔ جیسے چودہ سو سال سے خاتم النبیین ﷺ کا مفہوم امت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی سمجھے ہوئے ہے کہ آپ خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور شخصیت کو عہدہ نبوت پر ہرگز فائز نہ کیا جائے گا اور وہ اس کا یہ مفہوم لے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر یعنی آپ کی مہر سے آئندہ نبی بنتے رہیں گے۔ گویا وہ اصلی اسلام کو کفر ثابت کر رہا ہے اور اپنے کفر کو اسلام بتا رہا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ نزول مسیح کا تو قائل ہو کہ واقعۃً آخر زمانہ مسیح نے آنا ہے۔ مگر وہ مسیح نہیں جو ساری امت اول سے لے کر آخر تک تسلیم کرتی چلی آئی ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کے رنگ میں ایک نیا شخص پیدا ہو کر آئے گا۔ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں سینکڑوں مرتبہ بالوضاحت فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں وہی مسیح علیہ السلام آئیں گے جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ وہ بغیر باپ محض قدرت الہی سے حضرت مریم علیہا السلام کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے نزعہ سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ وہ آخر زمانہ میں جامع دمشق کے مشرقی مینارہ پر سے اتریں گے۔ آ کر دجال کو قتل کر کے تمام روئے زمین پر دین حق کو غالب کریں گے۔ کوئی کافر، یہودی، عیسائی باقی نہ رہے گا۔ پھر فوت ہو کر روضہ رسول ﷺ میں مدفون ہوں گے۔

۴..... مرتد! لفظی معنی ہے پھرنے والا۔ یعنی ایسا شخص جو اسلام سے منحرف ہو کر کوئی

دوسرا مذہب اختیار کر لے یا اسلام کے مسلمہ عقائد اور احکام فرضیہ میں سے کسی ایک کا انکار کر دے۔ جیسے حضور ﷺ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ مگر آپ ﷺ کی خاتمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ یا تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہے۔ مگر نماز یا زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے۔ ایسے شخص کو مرتد یعنی منحرف اور باغی کہتے ہیں۔

### ان چاروں گروپوں کے احکام

۱..... کافر کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ”لا اکراہ فی

الدین (البقرہ: ۲۵۶)“ قرآنی حکم ہے۔ ہاں اس کو اسلام کی تلقین اور تبلیغ ہو سکتی ہے۔ وہ مسلمان حکومت میں جزیہ دے کر ذمی بن کر رہ سکتا ہے۔ اپنی عبادات آزادی سے کر سکتا ہے۔ مگر اپنے مذہب کی اعلانیہ تبلیغ اور تشہیر نہیں کر سکتا۔

۲..... منافق چونکہ بظاہر اسلامی اعمال ادا کرتا ہے۔ لہذا اس کو اسلامی معاشرہ کے حقوق حاصل ہوں گے۔ لیکن اس کا اندرونی معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ مگر اب صرف مسلمان ہیں یا کافر۔ منافقوں کی کوئی مستقل جماعت نہیں ہے۔

۳..... زندیق مثل مرتد کے واجب القتل ہے۔ مرتد کی توبہ اور اصلاح کی مہلت مل سکتی ہے۔ مگر اس کو مہلت نہ ملے گی اور نہ ہی اس کو توبہ معتبر ہوگی۔

۴..... مرتد کا حکم یہ ہے کہ جن شبہات کی بناء پر وہ تارک دین ہوا ہے۔ ان کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دوبارہ اسلام میں واپس آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ تائب نہ ہو اور مہلت اور تلقین اس کے لئے مفید ثابت نہ ہو تو اسے قرآن وحدیث کے واضح احکام کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ کما مر من قبل! ہاں اگر یہ صورت ہو کہ ایک پورا علاقہ یکدم مکمل اسلام۔ بے یا بعض ضروریات دین مثلاً عقیدہ آخرت، حجیت حدیث یا فرضیت نماز وغیرہ سے منکر ہو جائے یا فرد افراد اتنے مرتد ہو جائیں کہ ان کی ایک مستقل جماعت بن گئی ہو اور اسلامی حکومت ان پر قابو نہ پاسکی یا کوتاہی کی بناء پر ان کی سرزنش نہ کی گئی۔ پھر جب موقعہ میسر ہو تو حضرت صدیق اکبرؓ کی طرح ان سے جہاد کیا جائے گا۔

### (مرتد کی قسمیں) موقوف اور مسلسل

جو شخص اسلام سے منحرف ہو کر عیسائی یا ہندو ہو گیا وہ مرتد ہے۔ اس کی افہام وتفہیم یا قتل اسلامی حکومت پر لازمی ہوگا۔ لیکن اگر یہ شخص بچ گیا۔ آئندہ نسل چل پڑی تو اس کی آئندہ نسل واجب القتل نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ خود اسلام سے منحرف نہیں ہوئی۔ لہذا وہ مرتد نہیں بلکہ کافر ہوگی اور کافر کے احکام مرتد سے الگ ہیں۔



لیکن اگر کوئی بد نصیب مسلمان، مرزائی ہو جاتا ہے یا زندیق بن جاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ یہ کہ وہ خود بھی اور اس کی آئندہ اولاد بھی جو اس کے عقائد پر ہوگی۔ واجب القتل ہوگی۔ چاہے سوتیلیں پیدا ہو جائیں۔ جو نسل بھی اس کے نظریات پر ہوگی وہی مرتد اور واجب القتل ہوگی۔ کیونکہ مرزائی وہ ہوتا ہے جو خاتم النبیین ﷺ کے بعد مرزا قادیانی (جس نے آپ کے بعد دعویٰ نبوت کیا) کو نبی تسلیم کرے تو چونکہ نئے مدعی نبوت کو تسلیم کرنا ارتداد ہے۔ لہذا مرزائی کی آئندہ نسلیں بھی اسی حکم کے تحت رہیں گی۔ کیونکہ جو بھی مرزائی ہوگا وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہوگا اور یہی ارتداد ہے۔ لہذا ہر مرزائی اصلی ہو یا نسلی مرتد ہی ہوگا اور اس کی سزا بذمہ حکومت اسلامیہ قتل ہوگی۔

## مسئلہ ختم نبوت

”الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبیین والمرسلين . اما بعد . فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعة: ۳۰۲)“ ﴿وہ ذات کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک عظیم رسولؐ انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ ان کے دلوں کو کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے اور (اسی رسولؐ کو) دوسرے لوگوں کے لئے بھیجا جو ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ وہ ذات بڑے غلبے والی اور حکمتوں والی ہے۔﴾

یہ آیت کریمہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاء کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے تعمیر قبلہ کے بعد دعاء فرمائی کہ: ”ربنا وابعث فہم رسولاً منهم (البقرہ: ۱۲۹)“ کہ اے میرے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے وہ عہد والا رسلؐ میری اس اولاد میں بھیج دے جو تیرے بیت اللہ کے پاس بسنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاء کو جامہ قبولیت پہناتے ہوئے فرمایا: ”هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم“ دوسری جگہ فرمایا: ”لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً (آل عمران: ۱۶۴)“ کہ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاء کو تمہارے حق میں قبول فرمایا۔

چونکہ اس عہد والے رسول ﷺ نے تمام جہان کے لئے ہادی بن کر آنا تھا۔ لیکن دعائے غلیل علیہ السلام سے عمومیت کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس لئے وضاحت فرمادی کہ صرف ان لوگوں ہی کے لئے نہیں بلکہ حسب وعدہ کہ تم سے دنیا کے تمام گھراہنے برکت پائیں گے۔ (پیدائش ۲۲:۔) ”وآخرین منہم لما یلحقوا بہم“ دوسرے تمام لوگوں کے لئے بھی اس رسول معظمؐ کو مبعوث کیا جائے گا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۲، باب فضل فارس، ترمذی ج ۲ ص ۲۳۱، باب فی فضل العجم، السنن الکبریٰ للنسائی ج ۵ ص ۷۵، حدیث نمبر ۸۲۷۸، کتاب المناقب) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب یہ سورۃ جمعہ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہ آخرین کون ہیں؟ تو کچھ توقف کے بعد باذن الہی حضرت سلمانؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی پہنچ جائے تو اس کی قوم کے لوگ اس کو لے آئیں گے۔ گویا اولین مصداق اہل فارس ہوں گے۔ پھر بعد میں قیامت تک تمام انسان، اسی لئے سید المرسلین ﷺ نے تمام بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔

امام مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ آخرین سے مراد تمام غیر عرب ہیں اور جو بھی قیامت تک آپؐ کی تصدیق کرے گا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعدؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپؐ نے آخرین سے مراد قیامت تک آنے والی تمام امت لی ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۴۲، ۱۴۳، زیر آیت آخرین منہم) گویا اس آیت خاتم النبیین ﷺ کی بعثت عامہ کا بیان ہے کہ آپؐ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ آپؐ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بنایا جائے گا۔ جس ہستی پر یہ آیت نازل ہوئی اس نے اس کا یہی مفہوم ارشاد فرمایا ہے اور آپؐ کی اتباع میں تمام امت اسی مفہوم کی قائل ہے۔ کسی بھی مفسر نے کسی بھی زمانہ میں اس کے علاوہ دوسرا مفہوم مراد نہیں لیا۔ حتیٰ کہ مرزائیوں کے مسلمہ مجددین مثل ابن جریر، ابن کثیر، فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی وغیرہ رحمہم اللہ میں سے بھی کسی نے بھی اس کے علاوہ کوئی معنی مراد نہیں لیا۔

مگر مرزا قادیانی اس آیت مبارکہ کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخرین سے مراد حضور ﷺ کی دوسری بعثت ہے کہ آپؐ دو دفعہ مبعوث ہوں گے۔ پہلی دفعہ تو مکہ مکرمہ میں حقیقی طور پر مبعوث ہوئے اور دوسری مرتبہ آخری زمانہ میں بطور ظہل کے۔ جس کا مصداق میں ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ!

مرزا قادیانی تقریباً اپنی ہر کتاب میں اسی تحریف کو دہراتے رہتے ہیں کہ: ”وآخرین  
منہم“ سے مراد آنحضور ﷺ کی دوسری بعثت ہے۔ پہلی دفعہ تو آپ اپنی حقیقی بعثت میں تشریف  
لائے اور دوسری مرتبہ آپ کی بعثت بروزی طور پر آخری زمانہ کے لوگوں کے لئے ہوگی اور ترکیب  
یوں بتاتا ہے کہ: ”فی الامیین رسولاً وبعث فی آخرین رسولاً“ یعنی ایک رسول  
حقیقت ابتداء امیوں میں مبعوث فرمایا اور دوسری مرتبہ دوسرا رسول اخیر زمانہ کے لوگوں کے لئے  
بھیجا جو پہلے ہی کا قتل اور بروز ہے۔ لیکن یہ آخری بعثت پہلے سے کہیں زیادہ اکمل ہے۔ معاذ اللہ!  
پہلی بعثت مثل ہلال کے ہے۔ (پہلی رات کا چاند) اور دوسری بعثت بدر تمام یعنی  
چودھویں کے چاند کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ سراسر دھوکا اور واضح ترین تحریف ہے۔ اس سے بڑا کفر  
اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مفہوم نہ خاتم المرسلین ﷺ نے مراد لیا اور نہ امت کو تلقین فرمایا نہ کسی  
صحابی، تابعی یا اس کے بعد ائمہ اربعہ میں سے کسی نے لیا نہ کسی محدث یا کسی مجدد، ولی اور بزرگ  
نے لیا ہے۔ بلکہ ظل اور بروز کی اصطلاح ہی غیر اسلامی ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ کسی  
حدیث میں۔ نیز اس طریقے سے کسی کو نبی ماننے سے نبوت کا اکتسابی تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔  
حالانکہ نبوت باتفاق جمیع امت وہی اور عطائی ہے۔ اس میں کسب و محنت کا ذرا بھی دخل نہیں۔  
”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ“ یہ ظل و بروز کا چکر صرف مرزا قادیانی کی تحریف اور دجل  
ہے۔ ”اللہم احفظنا منہ“

پھر اس تفسیر پر آپ کی بعثت امیین کے لئے مخصوص ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی  
بعثت قیامت کے لئے ہے۔ نیز خاتم الانبیاء مرزا دجال قرار پاتا ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک  
امر محال ہے۔

اس آیت کی صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ وہی ہے جو تفسیر ابن کثیرؒ سے  
منقول ہوئی ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دعاء مانگی کہ: ”ربنا وابعث فیہم  
رسولاً منہم یتلوا علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت  
العزیز الحکیم (البقرہ: ۱۲۹)“ اے ہمارے پروردگار وہ عہد والا رسول جس پر ایمان اور  
معاونت کا ہم سب جماعت انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد لیا گیا ہے۔ وہ رسول میری اس اولاد  
میں سے پیدا فرما کر ان ہی کی ہدایت کے لئے مبعوث فرما دیجو جو کہ تیری آیات ان کو پڑھ کر  
سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو ہر قسم کے کفر و شرک اور گناہ کی آلائشوں سے  
پاک کرے۔ بلاشبہ تو ہی غلبہ والا اور حکمتوں والا ہے۔ ﴿

تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاء قبول فرما کر ارشاد فرمایا کہ: ”ہو الذی بعث فی الامیین رسولاً“ کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تمہاری دعاء کو سن کر قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ عہد والا رسول ان لوگوں میں بھیجا جائے گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ جو کچھ تو نے مانگا اتنا ہی دیا جائے گا۔ بلکہ جیسے میں نے اولاد مانگنے پر ”رب ھب لی من الصالحین“ صرف ایک ہی بیٹا اسماعیل علیہ السلام نہیں دیا بلکہ دوسرا اسحق علیہ السلام بھی عنایت فرمایا۔ بلکہ یعقوب علیہ السلام نافلہ۔ آگے یعقوب علیہ السلام پوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت و رسالت آپ ہی کی اولاد میں کر دی گئی۔ یہ میری ہی عنایات ہیں کہ جو میرا بن جائے تو اس کو مانگنے سے کہیں زیادہ دیتا ہوں۔ ”اننی جاعلک للناس اماماً“

دوسری مثال سنئے: حضرت عمرؓ بارگاہ الہی میں دست طلب پھیلاتے ہیں کہ اے میرے مولا تیرے خلیل علیہ السلام نے تیرے حبیبؑ کا تجھ سے سوال کیا تو نے پورا کر دیا۔ پھر تیرے حبیبؑ نے تجھ سے مجھے مانگا تو تو نے مجھے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر شیطان کے قدموں سے اٹھا کر اپنے حبیبؑ کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب میرے مولا میں جسے تیرے حبیبؑ نے تجھ سے مانگا آپ کی درگاہ میں نہایت ہی عاجزی سے سوال کرتا ہوں۔ ”اللھم انی اسئالک شھادۃ فی سبیلک وموتاً فی بلد رسولک (البدایۃ والنہایۃ ج ۷ ص ۱۳۷)“ اے اللہ میں تیرے حبیبؑ کا مانگا ہوا ہوں۔ مجھ پر عنایت فرما کر مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کر اور میری موت بھی اپنے حبیبؑ کے شہر میں مقدر فرما دے۔ تو فوری طور پر رب العالمین نے فیصلہ سنایا کہ اے میرے حبیبؑ کے فاروق اور مراد تو نے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ آ میں تجھے اپنی رحمت کے نظارے دکھاؤں۔ میں تجھے صرف مدینۃ النبی ﷺ میں شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مسجد النبی شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مسجد نبوی ﷺ میں۔ اپنے حبیب ﷺ کے مصلے پر اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے ذبح علیہ السلام کی سنت کا نظارہ دنیا کو دکھاؤں گا۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جس کا تو مانگا ہوا تھا۔ اسی کے قدموں میں دوضہ اطہر کے اندر قیامت تک جائے استراحت بھی عطا کروں گا اور پھر قیامت کے دن اسی ذات اقدس ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میدان حشر کی طرف چلاؤں گا۔ پھر حوض کوثر پر تمہاری شان، ساری کائنات کو دکھا کر جنت فردوس میں اسی حبیب ﷺ کی وزارت رفاقت اور جوار بھی عنایت کروں گا۔ تو نے دنیا میں ”رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد بنیا ورسولاً ﷺ (مشکوٰۃ ص ۳۲، باب الاعتصام بالکتاب والسنة)“ کا نعرہ لگایا تھا۔ ہم نے تم سب کو لقمہ رضی اللہ عن المؤمنین کا

سریفلیٹ عنایت کر دیا تھا۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ صرف ان ہی لوگوں میں نہیں۔ بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لئے ہادی اور راہنما بنا کر بھیجوں گا۔ گویا بعثت کی عمومیت بیان ہو رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ایک ہی ہے۔ بعثت بھی ایک ہی ہے جو قیامت تک رہے گی۔ مگر مبعوث فہیم کی دو جماعتیں قرار دیں۔ اولین جن کو امین فرمایا اور آخرین جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ چونکہ دعائے خلیل علیہ السلام میں بعثت عمومی کا اظہار نہ تھا۔ لہذا ان کی معین دعاء کی قبولیت کو علیحدہ بیان فرما کر مزید فرمایا کہ: ”وآخرین منهم“ کہ رسول اللہ ﷺ صرف ان ہی میں نہیں بلکہ ان کی بعثت آخرین میں بھی ہوگی۔ مبعوث متعدد نہیں بلکہ مبعوث فہیم متعدد ہیں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا: ”وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و ہوالحکیم العلیم (الزخرف: ۸۴)“ اور وہ ذات جو کہ آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ ﴿

تو کیا یہاں سے دو الہ ثابت ہو جائیں گے؟ معاذ اللہ! ہرگز نہیں الہ اور معبود ایک ہی ہے جو دو مرتبہ مذکور ہے۔ مگر عابدین کے دو گروہ ذکر کئے گئے۔ آسمان والے اور زمین والے۔ اس آیت میں رسولاً ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے اور ہے بھی ایک ہی رسول ﷺ۔ دوسرا رسول اگر تسلیم کرنا ہے تو اوپر کی آیت میں تو الہ دو مرتبہ مذکور ہے۔ وہاں دو الہ تسلیم کر لو۔ اگر دو الہ تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ ”وما من الہ الا الہ الواحد القہار، قل ہو اللہ احد“ آیا ہے۔ تو اسی طرح اس ایک الہ کا رسول آخر بھی ایک ہی ہے۔ فرمایا: ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموات والارض یحیی ویمیت فآمنو باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ وابتعوه لعلکم تہتدون (الاعراف: ۱۵۸)“ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ وہ اللہ کی ذات کہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اس ایک اللہ پر اور اس اللہ کے ایک رسول پر جو کہ نبی امی ہے اور جو کہ ایمان و یقین رکھتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اور اسی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پالو۔ ﴿

اس آیت کریمہ میں کیسی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آسمان و زمین کا مالک، موت و حیات کا مالک ایک ہی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اس کا رسول معظم اور سالار انبیاء ﷺ بھی ایک ہی ہے۔ اسی ایک ہی پر ایمان لانا اور تابعداری اختیار کرنا ہدایت کے لئے ضروری ہے۔ کوئی اس کا مثل و بروز اور ظل وغیرہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اول سے لے کر قیامت تک

وہی ہوگا۔ غور کیجئے! رسالت عامہ کے ساتھ خدا کی ملکیت عامہ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور سنئے:

”رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار (ص: ۶۶)“ ﴿وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے غلبہ والا بخشش والا﴾

یہاں پر ربوبیت کے تین مقام ذکر فرمائے۔ آسمان، زمین اور دونوں کا درمیان۔ تو کیا معاذ اللہ رب بھی تین ہی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رب ایک ہی ہے۔ یہاں اس کی زیر تربیت تمام کائنات کو تین حصوں میں عمومیت کو ظاہر کرنے کے لئے ذکر فرمایا کہ وہ صرف آسمان کا رب نہیں، صرف زمین کا رب نہیں بلکہ آسمان و زمین اور درمیانی تمام کائنات کا بھی رب ہے۔ اسی طرح سورۃ جمعہ کی آیت سے مقصود بھی یہی ہے کہ آپ صرف امین کے رسول نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہ جائے گا۔

اور سنئے: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا: ”رب اغفر لی وھب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوھاب (ص: ۳۵)“ کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجو اور مجھے ایسی سلطنت عنایت فرما دو کہ جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو۔ (ملنا تو درکنار) بلاشبہ تو ہی سب کچھ عنایت فرمانے والا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی داد و دہش کے دروازے کھولتے ہوئے اعلان فرمایا: ”فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب . والشیطن کل بناء و غواص . و آخرین مقرنین فی الاصفاد (ص: ۳۶ تا ۳۸)“ ﴿پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جو آپ کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتے چلتی تھی اور تمام شیاطین (جنات) کو ان کے تابع کر دیا جو کچھ تعمیر کرتے تھے اور کچھ غوطہ خور تھے اور بہت سے دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔﴾

دیکھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے ایک ہی پیغمبر تھے۔ مگر ان کے تابع فرمان جنات کی متعدد جماعتیں تھیں۔ تعمیر کرنے والے، غوطہ خور اور آخرین مقرنین۔ تو کیا ان متعدد جماعتوں کے ذکر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تعدد (بطور ظل و بروز) تسلیم کر لو گے؟ یہاں بھی آپ کے تابعداروں میں آخرین کا لفظ موجود ہے۔ پھر وہاں منہم تھا۔ یہاں وہ بھی نہیں۔ یہاں تو حسب قاعدہ شاکئی بروز مانے جاسکتے ہیں۔ مگر تم یہاں ایک بھی نہ مانو گے۔ تو جیسے یہاں متبوع ایک ہی ہے۔ صرف تابعین کے مختلف طبقے بعض وجوہ سے بیان ہوئے۔ اسی طرح آیات جمعہ میں بھی متبوع ایک ہی ہے۔ مگر تابعین کو بصورت امین اور آخرین منہم بوجہ بیان فرمایا۔

ورنہ متبوع کا تعدد کہیں بھی نہیں۔ ایسے ہی اور مثالوں کا انبار لگایا جاسکتا ہے۔ مگر سمجھنے کے لئے اتنا بھی بہت کافی ہے اور مثال ملاحظہ فرمائیے! اسی طرح فرمایا: ”واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم و آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم (انفال: ۶۰)“ اس آیت میں دشمنوں کے دو گروہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک معلوم اور معروف اور دوسرے غیر معلوم آخرین۔ تو کیا یہاں بھی ایسا معنی کریں گے کہ پہلے دشمنوں کے لئے اصلی سامان جنگ تیار کرو اور آخرین کے لئے ظلی اور بروزی قسم کا اسلحہ تیار کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ معمول کے تعدد سے نہ تو عامل کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول کے تعدد سے دوسرے معمول کا تعدد لازمی ہے۔ فافہم!

جیسے فرمایا کہ: ”المبعوث الی الاسود والاحمر المبعوث الی العرب والعجم“ تو کیا یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ کالوں کا رسول اور ہے اور گوروں کا اور ہے۔ عربوں کا مبعوث اور ہے اور غیر عرب کا دوسرا الگ ہے؟ ہرگز نہیں رسول تو ایک ہی ہے۔ مگر امت کے دو گروہ بیان فرمائے جارہے ہیں۔ ایک صحابہؓ کی قدسی جماعت اور دوسرے واتبعواہم باحسان۔

### ایک شبہ اور اس کا جواب

مرزا قادیانی ایک تحریف یہ کرتا ہے کہ جب آپؐ امینین میں مبعوث ہوئے تو وہ صحابی بن گئے۔ اسی طرح و آخرین منہم حسب مفاد کلمہ فی جو ظرفیت کے لئے آتا ہے۔ یہ آخرین بھی صحابہ ہوں گے۔ وہ آخرین کو صحابہ قرار دیتا ہے۔ اسی لئے اپنی بیعت کرنے والے تمام مرزائیوں کو صحابہ کا مقام دے کر رضی اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آخرین صحابی ہو گئے تو ان میں آنے والا کیوں نہ رسول ہوگا؟ ان میں رسول ہے۔ اسی لئے وہ صحابی بنے۔ تو چونکہ سید المرسلینؐ تو حقیقتاً اور اصالتاً صرف امینین میں تشریف لائے۔ لہذا آخرین میں آپؐ کے ظل اور بروز آنے کا وعدہ ہے اور وہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ!

الجواب: اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ: ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (اعراف: ۱۵۸)“ ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین (انبیاء: ۱۰۷)“ ”وما ارسلناک الا کافۃ للناس (سبا: ۲۸)“ اور حدیث میں ہے۔ ”وارسلت الی الخلق کافۃ (مشکوٰۃ ص ۵۱۲، باب فضائل سید المرسلین علیہ السلام)“ تو ان آیات و حدیث میں آپؐ کی رسالت کا عموم بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ کی شریعت اور رسالت

تمام لوگوں کے لئے ہوگی۔ چاہے وہ آپؐ کے زمانہ حیات کے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے ہوں۔ اس چیز کا بیان نہیں کہ آپؐ کا وجود اقدس اور جسد اطہر بھی قیامت تک ان تمام لوگوں میں موجود رہے گا۔ آپؐ کو ملا اعلیٰ کی رفاقت کا پیغام نہ آئے گا۔ بلکہ اسی عالم رنگ و بو میں غلہ و دوام حاصل رہے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپؐ کے پیغام یعنی قرآن مجید کی حفاظت دائمی کا وعدہ تو فرمایا کہ: ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“ مگر آپؐ کی ذات اقدس اور جسد اطہر کے لئے بقاء و دوام کا وعدہ اس عالم دنیا میں رکھنے کا نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا: ”انک میت و انھم میتون“ و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افائن مت فھم الخالدون (انبیاء: ۳۴) ”و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عمران: ۱۴۴)“ آپؐ کے منصب رسالت کی بقاء الی یوم القیامہ کا تو وعدہ ہے۔ مگر جسد اطہر کی حفاظت کا اس ظاہری عالم میں وعدہ نہیں۔ جو پیغام آپؐ امین کو دے گئے وہی آخرین کے لئے بھی ہے۔

توجس طرح ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیا“ اور دوسری آیات میں مقصود بیان رسالت محمدیؐ کا عموم ہے۔ اسی طرح ”هو الذی بعث فی الامیین“ اور ”آخرین منهم“ سے بھی عموم رسالت ہی بیان کرنا مقصود ہے۔ (اولین و آخرین صحابہ اور واتبعواھم باحسان) فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی آیات میں امت کی عمومیت کو لفظ جمعیا اور کافۃ للناس وغیرہ سے بیان فرما دیا اور سورۃ جمعہ میں امت کے دونوں طبقوں کو بیان فرما کر عموم رسالت و بعثت کا اظہار فرمایا کہ آپؐ کی بعثت صرف امین کے لئے ہی نہیں بلکہ آخرین کے لئے بھی ہے۔

تحریف قادیانی کا نتیجہ اور انجام

جب خاتم النبیین اور سید المرسلین ﷺ کی دو بعثتیں بقول مرزا تسلیم کر لیں۔ ایک امین میں اور دوسری آخرین میں تو نعوذ باللہ پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپؐ کی بعثت اس مردود کے آنے تک رہی۔ اب آپؐ کی بعثت نہیں۔ بلکہ مرزا لعین کی بعثت ہے تو اس طرح آپؐ کی رسالت کا نسخ اور اختتام لازم آئے گا۔ معاذ اللہ! اور یہ ہر لحاظ سے محال ہے اور پھر جیسے یہ دجال کہتا ہے کہ پہلی بعثت سے یہ دوسری بعثت زیادہ اکمل اور اقویٰ ہے۔ تو اس سے آپؐ کے افضل الرسل ہونے کی نفی ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کفر اور الحاد ہو سکتا ہے؟ پھر دو بعثتیں تسلیم کرنے سے ختم نبوت کا تاج آپؐ سے منتقل ہو کر (معاذ اللہ) مرزا قادیانی کی طرف چلا جاتا



ہے۔ جو سراسر قرآن وحدیث اور عقل و نقل کے منافی ہے۔ کیونکہ جب بعثت میں تعدد و تغائر اور تباہن ہے تو ذوبعثت میں اعراض مثلثہ (تباہن و تغائر وغیرہ) کیوں نہ جاری ہوں گے۔ صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

اگر یہ تباہن اور تغائر نہیں تو (کلمۃ الفصل ص ۱۱۰) میں کیوں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد رسول اللہ ﷺ کو نہیں مانتا یا ان کو تو مانتا ہے۔ مگر مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء علیہم السلام کا تغائر ذاتی ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی بھی متغائر ہے۔ تو اس کا وجود ختم نبوت کے منافی کیوں نہ ہوگا؟

بالفرض والتقدیر ایک سیکنڈ کے لئے (نقل کفر کفر نہ باشد) اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعثتیں دو ہی ہیں۔ ایک امیین کے لئے اور دوسری آخرین کے لئے۔ تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آخرین آپ کے تیرہ سو سال بعد والے ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ: ”وآخرین منهم لما يلحقوا بهم“ کہ آپ کے مبعوث الہیم وہ بھی ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔

اب یہاں ایک تو لفظ منهم قابل غور ہے کہ وہ کوئی علیحدہ امت نہ ہوں گے۔ بلکہ آپ کی ہی امت کا ایک حصہ ہوں گے۔ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور آپ کی امت قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں۔

دوسرا لفظ ”لما يلحقوا بهم“ ہے۔ یعنی جو ابھی پیدا ہو کر ان موجودین کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے۔ ان کے بھی آپ ہی نبی ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی والا معنی تسلیم کر لیں تو پھر یہ میں پیدا ہونے والے تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد آج تک تیس سے بھی اوپر نسلیں پیدا ہو چکیں ہیں۔ ان میں بعثت ثانیہ کیوں نہ ہوئی۔ آخر وہ بھی تو آخرین ہی ہیں۔ صرف تیرہ صدیاں بعد والے ہی کیوں آخرین میں شامل ہو گئے۔ یہ غیر ملحق تو دوسری صدی سے ہی آرہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہؓ کی ذات قدسیہ وہی صاحب نصیب حضرات ہیں۔ جنہوں نے بحالت ایمان اس رسول محمود ﷺ کی زیارت کا شرف پایا۔ باقی قیامت تک آنے والے سب حضرات واتبعواہم باحسان ہیں۔ صحابی نہیں جیسے فرمایا: ”وددنا انا قدر آینا اخواننا اوکما قال (ابن ماجہ ص ۳۱۹، باب ذکر الحوض)“

بعثت صرف ایک ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دال ہیں۔ فرمایا:

”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (الاعراف: ۱۵۸)“ ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین (انبیاء: ۱۰۷)“ ”وما ارسلناک الا کافۃ للناس (سبا: ۲۸)“ ”تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً (الفرقان: ۱)“ ”قل اوحی الی هذا القرآن لا نذرکم به ومن بلغ وغیر ذالک من الآیات الكثیره“

دیکھئے آخری آیت میں بھی منذرین یعنی امت کو دو جماعتوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے۔ موجودین اور غیر موجودین۔ منذر ایک ہی ہے۔ منذرین کی دو جماعتیں ہیں۔

”الاحادیث الدالہ ..... علی ان الامة هی واحدة الی یوم البعث وصاحب الامة ایضاً واحد البتہ“

۱..... ”قال النبی ﷺ ارسلت الی الخلق کافۃ (مشکوٰۃ ص ۵۱۲، باب فضائل سید المرسلین ﷺ)“ ”میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ چاہے وہ امین ہوں یا آخرین منہم ہوں۔ نہ ہی مبعوث میں تعدد ہے اور نہ ہی بعثت میں۔ صرف مبعوث الہیم کے دو حصے بیان فرمائے ہیں۔

۲..... ”بعثت انا والساعة کھاتین (مشکوٰۃ ص ۴۸۰، باب قرب الساعة)“ ”یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا مبعوث نہیں ہوگا۔ جیسے انگشت شہادت اور ساتھ والی کے درمیان کوئی دوسری انگشت نہیں۔ اسی طرح آپؐ نے اشارہ بھی فرمایا۔

۳..... اسی طرح آپؐ نے خود کو قمر نبوت کی آخری اینٹ قرار دیا کہ: ”انا تلك البنة وانا موضع اللبنة (مشکوٰۃ ص ۵۱۱، باب فضائل سید المرسلین ﷺ)“

۴..... ”انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۷۱، باب ماجاء فی فضل الامة)“ ”فرمایا کہ میں تمہاری قسمت کا نبی ہوں اور تم میری قسمت کی امت ہو۔ معلوم ہوا کہ سید الرسل ﷺ اور آپؐ کی امت کے درمیان کوئی ظل و بروز کا چکر نہیں۔

۵..... ”انا رسول من ادرك حیا ومن یولد بعدی (کنز العمال ج ۱۱ ص ۴۰۴ حدیث ۳۱۸۸۵)“ ”میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جو میری زندگی میں ہوئے اور ان کا بھی میں ہی رسول ہوں جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ! آخر اس بعثت عمومی کی اتنی وضاحت کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف ایسے ہی دجالوں کے ظل و بروز کی چکر بازیاں ختم کرنے کے لئے۔

۶..... ”قال رسول الله ﷺ لا نبى بعدى ولا امة بعدكم فاعبدوا ربكم (كنز العمال ج ۱۵ ص ۹۴۷ حدیث ۴۳۶۳۸) ”فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔

۷..... ”قال ﷺ لا نبى بعدى ولا امتى بعد امتى (رواه البيهقي في كتاب الرؤيا، وروى الطبراني ج ۸ ص ۳۰۴، حدیث ۸۱۴۶)“

۸..... حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح آقائے نامہ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ ”احد خیر منا . اسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم یكونون من بعدكم یؤمنون بى ولم یرونى (رواه احمد والدارمی، مشکوٰۃ ص ۵۸۴، باب ثواب هذه الامة)“ امین الامت سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کیا اور آپ کی معیت میں جہاد کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں ایسے لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔

یہ صرف جزوی فضیلت ہے۔ ورنہ کہاں صحابہؓ کی قدسی جماعت اور کہاں دوسری امت جن کو معیار حق قرار دیا کہ: ”فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا (البقرہ: ۱۳۷)“ ”محمد رسول الله والذين معه اشدأ على الكفار (الفتح: ۲۹)“ ”ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل (الفتح: ۲۹)“ ”اولئك اصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه . الله الله فى اصحابى لا تتخذوا هم غرضاً من بعدى (مشکوٰۃ ص ۵۵۴، باب مناقب الصحابة)“ ”وغير ذلك من النصوص البينة لا تعدد ولا تحصی“

اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرات صحابہؓ اور بعد والے سب کے سب سید الرسل ﷺ کی ایک ہی کئی بعثت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ کوئی غل و بروز کا مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا۔

۹..... ”قال ﷺ لا یزال طائفة من امتى منصورين لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة (مشکوٰۃ ص ۵۸۴، باب ثواب هذه الامة)“ اس مضمون کی تیرہ احادیث حضرت مفتی اعظمؒ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں درج کی ہیں۔

۱۰..... ”وقال ﷺ ان من اشد امنى لى حبا ناس يکونون

من بعدى يودا حدهم لورانى باهله وماله (مسلم، مشکوٰۃ ص ۵۷۳، بار ثواب هذه الامۃ) ”بلاشبہ مجھ سے انتہائی محبت رکھنے والے کچھ لوگ میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ کاش وہ اپنے اہل اور مال بھی قربان کر کے میری ایک جھلک سے بہرہ اندوز ہو جائے۔

اگر آپ کے بعد کوئی دوسری بعثت کسی ظلی یا بروزی کی ممکن ہوتی اور وہ صاحب بعثت معاذ اللہ بعینہ آپ کی تمام تر خصوصیات کا حامل ہوتا تو پھر وہ محبتیں اس کی زیارت سے تسلی پذیر ہوتے۔ پہلی بعثت والے کی طرف کیوں کشش رکھتے۔ جب کہ دوسری بعثت والا پہلے سے کہیں اہل اور اقویٰ تھا۔ جب گھر میں سب کچھ ملتا ہے تو پھر تیرہ سو سال کے سفر ماضی کی کیا ضرورت ہے۔ العیاذ باللہ العظیم! ”لعن اللہ هذا الدجال اللعين الرجيم هو ظل الدجال الاکبر بعینہ . اما والذى بعث محمد ﷺ بالحق بشيرا ونذيرا الى كافة الخلق . اى وربى . فلا وربك . والذى نفس محمد ﷺ بيده ولعمرك ايها الحبيب الكريم ان هذا اللعين الرجيم القاديانى هو ظل الدجال الاکبر وبروزه الكامل الاثم لا شك فيه ولا ريب فاجتنبوه وتعوذوا باللہ منه والزموا اکرم الخلق وافضل الرسل مبعوثا الى الاسود والاحمر الى يوم البعث ﷺ تسليما كثيرا كثيرا“

”وقال النبی ﷺ لا يزال من امتى امة قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى امر اللہ وهم على ذالك (مشکوٰۃ ص ۵۸۳، باب ثواب هذه الامۃ)“ فرمایا سرور عالم ﷺ نے میری امت میں سے ایک جماعت، اللہ تعالیٰ کے صحیح دین پر قائم رہے گی۔ ان کے معاندین اور مخالفین ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ حتیٰ کہ خدا کا حکم یعنی قیامت آجائے۔ وہ اسی حالت پر ہوں گے۔

یعنی وہ اہل حق جماعت اسی کلی بعثت پر ایمان رکھے ہوئے ہوگی۔ کسی بھی غل و بروز کے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔ تو اگر دوسری بعثت بھی مقدر ہوتی تو اس کا ضرورت نہ کرہ ہوتا اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ جب کہ اس صورت میں خاتم النبیین ﷺ کی خاتمیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ وہ دوسری بعثت والا (معاذ اللہ) اس منصب پر آجاتا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں ممکن الوقوع نہیں۔ لہذا خاتم النبیین ﷺ بھی ایک۔ آپ کی بعثت بھی ایک۔ ایسے ہی آپ کی امت بھی ایک۔ ایسے

ہی سب کا خدا بھی ایک۔ جیسے خداوند قدوس اکیلا سارے جہان کا معبود ہے۔ اسی طرح اس کا حبیب بھی بلا شرکت غیرے تمام کائنات کے لئے قیامت تک ہادی و راہنما بھی ایک ہی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں کوئی ظل و بروز کا چکر نہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں کوئی اس قسم کی چکر بازی نہیں چل سکتی۔ خدا اپنی خدائی میں یکتا اور محمدؐ اپنی مصطفائی میں یکتا۔

”یا ایہا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد و دینکم واحد و نبیکم واحد لا نبی بعدی (کنز العمال) ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (الترمذی ج ۲ ص ۵۳، باب ذہبت النبوة وبقیت المبشرات)“

### ایک نکتہ عجیبہ

خداوند قدوس کے علاوہ ہر چیز میں تحدید ہے۔ بے انتہا اور بے حد صرف وہی ایک ذات ہے۔ لہذا سلسلہ نبوت بھی ایک امر محدود تھا۔ اس کی بھی ابتداء اور انتہاء تھی۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے مقرر تھے وہ آگئے۔ ان کی گنتی پوری ہوگئی۔ چنانچہ پہلے خبر دی جاتی تھی کہ اور آئیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا: ”ولقد ارسلنا نوحاً و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوة و الکتاب (الحدید: ۲۶)“ ”ثم قفینا علی آثارہم برسلسنا (الحدید: ۲۷)“ مگر جب ختم ہونے کو آئے تو فرمایا: ”وقفینا بعیسیٰ ابن مریم (الحدید: ۲۷)“ کہ ہم نے ان سب کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر آخری نبی کا اعلان فرمایا کہ: ”مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد“ یعنی میرے بعد صرف ایک ہی آئے گا۔ اسم گرامی بھی بتا دیا کہ احمد ہوگا تا کہ کوئی مفتری اور دجال ظل و بروز کا لبادہ اوڑھ کر آنے کی جسارت نہ کر سکے۔ جب وہ آخری آ گیا تو اس پر مہر ختم نبوت لگا کر بھیجا گیا۔ پہلے کسی نبی پر مہر نہ لگائی۔ کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت جاری تھا۔ اب مہر والے کے بعد سلسلہ ختم کر دیا گیا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ نہ اصلی نہ بروزی اور نہ نقلی۔ ہاں پہلا کوئی آ جائے تو وہ اس ضابطہ کے خلاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ شمار اور گنتی کے اندر ہے باہر نہیں۔ جیسے کوئی ایک سو آدمی کو بلائے۔ سب افراد آتے جائیں۔ حتیٰ کہ آخری آدمی آ کر سو کی گنتی کو پورا کر دے۔ اب کوئی نیا نہیں آ سکتا۔ کیونکہ گنتی سو سے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آئے ہوئے اور گئے ہوؤں میں سے اٹھ کر کسی ضرورت کے لئے باہر چلا جائے پھر آخری کے بعد بھی اندر آ جائے تو یہ آ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ انہی سو مدعوین میں شامل تھا۔ زائد از شمار نہیں تھا۔ اس طریقہ پر دو اور اس سے بھی زیادہ جا کر آخری کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ

السلام اس شمار اور گنتی میں محسوب ہیں۔ حکمت الہیہ کی بناء پر کچھ مدت آسمان پر گزار کر آخر الزمان کے بعد بھی تشریف لے آئیں تو ختم نبوت کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی گنتی میں آچکے ہیں۔ آپ کی آمد پر اعلان کر دیا گیا کہ: ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین“ اور خود ذات مقدسہ نے اعلان فرمایا: ”انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی“

خوب سمجھ لو! اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت کی آخری اینٹ لگا کر اس پر مہر اختتام لگا دی کہ اس کے بعد کوئی اینٹ نہ لگ سکے گی۔ بالفرض اس کے بعد کوئی شخص اسی سائز اور اسی کواٹھی کی کوئی اور اینٹ لگانا چاہے گا تو پھر بھی نہ لگ سکے گی۔ کیونکہ گنتی پوری ہو چکی ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے۔ تعداد اور گنتی پر اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگرچہ کوئی ظلی و بروزی بھی آئے گا تو تغائر و تبائن ذاتی تو لازم آئے ہی گا۔ گنتی میں تو اضافہ ہوگا ہی، اتحاد صفاتی ہو تو ہو، مگر یہاں تو وہ بھی ممنوع اور محال ہے۔ ورنہ افضلیت مخدوش جائے گی اور تغائر و تبائن ذاتی اضافہ عدد کا مقتضی ہے جو کہ محال ہے۔ پھر بصورت تجویز صرف ایک ہی پر کیوں انحصار ہوگا۔ کثرت کا مانع بیان کیجئے۔ تعدد ممنوع ایک سے بھی لازم اور کثیر سے بھی۔ لیکن آمد سابق اضافہ عدد کا مقتضی نہیں ہوتا۔ لہذا جائز الوقوع ہے اور بصورت دلائل آمد واجب الوقوع۔

اگر اس خرد جال کا دعویٰ محض ظلیت کا ہے اور وہ بھی بواسطہ خوضہ صدیقیت کمافی (ایک غلطی کا ازالہ) تو جیسے واسطہ جزو ایمان نہیں۔ ایسے ذو واسطہ جو اس سے ادون اور کمتر ہے۔ وہ کیسے جزو ایمان ہو سکتا ہے۔ مثلاً تفسیر پر ایمان لانا ضروری ہو اور ذوق تفسیر یعنی قرآن پر ایمان ضروری نہ ہو۔ ہذا غیر معقول۔

باقی مثلیت سے ادون اور کمتر ہونا لازم نہیں آتا۔ مثلیت تو بعض صفات میں ہوتی ہے یا مطلق اسمیت اور منصب میں۔ درجات کا تفوق اور تنزل غیر ملحوظ ہوتا ہے۔ ”انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہدا علیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً (المزمل: ۱۵)“ (وکذا لک فی استثناب: ۱۸، آیت: ۱۸) اور فرمایا: ”هذا نذیر من النذر الاولیٰ (النجم: ۵۶)“

”انک لمن المرسلین (یسین: ۳)“

اسی طرح یہ ظل و جال اکبر، سید کونین ﷺ کو مثل موسیٰ علیہ السلام قرار دیتا ہے۔ ”ذکرہ کثیراً فی کتبہ“ تو اس تشبیہ سے مطلق ارسال میں مماثلت ہے۔ درجات کا تفوق و تنزل محو ث عنها نہیں۔ ”کما قال علیہ السلام علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“ نبی اور غیر

نبی میں تساوی تو کفر ہے۔ ہاں مطلق تبلیغ احکام اور اصلاح امت میں مماثلت مقصود ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی اپنی قوم کا بھائی فرمایا گیا ہے تو یہ اخوت صرف انسانیت اور اولاد آدم ہونے میں ہے۔ درجات ملحوظ خاطر نہیں۔

”قال ﷺ الانبياء اخوة العلات دينهم واحد و امهاتهم شتى (بخاری ص ۴۹۰، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم)“ تو یہاں مماثلت اور وحدت مطلق رسالت و نبوت میں ہے۔ درجات مجوٹ عنہا نہیں۔ ایسے ہی اتحاد ادیان بھی درجہ اطلاق ہی میں ہے۔ ورنہ تفصیل میں تساوی ممکن نہیں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

## قول عائشہؓ پر مرزائی اعتراض اور اس کا مسکت جواب

”عن عائشة قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده (تفسير درمنثور ص ۲۰۴ ج ۵، رواه ابن ابى شيبة في مصنفه ونقل ابن قتيبة في تاويل الاحاديث وفي تكملة مجمع البحار ج ۵ ص ۵۰۲)“ حضرت ام المؤمنين عائشہ الصديقهؓ سے منقول ہے کہ یہ تو کہو کہ خاتم النبيين، یہ نہ کہو کہ لا نبى بعده۔

### مرزائی استدلال

اس روایت کے ظاہری الفاظ سے قادیانی اجراء نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپؐ کے بعد بھی (معاذ اللہ) کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔

الجواب: مرزائی مولوی محمد علی لاہوری نے بھی اپنی تفسیر (بیان القرآن ص ۱۱۰۳) میں اس قول کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔

۲..... یہ قول کسی معتبر حدیث کی کتاب مثل صحیحین یا سنن اربعہ میں مذکور نہیں۔ بلکہ کسی بھی طبقہ کی کتب میں سوائے ابن ابی شیبہؒ کے مذکور نہیں جو کہ چوتھے طبقہ کی کتاب ہے۔ اس طبقہ کی کتب سے عقائد کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جب کہ یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ مسلمان کا ایک فرد بھی اس میں اختلاف نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو باوجود باقی سارے صحیح عقائد اور احکام تسلیم کرنے کے بھی کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جواب!

..... اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے منقول ہے کہ ایک آدمی آپؐ کی خدمت میں آیا۔ ”وقال ﷺ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده فقال المغیرہ بن شعبہؓ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فانا کنا نحدث ان عیسیٰ علیہ السلام خارج فان هو خرج فقد کان قبلہ وبعده (درمنثور ج ۲ ص ۲۰۴)“ کہنے لگا اللہ تعالیٰ درود بھیجے حضرت محمد ﷺ پر جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ (لا نبی بعده) تو اس پر حضرت مغیرہؓ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خاتم الانبیاء کہنا ہی کافی ہے۔ لا نبی بعده کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں تو اگر وہ نازل ہوں تو وہ پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد کے بھی نبی ہوں گے۔

مطلب یہ ہے کہ چونکہ جملہ لا نبی بعده سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی بھی نبی نہ آئے گا نہ نیا نہ قدیم اور پہلا۔ جس سے اسلام کے اجماعی عقیدہ اور متفقہ اعتقاد نزول مسیح علیہ السلام پر عامیانہ نظروں میں شبہ پڑتا ہے۔ اس لئے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ یا اس عقیدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ الفاظ بولنے کی تلقین فرمائی تاکہ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف وہم اور گمان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ورنہ تو تمام کتب حدیث، تفسیر، فقہ اور عقائد اس فرمان نبویؐ سے بھری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ کے استعمال سے نہیں روکا اور کوئی روک بھی کیسے سکتا ہے۔ جب کہ سید المرسلین ﷺ نے بار بار اس جملہ کو ارشاد فرما کر امت مرحومہ کو ختم نبوت کے اجماعی اور بنیادی عقیدہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور لفظ خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرادیا ہے۔ آپؐ نے اسمائے گرامی۔ عاقب، مقبی اور حاشر کا مفہوم واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہ بنایا جائے گا۔

حدیث کی اوّل درجہ کی کتب میں لا نبی بعدی کا جملہ خود سید عالم ﷺ کی طرف سے نہایت واضح طور پر نقل کیا گیا ہے تو حضرت عائشہؓ اور حضرت مغیرہؓ اس ارشاد نبویؐ کے مقابلہ میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا نبی بعده مت کہو۔ یہ تو صریحاً مخالفت سید الرسل ہوگی جو کہ خصوصاً صحابہ کرامؓ سے محال اور ناممکن ہے۔ کیونکہ ”وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان“ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر بالفرض یہ فرمان درست ثابت ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ حضرات لفظ خاتم النبیین کا صحیح مفہوم سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نیا شخص نبی بنایا نہ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی سابقہ نبی زندہ موجود ہو اور وہ آجائے تو اس کی آمد اس لفظ خاتم النبیین کے مفہوم اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپؐ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے



پہلا بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو از روئے صراحت قرآن وحدیث آئیں گے۔ لیکن وہ لانی بعدی کے مصداق نہیں بلکہ وہ تو نبی قبلہ و نبی بعدہ کے مصداق ہوں گے۔ بعد والا نہیں آ سکتا۔ قبل والا تو آ سکتا ہے۔ وہ اس لفظ خاتم الانبیاء کے منافی اور مخالف نہیں۔ گویا ایک وصف (نبی بعدہ) والا نہیں آ سکتا۔ مگر دو وصف (نبی قبلہ و نبی بعدہ) والا آ سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دوہرے وصف ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ یہ حضرات کرام لا تقولوا نبی بعدہ سے دو باتیں اور دو مسئلے سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخصیت نئے سرے سے مقام نبوت پر فائز نہ کی جائے گی۔

دوسرا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میں بے شمار دلائل ان کی آمد کے موجود ہیں اور یہ لفظ خاتم النبیین کے خلاف نہیں ہے۔ لانی بعدی کے بھی منافی نہیں۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام تو پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد میں بھی نبی ہوں گے اور مخالف صرف نبی بعدہ کے ساتھ ہے نہ کہ نبی قبلہ کے ساتھ۔ چنانچہ قول صدیقہؑ کے بعد بھی لکھا ہے کہ: ”هذا ناظر الی نزول عیسیٰ علیہ السلام“ اور اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور ان کی علامات مفصل مذکور ہیں۔ دیکھئے (مجمع البحار ج ۵ ص ۵۰۲) مذکورہ عبارت حضرت مسیح علیہ السلام تو ہمارے کلمہ اور ایمان کا پہلے ہی جز بن چکے ہیں۔ دیکھئے: ”کل امن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ“ سب اہل ایمان کا اقرار ہے کہ وہ اللہ پر، تمام فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ جن میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمیں اپنے ایمان میں ذرا برابر بھی زیادتی نہ کرنا پڑے گی۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ بخلاف اس کے اگر کسی نئے نبی کا ظہور تسلیم کر لیں تو اس کے لئے ایمان میں اضافہ کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو بھی سابقہ رسولوں کے ساتھ اپنے ایمان کا جز بنائیں اور یہ امر ختم نبوت کے سراسر منافی ہوگا۔ کفر اور ارتداد ہوگا۔ اسی لئے خود آنحضرت ﷺ نے ایک موقعہ ارشاد فرمایا کہ: ”من شهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسیٰ عبد اللہ ورسوله وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منه والجنة والنار حق ادخل الجنة علی ماکان من العمل (بخاری ج ۱ ص ۴۸۸، باب قوله یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم)“

قابل غور بات یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا۔ دوسرے کسی نبی

کا نام کیوں نہ لیا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آنا تھا۔ لحدوں نے ان کی آمد کو ختم نبوت کے منافی سمجھ کر اپنا ڈھونگ رچانا تھا۔ لہذا پہلے ہی ان کا کلمہ مستقل طور پر ہمیں پڑھا دیا۔ اسی طرح حضرت صدیقہؓ اور حضرت مغیرہؓ بھی سمجھا رہے ہیں کہ خاتم النبیین ﷺ سے مرزائیوں والا معنی نہ لینا۔ کہ آمد مسیح علیہ السلام بھی اس کے منافی ہے۔ اسی لئے فرمایا: ”لا نبی بعدہ“ بے سمجھی سے مت کہنا کہ اس سے مطلق نبی کی آمد ممنوع ہے۔ بلکہ اس سے صرف کسی نئے شخص کا نئے سرے سے نبی بن کر آنا ممنوع ہے۔ (جیسے میلہ کذاب اور مرزا قادیانی وغیرہ)

اسی طرح ہماری شریعت کو خاتم الشرائع فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی نیا حکم اس شریعت میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہ بھیجی جائے گی۔ حالانکہ پہلی شریعت توراۃ موجود ہے۔ (مخرف ہی سہی) اور اسی شریعت کے کئی احکام اس شریعت میں موجود ہیں۔ مثلاً مسئلہ جہاد اور قصاص پہلے بھی توراۃ میں موجود تھا۔ اسی طرح اور کئی مسائل شریعت موسویہ میں تھے اور اب اس شریعت قرآنیہ میں بھی بحال و برقرار رکھے گئے ہیں۔ عقائد تو سب کے سب تمام نبیوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ ان میں تو تبدیلی ہوتی ہی نہیں جیسے فرمایا: ”شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم (الشوری: ۱۳)“ ”ان الدين عند الله الاسلام (آل عمران: ۱۹)“ ”ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب (البقرہ: ۱۲۲)“ ”وقال النبي ﷺ الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم واحد (رواہ البخاری ج ۱ ص ۴۹۰، باب قول عز وجل واذكر في الكتاب مريم)“ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے۔ ”وانه لفي زبر الاولين ومهيمننا عليه“ چنانچہ آنمہ کرامؑ کی تصریح موجود ہے کہ جو حکم قرآن میں پہلی شرائع کا بلا تکثیر ذکر کیا گیا ہو وہ اس شریعت میں بھی بحال و برقرار رہے گا اور قابل عمل ہوگا۔ جیسے ”ان النفس بالنفس (المائدہ: ۴۵)“ وغیرہ من الاحکام!

تو جیسے یہ شریعت خاتم الشرائع ہوتے ہوئے بھی سابقہ شریعتوں کے بعض احکام اور تمام عقائد کو تسلیم کرتی ہے اور اپنائے ہوئے ہے۔ اسی طرح لفظ خاتم النبیین بھی کسی سابقہ نبی کی آمد کو تسلیم کر سکتا ہے اور یہ امر اس کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ ہاں جیسے کوئی نیا حکم اس شریعت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا نبی زمرہ انبیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ خاتمیت سید عالم ﷺ کے منافی ہوگا۔ فافہم فانه عزيز!

ایسے ہی قرآن کریم کو خاتم الکتب فرمایا گیا ہے۔ یہ مرزائی بھی مانتے ہیں تو اس کا معنی

اور مفہوم بھی یہی ہے کہ کوئی نئی کتاب یا کوئی مزید آیت اتر نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی سابقہ کتاب یا صحیفہ موجود ہو تو اس کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ توراۃ سے لے کر انجیل تک تمام کتب سماویہ (محرّف ہی سہی) موجود ہیں۔ مگر نافذ نہیں۔ ان کی یہ موجودگی قرآن کے خاتم الکتاب ہونے کی منافی نہیں۔ اسی طرح کسی سابقہ نبی کا زندہ موجود ہونا بھی لفظ خاتم النبیین کے منافی نہیں۔ فافہم! چنانچہ مرزا قادیانی بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے تو ارد (ملتی جلتی) رکھتی ہو۔ پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہے وہ محال ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۸۳، خزائن ج ۳ ص ۴۱۴)

اسی طرح (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۷۷، خزائن ج ۵ ص ۳۷۷) میں لکھتے ہیں کہ: ”ماکان اللہ ان برسّل نبیاً بعد نبینا خاتم النبیین و ماکان اللہ ان یحدث سلسلۃ النبوة بعد انقطاعها“ اللہ ایسا کبھی نہ کرے گا کہ ہمارے خاتم النبیین نبی کے بعد اور کوئی نیا رسول بھیج دے اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ ایک دفعہ سلسلہ نبوت منقطع ہو جائے۔ نہ کے بعد پھر دوبارہ نبی بنانے شروع کر دے۔

اس جیسا مفہوم (ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۶۴، خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۸، ۶۸۹) میں بھی ہے۔ یعنی نئے طور پر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا یہ ختم نبوت کے منافی اور حکمت الہی کے خلاف ہے۔ نہ یہ کہ پہلا کوئی نبی آجائے اور یہی مفہوم تمام مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ: ”خاتم النبیین ای لا ینبأ احد بعده و اما عیسیٰ قد نبی قبلہ“ یعنی خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا۔ باقی نزول عیسیٰ علیہ السلام اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی نبی بنائے جا چکے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں۔ تو جس طرح پہلی شریعت توراۃ موجود ہے۔ مگر رائج نہیں۔ بلکہ وہ کہتی ہے کہ اب شریعت محمدیہ کا دور دورہ ہے۔ عہد قدیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عہد جدید انسان سے باندھا ہے۔ دیکھئے کتاب (یرمیاہ ب ۳۱، آیت ۳۱ اور عبرانیوں ب ۸، آیت ۸) لہذا اب یہ عہد جدید رائج ہوگا۔ باوجودیکہ پہلا موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبی ہیں وہ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شریعت کو چلائیں گے اور یہ بات ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جب سابقہ شرائع بھی موجود ہیں تو کسی سابقہ نبی کا وجود کیوں مستبعد ہے؟ وہ تو لازمی چاہئے۔

## فیصلہ کن بات اور خلاصہ کلام

جس طرح مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے قرآن کو خاتم الکتاب تسلیم کیا ہے۔ دیکھئے (سراج منیر ص ۶، خزائن ج ۱۲ ص ۶) اسی طرح شریعت محمدیہ کو خاتم الشرائع کہا ہے۔ (چشمہ معرفت ص ۳۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۳۴۰) تو جو معنی وہ ان الفاظ خاتم الکتاب اور خاتم الشرائع کا کریں گے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں، ہمیں منظور ہے۔

اسی طرح مرزا قادیانی نے خاتم الخلفاء کا مفہوم لیا ہے کہ جس کے بعد کوئی کامل انسان ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو اور خاتم الاولاد جس کے بعد کوئی بچہ پیٹ سے نہ نکلے۔

(تزیین القلوب ص ۱۵۶، خزائن ج ۱۵ ص ۴۷۹)

کیا مرزا قادیانی جو اپنے ماں باپ کے خاتم الاولاد تھے۔ ان سے پہلے پیدا شدہ ان کے سب بہن بھائی فوت ہو چکے تھے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ایسے ہی خاتم النبیین ﷺ کی موجودگی میں کوئی سابقہ نبی آسمان پر زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟

اسی طرح ہم کہیں گے کہ خاتم الانبیاء کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی ہستی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عہدہ نبوت پر فائز نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عباسؓ کو بوجہ آخری مہاجرین مکہ الی المدینہ ہونے کے خاتم المہاجرین فرمایا۔ تو جیسے سابقہ کتب کی موجودگی میں قرآن کا خاتم الکتاب ہونا مسلم ہے اور جیسے شریعت موسویہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے شریعت محمدیہؐ کا خاتم الشرائع ہونا مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے زندہ ہوتے ہوئے حضرت عباسؓ کا خاتم المہاجرین ہونا مسلم ہے۔ بعینہ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر موجود ہوتے ہوئے سید المرسلین ﷺ کا خاتم النبیین ہونا بھی مسلم ہوگا۔ جب کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے۔ فتدبرو لا تکن من الممتزین!

## حکومت پاکستان کا قادیانیوں کے بارہ میں آرڈیننس

۱۹۷۳ء کے دستور کی دفعہ ۱۰۶ اور دفعہ ۱۶۰ میں دوسرے دستوری ترمیمی ایکٹ مجریہ ۱۹۷۴ء (ایکٹ نمبر ۴۹ مجریہ ۱۹۷۴ء) کے ذریعے ترمیم کر دی گئی تھی۔ دفعہ ۲۶۰ میں ذیلی دفعہ (۳) کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور ایسے تمام اشخاص کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا جو کہ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کی قطعی اور غیر مشروط ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت محمد ﷺ کے بعد کسی

بھی مفہوم یا لفظ میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں یا جو کسی بھی ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مصلح مانیں۔ دوسروں کے علاوہ اس تعریف میں قادیانیوں کے دونوں گروہوں کو شامل کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

..... ﴿﴾ دفعہ ۱۰۶ صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل سے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی تعداد اور اوصاف کو واضح کرتی ہے۔ جن کا اسمبلیوں کے لئے چناؤ ہوگا۔ نیز ان اسمبلیوں میں غیر مسلموں یعنی عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں اور پارسیوں کے لئے مخصوص اضافی نشستوں کا تعین کرتی ہے۔

دوسری دستوری ترمیم مجریہ ۱۹۷۴ء کی رو سے ان گروہوں میں ”قادیانی گروہ اور لاہوری گروہ کے اشخاص (جو خود کو احمدی کہتے ہیں)“ کا اضافہ کیا گیا تھا۔  
..... ﴿﴾ یوں دفعہ ۱۰۶ کو دفعہ ۲۶ کی ذیلی دفعہ ۳ کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور ہر دو عقیدوں کے احمدیوں کو دوسری اقلیتوں کے مساوی حیثیت دے دی گئی۔

..... ﴿﴾ دستور کی ان دفعات کے علی الرغم احمدی، خود کو مسلمان اور اپنے مذہب کو اسلام کا نام دینے پر قائم رہے اور انہوں نے بڑی بے حسی کے ساتھ مسلمانان پاکستان کی پریشانی کو نظر انداز کئے رکھا۔ ان کی جانب سے متذکرہ دستوری دفعات کی خلاف ورزی اور مرزا قادیانی کی بیوی، افراد خانہ، ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے علی الترتیب ام المؤمنین (مومنوں کی ماں)، اہل بیت (رسول اللہ ﷺ کے خاندان کے افراد)، صحابہ (ساتھی)، خلفاء راشدین (راست باز خلفاء)، امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین (ایسے ہی القاب جو عموماً مسلمان حکمرانوں اور پاکباز خلفاء ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں اور کبھی بھی غیر مسلم کے استعمال میں نہیں آئے) ایسے القاب، اوصاف اور الفاظ کا مسلسل استعمال اور ان کی بے حرمتی جاری رہی۔ اسی وجہ سے مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات کے استعمال کو مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ ۴۵ مجریہ ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۲۹۸-اے (جس کا اضافہ حال ہی میں آرڈیننس نمبر ۴۴ مجریہ ۱۹۸۰ء کے تحت کیا گیا ہے) کے مطابق فوجداری اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ دفعہ یوں ہے!

۲۹۸-اے

”مقدس شخصیات کے بارے میں ہتک آمیز کلمات وغیرہ کا استعمال جو کوئی بھی زبانی یا تحریری الفاظ میں یا کسی بھی ذریعہ اظہار سے خواہ براہ راست یا بالواسطہ یا کسی چوٹ یا

اشارے یا کنائے سے رسول پاک ﷺ کی کسی بیوی (ام المؤمنین) یا افراد خاندان (اہل بیت) یا آپ کے راست باز خلفاء (خلفاء راشدین) یا ساتھیوں (صحابہؓ) میں سے کسی کے مقدس نام کی توہین کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔“

☆..... یہ دفعہ عمومی الفاظ میں ادا ہوئی تھی اور صرف احمدیوں پر لاگو نہیں کی گئی تھی۔ احمدیوں کے اصرار کی وجہ سے مسلمانوں میں پائے جانے والے احتجاج کے نتیجے میں زیر بحث آرڈیننس جاری کیا گیا۔ جس میں مجموعہ تحریرات پاکستان (ایکٹ ۴۵ مجریہ ۱۸۶۰ء) میں دفعہ ۲۹۸-بی اور دفعہ ۲۹۸-سی کا اضافہ کیا اور مجموعہ ضابطہ فوجداری مجریہ ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ مجریہ ۱۸۹۸ء) اور ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۳ء میں ذیلی ترامیم کیں۔ دفعہ ۲۹۸-بی اور دفعہ ۲۹۸-سی یوں ہیں۔

## ۲۹۸-بی

مقدس شخصیات اور مقامات کے لئے مخصوص القاب، اوصاف اور الفاظ کا غلط استعمال:  
۱..... قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جو خود کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) کا کوئی شخص جو خواہ تحریری یا زبانی الفاظ کے ذریعے یا کسی بھی اظہار بیان سے۔  
الف..... رسول پاک حضرت محمد ﷺ کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ، کے القاب سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ب..... رسول پاک حضرت محمد ﷺ کی کسی بیوی کے سوا کسی شخص کو ام المؤمنین کے نام سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ج..... رسول پاک حضرت محمد ﷺ کے افراد خاندان کے سوا کسی دوسرے شخص کو اہل بیت کے نام سے یاد کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔ یا

د..... اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے موسوم کرتا، ذکر کرتا یا پکارتا ہے۔  
وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے۔ سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

۲..... قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جو شخص بھی زبانی یا تحریری کلمات سے یا کسی محسوس اظہار سے نماز کے

بلانے کے طریقے یا شکل، جو اس کے اپنے عقیدے کے مطابق مروجہ اذان ہو، کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں میں مروجہ اذان پڑھتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے، کی سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

۲۹۸- سی

قادیانی گروہ وغیرہ کے اشخاص جو خود کو مسلمان پکاریں یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کریں۔ قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جو شخص اپنے آپ کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمان ظاہر کرے گا یا اپنے عقیدے کو اسلام کے نام سے ذکر کرے گا یا پکارے گا یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کرے گا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دے گا، یا خواہ زبانی یا تحریری کلمات سے یا محسوس تعبیرات یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی بے حرمتی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے، کی سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

❁..... ان دفعات نے احمدی کے لئے ان امور کو فوجداری جرم قرار دیا ہے:

الف..... خود کو براہ راست یا بالواسطہ مسلمان ظاہر کرنا یا اپنے مذہب کو اسلام کا نام دینا۔  
ب..... اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کرنا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دینا یا کسی انداز سے خواہ وہ کیسا ہو، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی توہین کرنا۔

ج..... لوگوں کو نماز کے لئے اذان پڑھ کر بلانا یا نماز کے لئے بلانے کے اپنے طریقے یا شکل کو اذان کا نام دینا۔

د..... اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے ذکر کرنا یا پکارنا۔

ه..... رسول پاک حضرت محمد ﷺ کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ، رسول پاک ﷺ کی کسی بیوی کے سوا کسی دوسرے شخص کی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک ﷺ کے افراد خاندان کے سوا کسی دوسرے شخص کو اہل بیت کا نام دینا۔

عالم اسلام اور قادیانیت

❁..... ۱۹۰۲ء میں افغانستان کی حکومت نے لطیف نامی ایک قادیانی کو مرتد ہونے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے پھانسی کی سزا دی۔ جس میں آپ کا ارشاد ہے۔ ”جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔“

..... ۱۹۳۴ء میں ملا عبدالحکیم اور انور (قادیانی) انگریزوں کے لئے جاسوسی کی غرض سے افغانستان گئے۔ وہاں راز فاش ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئی۔

..... نومبر ۱۹۲۷ء میں مارشیش (بحر ہند کا ایک جزیرہ) کے ایک چیف جسٹس نے قادیانیوں کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق دے دیا۔  
..... ۱۹۵۷ء میں شام اور ۱۹۵۸ء میں مصر کی حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کی جماعت کو خلاف قانون قرار دے دیا۔

..... ۱۰ اپریل ۱۹۷۴ء کو رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں قادیانیوں کے خلاف ایک قرارداد پیش ہوئی۔ جسے ایک سو چار (۱۰۴) ملکوں نے متفقہ طور پر منظور کر کے دنیا بھر کو قادیانیت کے کفر اور ارتداد اور ان کی غیر مسلم حیثیت کو آشکار کر دیا۔  
..... رابطہ کے اجلاس کے بعد آخر اپریل ۱۹۷۴ء میں سعودی عرب، ابو ظہبی، دبئی، بحرین اور قطر میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔

### پاکستان عدلیہ کے قادیانیوں کے خلاف اہم فیصلے

..... ۱۔ فیصلہ مقدمہ بہاولپور جو کہ تنبیخ نکاح مرزائی و مسلم کے سلسلہ میں ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۵ء تک زیر سماعت رہ کر فیصلہ ہوا۔ جس کی پیروی کے لئے دارالعلوم کے مایہ ناز شیخ الحدیث حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع، شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوؒ وغیرہ جیسے یگانہ روزگار علماء پیش ہوئے۔ بالآخر مکمل بحث و تمحیص کے بعد جناب محمد اکبر صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے پونے دو صد صفحات پر مشتمل ایمان افروز فیصلہ صادر فرمایا اور مسئلہ ختم نبوت کو انگریزی سلطنت کے دور میں پہلی مرتبہ حل کر کے اپنے ایمان و اخلاص کا حق ادا کر دیا۔ ”فجزاہ اللہ احسن الجزاء“ جس کی مکمل تفصیل بعد حصول نقول از عدالت مسلسل پانچ سال تک محنت کر کے تین جلدوں میں تقریباً دو ہزار صفحات پر مشتمل اسلامک فاؤنڈیشن، ڈیوس روڈ لاہور نے شائع کر دی ہیں۔

..... ۲۔ ۲۵ مارچ ۱۹۵۴ء کو میاں محمد سلیم سینئر سول جج رحیم یار خان نے اپنے فیصلہ میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔

..... ۳۔ ۳ جون ۱۹۵۵ء کو جناب شیخ محمد اکبر صاحب ایڈیشنل جج ڈسٹرکٹ راولپنڈی نے اپنے فیصلے میں مرزائیوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔



۴..... ۲۲ مارچ ۱۹۶۹ء کو شیخ محمد رفیق گوریہ سول جج اور فیملی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مرزائی خواہ قادیانی ہو یا لاہوری غیر مسلم ہیں۔

۵..... ۱۳ جولائی ۱۹۷۰ء کو سول جج سمارو جیمس آباد ضلع میرپور خاص نے اپنے فیصلے میں مرزائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

۶..... ۱۹۷۲ء میں جناب ملک احمد خان صاحب کمشنر بہاولپور نے فیصلہ دیا کہ مرزائی مسلم امت سے بالکل الگ گروہ ہے۔

۷..... ۱۹۷۲ء میں چوہدری محمد نسیم صاحب سول جج رحیم یار خان نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں قادیانیوں کو تبلیغ کرنے یا عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں۔

۸..... ۲۸ اپریل ۱۹۷۳ء کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پاس کی۔

۹..... ۱۹ جون ۱۹۷۴ء کو صوبہ سرحد کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

۱۰..... ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر رابطہ عالم اسلامی کے فیصلہ کی تائید کی اور ایک اہم انقلابی قدم اٹھایا۔

اس کے بعد گیارہویں نمبر پر ایک اور امتیازی اور اپنی نوعیت کا اہم فیصلہ ملاحظہ فرمائیے

**بعد الت مسٹر منظور حسین سول جج ڈسک ضلع سیالکوٹ**

دیوانی دعویٰ نمبر ۴۴۳، مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء

۱..... سردار خان ولد مولاداد اور

۲..... احمد دین ولد الف دین دونوں جاٹ گھمان ساکن موسے والا تحصیل ڈسک

بنام

۱..... نذیر احمد ولد بڈھے خان

۳..... نذیر ولد عبداللہ

۵..... ہدایت اللہ ولد صوبے خان

۷..... مولوی محمد اسماعیل ولد صبر دین

۹..... چوہدری رشید احمد ولد چوہدری محمد شریف

۱۱..... بشیر احمد ولد چراغ دین

۲..... محمود احمد ولد علی حسن

۴..... بشیر احمد ولد بہاول بخش

۶..... محمد ابراہیم ولد غلام نبی

۸..... مستری لال دین ولد پیر مائی

۱۰..... محمد علی ولد اللہ دتہ

۱۲..... شکر اللہ خان ولد محمد علی

ساکنان: موسے والا تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

مسلم وکلاء..... مسٹر محمد انور مغل، سید منظور علی بخاری اور رانا محمد ارشد

وکلاء، معاونین..... مولانا محمد فیروز خان، حافظ بشیر احمد، مولانا عبداللطیف،

چوہدری محمد رمضان، مسٹر عنایت اللہ بٹ اور حافظ اسحاق کونسلر

ڈسکہ، منجانب مدعیان:

مرزائی وکلاء..... مجیب الرحمن، حمید اسلم قریشی، محمود احمد، ارشد محمود ساہی، محمد احمد اعجاز گورانیہ

ان کے معاون..... حافظ مظفر احمد۔ منجانب مدعا علیہم۔

فیصلہ

۱..... یہ دعویٰ ابتدائی طور پر مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۷۵ء کو برائے استقرء اور حکم

امتناعی دوا کی دائر کیا گیا تھا۔ جو کہ ہمارے پاس برائے سماعت ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو منتقل کیا گیا۔

۲..... یہ نمائندہ دعویٰ کی شکل میں دائر کیا گیا تھا اور آرڈر ۱۶ رول ۸ (۱) ضابطہ

دیوانی مجریہ ۱۹۰۸ء کے تحت ایک درخواست کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کی نمائندگی کی عدالت

سے اجازت چاہی تھی۔ مدعیان کے خرچہ پر عدالت کے حکم مورخہ ۱۲ اپریل ۱۹۷۵ء اور

۲ مئی ۱۹۷۵ء کی رو سے مقدمہ کی اطلاع موضع موسے والا کے باشندگان میں بذریعہ اشتہار اخبار

کرائی گئی۔

۳..... دراصل ابتدائی طور پر صرف نذیر احمد اور محمود احمد مدعا علیہان نمبر ۲ کو اس

مقدمہ میں شامل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۸۶ء کو بذریعہ مقدمہ عرضی دعویٰ دیگر مدعا

علیہان کو بھی شامل کر لیا گیا۔

۴..... قادیانیوں اور احمدیوں کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ملک کے تین

چوتھائی حصے تک بڑے جوش و خروش سے یہ تنازعہ چلتا رہا۔ اس دوران اس پر ملک میں خون خرابہ

مارشل لاء، عدالتی تحقیقات، تفتیشات اور احتجاجات ہوتے رہے۔ انیسویں صدی کے آٹھویں نویں

عشرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ

بھی کیا اور ساتھ ہی تشریحی نبوت اور ظلی نبوت میں امتیاز کرتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کی ختم نبوت

پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ۱۹۰۸ء میں وفات کے بعد ان کے

پیروکاروں میں سے ایک گروپ پیدا ہوا جو خود کو لاہوری گروپ کہلاتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ

مرزا قادیانی صرف محدث تھے (جس کا رابطہ خدا سے ہو) اور مجدد۔

۵..... تقسیم کے فوراً بعد پاکستان کے عوام نے اپنے مظاہروں میں یہ مطالبہ کیا کہ حکومت کو چاہئے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو کافر قرار دے۔ اس کے نتیجہ میں ۱۹۵۳ء میں بڑے پیمانے پر ملک میں انتشار پھیل گیا اور یہ احتجاج ۱۹۷۳ء میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس دفعہ آئین کے آرٹیکل مجریہ نمبر ۱۰۶ اور آرٹیکل ۲۶۰ میں ترامیم کی گئی۔ آرٹیکل ۲۶۰ کی ذیلی شق (۲) میں مندرجہ ذیل کا اضافہ کیا گیا۔

ایسا شخص جو حضرت محمد ﷺ کو پیغمبروں میں آخری اور غیر مشروط نبی ہونے پر یقین نہ رکھتا ہو یا وہ لفظ کے کسی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس قسم کے دعویٰ کو نبی یا مذہبی مصلح گردانتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی رو سے غیر مسلم ہے۔

آرٹیکل ۱۰۶ کی ذیلی شق ۳ میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پارسی فرقوں کی طرح اقلیتی گروپوں کے لئے اسمبلی میں نمائندگی کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کی ضروری تشریح کہ قادیانی یا لاہوری گروپ کے احمدی آرٹیکل ۲۶۰ کے ذیلی آرٹیکل ۳ کی زد میں آتے ہیں یا نہیں۔ آرٹیکل ۱۰۶ (۳) میں کردی گئی ہے۔

۶..... ہمارے علماء ان ترمیمات کے یہ معنی لیتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں اور صرف وہی اذان دے سکتے ہیں یا نبی اکرم ﷺ کے طریقہ اور حکم کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہیں یا اذان دیں یا اس طریقہ سے عبادت کریں۔ جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔

۷..... آئین میں مندرجہ بالا ترامیم کے باوجود قادیانی خود کو مسلمان اور اپنے عقیدے کو اسلام کہنے پر بضد ہیں۔ آرڈیننس ۴۴ مجریہ ۱۹۸۰ء کے ذریعے تعزیرات پاکستان مجریہ ۱۹۰۸ء میں ترمیم کی گئی اور اس میں دفعہ ۲۹۸-۱ کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی رو سے مقدس شخصیات کی شان میں تحارت آمیز کلمات کی ادائیگی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ بعد میں آرڈیننس ۴۴ مجریہ ۱۹۸۲ء کو نافذ کر دیا گیا اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ ۲۹۸-بی اور ۲۹۸-سی کا اضافہ کیا گیا۔ ان دفعات میں مندرجہ ذیل کے اظہار کو ہزار احمدی/قادیانی کے لئے قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔

۱..... کہ وہ اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ مسلمان کہے یا مسلمان ظاہر کرے یا اپنے عقیدے کو اسلام کہے۔

۲..... کہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور تشہیر کرے یا دوسرے لوگوں کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقہ سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرے۔

۳..... کہ وہ اذان دے کر عبادت کے لئے لوگوں کو بلائے یا اپنی عبادت کے لئے بلانے کا طریقہ یا شکل کو اذان کے طور پر پیش کرے۔

۴..... کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے۔

۵..... کہ وہ حضرت محمد ﷺ کے خلیفہ یا آپ کے ساتھی کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کہے۔ حضور ﷺ کی کسی بیوی کے علاوہ کسی کو ام المؤمنین کہے اور کسی شخص کو جو حضور ﷺ کے خاندان کا فرد نہ ہو اہل بیت کہے۔

ان کا ایک گروپ جسے عام طور پر قادیانی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی مہدی موعود، مسیح موعود اور ایک نبی تھے۔ جب کہ لاہوری گروپ کہتا ہے کہ وہ مجدد تھے۔ (مذہب کی تجدید کرنے والا) مہدی موعود اور مسیح موعود تھے۔ اس مندرجہ بالا قانونی ترمیم کا اطلاق ان پر ہر طرح سے ہوگا۔

۸..... کچھ احمدیوں نے جن میں مجیب الرحمن اور تین دوسروں نے بنام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرے آرڈیننس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۳ء کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا۔ (پی۔ ایل۔ ڈی ۱۹۸۵ء فیڈرل شریعت کورٹ)

لیکن قرار دیا گیا کہ موجودہ آرڈیننس کا نفاذ امن وامان کے برقرار رکھنے سے متعلق آرٹیکل نمبر ۲۰ میں موجود استثناء سے تحفظ یافتہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کی ختم نبوت اور اقلیتوں کے اپنے مذہب کا استدلال، عمل اور اس کی تشہیر کرنے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹیکل ۲۰ میں بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں پر وفاقی عدالت میں ان پر بحث کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ۱ (۴۰، ۳۳) اور اس موضوع پر روایات کے جائزہ کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ شریعت کا

۱۔ اس مضمون پر ایک سو سے زائد آیات اور دو سو سے زائد احادیث رسول ﷺ موجود ہیں۔ دیکھئے ختم نبوت کامل۔

کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو نبی ﷺ کے بعد کسی اور نبی کی آمد کی اجازت دیتا ہو۔ شریعت میں بروز اتار اور ظل کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے متعلق جو روایت ہیں انہیں مرزا قادیانی پر اگوا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اپنے دعاوی کا سارا ڈھانچہ نہ صرف قرآنی متن بلکہ روایت کی بھی تاویل پر اٹھایا ہے۔ قادیان، دمشق بن گیا اور مسجد اقصیٰ قادیان کی مسجد ہو گئی۔ اس کی بڑی رکاوٹ تھی کہ یسوع علیہ السلام کو میدان سے ہٹایا جائے اور یہ مقصد ان کی کشمیر میں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے دکھائے تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزوں کا تمسخر اڑایا۔ اس کے دعویٰ نبوت نے اس کے لئے مشکلات پیدا کیں۔ ان کے دعاوی کے اثرات کا جزوی نوٹس لیا گیا۔ کچھ دوسری مشکلات بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صرف وہی قرآن کا صحیح ترجمہ کرنے اور حدیث کی صحت کی تصدیق کرنے کا اہل ہے۔

۹..... حضرت عائشہ کا ایک قول ”قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ“ کہو کہ رسول اکرم ﷺ آخری نبی ہیں۔ لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ غیر معتبر قرار دیا گیا۔ اس طرح ایک ۲ دوسری حدیث جو کہ ابن ماجہ نے ابن عباسؓ کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے فرزند ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو وہ سچے نبی ہوتے۔ ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً“ (ابن ماجہ ص ۱۰۸، باب ماجاء فی الصلوٰۃ علی ابن رسول و ذکر وفاته) ”اسے بھی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں غلط اور ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۹۱۴، باب من ہی باسما الانبیاء میں اس کی وضاحت کی گئی ہے) ۱۰..... تمام مکاتب فکر کے مسلمان حضرت محمد ﷺ کی قطعی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنے عقیدے کا ایک اہم جز سمجھتے ہیں اور اس متفقہ اعتقاد کی بنیاد قرآن کریم کی آیت ۴۰ ہے۔ یہ آیت مع ترجمہ دی جاتی ہے۔

۱۔ دیکھئے (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۷ تا ۵۸ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹ تا ۲۹۱) وغیرہ۔

۲۔ خود لاہوری گروپ کے بانی مولوی محمد علی نے اس کو موضوع قرار دیا۔ دیکھئے زیر

(بیان القرآن ص ۱۱۰۳، از محمد علی لاہوری)

آیت ”ماکان محمد ابداً احد“

”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین  
وكان الله بكل شئ عليمًا“ ﴿محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ لیکن وہ خدا کا  
پیغمبر ہے اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا اور اللہ تمام باتوں کا جاننے والا ہے﴾۔  
چند معروف احادیث کے معنی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

۱..... نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بعد نہ کوئی پیغمبر ہوگا اور نہ ہی نبی۔

(ترمذی ج ۲ ص ۵۳، باب ذہبت النبوت وبقیت المہشرات)

۲..... اگر میرے بعد کوئی پیغمبر آتا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

(ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹، ابواب المناقب)

۳..... (حضرت علیؓ سے فرمایا) تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے  
ہارون علیہ السلام تھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۷۸، باب من فضائل علی ابن ابی طالبؓ)

۴..... میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور میری امت کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی کوئی

(طبرانی ج ۸ ص ۳۰۴، حدیث ۸۱۴۶)

امت نہیں ہے۔

۵..... میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے پیغمبروں میں آخری تھا۔

(متدرک امام حاکم ج ۳ ص ۱۹۴، حدیث ۳۶۱۹)

یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب حضور ﷺ قرآن اور سنت کے الفاظ کے معنی یا مفہوم بیان  
فرمادیں تو اس کے مقابلہ میں کسی لغت کے معنی یا کسی دوسرے کے معانی یا تشریح کو کوئی اہمیت نہ  
دی جائے گی۔

۱۱..... موجودہ دعویٰ مسجد سے متعلق ہے جو کہ موضع موسیٰ والا تحصیل ڈسکہ میں

واقع ہے۔ (اس کی تفصیل ترمیمی عرضی دعویٰ کے پیرا گراف ۳ میں بیان کی گئی ہے)

یہ کہا گیا ہے کہ مدعیان دوسرے مسلمانوں سمیت متعدد دعویہ متنازعہ مسجد میں گذشتہ ایک سو  
سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مدعا علیہم جو کہ غیر مسلم ہیں۔ ان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں  
اور وہ طاقت کے ذریعے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

۱۲..... پہلے دونوں مدعا علیہم نے فاضل عدالت عالیہ لاہور میں اس مقدمے کی

تبدیلی کی کوشش کی۔ لیکن ان کی درخواست معہ نظر ثانی درخواست نمبر ۷/۷-۷۲ ہائیکورٹ کے ڈویژنل جج نے مورخہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو مندرجہ ذیل ریمارکس کے ساتھ خارج کر دی۔

”آخر میں نہ کہ آخری قانونی ترمیم ہے۔ جس کے ذریعے احمدیوں کو نہ صرف غیر مسلم قرار دیا گیا ہے بلکہ انہیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اس قانونی اقدام کے پیش نظر مسئول علیہم/مدعیان شاید اپنے دعویٰ کو برقرار رکھنے پر غور کریں۔“

۱۳..... مدعا علیہم نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ نے علیحدہ علیحدہ جواب دعویٰ داخل کئے۔ مدعا علیہم نمبر ۱۱ تا ۱۵ نے اپنے جدا جدا جواب دعویٰ داخل کئے۔ تاہم ان سب کا مدعی ایک جیسا ہی تھا کہ متدعویہ متنازعہ مسجد بحکم اسسٹنٹ کمشنر ذسکہ زیر دفعہ فوجداری ۱۳۵ ہجریہ ۱۹۰۸ء سر بمبر کر دی تھی یہ کہ وہ گذشتہ ۶۰/۷۰ سال سے بغیر کسی کی مداخلت کے بلا شرکت غیرے اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں رد و بدل اور مرمت کی اور اول الذکر مدعا علیہم نے بیان کیا کہ وہ عرصہ ۷۰/۸۰ سال سے اسے استعمال کرتے تھے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بجلی کا میٹر اور لاؤڈ اسپیکر لگوا یا تھا۔

۱۴..... بنائے دعویٰ اور کارروائی کے جواز کی عدم موجودگی یا مقدمہ کا قابل رفتار نہ ہونا، اختیار سماعت کی عدم موجودگی اور قول و فعل سے ممانعت سے متعلق ابتدائی اعتراضات اٹھائے گئے۔

۱۵..... مدعا علیہم نمبر ۱۱، ۱۲ جو خود کو عقیدے کے لحاظ سے سنی مسلمان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ مقدمہ بد نیتی پر مبنی ہے۔ کیونکہ انہیں اس میں احمدی/قادیانی ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے ابتدائی اعتراضات میں انہوں نے دفعہ ۳۵-۱ اے ضابطہ دیوانی کے تحت ہر جانہ خاص طلب کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مدعیان کا متدعویہ متنازعہ مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے احمدی عبادت کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس کا انتظام و انصرام احمدیوں کے پاس تھا۔ جس سے مدعیان کا کوئی تعلق نہ تھا۔

۱۶..... اس پر مدعیان نے مورخہ ۳ جون ۱۹۸۶ء کو جواب الجواب داخل کیا۔ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نمبر ۱ اور اس کے لڑکے نے مدعا علیہ نمبر ۱۱ سے ۸۰ ہزار روپیہ قرض لیا تھا اور قادیانیوں نے اسے دھوکا دیا کہ اگر وہ ان کے حق میں بیان نہ دے گا تو وہ اسے مذکورہ رقم واپس نہ دیں گے۔ اسی طرح مدعا علیہ نمبر ۱۲ کو انہوں نے اس یقین دہانی پر متاثر کیا کہ وہ

دعویٰ شفع کا فیصلہ اس کے حق میں کروائیں گے۔ آخر میں ان وجوہات کی بناء پر مدعا علیہ نمبر ۲ نے نہ صرف قادیانی وکیل کیا۔ بلکہ ان کی خواہشات کے مطابق جواب دعویٰ بھی داخل کیا۔ قادیانی وکیل کے ذریعہ مسلمانوں کی نمائندگی پر سختی سے اعتراض کیا گیا تھا۔

۱۷..... ابتدائی طور پر یہ مقدمہ مسٹر گلزار احمد فاضل سول جج ڈسکے کی عدالت میں ۱۰ جنوری ۱۹۷۶ء کو پیش ہوا اور اس پر مندرجہ ذیل تفتیحات لگائی گئیں۔

۱..... کیا مدعیان متدعویہ مسجد میں بلا شرکت غیرے قابض ہیں؟ (بذمہ مدعیان)

۲..... کیا مدعیان متدعویہ مسجد میں ایک سو سال سے زائد عرصہ سے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا اثر؟ (بذمہ مدعیان)

۳..... کیا عدالت کو اس مقدمہ کی سماعت کا اختیار نہیں ہے؟ (بذمہ مدعا علیہم)

۴..... کیا مدعیان اس دعویٰ کو پیش کرنے میں اپنے قول اور فعل سے مانع ہیں؟ (بذمہ مدعا علیہم)

۵..... دادری

۱۸..... بہر حال مورخہ ۳ جون ۱۹۸۶ء کو سیدنا صری علی شاہ فاضل سول جج ڈسکے نے مزید مندرجہ ذیل تفتیحات کا اضافہ کیا۔

۱-۲..... کیا مدعا علیہ نمبر ۱۰ انہ اپنے جواب دعویٰ سے بلا اجازت روگردانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا اثر؟ (بذمہ مدعیان)

۲-۳..... کیا مدعا علیہ نمبر ۳ تا ۵ نے متنازعہ جائیداد کو مسجد تسلیم کر لیا ہے تو انہیں اس دعویٰ سے خارج سمجھا جائے؟ (بذمہ مدعیان)

۳-۴..... ڈی: کیا مدعا علیہم نمبر ۱۱، ۱۲ کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے احمدی وکیل ان کی وکالت اس مقدمہ میں کر سکتا ہے؟ (بذمہ مدعیان)

۴-۵..... ای: کیا مدعا علیہان نمبر ۱۱، ۱۲ نے دیگر مدعا علیہان کے ساتھ ساز باز کی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا اثر؟ (بذمہ مدعیان)

۴-ایف: کیا دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا مدعا علیہان نمبر ۱۱، ۱۲ ہر جانہ خاص کی رقم خاص کے حقدار ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کتنی رقم کے؟ (بذمہ مدعا علیہم)

۴-جی: کیا مدعیان دعویٰ دائر کرنے میں اپنے قول و فعل سے مانع ہیں؟ (بذمہ مدعا علیہم)



۱۹..... فریقین کے وکلاء کے علاوہ میں نے کچھ معروف علماء سے جو کہ علم کی مختلف شاخوں کے ماہرین تھے اپنے دلائل بھی اس مقدمہ میں سے تنقیحات وارفیصلہ درج ذیل ہیں۔

۲۰..... تنقیح نمبر ۱،

یہ تنقیحات ایک دوسری کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس لئے اکٹھی لی جا رہی ہیں۔ مسل پر فریقین کی شہادت کا جائزہ لینے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مسجد کے معنی بیان کئے جائیں۔ لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہیں جہاں سجدہ ریزی کرنے کے لئے سر جھکایا جائے۔ کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری (چھٹا ایڈیشن) میں مسجد کے معنی ”مسلمانوں کی جائے عبادت“ کے ہیں۔ ریٹنگل شاہ اور دوسرے بنام ملا جمل مقدمہ (پی ایل ڈی کراچی ۳۱۲) میں یہ قرار دیا گیا ہے۔ ”مسجد پر قبضہ یا اس کی ملکیت کسی شخص کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ خدا کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت کے لئے وقف ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسجد داخل ہو کر خدا کی عبادت کرے۔ پبلک مسجد ایک قانونی اصطلاح ہے اور اس سے مراد کسی صورت میں بھی مسجد کا قبضہ ان معنوں میں نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے حق سے محروم کر دے۔ اس زاویہ نگاہ سے تمام مسلمانوں کا نہ کہ کسی ایک کا مسجد پر قبضہ ہوتا ہے۔ مسلمان فرد واحد ہو یا زیادہ ہوں ان سب کے حقوق مسجد کے بارے میں مساوی ہیں اور کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکے۔“

اس سلسلے میں دفعہ ۲۱۸ محض لاء مصنفہ ملاحظہ ذیل ہے۔ ”ہر محض کو خدا کی مسجد میں داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ خواہ وہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسے اپنے مکتب فکر کے مطابق عبادت کا حق حاصل ہے۔“

پاکستان مجلس اسلامیہ بنام شیخ محمد ۴۳-۱، ۵۲، ۴۹، ۵۱-۵۲، ۴۹، ۵۱-۵۲، ۴۹، ۵۱-۵۲ میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ مسجد میں عبادت کا حق قانونی حق ہے۔ جس میں خلل کی صورت میں اسے عدالتی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔

۲۱..... مسجد کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خصوصی طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ شبہات کو دور کرنے کے لئے مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں مثبت امتیاز ہونا چاہئے۔ ایک مثبت قانون کی موجودگی میں قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد یا مسجدیں کہنے سے روکنے کے سلسلے میں کسی قسم کا اعتراض بالکل جائز ہوگا۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر آچکا ہے۔

۲۲..... زیر بحث تحقیقات کے مطابق سوالات کی طرف آتے ہوئے ہمیں ریکارڈ پر موجود شہادت کا جائزہ لینا چاہئے۔ فریقین کے وکلاء نے مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۸۷ء کو ایک تترکہ بیان میں کہا کہ وہ پہلے والی پیش کردہ شہادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ تاہم مدعا علیہان نمبر ۱۲، مسیمان بشیر اور شکر اللہ نے اپنی شہادت ریکارڈ کرانے کی خواہش کی۔ اس موقع پر تسلیم کیا گیا کہ مدعیان کو تردید کا حق حاصل ہوگا۔ مندرجہ بالا دونوں مدعا علیہان کے فاضل وکیل چوہدری محمود احمد نے مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو بیان کیا کہ اب وہ اپنے مؤکلان کی شہادت پیش کرنا نہیں چاہتے۔ یہ مسلمہ قانون ہے کہ اگر کوئی فریق کسی مقدمہ کے متعلق ذاتی علم رکھتا ہو اور شہادت دینا چاہے تو دے تاکہ جرح کے ذریعے اس کی شہادت کو پرکھا جاسکے۔ یہاں دونوں کا ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے سے گریز ہی ان کے دعویٰ کی سچائی کے منافی ہے۔ اس سلسلہ میں حاجی عبداللہ خان بنام نثار محمد خان وغیرہ (بی۔ ایل۔ ڈی ۱۹۵۹ء پشاور ۸۱) پر انحصار کیا گیا ہے۔

۲۳..... مدعیان نے سردار خان (گواہ نمبر ۱) محمد حسین ولد رحمت خان (گواہ نمبر ۲) محمد حسین ولد روشن دین (گواہ نمبر ۳) اور محمد رمضان (گواہ نمبر ۴) کی شہادت پیش کی ہے۔ ۲۴..... دوسری طرف مدعا علیہم میں سے نذیر احمد (گواہ نمبر ۱) حاجی نذیر احمد ولد اللہ دین (گواہ نمبر ۲) اور راجہ محمد صفدر جو اس وقت ریڈیڈنٹ مجسٹریٹ تھے۔ (گواہ نمبر ۳) اس مقدمہ میں اپنے موقف کی تائید میں پیش کئے۔

۲۵..... مدعیان کی جانب سے پہلے دونوں گواہوں کی شہادت مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۷۶ء کو جب کہ تیسرے گواہ کی شہادت ۱۰ مارچ ۱۹۷۶ء کو ریکارڈ کی گئی۔ تمام گواہوں کا بیان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے کہ ان کے آباؤ اجداد جو کہ مسلمان تھے۔ وہ متدعویہ مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان سب پر جرح کی گئی۔ لیکن کسی کو بھی ان کے بیان کے کسی نقطہ سے جھٹلایا نہ جاسکا۔ مدعیان کے گواہ نمبر ۲ نے مسجد کی تعمیر کا عرصہ ڈیڑھ سو سال بتایا۔ اس نے یہ تقریباً کہا اور اس کا معنی غلط نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ دیگر گواہان اس بات پر متفق تھے کہ یہ مسجد گذشتہ سو سال سے زائد عرصہ سے موجود تھی۔

۲۶..... مدعا علیہان کی جانب سے دلیل دی گئی کہ مدعیان کے گواہوں نے جرح کے دوران تسلیم کیا ہے کہ جب کبھی احمدیوں/قادیانیوں کا مولوی آتا تو وہ متنازعہ مسجد کے حجرے

میں ٹھہرتا تھا۔ لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ مدعیان کا مسجد پر بلا شرکت غیرے انتظام و انصرام نہ تھا۔ اس دلیل کی بناء پر مدعیان کا دعویٰ ناکام ہونا چاہئے۔

۲۷..... مدعیان کے گواہ نمبر ۲ کی اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ احمدیوں کی کوئی دوسری عبادت گاہ دیہات میں نہیں ہے۔ اس لئے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس پر بلا شرکت غیرے انتظام اور قبضہ ان کا ہے۔ زیادہ زور مدعیان کے گواہ نمبر ۳ کے اس اعتراف پر دیا گیا۔ جہاں اس نے بیان کیا کہ: ”یہ درست ہے کہ نماز تراویح مسجد متنازعہ میں صرف احمدی پڑھتے تھے۔ یہ درست ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان صرف احمدی ہی دیتے تھے۔“

۲۸..... میں نے بڑی احتیاط سے مندرجہ بالا دلائل پر غور کیا ہے اور ذکر کردہ اعتراضات کے درمیان گواہ نے یہ بھی کہا کہ: ”مسلمان نماز تراویح اس لئے نہ پڑھتے تھے۔ تاکہ فساد نہ ہو۔ ہم کو صرف احمدیوں کی بابت ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو علم ہوا کہ احمدی غیر مسلم ہیں۔“

اگر احمدیوں کا مولوی کبھی کبھار مسجد کے متصل ٹھہرتا تھا تو یہ اس کا حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ مدعیان مسجد کے معاملات کا انتظام و انصرام نہ کرتے تھے۔ یہ تو واضح ہے کہ ۱۹۷۴ء سے قبل قادیانی خود کو مسلمان کہتے تھے اور کسی واضح نشانی کو ظاہر کئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ عبادت وغیرہ کر لیتے تھے۔

۲۹..... مدعیان نے اصل دعویٰ کے پیرا گراف نمبر ۳ میں کہا تھا کہ متدعویہ متنازعہ مسجد مقبوضہ اہل اسلام تھی۔ مدعا علیہان کے تحریری بیان میں ان کا جواب ”یہ درست ہے۔“ کہ موقع پر مسجد موجود ہے۔ تاہم دوسری بار جو تحریری بیان مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۸۷ء کو داخل کیا اس میں درج الفاظ میں تبدیلی کر دی گئی۔

”عبادت گاہ موجود ہے جو کہ مقبوضہ جماعت احمدیہ ہے۔“

پیرا گراف نمبر ۴ میں بیان کیا کہ متنازعہ مسجد کو ”جماعت احمدیہ“ گذشتہ ۸۰/۷۰ سال سے استعمال کرتی تھی یہ مزید بڑھایا گیا کہ: ”پہلے کچی تھی..... دوبارہ جماعت احمدیہ نے پختہ تعمیر کیا۔ میٹر بجلی لگوایا اور سپیکر بھی لگوایا۔ مدعیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔“

مدعا علیہم کے گواہ نمبر اندر احمد نے بیان کیا کہ ۲۶/۲۵ سال پہلے مسجد کچی بنائی گئی تھی۔ یہ شریف آدمی اپنے دادا کا نام نہیں جانتا۔ اس کی عمر ۵۵ سال تھی۔ بقول اس کے پہلے مسجد کچی تھی۔ اس نے یہ درست تسلیم کیا کہ کچی مسجد اس کے بچپن سے پہلے تھی۔ اس لئے یہ بات واضح ہے کہ اس نے اپنی پیدائش سے پہلے مسجد کے ہونے کا انکار نہیں کیا۔

۳۰..... مدعا علیہم کے گواہ نمبر ۲ حاجی نذیر احمد نے مسجد کا ۱۹۲۸ء میں ہونا تسلیم کیا ہے۔ گواہ مدعا علیہم نمبر ۳ راجہ محمد صفدر کو ایک انکوائری رپورٹ کا ثبوت دینے کے لئے پیش کیا گیا جو اس بطور ریڈیڈنٹ مجسٹریٹ تیار کی تھی۔ اصلی رپورٹ عدالت میں پیش نہ کی گئی۔ اس لئے ان کی شہادت پر بالکل درست اعتراض کیا گیا تھا۔ مسجد کے ملاحظہ کے موقع پر انہوں نے مسجد سے متصل حجرہ سے ایک مولوی صاحب کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ مگر انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے خود اس کے مذہب کے بارے میں نہ پوچھا۔ اگرچہ لوگوں نے بتایا کہ وہ احمدی تھا۔ تاہم مجسٹریٹ صاحب کی مذکورہ مسجد کے بہت پرانی ہونے کے بارے میں رائے مثبت تھی۔

۳۱..... مسل پر شہادت مندرجہ بالا چھان بین کرنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ نہ تو مسجد کی حیثیت اور نہ ہی اس کے ایک سو سال سے زائد عرصہ سے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور جیسا کہ مدعیان کا دعویٰ ہے۔ اہل اسلام کے قبضہ اور انتظام بھی خصوصی طور پر تحریری بیان میں انکار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ پیرا گراف ۲۹ میں قبل ازیں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، رول نمبر ۵ ضابطہ دیوانی مجریہ ۱۹۰۸ء کے تحت قبضہ کا اعتراف تسلیم کیا جائے گا۔

۳۲..... یہ اچھی طرف سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۸ء میں وفات پائی اور اس کے بعد احمدیوں/قادیانیوں نے اپنے اپنے اعتقاد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مدعا علیہم کے پہلے دونوں گواہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے کبھی اپنی عبادت، گر جا گھر میں نہیں کی اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کی مذہبی رسوم ادا کرنے کی مسجد میں اجازت دی جائے گی۔ جیسے کہ اوپر پہلے قرار دیا گیا ہے کہ: ”مسجد“ مکمل طور پر بلا شرکت غیرے مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی مسجد اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔

۳۳..... اگلا سوال جو قابل غور ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم کسی ایسی مسجد پر دعویٰ کر سکتا ہے۔ جس پر اس نے کسی وقت بطور ایک مسلمان کے یا آئین مروجہ قانون کے ذریعے اپنے غیر مسلم ہونے کے اعلان سے رسائی حاصل کی ہو۔

۳۴..... شرعی قانون نے مسجد کو بلا شرکت غیرے مسلمان کی عبادت گاہ قرار دیا ہے اور اسی طرح اس میں عبادت بشمول قیام، رکوع، سجود اور نماز کے لئے بلانے کا طریقہ بذریعہ اذان بھی شریعت نے صرف مسلمان کو ہی سکھایا ہے اور غیر مسلم نہ تو ان کے حقوق میں دخل اندازی کے روادار ہیں اور نہ شعائر اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر کے مسلمانوں کے حقوق میں مداخلت کے مجاز ہیں۔

۳۵..... یہ فرض کرتے ہوئے بھی کہ احمدیوں/قادیانیوں نے متنازعہ مسجد کی مرمت یا دوبارہ تعمیر میں کسی وقت چندہ دیا بھی ہو تو موجودہ سیاق و سباق کے تحت ان کے لئے یہ بات فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالواحد وغیرہ نے جو اپیلیں نمبران ۲۴ اور ۲۵ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے بروئے آئین آرٹیکل ۲۰۳ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو دائر کی تھی۔ وہ بھی مورخہ ۱۱ جنوری ۱۹۸۸ء کو خارج ہو چکی ہیں۔ فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ: ”فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ملک میں نافذ العمل ہوگا۔“ اس لئے جہاں تک قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی حیثیت کا تعلق ہے۔ اس پر یہ فیصلہ اٹل ہے۔

۳۶..... باوجود آرڈیننس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۴ء کے اعلان کے جس کا حوالہ پیر گراف ۷ میں دیا گیا ہے۔ مسٹر مجیب الرحمن فاضل وکیل مدعا علیہم نے دلیل دی کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاسکتا ہے۔ اس نے حضور ﷺ کے اس واقعہ کا حوالہ دیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کو آپؐ نے مسجد نبویؐ میں نہ صرف ٹھہرنے بلکہ انہیں اپنی عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ اس نے سورہ کہف: ۲۱ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس دور کے لوگ مسلمان نہ تھے۔ پھر بھی ان کی عبادت گاہ کو (مسجد) کہا گیا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروکاروں نے تعمیر کی تھی جو اس کے مطابق غیر مسلم تھے۔ لیکن اس عبادت گاہ کو مسجد کہا گیا ہے۔ ان معروضات پر اس نے بحث کی کہ قادیانیوں/احمدیوں کو جبری قانون کی رو سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔

۳۷..... آرڈیننس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۴ء جس کا گذشتہ پیرا گراف میں حوالہ دیا گیا ہے کی موجودگی میں اس کا علاج اگر ہے تو کہیں اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ درحقیقت وہ سپریم کورٹ تک تو پہلے ناکام ہو چکے ہیں۔ تاہم مدعا علیہم کے وکیل مجیب الرحمن کی جانب سے پیش کردہ دلائل کا جواب میں اپنے طریقے سے دینے کی عاجزانہ کوشش کروں گا۔

۳۸..... مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کی تعمیر کردہ مسجد کے گرانے کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ یہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ان کے مقرر کردہ گورنر کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حکم دیا تھا کہ اسے اس وجہ سے گرا دیا جائے کہ یہ کافروں نے تعمیر کی تھی اور اس کا انتظام و انصرام انہی کے پاس تھا۔ متعلق الفاظ یہ تھے: ”وامر بمسجد ہم فہدم“ دیکھئے:

(سنن الدارمی حدیث نمبر ۲۵۰۶ ص ۱۵۳)

۳۹..... محمد ﷺ بنی نوع انسان کے لئے اللہ کے آخری پیغمبر نے اسلام کی حسب ذیل تفسیر فرمائی۔ ”اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس مال ہو تو مکہ میں اللہ کے گھر کاج کرنا۔“

سورہ الاعمران کی آیت نمبر ۱۹ اور آیت نمبر ۸۵ اس ضمن میں شاہد ہیں کہ اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے اور جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا۔ اللہ کو اس کی یہ بات قبول نہیں اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر جو حضرت محمد ﷺ سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اسلام ہی اختیار کیا۔ اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تا کہ اسلام کی تبلیغ کریں یہ دین عالمگیر سچائی کا حامل ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لئے پسندیدہ ہے۔

آیت نمبر ۳ سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لئے پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے پسند کیا اسلام کو دین۔“

۴۰..... مدعا علیہم کے فاضل وکیل نے جو حوالے پیش کئے وہ میری سمجھ کے مطابق نامناسب تھے۔ کیونکہ جب نجران کا عیسائی وفد مسجد نبویؐ میں ٹھہرایا گیا تو وہ بڑا نازک وقت تھا اور نئی اسلامی مملکت کی حفاظت کے لئے کڑی نگرانی درکار تھی۔ وہاں مسجد نبویؐ کے سوا کوئی ایسی مناسب جگہ نہ تھی۔ جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اہم معاملات طے کر سکیں۔ علاوہ ازیں مسجد نبویؐ میں ان کی عبادت کی اجازت مخصوص حالات کے پیش نظر تھی۔ جو انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ یہ کوئی ان کے مستقل ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی۔

۴۱..... حضور ﷺ کی بعثت سے قبل کے تمام پیغمبروں کے پیروکار اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے اور انہیں اقرار کرنا پڑتا تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنے اپنے دور کے پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے کے پابند تھے۔ تمام نبیوں نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو اسلام سے انکار کرے وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جو کوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ﷺ کی رسالت کے

بعد پیدا ہوا اور اس نے آپ کی نبوت پر ایمان نہ لایا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ حتیٰ کہ وہ محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے اور اللہ کے بتلائے ہوئے کاموں پر عمل کرے اور ممنوعات سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحشر آیت ۷ میں فرماتے ہیں۔

تو رسول جو کچھ تم کو دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس سے وہ تمہیں روک دیں رک جایا کرو۔

۴۲..... نجران کے عیسائیوں کے مندرجہ بالا واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۸ میں حکم نازل فرمایا: ”یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا“ اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ سو یہ اس برس کے بعد سے مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں۔

اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سختی سے روک دیا تھا۔

۴۳..... بلاشبہ یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں کے پیروکاروں کو قرآن نے مسلم کہا ہے۔ (الشوریٰ: ۱۳) اس سلسلے میں درج ذیل حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

۱..... سورہ آل عمران: ۱۹ ..... ۲..... سورہ القصص: ۵۳

۳..... سورہ المائدہ: ۱۱ ..... ۴..... سورہ یونس: ۸۴، ۹۰

۵..... سورہ النمل: ۳۱، ۳۸

ان تمام حوالہ جات میں لفظ ”المسلمون“ یا ”المسلمین“ استعمال ہوئے ہیں۔ اس صورت کے پیش نظر ان کے عبادت گاہوں کو صحیح طور پر ”مساجد“ کہا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔ ۴۴..... سورہ البقرہ کی آیت نمبر ۱۳۲، ۱۳۶ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے مسلمان تھے اور وہ سب اللہ کے فرمانبردار تھے۔

۴۵..... یہ بات ضرور ذکر کی جاسکتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی نبوت کے بعد کوئی ایسا شخص جو آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان مسلمانوں کے مذہب کا بنیادی جز و ضروریات دین میں سے ہے۔

۳۶..... امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰/۸۰ھ) کے دور میں ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اسے اپنی نبوت کا ثبوت مہیا کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فتویٰ دیا کہ: ”جو کوئی اس سے اس کی نبوت کا ثبوت مانگے گا وہ بھی بے ایمان ہو جائے گا۔“ کیونکہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

(الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابوحنیفہؒ ص ۱۱۹، طبع ۱۳۱۵ھ مطبوعہ مصر)

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۷ کا حوالہ بھی مدعا علیہم کے لئے باعث تقویت نہیں بنتا۔ قرآن پاک کی رو سے ”مسجد ضار“ شرارت اور کفر آبیائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور مسجد کو اس شخص کا اڈا مقرر کریں جو ایک عرصہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے برسر پیکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ کافر قسمیں کھا کھا کر یوں کہیں گے کہ ہمارا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں تھا اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً جھوٹے ہیں۔ یہ عبادت گاہ اپنی اصل حقیقت میں مسجد نہ تھی۔ اگر یہ مسجد ہوتی تو آگ لگانے اور گرانے کا حکم نہ فرمایا جاتا۔ یہ تو صرف شرارتوں کا اڈا بنایا گیا تھا اور منافقین نے اسے مسجد کی شکل میں ایسی جگہ تعمیر کیا جہاں اس کے گرد مسلمان آباد تھے۔ جو نبی ان کی شرارت منظر عام پر آئی۔ اسے گرانے کا حکم صادر فرما دیا گیا۔

۳۸..... ایسے ہی جس مسجد کا حوالہ بالا پیرا گراف نمبر ۳۸ میں دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی عبادت کے لئے استعمال ہو سکتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس کے بجائے اسے گرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ اسے مسیئہ کذاب کے پیروکاروں نے تخریب کاری کے لئے بنایا تھا اور وہ خود ہی اس کے منتظم بھی تھے۔

۳۹..... سورہ الانفال کی آیت نمبر ۳۴ یہاں فائدہ کے لئے پیش کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا کہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ مزید برآں یہ حکم دیا کہ متقی لوگ ہی متولی بن سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۷ بھی اس مفہوم میں ہے کہ مشرکوں کے عمل کے اہل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ جب کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ میرے علم کے مطابق مسیئہ کذاب کے حواریوں کی تعمیر شدہ مسجد کا معاملہ بالکل ایسا ہی تھا۔



۵۰..... قبل ازیں فیڈرل شریعت بنچ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ مسلمہ اصول ہے۔ خواہ یہ غیر مسلموں کی جانب سے شراکت کے طور پر تعمیر کی گئی ہو۔ لیکن اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے مخصوص کیا جانا چاہئے۔ اس فیصلے کا پیرا ۴/۱ اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

حضور ﷺ نے منافقوں اور ریاکاروں کو مسجد میں سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے حضور ﷺ نے چند افراد کو جو عبادت کرنے کے لئے بیٹھے تھے۔ ان کا نام لے کر حکم دیا کہ وہ مسجد سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعانی از آلوسی ج ۱۱ ص ۱۰)

یہ بحث سرفخر اللہ خان جو کہ ایک معروف احمدی ہے کی رائے سے سمیٹی جاسکتی ہے۔ اگر احمدی غیر مسلم ہیں تو ان کا مسجد سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں۔ (تحدیثِ نعت ص ۱۶۲) اسی فیصلہ کے ص ۱۱۳، ۱۱۴ پر معزز شریعت بنچ نے قرار دیا کہ قادیانی دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت زیادہ برے اقدام پر ہیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ قادیانی لٹریچر میں اگر ایک شخص اسلام سے قادیانیت میں داخل ہو جائے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کرے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی طرح دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے کہ حقیقت الوحی میں عبدالحکیم ڈاکٹر کے متعلق مرتد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

۵۱..... ان تمام وجوہات کی بناء پر میں قرار دیتا ہوں کہ مدعیان متعلقہ مسجد پر قابض تھے اور انہیں قانونی طور پر اس کے انتظام و انصرام کا حق تھا۔ نتیجتاً دونوں تفتیحات کا فیصلہ مدعیان کے حق میں اور مدعا علیہم کے خلاف کیا جاتا ہے۔

۵۲..... تنقیح نمبر ۳: مقدمہ کی سماعت کے بارے میں عدالت کے اختیار کو دلائل کے دوران چیلنج نہیں کیا گیا اور فریقین نے مقدمہ سے متعلق اپنے اپنے نقطہ نگاہ کو پیش کیا۔ اب قادیانیوں کو خاص قانون کے ذریعے اپنی مذہبی رسوم اور تقریبات مسلمانوں کی طرح ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ دفعہ ۴۲ سپینگ ریلیف ایکٹ مجریہ ۱۸۷۷ء کے تحت ایک کھلا اعلان ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کو برقرار رکھنے اور اس کے عملی نفاذ کے متعلق پیرا گراف ۲۰ میں زیر تفتیحات ۱ اور ۲ میں پہلے ہی بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمہ کی سماعت کے سلسلے میں عدالت کے اختیار میں کسی قسم کا کوئی سقم نہیں اور یہ ان تمام خطوط پر پورا اترتا ہے جو

مقدمہ عبدالرحمن مبشر وغیرہ بنام سید امیر علی شاہ بخاری وغیرہ (پی۔ ایل۔ ڈی ۱۹۷۸ء لاہور ۱۱۳ ڈی۔ بی تھا) نتیجتاً یہ تنقیح مدعیان کے حق میں اور مدعا علیہان کے خلاف پائی گئی ہے۔

۵۳..... تنقیح نمبر ۴: ۴- ایف اور ۴- جی جیسا کہ تنقیح نمبر ۲، میں بیان ہوا کہ ۱۹۷۴ء سے قبل قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی رسوم ادا کرتے وقت کوئی امتیازی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگرچہ قادیانیوں کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات ہو رہے تھے۔ کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ انہیں خود کو مسلمان کہنے یا ظاہر کرنے سے روکا جائے۔ طرح طرح کی قانون سازی اور اس کے نفاذ نے مسلمانوں کو اس سلسلہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس دلادیا۔ یہاں پر اصول، قول و فعل سے مانع کا اطلاق نہ ہوگا اور نہ ہی مقدمہ کو بے بنیاد اور بدینتی پر محمول کیا جاسکے گا۔ نتیجتاً دونوں تنقیحات مدعیان کے حق میں اور مدعا علیہان کے خلاف قرار دی جاتی ہیں۔

۵۴..... تنقیح نمبر ۴- ۱: ۱- میں نے محمد علی مدعا علیہ نمبر ۱۰ کا تحریری بیان مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۸۶ء ملاحظہ کیا ہے۔ جس پر انگریزی میں دستخط معلوم ہوتے ہیں۔ اگر مدعیان کا یہ خیال ہے کہ یہ دستخط جعلی تھے تو انہیں اس کے خلاف کوئی شہادت پیش کرنا چاہئے تھی۔ لیکن ایسی کوئی شہادت میرے سامنے ریکارڈ پر نہیں ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مدعا علیہ نمبر ۱۰ کا تحریری بیان دستخط شدہ نہیں تو ۱۹۸۱ء ایس۔ سی۔ ایم۔ آر۔ ۶۸۷ میں قرار دیئے گئے اصول کی رو سے یہ بات نتیجہ خیز نہیں اور اسے ایک فروگزاشت سمجھا جائے گا۔ اس اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اس تنقیح کا فیصلہ مدعا علیہم کے حق میں اور مدعیان کے خلاف کیا جاتا ہے۔

۵۵..... تنقیح نمبر ۴- بی: مدعا علیہان کی جانب سے دعویٰ میں لفظ ”مسجد“ کی تبدیلی اس وجہ سے کی گئی تھی کہ بعد ازاں پاکستان پینل کوڈ میں ترامیم ہو گئی اور دفعہ ۲۹۸- بی اور ۲۹۸- سی کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس لئے یہ اعتراض لا حاصل ہے۔ یہ تنقیح مدعا علیہم کے حق میں فیصلہ کی جاتی ہے۔

۵۶..... تنقیح نمبر ۴- سی: اس حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا کہ متدعو یہ متنازعہ مسجد تعمیر کے لحاظ سے ایک سو سال سے زائد عرصہ کی ہے۔ مقدمہ کے اس پہلو پر تنقیحات نمبر ۲، پر میں نے سیر حاصل بحث کے بعد فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ یہ تنقیح مدعیان کے حق میں مدعا علیہان کے خلاف پائی جاتی ہے۔

۵۷..... تنقیحات نمبر ۴- ڈی اور ۴- ای: ان تنقیحات کو ثابت کرنا مدعیان کا فرض

تھا۔ ان کے وکلاء کو بار بار کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا قانون بنائیں۔ جس میں قادیانی وکیل کو مسلمان کی نمائندگی کرنے سے روکا جائے۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ یقیناً کوئی ایسا قانون نہیں ۲۔

۵۸..... جہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ مدعا علیہان نمبر ۱۱، ۱۲ کا موقف دوسرے مدعا علیہم کی تائید میں ہے۔ اس میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ ان کے جواب دعویٰ میں دونوں نے قادیانیوں/ احمدیوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا موقف تھا کہ متنازعہ مسجد پر انتظام اور اس کا استعمال احمدیوں کا تھا۔ تاہم وہ دونوں نہ خود شہادت دینے آئے اور نہ ہی کوئی دوسری شہادت اپنے بیان کی سچائی ثابت کرنے کے لئے پیش کی۔ میں نے اس پہلو پر پہلے ہی پیرا گراف ۲۲ میں بحث کی ہے۔ جب نقطہ شہادت نہیں ہوتی اور جب تک واقعات کو مکمل عدالتی مراحل میں ثابت نہ کیا جائے اس کے مطابق بحث کے نقاط کو جب تک عدالتی جرح کے مراحل سے نہ گذارا جائے صرف موقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف صحیح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نتیجتاً تنقیح نمبر ۴- ڈی مدعیان کے خلاف اور تنقیح نمبر ۴- ای ان کے حق میں قرار دی جاتی ہے۔

فیصلہ

۵۹..... مندرجہ بالا تنقیحات پر فیصلوں کی رو سے میں اس مقدمہ میں مدعیان کے حق میں ڈگری صادر کرتا ہوں۔

۶۰..... اس فیصلہ کو ختم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی جانب سے مقدمہ میں شرکاء کی عالمانہ معاونت کا اقرار کروں۔ ان کے تعاون کے بغیر میری طرح کے نو وارد کے لئے اس طرح کے پیچیدہ مقدمہ کی چند ماہ میں سماعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ میری دعاء ہے کہ اللہ قادر مطلق اور بلند و برتر راستہ بھٹکنے والوں کو ہدایت فرمادیں اور جو راہ راست پر ہیں انہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازیں۔

۲ مئی ۱۹۸۸ء

سول جج ڈسک

(نوٹ) مولانا عبداللطیف صاحب نے اصلاً انگلش فیصلہ بھی ساتھ ہی طبع کرایا تھا۔ احتساب قادیانیت کی اس جلد میں غیر ضروری سمجھ کر اپنی سوچ کے مطابق حذف کر دیا۔ (فقیر مرتب)

۱۔ ”وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً“ (النمل: ۱۷۱)۔  
 ﴿اللہ تعالیٰ ہرگز مؤمنوں پر کافروں کو (غلبہ) نہ دے گا۔﴾  
 ۲۔ ”بعضہم اولیاء بعض (التوبہ: ۷۱)“ ﴿اہل ایمان ایک دوسرے کے حمایتی ہوتے ہیں۔﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
سید احمد علی شاہی صاحب  
مکتبہ اسلامیہ کراچی

# وہ عہد کا رسولؐ

یعنی

مسئلہ ختم نبوت از روئے بائبل اور قرآن

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ

وہ عہد کا رسول ﷺ

یعنی

مسئلہ ختم نبوت از روئے بائبل اور قرآن

پیش لفظ

”بسم اللہ الرحمن الرحیم • هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ (فتح: ۲۸)“

ایہا الناس! رسالت اور انسانیت لازم و ملزوم ہے۔ اسی لئے سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی تھا۔ پھر یہ سلسلہ تاریخ انسانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ جدا انبیاء ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب توراۃ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عواذ علیہ السلام صاحب زبور اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رشد و ہدایت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کے علاوہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے تشریف لائے۔ حتیٰ کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رہنماء حضرت مسیح علیہ السلام بھی جلوہ افگن ہو گئے۔ مگر یہ سب حضرات گرامی علاقائی اور قومی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور ساتھ ساتھ سب کے سب ایک عالمگیر اور دائمی رسالت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کو ایک لاتبدیل، امنٹ اور دائمی پیغام ہدایت دے کر بھیجا جائے گا۔ تمام عالم اس کی تعریف و ثناء سے بھر جائیں گے۔ وہ سب پر غالب ہوگا۔ کوئی اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے گا۔ جو اس کی نہ سنے گا اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس کا کلام سلاً بعد نسل بعینہ سنایا جاتا رہے گا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف اور سچائی سے بھر دے گا۔ باوجود بائبل محرف ہو جانے کے اس آخر الانبیاء افضل المرسلین ﷺ کی تشریف آوری۔ آپ کی شان و شوکت، آپ پر نازل کردہ خدائی کلام اور آپ کی امت عظیمہ کی صفات اور شان آج بھی روز روشن کی طرح موجود ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے بائبل سے آپ کی ذات اقدس، آپ کی تشریف آوری کے متعلق یہ مختصر سی تحریر پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد آپ پر نازل شدہ امنٹ کلام ربانی کے متعلق روشن ترین دلائل سے واضح کیا جائے گا۔ عہد جدید قرآن ہے انجیل نہیں۔

ناظرین! سے بصدادب گذارش ہے کہ مسلم اور غیر مسلم پوری دیانتداری سے بنظر غائر مطالعہ فرما کر نجات دارین کا سامان تیار کریں تاکہ بروز حشر ناکا کی اور نامرادی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ آمین ثم آمین۔ المؤلف!

حقوق نبی کی سرور عالم ﷺ کی تشریف آوری کے متعلق دعاء

”اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر۔ اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تہاں سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی اور آتش تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔ اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندا ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارہ پارہ ہو گئے۔ قدیم ٹیلے جھک گئے۔ اس کی راہیں ازلی ہیں۔“

(حقوق نبی ب ۳، آیت ۶۵۲)

تعارف بائبل

بائبل یونانی زبان کا لفظ ہے۔ جس کا معنی کتاب ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس کے دو حصے ہیں۔ نمبر ۱: عہد نامہ قدیم۔ نمبر ۲: عہد نامہ جدید۔

عہد نامہ قدیم کے ایک فرقہ (پروٹسٹنٹ) کے نزدیک کتاب پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک ۳۹ رسالے ہیں اور دوسرے فرقہ رومن کیتھولک کے نزدیک اس کے ۴۶ رسالے ہیں۔ مگر عہد نامہ جدید کے دونوں کے ہاں ۲۷ رسالے ہیں تو گویا اول فریق کے نزدیک بائبل ۳۹ + ۲۷ = ۶۶ رسالوں کا مجموعہ ہے اور فریق ثانی یعنی رومن کیتھولک کے ہاں بائبل ۴۶ + ۲۷ = ۷۳ رسائل کا مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ دواور بھی بائبلیں ہیں۔ ایک یہودیوں کی جو انا جیل کے بغیر یعنی صرف عہد نامہ قدیم پر مشتمل ہے اور دوسری سامریوں کی بائبل جو صرف توراۃ کے پانچ رسالوں پر مشتمل ہے اور یہ چاروں بائبلیں آپس میں مختلف ہیں۔

ہر رسالہ چند ابواب پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورۃ کے کئی رکوع ہوتے ہیں اور ہر باب کی چند آیات ہوتی ہیں۔ عیسائیوں نے یہ آیات اور ابواب کی تقسیم از خود ہماری دیکھا دیکھی ۱۳۳۰ء میں کی ہے۔ گویا یہ کل کی بات ہے۔ یہ الہامی نہیں۔ مگر ہمارے قرآن مجید کی سورتیں اور آیات خدا کی طرف سے طے شدہ ہیں۔

حوالہ پڑھنے کا طریقہ: مثلاً پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸ یعنی بائیسویں باب کی اٹھارہویں آیت۔ یعنی ب جو باب کا مخفف ہے۔ اس کے اوپر باب کا نمبر اور نیچے اس کی آیات کا نمبر ہوگا۔ مثلاً متی ب ۱۰، آیت ۲۳۔ یعنی انجیل متی کے دسویں باب کی تیسویں آیت ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

## مسئلہ ختم نبوت ﷺ بائبل اور قرآن کی روشنی میں

”قال الله تعالى! واخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (آل عمران: ۸۱)“ ﴿از شاہ رفیع الدین﴾..... اور جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے عہد پیغمبروں کا البتہ جو کچھ دوں میں تم کو کتاب و حکمت سے پھر آئے تمہارے پاس پیغمبر سچا کرنے والا اس چیز کو جو ساتھ تمہارے ہے۔ (توراة و انجیل وغیرہ) البتہ ایمان لائیو ساتھ اس کے اور البتہ مدد دینا اس کو۔ کہا کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اوپر اس کے بھاری عہد میرا۔ کہا انہوں نے اقرار کیا ہم نے۔ کہا پس شاہد (گواہ) رہو اور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں سے ہوں۔ ﴿

تشریح: اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نوع انسانی سے دو دفعہ عہد لینے کے لئے ان کو اکٹھا کیا۔

..... پہلی دفعہ تو تمام نوع انسانی (نیک و بد) کی ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا: ”الست بربکم“ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ”قالوا بلی“ کیوں نہیں۔ سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا اپنی الوہیت اور ربوبیت کا بلا شرکت غیرے سب سے اقرار لیا اور کلمہ طیبہ کا پہلا جز مرتب فرمایا: ”لا اله الا الله“

۲..... دوسری مرتبہ اپنے خاص بندوں یعنی رسولوں اور نبیوں کی ارواح مقدسہ کو حاضر کر کے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں اپنے اپنے وقت میں کتاب و حکمت دے کر مخلوق کی رہنمائی کے لئے دنیا میں بھیجوں گا تو اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں وہ میرا خاص معظم رسول آجائے جس کو میں نے سب کا سردار اور خاتم الانبیاء بنایا ہے تو تم نے پھر اپنے اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ کر اس رسول معظم کے دین کی تبلیغ و اتباع کرنا ہوگی۔ کیونکہ مثل آفتاب کے اس کی

موجودگی میں کسی بھی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ یہ کلمہ کے دوسرے جز کا اثبات ہو گیا۔ محمد رسول اللہ! اسی حقیقت کو واضح فرماتے ہوئے خود اس رسول معظمؐ نے فرمایا: ”لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسَّعَهُ الْاِتِّبَاعِي (مشکوٰۃ ص ۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)“ یعنی میرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب اور مستقل شریعت والے نبی تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی بالوضاحت احادیث نبویہ میں بھی آچکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر آپ کی ہی شریعت کی اتباع اور نصرت فرمائیں گے۔

ہر نبی سے عہد لیا گیا

تفسیر ابن کثیرؒ اور دوسری تفاسیر میں حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ: ”مَا بَعَثَ اللَّهُ بِنَبِيٍّ اَمَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَنَنْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَهُوَ حَيٌّ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلِيَنْصَرَنَّهُ (ابن کثیر ج ۲ ص ۵۷)“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث ہو جائیں تو ان کو آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی حمایت و نصرت کرنا ہوگی اور ہر نبی کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہی عہد ہر نبی اپنی اپنی امت سے لے کہ اگر ان کی زندگی میں سید الانبیاء ﷺ تشریف لے آئیں تو تم نے میری پیروی چھوڑ کر آپ کی اتباع کرنا ہوگی اور آپ کے دین و شریعت کی نصرت اور حمایت کرنا ہوگی۔

۱۔ گویا نوع انسانی کی پیدائش سے قبل ہی اس خاتم الانبیاء سید الرسل ﷺ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل کر لیا۔ اس کو کائنات کی پیشانی پر ثبت فرما کر پھر انسان کو پیدا فرمایا اور اس کلمہ سے تعلق کی بناء پر اس انسان کو تمام کائنات پر فوقیت بخشی۔ پھر اپنی الوہیت اور ربوبیت تو سب سے منوائی اور اس پر کوئی خاص تاکید بھی نہ فرمائی۔ مگر فخر موجودات ﷺ کی رسالت کی تصدیق صرف پاکباز اور منتخب افراد مقدسہ (انبیاء و رسل علیہم السلام) سے کرائی اور پھر اس پر مؤکد سے مؤکد اقرار و شہادت بھی ثبت کرائی پھر اسی پر اکتفاء نہ فرمایا۔ بلکہ لیلۃ المعراج میں بیت المقدس میں انہی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوا کر عملی طور پر بھی تعمیل و تصدیق کرا دی اور جب سلسلہ نسل انسانی کی ابتداء ہوگئی تو سب سے پہلے اسی سالار انبیاء کے عبادت خانہ اور قبلہ کی تعمیر کرائی اور یہ حکم بھی سب سے پہلے انسان اور رسول کو دیا۔ فرمایا: ”اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (آل عمران: ۹۶)“



مندرجہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ آپؐ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کا ہر نبی سے عہد لیا گیا اور پھر اپنی اپنی امت میں اس کے اعلان کرنے کا بھی عہد لیا گیا۔

(تفسیر روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۳۷) میں آیت: ”وَإِذَا اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ“ کے تحت لکھا ہے۔ ”بروایۃ قتادہ“ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے اور محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کا پیمان لیا اور ہر نبی سے اپنی اپنی امت میں اس کے اعلان کا بھی عہد لیا گیا۔

”وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي مَسَدَرِكِهِ ج ۴ ص ۲۲۵، حدیث ۴۹۹۹، باب تبنی رسول ﷺ زید بن ثابتؓ) لما جاء حارثة لطلب ابنه زيد فقال النبي ﷺ اسئلكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله واني خاتم انبياءه ورسله ارسله معكم“ جب زیدؓ کے والد حارثہ آپؐ کو تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں سید کا نثار ﷺ کی خدمت میں آئے کہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس دیا جائے تو آپؐ نے منجملہ دوسری باتوں کے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر تم لوگ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہونے کے علاوہ تمام نبیوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں یعنی آخری نبی ہوں تو میں زیدؓ کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔

حضرت زیدؓ یمن کے علاقہ میں رہنے والے تھے۔ کسی نے بچپن میں آپؐ کو پکڑ کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ آپؐ کے والد اور چچا ہر جگہ تلاش کرتے رہے۔ حتیٰ کہ کسی کی اطلاع پر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کو طلب کیا۔ جس پر آپؐ نے ان کو یہ جواب دیا۔

نکتہ جلیلہ: اس آیت کریمہ میں جملہ ”ثم جاءكم رسول“ ذہن نشین رہے کہ اس جملہ میں رسول کی توین عظمت اور تعظیم کے لئے ہے۔ یعنی تم سب کے آچکنے کے بعد وہ عظمت اور شان والا رسول آئے۔ اگلے بیان میں یہی رسول کا لفظ مختلف اعرابی حالات میں بار بار آئے گا۔ لہذا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا ثم جاءکم۔ ثم کا لفظ تراخی یعنی دیر اور مہلت کے لئے آتا ہے تو معنی یہ بنے گا کہ اے میرے رسولؐ اور نبیؐ! تم سب کی مدت رسالت گزرنے کے بعد وہ شان والا رسول آئے گا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ وہ تمام رسولوں کے بعد تشریف لائے گا اور خاتم الانبیاء ہوگا۔

اب اس عہد والے عظیم الشان پیغمبرؐ کی تاریخ ابتدائے وجود انسانیت سے ملاحظہ فرمائیے کہ ہر ایک پیغمبرؐ بحکم الہی آپؐ کی تشریف آوری کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس رسول معظمؐ کے اعلان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بائبل یعنی توراۃ، زبور اور انجیل میں باوجود محرف ہونے کے

اب بھی اس ختم المرسلین ﷺ کی ختم نبوت کا اعلان ہر پیغمبر کی طرف سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کتاب (پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کہا ہے کہ روئے زمین کی تمام اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی۔ ”وَكذلك اعمال ب ۳، آیت ۲۵“

دعائے ابراہیم علیہ السلام

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس کے بعد دعا فرمائی: ”ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم (البقرة: ۱۲۹)“ اے ہمارے پروردگار تو ہم پر انتہائی مہربان ہے تو رحیم و کریم ہے تو ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔ تو نے جہاں ہماری اور آرزوؤں کو پورا فرمایا وہاں ہماری اس التجا کو بھی قبول فرمالے کہ وہ عظمت والا رسول جس کا ہم سب انبیاء سے آپ نے عہد لیا تھا۔ اس کو میری اس بیت اللہ کے ارد گرد بسنے والی اولاد میں مبعوث فرمادے۔ جس کی صفت اور شان یہ ہو کہ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر دے۔ ﴿

اے ہمارے مولیٰ! آرزو تو بہت بڑی ہے مگر تو بھی بڑی زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی اس دعا کو سن لیا اور فرمایا: ”قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان (تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۵۵۷، عن ابی العالیة)“ یعنی اے میرے خلیل علیہ السلام تمہاری دعا سن لی گئی اور وہی عہد والے رسول معظم آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ یعنی خاتم الانبیاء ہوں گے۔

بعثت آخر الزمان ایک عظیم دستاویز

حضرت امام بیہقیؒ سے دعائے خلیل علیہ السلام ”ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك“ کے تحت بروایت عمرو بن الحکم ”انه قد نقلت عندنا ورقة عن اب عن جد حتى ظهر الدين وجاء صاحب الدين وهاجر الى الطيبه فقرأت هذه الورقة فاذا فيها..... بسم الله الرحمن الرحيم . قوله الحق هذا الذكر لامة في آخر الزمان يسبلون اطرافهم ويأتزون على اوساطهم ويخوضون البهار الى اعدائهم فيهم صلوة لو كانت في قوم نوح ما اهلكوا بالطوفان وفي عاصم ما اهلكوا بالريح وفي ثمود اهلكوا بالصيحة (خصائص

کبریٰ ج ۱ ص ۴۰) وقال لما قرء هذا عند النبی ﷺ استبشر "امام بیہقی بروایت عمرو بن حکم نقل کرتے ہیں کہ میرے آباؤ اجداد سے ہمارے ہاں ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا۔ یہاں تک کہ جب دین اسلام کا ظہور ہوا اور سید کائنات ﷺ مبعوث ہوئے۔ بعد میں مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ ورق پڑھا۔ اس کی عبارت یہ تھی کہ اللہ کے نام سے شروع ہے اور اسی کا فرمان حق ہے۔ یہ تذکرہ ہے۔ اس امت کا جو آخر زمان میں آئے گی۔ جن کے لباس کے اطراف چھوٹے ہوئے ہوں گے اور اپنی کمروں پر تہ بند باندھیں گے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لئے دریاؤں میں گھس پڑیں گے۔ ان میں نماز ایسی ہوگی کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام میں ہوتی تو وہ لوگ طوفان سے ہلاک نہ ہوتے اور اگر قوم عاد میں ہوتی تو وہ آندھی سے ہلاک نہ ہوتی اور اگر وہ قوم ثمود میں ہوتی تو وہ چنگاڑ سے ہلاک نہ ہوتی۔

### صحیفہ ابراہیمیہ کی بشارت

اسی طرح امام شعبیؒ سے خصائص کبریٰ میں منقول ہے کہ صحیفہ ابراہیمیہ میں لکھا ہے کہ: "انہ کائن من ولدك شعوب وشعوب حتی یأتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء (خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۲۴)"

چنانچہ رب العزت نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاء کو سن لیا۔ فرمایا: "لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلوا علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین (آل عمران: ۱۶۴)" ﴿بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے (اپنے خلیل علیہ السلام کی دعاء کو جامہ قبولیت پہنا کر) ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ جب کہ ان ہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ (جس کی وہی چاروں صفات ہیں جو کہ دعائے خلیل علیہ السلام میں تھیں) کہ وہ ان پر آیات ربانی تلاوت فرماتا ہے اور ان کے دلوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔﴾

دوسری جگہ فرمایا: "هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین (الجمعة: ۲)" ﴿وہ ذات ہے کہ جس نے امیوں میں ایک معظم رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے بہرہ ور کرتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔﴾

تیسری جگہ یوں فرمایا کہ تمہیں جہت قبلہ اسی لئے دی گئی ہے تاکہ حسب وعدہ خلیل تمہیں امت مسلمہ اور آخرالام بنایا جائے۔ اسی لئے تمہارے لئے آخر الزمان کو بھیجا۔ ”کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یقولوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکنوا تعلمون (البقرہ: ۱۲۹)“ دعائے ابراہیمی علیہ السلام کی قبولیت کی انتہاء ملاحظہ ہو۔ سورۃ زخرف آیت ۲۰، ۳۰، ۳۱ اور اس امت کی علمی پوزیشن ملاحظہ ہو۔ انجیل یوحنا ب ۶، آیت ۴۵ کہ وہ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔

ناظرین! لفظ رسولاً، رسول، رسول ذہن نشین رہے۔ یہ وہی ثم جاء کم رسول والے ہی رسول کا جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے اور صفات اربعہ بھی ہر آیت میں وہی ہیں جو کہ دعائے خلیل علیہ السلام میں مذکور ہیں۔ گویا دعائے خلیل علیہ السلام کامل طور پر منظور ہو گئی کہ وہ عہد والا رسول میری اس اولاد میں پیدا فرمادے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی آخر الزمان اور امت مسلمہ

جدانبیاء حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو چونکہ تمام دنیا کا پیشوا بنایا گیا۔ فرمایا: ”انسی جاعلک للناس اماماً“ یعنی میں تجھے تمام انسانیت کا ہادی اور رہنما بناؤں گا۔ چنانچہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔ پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸ کہ: ”تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔“

آپ کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ جن کا لقب اسرائیل تھا۔ آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد میں بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ سب کے سب اسرائیلی انبیاء تھے اور صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے آئے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جن کے متعلق کتاب پیدائش میں بکثرت برکت کے وعدے مذکور ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب پیدائش ب ۱۶، آیت ۱۲، ب ۱۷، آیت ۲۰، ب ۲۱، آیت ۱۸ وغیرہ۔

اس وعدہ کی تکمیل سید الرسل ﷺ کی بعثت کی صورت میں ہوئی۔ کیونکہ اسرائیلی انبیاء علیہم السلام صرف اپنی قوم کے لئے ہادی بن کر آئے۔ مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے

صاحبزادے سید الرسل ﷺ تمام اقوام عالم کے لئے نبی بن کر آئے۔ لہذا وعدہ خداوندی ”وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض“ یعنی آپ کی اولاد کے ذریعے تمام اقوام عالم برکت پائیں گی پورا ہو گیا۔ ابراہیمی یادگار قربانی پر امت مسلمہ ہی قائم ہے۔ ایسے ہی عہد ابراہیمی ختمہ پر بھی یہی امت مسلمہ قائم ہے۔

ایسے ہی کتاب پیدائش ب ۱۲ میں اس امت کی شان مذکور ہے کہ: ”میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا۔“ آیت ۲، ۳

ایسے ہی آپ کے مشربہ نبی آخر الزمان ﷺ کے حق میں ہے کہ: ”لوگ برابر اس کے حق میں دعاء کریں گے۔ وہ دن بھر اسے دعاء دیں گے۔“ (زبور ب ۷۲، آیت ۱۵) یعنی تمام امت آپ پر شب و روز درود بھیجیں گے۔ یہ درود ابراہیمی کی تاریخ ہے۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک کہنے والے اور برکت دینے والے سید الرسل ﷺ کے امتی ہیں جو ہر نماز میں اور دوسرے اوقات میں بھی درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو برکت دیتے ہیں۔ ”اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید“

ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سید الرسل ﷺ اور آپ کی امت کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: ”ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفاً وماکان من المشرکین (النحل: ۱۲۳)“ ﴿پھر ہم نے آپ کو حکم بھیجا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو کہ ایک طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے﴾

چونکہ یہ امت مرحومہ بھی خدا سے طلب کی گئی ہے اور توحید حقیقی اور کامل کی صحیح وارث بھی یہی امت ہے۔ اس لئے فرمایا: ”ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا (آل عمران: ۶۸)“ ﴿بے شک حضرت خلیل علیہ السلام کے سب سے قریب اور تعلق والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی اور اب یہ نبی مکرمؐ اور آپ پر ایمان لانے والی امت مسلمہ۔ اس امت کا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا۔﴾

چنانچہ فرمایا: ”ملۃ ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا

لیکون الرسول شهیداً علیکم وتكونوا شهداء علی الناس (سورة الحج: ۷۸)“  
 یعنی دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ انہوں نے ہی تمہارا نام پہلے سے مسلمان  
 رکھا اور اس قرآن میں بھی۔ تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ ﴿  
 توحید کامل کی ابتداء و انتہا..... ایک اہم تاریخی تسلسل

خلیل الرحمن علیہ السلام نے قوم کو توحید کامل کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: ”اذ قال  
 ابراهيم لا بیه وقومه اننی برآء مما تعبدون . الا الذی فطرنی فانہ  
 سیہدین . وجعلها کلمة باقية فی عقبہ لعلہم یرجعون . بل متعت هؤلاء  
 وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین . ولما جاءہم الحق قالوا هذا  
 سحر وانا بہ کفرون (الزخرف: ۲۶ تا ۳۰)“ ﴿جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے  
 باپ اور اس کی قوم کو فرمایا کہ میں تو ان چیزوں سے بیزار ہوں۔ جن کو تم پوجتے ہو۔ مگر جس نے  
 مجھے پیدا کیا۔ سو وہی میری راہنمائی فرمائے گا اور یہی (توحید خالص والی) بات اپنی اولاد میں  
 پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگ رجوع رہیں۔ بلکہ میں نے دنیوی فائدہ دیا۔ ان لوگوں کو اور ان کے  
 آباؤ اجداد کو یہاں تک آپہنچان کے پاس دین سچا اور رسول کھول کر سنانے والا اور جب آپہنچان  
 کے پاس سچا دین تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو کبھی نہ مانیں گے۔ ﴿  
 یہ دعوت ابراہیمی کی ڈھائی ہزار سالہ تاریخ ہے کہ قوم آخر کار آپ کی دعوت کو فراموش  
 کر بیٹھی۔ پھر اس موعود رسولؑ نے آکر دوبارہ اس حقیقت کو دنیا میں ہمیشہ کے لئے پھیلا دیا۔ یہ  
 دعوت ابراہیم کی ابتداء و انتہاء ہے۔ اب نوید مسیحا کی تفصیل سنئے۔

اس کی ابتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات سے ہوئی۔ جن کا ذکر خیر سورة  
 صف کی آیت نمبر ۵ سے ہوتا ہے۔ پھر توراۃ کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا رد  
 عمل ملاحظہ فرمائیے:

”واذ قال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم  
 مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرًا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد  
 فلما جاءہم بالبینت قالوا هذا سحر مبین (الصف: ۶)“ ﴿اور جب کہا عیسیٰ بن مریم  
 علیہ السلام نے اے اولاد یعقوب علیہ السلام بلاشبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔  
 اپنے سے پہلے اتری ہوئی توراۃ کی تصدیق کرتے ہوئے اور بشارت دیتے۔ ایک ایسے رسول  
 معظمؑ کی جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کا اسم گرامی احمد ﷺ ہوگا۔ پس جب وہ (رسول معظمؑ) ان

کے پاس واضح دلائل (حق و صداقت) کے کرا آگئے تو (بجائے تسلیم کرنے اور ماننے کے) کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ﴿

ملاحظہ فرمائیے: دعوت ابراہیمیٰ اور نوید مسیح علیہ السلام۔ دونوں کے ظہور پر یکساں رد عمل کا اظہار ہوا۔ مگر ”ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً، محمد رسول اللہ (الفتح: ۲۸، ۲۹)“

اللہ تعالیٰ نے دین حق کا انجام اپنے لاتبدیل کلام میں بتا دیا کہ: ”قل ہو اللہ احد“ کا انجام سن لو۔ ”اذا جاء نصر اللہ و الفتح“ اور باطل کا انجام بھی سن لو۔ ”تبت ید اابی لہب و تب“ ان دونوں سورتوں کی ترتیب عجیب معنی خیر ہے۔ فافہم!

حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت

اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی آخر الزمان ﷺ کی تشریف آوری کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو! ”یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔

جب تک شیلوہ نہ آئے اور تو میں اس کی مطیع ہوں گی۔“ (پیدائش ب ۳۹، آیت ۱۰)

بقول یہود و نصاریٰ شیلوہ کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ مگر خود (یوحنا ب ۹، آیت ۷) میں اس کا صحیح تلفظ شیلوٰخ بمعنی بھیجا ہوا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ گویا معنی ہوا کہ یہودا سے سلطنت موقوف نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ رسول آجائے جس کی مطیع تمام قومیں ہوں گی۔ وہ محمد رسول اللہ ﷺ ہی ہیں۔ سبحان اللہ کیسی واضح پیش گوئی ہے۔

(جیسے توراۃ میں تارح اور اناجیل میں تارہ۔ توراۃ میں عیسو اور اناجیل میں عیسو ہے۔

قورح، قورہ ہے)

بشارت موسیٰ علیہ السلام از تورات

اسی عہد والے رسول معظمؐ کی بشارت حضرت کلیم اللہ علیہ السلام سے سنوائی جارہی ہے۔ چنانچہ عربی بائبل، کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں ہے اور (یسعیاب ۵، آیت ۱۶)۔

”واقیم لہم نبیا من وسط اخوتہم مثلك و اجعل کلامی فی فمہ فیکلہم بكل ما اوصیہ بہ و یكون ان الانسان الذی لا یسمع بکلامی الذی یتکلم بہ باسمی انا اطالبہ“ اس کا اردو ترجمہ از بائبل اردو میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ

میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی ان میری باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا۔ نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یعنی دنیا میں ہی اس کو مغلوب اور نیست و نابود کر دوں گا۔ ملاحظہ ہو: (ملاکی ب ۳، آیت ۱)

یہی علامت (یوحنا ب ۱۶، آیت ۱۳) میں ہے۔ جس سے واضح ہو گیا کہ یہ بشارت روح القدس کی نہیں۔ جو عید پینٹکست میں حواریوں پر نازل ہوا۔ بلکہ یہ وہ روح القدس اور روح حق ہے۔ جس کو فارقلیط اور احمد سے ہی بدل کر کچھ کا کچھ بنا رہے ہو۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کی بشارت والا عہد کا رسول ہے۔ بشارت موسیٰ کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دینے والے بھی ذرا غور کریں کہ اگر اس کا مصداق مسیح علیہ السلام ہوتے تو خود وضاحت کر دیتے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ بلکہ وہ اس کا مصداق آئندہ آنے والی ہستی آخر الزمان ﷺ کو قرار دے رہے ہیں۔ جو آپ کے پچاس دن بعد نہیں۔ بلکہ مدت بعد اور قبل از قیامت تشریف لائیں گے۔ جس کی خوشخبری ہر پیغمبر نے دی ہے۔ روح القدس مراد نہیں۔ کیونکہ اس کے نزول کی خوشخبری نہ موسیٰ علیہ السلام نے دی نہ کسی اور پیغمبر نے دی۔ فتعین منه خاتم الرسل ﷺ!

کیسی واضح پیش گوئی اور بشارت ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی موسیٰ کی مانند صاحب شریعت کاملہ دے کر بھیجوں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب جہاد اور صاحب سیاست بھی ہوگا۔ وہ نبی لوگوں کو وہی فرمائے گا جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ چنانچہ یہ وہی نبی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ: ”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ کہ وہ اپنی مرضی سے بلا وحی الہی بولتے بھی نہیں۔

### بشارت موسیٰ کی قرآنی تصدیق

قرآن مجید میں اس بشارت کی ترجمانی یوں فرماتا ہے۔ ”انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولاً (المزمل: ۱۵)“ یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک عظمت والا رسول تم پر شاہد بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول (موسیٰ علیہ السلام) بھیجا تھا۔ ﴿

یہاں آخر الزمان ﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مانند فرمایا گیا۔ دیکھئے کیسی مطابقت ہے۔ ”قد صدق الله ان قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم (آل عمران: ۸۱)“ ”وقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين (صافات: ۳۸)“



## انجیلی تصدیق

پھر اسی حضرت کلیم اللہ والی پیش گوئی کا تذکرہ (کتاب اعمال ب ۳، آیت ۲۲) میں اس سے بھی واضح اور مفصل موجود ہے۔ ایسے ہی اعمال ب ۷، آیت ۳۷) ملاحظہ فرمائیے۔

عربی بائبل: ”فتوبوا وارجعوا لتمحی خطایاکم لکی تاتی اوقات اخرج من وجه الرب . ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل . الذي ينبغی ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شئی تكلم عنها الله بفم جميع انبياءه القدیسیین مند الدهر . فان موسى قال للاباء ان نبیا مثلی سيقیم لكم الرب الهكم من اخوتكم . له تسمعون فی كل ما یكلمكم به . ویکون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبی تباد من الشعب . وجميع الانبياء ایضاً من سموئیل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانباء وابهذه الايام انتم ابناء الانبياء والعهد الذی عاهد به الله اباءنا قائلًا لابراهيم وبنسلک تتبارک جمع قبائل (الاعمال ب ۳، آیت ۱۹ تا ۲۵)“ ﴿اردواز بائبل: پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تا کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے۔ یعنی یسوع کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا (یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام سے جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں) ایک نبی پیدا کرے گا۔ جو کچھ وہ تم سے کہے۔ اس کی سننا اور یوں ہوگا۔ جو اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ (پھر فرمایا کہ یہ بشارت صرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنائی بلکہ) سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا۔ ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ (اعمال ب ۳، آیت ۲۱ تا ۲۵) یہ ابراہیمی بشارت کتاب (پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸) میں بھی موجود ہے۔ ﴿

دیکھئے ان آیت میں کیسی وضاحت سے فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام والی بشارت جو محمد مصطفیٰ ﷺ کے متعلق ہے۔ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں فرمائی بلکہ شروع سے آخر تک ہر نبی اعلان فرماتا رہا کہ آخر الزمان ﷺ تشریف لائیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب

شریعت، صاحب کتاب، صاحب جہاد ہوں گے۔ اب ساری تاریخ عالم چھان مارو تو ایسی شان والا سوائے صاحب لولاک کے کوئی نہ ملے گا کہ جو ”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ (النجم: ۳۰، ۳۱) کا مصداق ہو اور اس کا مخالف صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ دیکھو آپ کے مخالفین مشرکین کا کیا حال ہوا۔ نہ ان کے بت رہے نہ وہ بت پرست رہے۔ نہ روم و شام کے صلیب پرست رہے نہ کسریٰ رہا نہ کسریٰ والے رہے۔ بلکہ تمام کے تمام ختم ہو گئے اور محمد مصطفیٰ ﷺ کا جھنڈا چار داگ عالم میں لہرانے لگا۔ پھر آیت نمبر ۲۵ کو بغور تلاوت کیجئے کہ کیسی وضاحت سے ختم المرسلین ﷺ کی رسالت عامہ کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے تمام گھرانے تیری اولاد سے برکت پائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لئے آئے۔ بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے دعوت لے کر آئے نہ ہی سلیمان علیہ السلام و داؤد علیہ السلام نے اپنے پیغام کو وسعت دی۔ بلکہ صرف قوم یہود تک ہی محدود رہے اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے عالمی رسالت کا دعویٰ فرمایا۔ صاف اعلان فرمایا: ”یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم“ (انجیل متی ب ۱۰، ۱۱، آیت ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ میری رسالت صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں تک ہے اور ان کی ڈیوٹی صرف تکمیل تورات تک تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ میں توراۃ کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی ب ۵، آیت ۱۷)

عیسائی علماء اس بشارت کا مصداق اور مثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ مگر اعمال ب ۳ نے قطعی طور پر فیصلہ سید المرسلین ﷺ کے حق میں دے دیا۔ ویسے بھی مسیح مثیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مسیح بقول نصاریٰ خدا کے ہم جوہر۔ خدا سے مخلوق نہیں بلکہ مولود۔ ازلی اور ابدی بیٹے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام خدا کی مخلوق غیر خدا۔ اس کے محض بندے اور انسان وہ بھی بقول شمار مورتی گناہ کے حامل اور معاذ اللہ بے عیب نہ تھے۔

یہ انجیل تو صرف توراۃ کا تکملہ اور ضمیمہ ہے اور تورات اور انجیل مل کر عہد نامہ قدیم ہے اور عہد جدید جس کا تذکرہ (یرمیاہ ب ۳۱، آیت ۳۱) اور (نامہ عبرانیوں ب ۸، آیت ۸) میں ہے۔ وہ قرآن حکیم ہے جس کی شان یوں بیان فرمائی ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ: ”ولا هل لكم بعض الذی حرم علیکم“ (آل عمران: ۵۰)

عربی بائبل: ”ها ایام تاتی یقول الرب واقطع مع بیت اسرائیل ومع بیت یهوذا عهدا جدید الیس کا العهد الذی قطعته مع اباہم..... بل هذا هو العهد الذی اقطعہ مع بیت اسرائیل بعد تلك الایام بقول الرب اجعل

شریعتی فی داخلهم واکتبها علی قلوبهم ، واکون لهم الہا وہم یكونون لی شعبا ولا یعلمون بعد کل واحد صابہ وکل واحد اخاہ قائلین اعرفوا الرب لا نهم کلہم سیعرفون من صغیرہم الی کبیرہم یقول الرب لا نی اصفح عن اثمہم ولا اذکر خطیئہم بعد (یرمیاہ نبی ب ۳۱، آیت ۳۱، عبرانیوں ب ۸، آیت ۸، یسعیاہ ب ۵۹، آیت ۲۱) ”﴿از اردو بائبل..... دیکھو وہ دن آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے۔ جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہود کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اس عہد کے مطابق نہیں جو ان کے باپ دادا سے کیا۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو۔ کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس لئے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔﴾

بنی اسرائیل سے مراد بخذف مضاف بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنی اسماعیل مراد ہیں۔ جیسا کہ کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں ہے۔ چونکہ یہ عہد تمام قوموں بمع اسرائیل کے لئے تھا۔ لہذا مضاف بھی حذف کر دیا۔ فافہم ولا تکن من الممترین! انشاء اللہ اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا جائے گا۔ جس میں فیصلہ کن انداز میں ثابت کیا جائے گا کہ عہد جدید صرف قرآن مجید ہے۔ انجیل نہیں۔

اب یہ دوسرا عہد قرآن عزیز کے علاوہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ دلوں پر وہی لکھا جاتا ہے اور قلب و ذہن میں وہی سامایا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے احد کی یہ شان ہرگز نہیں ہے اور صرف یہ امت مسلمہ کی ہی شان ہے کہ وہ خدا کی صحیح معرفت کی حامل ہے۔ جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔

قرآنی تصدیق نمبر ۱:

یہ دوسرا عہد صرف قرآن ہے تو رات کے علاوہ قرآنی شہادت بھی سنئے: ”ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمة وھذا کتاب مصدق لساناً عربیاً لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین (الاحقاف: ۱۲)“ ﴿اس قرآن (عہد جدید) سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب (توراة عہد قدیم) رحمت اور رہنما تھی اور یہ کتاب (قرآن) اس کی تصدیق کرتی ہے۔

عربی زبان کی تاکہ گنہگاروں کو ڈراوے اور خوشخبری ہے نیک کرداروں کے لئے۔ یہ قرآن سابقہ کتب کا مصدق ہے اور صاحب قرآن سابقہ جمیع انبیاء علیہم السلام بمعہ کتب کا مصدق ہے۔ ﴿

فرمایا: ”وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (صافات: ۳۷)“ اور یہی بات جنات نصیبین نے کہی تھی۔ ”قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (الاحقاف: ۳۰)“ ﴿ کہنے لگے اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ کے بعد اتری ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ ﴿

دوسری علامت

کہ ”شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔“ یہ علامت تو اتنی واضح ہے کہ ایک بچہ بھی پکار اٹھے گا کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ لاتعداد حفاظ دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے۔ دوسری کسی کتاب کا یہ وصف نہیں ہو سکتا۔ آج تک ان کا کوئی حافظ نہیں ہوا۔ ان کا تو اصل متن بھی محفوظ نہیں رہا۔ وہ تو کاغذ پر بھی لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ چہ جائیکہ دلوں پر لکھی ہوئی ملے۔ یہ صرف قرآن کی ہی شان ہے کہ: ”اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: ۹)“ وانہ لکتب عزیز لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید (فصلت: ۴۲)“ ﴿ اس نصیحت کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴿

حفاظت قرآن کا خدائی وعدہ کتب سابقہ میں ملاحظہ ہو۔ (یسعیاب ۵۹، آیت ۲۱)

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی ہے کہ یہ قرآن انگریزوں نے چھاپا، گلاب سنگھ نے چھاپا، چائنہ میں چھپا، جرمن میں چھپا۔ مگر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ ایک شوشہ کا فرق ڈال سکے۔ اس کے علاوہ دوسری کتب اپنوں ہی کے ہاتھوں میں دستبرد سے محفوظ نہیں رہیں۔ ہر ایڈیشن میں قطع و برید کی جارہی ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی انتہائی زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جس کی آئندہ ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے۔ چونکہ اس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے۔ لہذا قیامت تک صاحب قرآن ہی کی نبوت بھی چلے گی۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کی کون حفاظت کرتا ہے۔ اس کی تصدیق (یسعیاب ۵۹، آیت ۲۱) سے فرمائیں۔

تیسری علامت

کہ ”وہ رب کو جانتے پہچانتے ہوں گے۔“ چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک اپنے رب

کو جاننے والا ہوگا۔ یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر وقت اپنے معبود کا حقیقی اسم گرامی جپتے رہتے ہیں۔ ہر رکعت نماز میں ابتداء ہی الحمد للہ رب العالمین! اللہ کے نام سے ہوتی ہے جو کہ خدا کا ذاتی اسم ہے۔

بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر پانچوں وقت اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، نماز کے ہر انتقال پر اللہ اکبر، نماز کے بعد بھی تسبیح، تحمید، تکبیر، غرضیکہ ہر لمحہ ہر وقت پر اس کے ذاتی نام کا تذکرہ جاری کر دیا گیا۔ اسی کو فرمایا کہ: ”میں ان کا خدا ہوں گا وہ میرے لوگ ہوں گے۔“ اس کے برعکس عیسائیوں کی دعاء میں تو اب بھی ”اے قدوس باپ تیری بادشاہت آئے۔“ خدا کی بجائے باپ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ باپ اور بیٹے کی اصطلاح ختم کر کے خدا اور بندے کا ورد جاری کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ اسم مذکور ہے۔ بچہ بچہ کی زبان پر اللہ اللہ ہی کا ورد جاری ہے۔ اس کے برخلاف یہودیوں کے ہاں خدا کا ذاتی نام لینا بیجہ بے ادبی کے سخت جرم ہے۔ اس کی سزا سنگساری تھی۔ اس کے صفاتی نام لے کر گزارہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل خدا کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ لفظ ”یہودا“ کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ نام اصلی ہے۔ مگر یہ بھی درست نہیں اس کے ساتھ بھی مختلف صفاتی الحاقات لگا کر گزارہ ہوتا ہے۔ دیکھئے (قاموس الکتاب ص ۱۱۹۰) بڑی دلچسپ بحث ہے۔ خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر بحر قلزم پار کرتے ہی کہاٹھے ”اجعل لنا الہاً کما الہم الہة (اعراف: ۱۳۸)“ کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک خدا بنادے جو اس قبیلہ کے بتوں کی مانند ہو۔ اگر معرفت الہیہ ہوتی تو یہ یہودہ گفتگو کیوں کرتے؟ اور پچھڑے کی پوجا کیوں اختیار کرتے اور ایسا کیوں کہتے؟ اسی طرح اگر مسیحی حضرات کو صحیح معرفت ہوتی تو ساٹھ سال بحث کر کے پھر بھی خدا اور مسیح کو یہ ہم جو ہر قرار نہ دیتے اور مسیح علیہ السلام کو خدا سے مخلوق نہیں بلکہ مولود بیٹا نہ مانتے۔ ان کو اسی طرح ازلی، ابدی اور صاحب اختیار تصور نہ کرتے۔ یہ صرف اسی امت مسلمہ کی شان ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی پجاری ہے۔ نہ ان کو یہود والا اشتباہ ہوا کہ پچھڑے کو پوجنے لگے اور مختلف قسم کے دیوتاؤں کے پجاری بن گئے۔ حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو بھی بت پرستی کی طرف منسوب کرنے سے نہ ہچکچاتے اور نہ انہوں کی طرح کہ خالق و مخلوق میں بھی فرق نہ کر سکے۔

بلکہ خدا کو خدا ہی سمجھا اور بندہ کو بندہ ہی سمجھا۔ کیونکہ ان کا وظیفہ ہے۔ ”قل هو اللہ

احد (اخلاص: ۱) اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم (بقرہ: ۲۰۰)“

## چوتھی علامت

اس آخری عہد والوں کی ایک علامت یہ فرمائی کہ: ”میں ان کے گناہوں سے چشم پوشی کروں گا اور ان کو نہ جتلاؤں گا۔“ چنانچہ مغفرت اور استغفار کا ذکر اس عہد نامہ میں اتنا ہے کہ کسی دوسری کتاب الہی میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں۔ فرمایا: ”سارعوا الی مغفرة من ربکم (آل عمران: ۱۳۳) ومن یغفر الذنوب الا اللہ (آل عمران: ۱۳۵) واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم (مزل: ۲۰۰) وغیرہا من الآيات التي لا تحصى وكذلك الاحادیث النبویة مملوءة من ذکر التوبة والاستغفار نحو ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“ (ابن ماجہ ص ۳۱۳، باب ذکر التوبة) ”اس امت کا مقام ہے کتب حدیث میں مستقل باب منعقد کئے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس سے پہلے یہود کا عقیدہ تھا کہ: ”نحن ابناء اللہ واحباءہ (مائتہ: ۱۸) لن تمسنا النار الا ایاما معدودات (آل عمران: ۲۴)“ ہم سے بالکل باز پرس نہ ہوگی۔ ہم تو سب بخشے ہوئے ہیں اور نصاریٰ کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر سولی چڑھ گئے ہیں۔ اس لئے ہم بھی بخشے بخشائے ہیں۔ عقیدہ کفار کا مطالعہ عجیب انکشافات کا حامل ہے۔ اگرچہ ان کی کتب میں توبہ اور استغفار کا مسئلہ موجود ہے۔ مگر نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ یہ تمام مسائل تفصیل طلب ہیں۔ چند اشارے کر دیئے گئے ہیں۔ (انشاء اللہ اس موضوع بلکہ اس ساری پیش گوئی پر ایک مستقل اور مفصل تحریر شائع کرنے کا ارادہ ہے۔ جو کہ عدیم الظہیر اور غیر مسبوق ثابت ہوگی۔ انشاء اللہ العزیز)

## حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری پیش گوئی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اس بشارت کو ایک دوسرے عنوان سے بھی پیش فرمایا۔ دیکھئے کتاب (استثناء ۳۳ شروع) کہ: ”وہ کوہ فاران سے ان پر جلوہ گر ہوا۔ (مفہوم) گویا ”اتر کر غار حرا سے سوئے قوم آیا“ کا اشارہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتش شریعت تھی۔ (یعنی جہاد و قصاص والی) اور وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ فتح مکہ کے دن کی تشریف آوری کی تصویر کشی کی گئی۔ انگلش ترجمہ جب کہ آپ دس ہزار صحابہ کرامؓ کے لشکر کے ساتھ اچانک تشریف لائے تھے۔ اسی عہد والے رسولؐ کی پیش گوئی واضح طور پر ملا کی نبی کے صحیفہ ۳ میں یوں فرمائی گئی۔ عربی بآئیل: ”هاتذا ارسل ملا کی فیہی الطریق امامی ویاتی بغتة الی ہیکلہ السید الذی تطلبونہ وملاک العہد الذی تسرون بہ

موذا یاتی قال رب الجنود ومن یحمل یوم مجیه ومن یتبث عند ظهوره لا نه مثل نار الممحص ومثل اشنان القصار“ ﴿ (از اردو بائبل) دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا اور خداوند جس کے تم طالب ہونا گہاں وہ اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ کیونکہ وہ سنار کی آگ میں دھوبی کے صابون کی مانند ہوگا۔ (ملاکی ب ۳ آیت ۳۲) یعنی وہ صاحب فرقان ہوگا۔ حق و باطل میں واضح اور دائمی فیصلے فرما دے گا۔ ﴿

مسیحی پادریوں کی بوکھلاہٹ: ۱۸۳۱ء سے پہلے اردو ترجمہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ مگر جب پادریوں کا اہل اسلام کے ساتھ واسطہ پڑا تو سید المرسل ﷺ کی صداقت کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد کے تراجم میں بہت سی تبدیلیاں کر دیں۔ چنانچہ اب پرنسٹنٹ اردو ترجمہ میں لاکھوں قدوسی کر دیا گیا۔ رومن ترجمہ میں ایک جگہ کا نام مربیہ قاولش درج کر دیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں بھی یہی ہے۔ فارسی ترجمہ میں اور ترقی کرتے ہوئے کروڑوں قدوسی کر دیا۔ مگر انگلش ترجمہ ریوانڈ سنڈرڈ ورژن اور گڈ نیوز بائبل دونوں میں ابھی تک بھی ٹن تھا ورنڈ (دس ہزار) ہی موجود ہے۔ اب خدا جانے کہ اصل متن میں وہ کون سا عجیب لفظ ہے۔ جس کے ترجمہ میں اتنی کشمکش ہو رہی ہے۔ وہ کون سا روح القدس ہے جو پادریوں کو ایک ترجمہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ ”قد صدق اللہ یکتبون بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ (بقرہ: ۷۹)“

مذاہب عالم کو دعوت

گویا ساری کتابیں اور کتابوں والے اسی سالار انبیاء کی آمد اور تشریف آوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی ہیکل میں اچانک آ موجود ہوگا۔ تو سوائے فخر و جہاں ﷺ کے یہ کس کی شان ہے؟ چنانچہ فتح مکہ کے دن وہ ہیکل (خانہ کعبہ) والا اچانک مکہ کی سرزمین میں وارد ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مقابلہ کی تاب نہ لاسکے۔ اسی کو فرمایا کہ اس کے ظہور یعنی غلبہ کے وقت اس کے سامنے کون کھڑا رہ سکے گا؟ کس میں مقابلہ کی تاب ہوگی؟ چنانچہ مشرکین مکہ نہ میدان بدر میں تاب لاسکے، نہ اجداد اور خندق میں اور نہ وادی حنین میں قدم جما سکے اور وہ سالار انبیاء میدان میں ڈٹ کر ”اننا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب“ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ دیکھئے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سالار انبیاء نے جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی بڑی حکومت کے

مقابلہ پر نہ آسکا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں نے قدم بوسی ہی کو غنیمت جانا۔ غسانی بھی سامنا نہ کر سکا۔ دومتہ الجندل کا اکیدر بھی حاضر خدمت ہو گیا۔ مصر کا مقوقس بھی جھک گیا، یمامہ والا ثمامہ بھی قدم بوسی پر مجبور ہو گیا۔ دیگر تمام بڑے بڑے اکڑ باز بھی قدموں پر آگرے۔ کسری معمولی سا اکڑ اتو اس کا حشر ساری دنیا جانتی ہے کہ چند دن بھی دنیا میں باقی نہ رہا۔ ہر علاقہ اور ہر قبیلہ قدم بوسی کے لئے اور غلامی کا پٹکا گلے میں ڈالنے کے لئے کشاں کشاں آ رہا ہے۔ قد صدق اللہ ”اذا جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا“ اور مکہ کا سردار ابوسفیان بھی جھک گیا اور ایسا جھکا کہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ حتیٰ کہ سیدہ جنت بریں میں پہنچ گیا۔ رضی اللہ عنہ۔ ”وكلنا وعد اللہ حسنا“ مشرکین مکہ کا وہ بہادر جرنیل کہ جس نے ہر معرکہ میں فوج کفار کی کمان کی تھی۔ آج سید المرسل ﷺ کے سامنے سر جھکائے بعد ہزار ندامت شرمسار ہو رہا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی خالد بن ولید ”سیف من سیوف اللہ“ کا لقب پار رہا ہے۔ غرضیکہ کسی میں تاب نہ رہی کہ آپ کے سامنے کھڑا رہ سکے۔ لیکن جس نے آپ کے سامنے کھڑا رہنے کی حماقت کی وہ نیست و نابود ہو گیا۔ چاہے کوئی تنہا تھا۔ چاہے کوئی شہنشاہ تھا۔ وہ کوئے کا پتھر تھا جو اس پر گرا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جس پر وہ گرا اسے پیس ڈالا۔ (متی ب ۲۱، آیت ۴۲)

### ضمیمہ عجیبہ متعلقہ بشارت موسوی

پادری حضرات کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) والی بشارت موسوی کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس بشارت میں نبی موعودؑ کا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے آنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہی ہیں۔ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں اور (انجیل متی ب ۱۲، آیت ۴۶) میں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ آپ کو ملنے آئے تھے۔ وہاں حاشیہ دیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح علیہ السلام کے بھائی، عبرانی اور اکثر مشرقی زبانوں کے طرز کلام کے مطابق نہ فقط ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ بلکہ چچا، ماموں، خالو اور پھوپھا کے فرزند بھی بھائی کہلاتے ہیں۔ عہد جدید رومن ترجمہ اردو ص ۱۹، ۲۱ حاشیہ۔

۱۔ ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ (یسعیاہ ب ۶۰، آیت ۱۰)

۲۔ فتح مکہ کے بعد ۹ھ عام الوفود کہلاتا ہے۔ بے شمار مختلف علاقوں سے وفد آکر سرور دو عالم ﷺ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے۔



لہذا بات صاف ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے بھائی کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ اسرائیل کے چچا کی اولاد ہیں۔

دیگر کتاب (پیدائش ب ۱۶، آیت ۱۲، ب ۲۵، آیت ۱۸) میں بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے۔ (پیدائش ب ۱۳، آیت ۸) میں بھیجے کو بھی بھائی کہا گیا ہے۔

دیگر بشارت موسیٰ کا مصداق جناب مسیح علیہ السلام کو قرار دینے والے ذرا یہ بھی سوچیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو بلا باپ کنواری مریم علیہا السلام سے پیدا ہوئے تھے اور مریم علیہا السلام بنی اسرائیل کی بہن ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام بھائیوں کی اولاد کیسے ہوئے؟ کیونکہ نسب باپ کی طرف چلتا ہے۔ نہ کہ ماں کی جانب سے۔

دیگر۔ اس بشارت میں بقیہ صفات و علامات بھی مسیح علیہ السلام میں ہرگز نہیں پائی جاتیں۔ جیسا کہ اختصار احاشیہ گذر چکا ہے۔

اس کے بعد کتاب (اعمال ب ۳) کی تفصیلات نے تو ایسا دو ٹوک اور قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک فیصد بھی احتمال باقی نہیں رہتا۔ ملاحظہ فرمائیے:

رئیس الحوارین جناب شمعون پطرس جن کو جناب مسیح علیہ السلام نے اپنی امت کا رھوالا مقرر فرمایا تھا۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا اور تمام اختیارات کی چابیاں ان کو عنایت فرمائی تھیں۔ انہوں نے ایک موقع پر ہیکل میں ایک پیدائشی لنگڑے کو دعاء کر کے از روئے کرامت تندرست کر دیا۔ دیکھئے کتاب (اعمال ب ۳، آیت ۱۱) جس پر تمام لوگ دوڑتے ہوئے اس کو دیکھنے کے لئے آگئے اور اس کو تندرست دیکھ کر نہایت متعجب ہوئے۔ تو جناب پطرس نے تقریر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات و صفات، مصائب اور تکالیف کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ہی خدا کا قدوس اور پیغمبر تھا۔ جس کو تم نے قتل کر دیا۔ اسی پر ایمان کی برکت سے اس کو تندرستی ملی ہے۔

اس کے بعد جناب پطرس اسی تیسرے باب کی آیت ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ مگر جن باتوں کی خدا نے سب انبیاء علیہم السلام کی زبانی پیش گوئی کی تھی۔ یعنی کہ میرا مسیح علیہ السلام دکھ اٹھائے گا۔ اس نے اسے اس طرح پورا کیا۔ یعنی قوم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اس پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ انتہائی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کر کے آخر کار (از روئے اناجیل) انہیں صلیب پر چڑھا کر مار دیا۔

اس کے بعد آیت نمبر ۱۹ میں ایک دوسرا مضمون شروع کرتے ہیں کہ تم توبہ کرو اور رجوع لاؤ تا کہ خدا کی طرف سے تازگی بخش زمانہ آئے۔ آگے (اس زمانہ کا تعین کرتے ہیں) کہ جس زمانہ میں وہ اس مسیح علیہ السلام کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے اس کو بھیجے گا۔ وہ کب آئے گا؟ فرمایا کہ وہ مسیح علیہ السلام ضرور تا اس وقت تک آسمان میں رہے گا جب تک کہ وہ سارے حالات و واقعات ظاہر نہ ہو جائیں۔ جن کا ذکر خدا نے شروع دنیا سے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ پھر بطرس ان واقعات کو جو قبل از نزول مسیح علیہ السلام ظاہر ہونے ضروری ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی واقعات ہیں۔ مگر یہاں پر صرف دو اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

### بشارت موسوی کا مصداق

واقعہ نمبر ۱: چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو قبل از نزول مسیح علیہ السلام ظاہر ہونے والا تھا اور وہ وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے جو کہ کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں مذکور ہے اور جس کو پادری حضرات محض سینہ زوری اور ناعاقبت اندیشی سے حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ مکمل بشارت یہاں تین آیتوں یعنی ۲۲، ۲۳ اور ۲۴ میں بیان کی گئی ہے۔

### عہد ابراہیمی کا مصداق

واقعہ نمبر ۲: اس کے بعد آیت نمبر ۲۵ میں ایک اور اہم واقعہ اور پیش گوئی کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا ابتداء ذکر کتاب (پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸) میں ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ یہاں کتاب (اعمال ب ۳، آیت ۲۵) میں اس کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم تو انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہو اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادوں سے باندھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔

(پیدائش ب ۲۱، آیت ۱۳) میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی برکت کا وعدہ فرمایا۔ کیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔

یہاں مطلقاً مجموعی طور پر برکت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ تیری اولاد سے اور کتاب پیدائش سے واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کے وعدہ والی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحق علیہ السلام ہیں۔ تیسری بیوی کی اولاد اس عہد میں شامل نہیں جو بنی طورہ کہلاتے ہیں۔

اب تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضرت یعقوب علیہ السلام (اسرائیل) کی اولاد سے آئے۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے۔ ان تمام کی دعوت بمع حضرت مسیح علیہ السلام کے صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں روئے زمین کے تمام قبیلوں نے ابھی تک برکت ابراہیمی یعنی فیضان نبوت و رسالت نہیں پایا۔ آخر اللہ کریم نے تمام نبیوں کے موعود آخر الزمان ﷺ کو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام میں مبعوث فرما کر اس عہد کو پورا فرمایا۔ ناظرین کرام! ہر شخص جو معمولی توجہ سے مندرجہ بالا کتاب اعمال کا تیسرا باب ملاحظہ کرے گا وہ لازماً میری پیش کردہ تفصیلات کی تصدیق پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ پیش گوئی وہی ہے جو کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی اور اس کے مصداق حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان کا ذکر اس سے پہلے آیت نمبر ۱۸ میں آچکا ہے۔ بالفرض اگر اب بھی ذہن میں کچھ تردد ہو تو اسی باب کی آخری آیت نمبر ۲۶ ملاحظہ فرمائیے۔

نمبر ۲۶ ”خدا نے اپنے خادم (مسیح علیہ السلام) کو اٹھا کر (مبعوث کر کے) پہلے (یعنی اس پیش گوئی موسوی کے ظہور سے پہلے) تمہارے پاس بھیجا تا کہ تم میں ہر ایک کو اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے۔“ باب نمبر ۳ ختم

ناظرین کرام! ملاحظہ ہو کیسی صفائی سے ثابت ہو رہا ہے کہ بشارت موسوی کا مصداق بعثت مسیح علیہ السلام کے بعد اور نزول ثانی سے پہلے تشریف لاوے گا۔ لہذا سچے دل سے خاتم الانبیاء ﷺ پر ایمان لا کر حقیقی نجات اور خدا کی دائمی بادشاہت میں داخل ہو جاؤ۔ ورنہ سن لو: ”یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل (مائدہ: ۶۸)“

خلاصہ کلام! مندرجہ بالا آیات میں جناب پطرس اس نبی موعود گودونوں پیش گوئیوں کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) کی بشارت موسوی اور کتاب (پیدائش ب ۲۲، آیت ۱۸) کے عہد ابراہیمی کا..... ”فلله الحمد والمنه و صلى الله تعالى على خاتم الانبياء والمرسلين محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين“

ایک قابل توجہ نکتہ

اناجیل میں خصوصاً انجیل متی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کئی پیش گوئیاں کتب سابقہ سے نقل کی گئی ہیں۔ مثلاً (متی ب ۱، آیت ۲۳، بحوالہ یسعیاہ ب ۷، آیت ۱۴، متی ب ۲، آیت ۵، بحوالہ میکاہ ب ۵، آیت ۲، متی ب ۲، آیت ۱۵، بحوالہ یہوشع ب ۱۱، آیت ۱، متی ب ۲، آیت ۱۸، بحوالہ یرمیاہ ب ۳۱،

آیت ۵، متی ۲، آیت ۲۳، متی ۳، آیت ۳، بحوالہ یسعیاہ ب ۴۰، آیت ۳، عبرانیوں ب ۱۰، آیت ۱۵، بحوالہ زبور ب ۴۰، آیت ۶) وغیرہ۔ ان میں سے اکثر بالکل خلاف واقع ہیں اور بعض کو مسیح علیہ السلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حواری ایسی غیر متعلق پیش گوئیوں کو نقل کرنے سے گریز نہیں کرتا وہ (استثناہ ب ۱۸، آیت ۱۸) ایسی واضح اور مضبوط پیش گوئی کو کیسے نظر انداز کر گیا۔ خود مسیح علیہ السلام نے اپنے حق میں کئی پیش گوئیاں نقل کیں۔ مگر اس کو وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ اس کا مصداق صرف اور صرف تاجدار ختم نبوت سید المرسلین ﷺ ہی ہیں۔

### نوید مسیح

ہر ایک نبی نے اس سالار قافلہ انبیاء علیہم السلام کا اعلان فرمایا۔ آخر کار آخری مبشر آ گیا۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جن کو صرف آپ کی بشارت ہی کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جس کی کتاب اور صحیفہ کا نام بھی انجیل بمعنی بشارت تھا۔ جس نے آتے ہی اعلان فرمادیا۔ ”قد کمل الزمان واقتر ب ملکوت اللہ فتوبوا وامنوا بالانجیل (مرقس ب ۱، آیت ۱۵)“ ﴿(از اردو بائبل) وقت پورا ہو گیا ہے۔ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔﴾

یہ بشارت اور خوشخبری کون سی تھی؟ جس کو قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے۔ ”واذ قال عیسیٰ بن مریم بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد (الصف: ۶)“ جس کو مسیح علیہ السلام نے (انجیل یوحنا ب ۱، آیت ۲۸) میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ اسی طرح خدا کی بادشاہت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ﷺ کا دور رسالت ہے۔ جس کو بحکم مسیح علیہ السلام اب بھی عیسائی اپنی دعاء میں خدا سے طلب کرتے ہیں۔ اے باپ تیری بادشاہت آئے اور اسی کو یہود ”من قبل یستفتحون (البقرہ: ۸۹)“ خدا سے مانگا کرتے تھے۔ لیکن ”فلما جاء ماعرفوا کفروا بہ“

### وجہ تسمیہ کتب الہیہ

توراة: عبرانی زبان میں شریعت کو کہتے ہیں۔ چونکہ توراة میں مکمل شرعی احکام مذکور ہیں۔ اس لئے اس کو توراة کہتے ہیں۔

زبور: بمعنی قطعہ اور ٹکڑا۔ چونکہ زبور خدا کی حمد و ثناء کے ترانے ہیں۔ لہذا اس کو زبور کہتے ہیں۔

انجیل: یونانی زبان کا لفظ ہے۔ بمعنی بشارت اور خوشخبری۔ چونکہ انجیل اور صاحب انجیل نے نمایاں طور پر یہ خوشخبری سنانا تھی۔ اس لئے ان کی کتاب کا نام ہی انجیل رکھ دیا۔ اسی طرح قرآن بمعنی مقروء یعنی بکثرت پڑھی جانے والی کتاب، اسم اور مسمیٰ میں معنی کا لحاظ لازمی ہوتا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے ان کتابوں کے نام رکھے گئے۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں خاتم الانبیاء ﷺ کی بکثرت بشارات موجود ہے۔ خاص کر انجیل رابع یوحنا میں تو صاف اسم گرامی مذکور تھا۔ جس کو مترجمین نے کچھ کا کچھ کر دیا۔ مگر پھر بھی ہر شخص ان الفاظ کو پڑھ کر واضح طور پر بدرالدجی والا رخ انور ملاحظہ کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو

(انجیل یوحنا باب ۱۲، آیت ۱۶)

”قال المسيح وانا اطلب من الاب فيعطيك معزيا آخر ليملكك معكم الى الابد (عربی بائبل)“ ﴿ (از اردو بائبل) اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ﴾ یعنی وہ خاتم المرسلین ﷺ ہوگا۔

دیکھئے کیسی وضاحت فرمائی کہ وہ انسانیت کا مددگار، عربی لفظ معزیا بمعنی تسلی دینے والا یعنی آخرت کی فکر میں بیقرار اور بیتاب روح کو تسلی دینے والا۔ ”لا تقنطوا من رحمة الله“ کا جانفزا اعلان کرنے والا۔ بتلائے وہ سوائے حبیب کبریٰ ﷺ کے دوسرا کون ہے؟ جو مسیح علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لایا اور پھر کیسا واضح اعلان ہے کہ اس کی رسالت اور رفاقت روحانی تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ وہ آخری اور دائمی مددگار، تسلی دہندہ، شفیع اور وکیل ہوگا۔ جس کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ وہ ”بعثت وانا والساعة كهاتين“ کا اعلان فرمائے گا۔ وہ ”انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم“ کا مژدہ سنانے والا ہوگا۔ وہ عاقب اور حاشر کے مقام رفیع پر فائز ہوگا۔ وہ خاتم اور مقش کے القاب عظیم کا مالک بنے گا۔ وہ شفیع المذنبین کہلائے گا۔ وہ لوائے حمد اور مقام محمود کا مالک بنے گا۔ وہ محمد و احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم صلوة دائمة الی الابد۔

### مسیح علیہ السلام کی دوسری بشارت

دوسری جگہ لکھا ہے۔ عربی بائبل: ”متی جاء المعزی الذی سارسله انا الیکم من الاب روح الحق الذی من عند الاب ینبثق فهو یشهد لی . وتشهدون انتم ایضاً لانکم معی من الابتداء (انجیل یوحنا باب ۱۵، آیت ۲۶)“

اردو بائبل۔ لیکن وہ مددگار جب آئے گا۔ جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو۔ کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔

(انجیل یوحنا باب ۱۵ ص ۲۶)

ناظرین! غور فرمائیے یہاں پر اس مددگار کے متعلق فرمایا کہ وہ میری گواہی دے گا۔ تو اب دیانتداری سے فرمائیے کہ مسیح علیہ السلام کی گواہی کسی نے دی؟ کہ: ”وكان عند الله وجيهاً في الدنيا والآخرة“

”انی عبد اللہ اتنی کتاب وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلوة والزکوة مامت حیا۔ وبر ابوالدتی ولم يجعلنی جباراً اشقیاء۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمتروں (مریم: ۳۱)“

مسیح علیہ السلام کی تیسری بشارت

تیسری جگہ فرمایا: ”لکنی اقول لکم الحق انه خیر لکم ان انطلق لا نه ان لم انطلق لا یاتیکم المعزی ولكن ان ذهبت ارسله الیکم ومتی جا ذاک یمکت العالم علی خطیئة وعلى برو علی دینونة اما علی خطیئة فلا نهم لا یؤمنون بی۔ واما علی بر، فانی ذاهب الی ابی ولا ترون بی ایضاً واما علی دینونة فلان رئیس هذا العالم قد دین..... ان لی امورا کثیرة ایضاً لا اقول لکم ولكن لا تستیعون ان تحملوا الآن واما متی جاء ذالک روح الحق هو یرشدکم الی جمیع الحق لانه لا یتکلم من نفسه بل کل ما یسمع یتکلم به ویخبرکم بامور آتیة ذالک یمجدنی لانه یاخذ ممالی ویخبرکم کل ما للاب هولی لهذا قلت انه یاخذ ممالی ویخبرکم۔ بعد قلیل لا تبصروننی لا نی ذاهب الی الاب (انجیل یوحنا باب ۱۶، آیت ۷ تا ۱۰)“ ﴿از اردو بائبل﴾ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن میں اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ٹھہرائے گا۔ (پھر کفارے کا کیا بنے گا) گناہ کے بارہ میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارہ میں اس لئے دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے..... اور مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں۔ مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اے وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو

۱۔ یہاں دراصل وہ نبی تھا۔ جیسا کہ (انجیل یوحنا باب ۱، آیت ۲۱) میں ہے کیا تو وہ نبی ہے؟

مگر اصحاب بائبل کے ہاتھ کی ہوشیاری آڑے آگئی۔

سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ لیکن جو سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ میرا اہل ظاہر کرے گا۔ ﴿ناظرین! بتائیے کہ مکمل سچائی کی راہ کس ہستی نے سکھائی اور کس نے مکمل طور پر خدا کا پیغام سنایا؟

ملاحظہ فرمائیے کتاب (یسعیاہ ۲۱، آیت ۱۳) میں ہے۔ ”اے دو امتوں کے قافلہ تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے۔ تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی حشمت جاتی رہے گی۔“ ملاحظہ فرمائیے کہ مشرکین مکہ کی ساری شان و شوکت ہجرت کے ایک سال بعد میدان بدر میں ختم ہو گئی۔ اس لئے یوم بدر کو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔

عیسائی حضرات دنیا کے سردار سے مراد شیطان لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ اگر اس سے مراد شیطان ہے تو اس کو غیر مجرم قرار دے کر علمی دنیا میں نام پیدا کر لیں۔

صاف قرار کر لو کہ محمد رسول اللہ ﷺ جس نے اعلان فرمایا: ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“

مسیح علیہ السلام کی چوتھی بشارت

چوتھی جگہ فرمایا۔ عربی بائبل: ”واما المعزی الروح القدوس الذی سیر سلہ الاب باسمی فهو یعلمکم کل شیء و یذکرکم بكل ما قلته لکم (یوحنا باب ۱۴، آیت ۲۶) وقال فی آیت تلیقین ۰ لا اتکلم ایضاً معکم کثیرا لان رئیس هذا العالم یاتی و لیس له فی شیء“ ﴿(ازاردو بائبل) میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ لیکن جب وہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔﴾ یہ صرف محمد رسول اللہ کی شان ہے۔

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔“ اس بشارت میں فرمایا کہ جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ یعنی جس کی بشارت میں نے اس کا نام لے کر سنائی۔ میرا رب میری بشارت کا حوالہ دے کر فرمائے گا کہ میرے مسیح علیہ السلام کی بشارت والا رسول معظم تشریف لا رہا ہے۔

”فامنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا (تغاین: ۸)“ یہ وہی رسول مکرم ہے جس کو یہود و نصاریٰ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو فرمایا: ”یعرفونه کما يعرفون ابناءهم (بقرہ: ۱۴۶)“ چنانچہ ان کی جائے ہجرت ان کی کتابوں میں مذکور تھی۔ اسی لئے یہود سمٹ سٹا کر پہلے ہی اس رسول معظمؐ کے قدموں میں جھکنے کے لئے وہاں ڈیرہ لگا بیٹھے اور ہر مشکل اور مغلوبی کے وقت ”من قبل يستفتحون (البقرہ: ۸۹)“ آپؐ کی بعثت کے فوری ظہور کی دعائیں مانگتے اور کہتے کہ اے ہمارے دشمنو! نبی آخر الزمان ﷺ عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو قسمت والے ان کے قدموں میں گر گئے۔

”الذین يتبعون الرسول النبى الامى الذى يحدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويعضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم (الاعراف: ۱۵۷)“ ﴿یعنی قسمت والے ہیں﴾ وہ لوگ جو اس رسول معبود اور نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کو وہ اپنے ہاں توراة و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ رسول معظمؐ ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کو حلال بتلاتا ہے اور خبیث چیزیں حرام بتاتا ہے اور وہ بوجہ اور طوق (مشکل احکام توراة) جو ان پر تھے وہ ان سے دور کرتا ہے۔ ﴿

نوید مسیحا کی مزید وضاحت

حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ خوشخبری کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ (القاف: ۶)

یونانی نسخوں میں لفظ پیریکلی طوس تھا۔ جس کا معرب فارقلیط بمعنی آئندہ ہے۔ ملاحظہ ہو قاموس الکتاب (از پادری خیر اللہ صاحب ص ۴۳۸)

پہلے اردو تراجم میں بھی یہ لفظ موجود تھا۔ بعد میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ کبھی وکیل، کبھی شفیع، مددگار، اب روح حق اور روح القدس ہے۔ مگر لفظ مددگار کے ساتھ یعنی لگا کر۔ گویا مددگار کا معنی ہے۔ روح حق یا روح القدس۔ مگر عربی ایڈیشن میں اب بھی لفظ معزی یعنی تسلی دینے والا موجود ہے۔

یہ کھیل کیوں کھیلا گیا؟ اس لئے کہ اناجیل میں خصوصاً (انجیل لوقا ب ۲۳، آیت ۳۹) میں



لکھا ہے کہ دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس کو تم پر نازل کروں گا۔ مسیحی پادری کہتے ہیں کہ یوحنا میں جس فارقلیط، وکیل، شفیع، روح حق اور روح القدس کا وعدہ ہے۔ اس کا مصداق یہ آیت (ب ۲۴، آیت ۴۹) ہے اور یہ نزول بعد از واقعہ صلیب عیدِ پینٹی کو سٹ کے موقع پر ظاہر ہو گیا۔ جس کا ذکر (رسالہ اعمال ب ۲، آیت ۴۱) میں ہے کہ سب حواری ایک جگہ پر اکٹھے موجود تھے کہ یکا یک آسمان سے ایک ایسی آواز آئی۔ جیسے زور کی آندھی کا سنا نا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جس میں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آنکھیں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔

..... ناظرین! ملاحظہ فرمائیے کہ جو صفات اور کارکردگی انجیل یوحنا کی بشارتوں میں مذکور ہے کہ:

(۱) وہ آکر میری گواہی دے گا۔ (۲) وہ تمہیں میری باقی ماندہ باتیں سکھائے گا۔ (۳) جو میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد کرائے گا۔ (۴) وہ آکر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ٹھہرائے گا۔ (۵) وہ وہی کہے گا جو سنے گا۔ وغیرہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بلا آگ کی زبانوں نے ان باتوں میں سے ایک بھی ظاہر نہیں کی تو پھر یہ واقعہ نویدِ مسیح کا مصداق کیسے ہو گیا؟

..... ۲ نیز روح القدس تو پہلے بھی موعود تھا۔ جس سے مریم علیہا السلام بھی حاملہ ہوئیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ مسیح علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ حالانکہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہ آئے گا۔ گویا اس کی آمد اور ظہور، مسیح علیہ السلام کے جانے پر موقوف ہے۔ تو پھر یہ نازل ہونے والا وہ روح القدس کیسے ہو گیا جو کہ پہلے بھی موجود تھا؟

..... ۳ اگر لوقا والا، روح القدس نازل ہی کرنا تھا تو اس کا نزول قبل از رفعِ مسیح علیہ السلام ہو چکا۔ ملاحظہ ہو انجیل یوحنا، مسیح علیہ السلام نے بعد از صلیب حواریوں پر ظاہر ہو کر فرمایا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ (ب ۲۰، آیت ۲۱، ۲۲)

ملاحظہ فرمائیے کہ وہ موعود روح القدس تو مسیح علیہ السلام نفس نفیس خود حواریوں کو عطا فرما گئے ہیں۔ اب بعد میں کیا دوبارہ اترے گا؟ نہیں بلکہ (لوقا ب ۲۴، آیت ۴۹) والا روح القدس یہی ہے۔ بقول نصاریٰ مسیح علیہ السلام جب خود منجی عالمین ہے تو ان سے بڑھ کر اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے جو نازل ہو کر مسیح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کرے۔

## ایک اور نئی بات سماعت فرمائیے

بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انجیل یوحنا میں جس شفیع اور مددگار کا وعدہ ہے اور اس سے مراد یہ (اعمال ب ۲، آیت ۴۱) والا روح القدس ہے تو دریافت طلب یہ بات ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت نے سب حواریوں کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ انجیل یوحنا میں تو بڑے اہتمام سے کئی بار بیان ہوئی ہے اور پھر وہ چند دنوں کے بعد پوری بھی ہو گئی۔ تو جب انجیل یوحنا ۸۰ء تا ۱۰۰ء میں مرتب ہوئی اور اس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے تو اس انجیل نویس نے اس مرکزی پیش گوئی کے ظہور کا ذکر کیوں نہ فرمایا۔ جب کہ یہ نہایت اہم بات تھی اور نہ لوقا نے ہی بیان فرمایا۔ نہ کسی دوسرے حواری نے کہ اس کا مصداق ظاہر ہو گیا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوا یوحنا صاحب انجیل کو خوب معلوم تھا کہ اس پیش گوئی کا مصداق نبی آخر الزمان ﷺ ہیں جو آئندہ زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ جن کی پیش گوئی سابقہ ہر نبی علیہ السلام نے کی اور وہی بشارت موسیٰ کا مصداق ہے۔ اگر اس بشارت یوحنا کا مصداق یہ (اعمال ب ۲، آیت ۴۱) والا واقعہ ہے تو پھر مسیحی امت میں فارقلیط کی آمد کا تصور کیوں تھا۔ چنانچہ اس بناء پر ایک فلاسفر (Maires) نے ۲۳۵ء میں فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا یوحنا کی بشارت فارقلیط کا مصداق میں ہوں۔ یہ فرقہ چار صدیوں تک باقی رہا۔ ملاحظہ ہو (تواریخ مسیحی کلیسا ص ۲۳۲) معلوم ہوا کہ مسیحی امت اس بشارت کا مصداق کسی آئندہ زمانہ میں آنے کا اعتقاد رکھتی تھی۔

## ایک اور زبردست دلیل

جب قرآن مجید کی یہ آیت: ”وَمبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصف: ۶)“ نازل ہوئی تو اس زمانہ میں آپ کے ارد گرد یہود و نصاریٰ بکثرت آباد تھے۔ مگر تاریخ کسی ایک فرد کا بھی انکار یا اعتراض نقل کرنے سے خاموش ہے۔ کیونکہ ان میں آخر الزمان ﷺ کی تشریف آوری اتنی مشہور و معروف تھی کہ: ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاءَهُمْ (بقرہ: ۱۷۶)“ کا مصداق تھی۔ چنانچہ بہت سے خوش نصیب اسی پیش گوئی کی بناء پر دولت ایمان سے بہرہ ور ہو گئے۔ حتیٰ کہ ہر قل رومی بھی قائل ہو گیا۔ مگر حکومت و سلطنت کے چکر میں آ کر قبول حق سے محروم رہا۔ ورنہ وہ کہہ چکا تھا کہ اگر میں آپ تک پہنچ سکوں تو ”لَعَسَلْتُ قَدَمِيهِ“ آپ کے قدم مبارک دھونے کو باعث فخر سمجھوں۔ حضرت سلمان فارسی تلاش کرتے کرتے ہی مدینہ میں آئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کا عیسائی غلام عداس بھی آپ کو پہچان کر گرویدہ ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا چچا

زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی آپ کو پہچان کر کہہ اٹھا۔ کاش میں آپ کا تعاون کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ (بخاری)

نجاشی شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا۔ جارود بن علاء جو کہ ایک نامی گرامی عیسائی عالم تھا۔ حاضر خدمت ہو کر جمع ساتھیوں کے مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن سلامؓ جو کہ ایک زبردست یہودی عالم تھے۔ آپ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔

اسی حقیقت کے پیش نظر مصنف لب التواریخ لکھتا ہے کہ محمد ﷺ کے ہم زمانہ یہودی اور عیسائی ایک نبی کے منتظر تھے۔ اس بات نے محمد ﷺ کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ آپؐ نے دعویٰ کر دیا وہ میں ہوں۔ (تفسیر حقانی ج ۳ ص ۷۱)

جناب والا حقیقت میں آپؐ ہی وہ آنے والی ہستی تھے۔ اسی لئے تمام مذاہب کے علماء جو آپ حضرات سے زیادہ سمجھدار تھے۔ وہ جانچ پڑتال کر کے آپؐ کے حلقہٴ ارادت میں آتے رہے اور آج تک آرہے ہیں۔ ورنہ اس منصب کے دعویدار منیس جیسے لوگ چند قدم ہی چل کر ختم ہو گئے۔ ایک نبی تو آنا تھا۔ بالفرض اگر آپؐ وہ نبی نہیں تو دوسرا کون ہے؟ آخر اس نے آنا تو تھا ہی؟ کہیں بالا بالا تو پردہ عدم میں نہیں چلا جانا تھا۔ پھر اس کا فائدہ خدا کی مخلوق کو ہوا کہ جس کی امت میں شمولیت کی خواہش موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کرتے رہے۔ وہ آپؐ کے وقت کے عوام کو دولت مل گئی۔ ورنہ آپؐ نے کون سا دنیوی مفاد اٹھالیا۔

نوید مسیحا کے مصداق کا دو ٹوک اور آخری فیصلہ

اے علمائے عیسائیت! بقول شما اگر یہ پیش گوئی سید المرسلین ﷺ کے حق میں نہ تھی۔ بلکہ اس کا مصداق وہ روح القدس تھا جو حواریوں پر رفع مسیح علیہ السلام کے چند دن بعد نازل ہوا تھا۔ تو بندہ خادم پھر تمام امت مسیحی کو دعوت فکر دیتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے نزول روح القدس کی پیش گوئی سب شاگردوں کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ یوحنا نے اپنی انجیل میں اس کو نہایت اہتمام سے ذکر کیا۔ تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ پھر تمام اناجیل مروجہ وغیر مروجہ اور خطوط حواریاں ماسوائے مصنف رسالہ ”اعمال“ کے کیوں ساکت اور خاموش ہیں۔ انہوں نے کیوں وضاحت نہ فرمائی کہ یہ روح القدس والی پیش گوئی واقعہ صلیب کے پچاس دن بعد بائیں صورت میں ہوئی۔ جب کہ اناجیل مروجہ ۳ء تا ۱۰۰ء تک کے عرصہ میں مرتب ہوئی ہیں۔ مثلاً، مرقس، لوقا، ماثی، یوحنا۔ کسی نے بھی اس وقوع کی اطلاع نہ دی۔ خاص کر بناب یوحنا صاحب کو تو

لازمًا لکھنا چاہئے تھا کہ میری بیان کردہ روح حق والی پیش گوئی فلاں وقت میں بایں صورت پوری ہوگئی۔ مگر جب کسی نے بھی اس کے وقوع کا تذکرہ تک نہیں کیا تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ فارقلیط کا مصداق ابھی تک آنے والا تھا۔

روح حق کے مصداق کی فیصلہ کن وضاحت (از اعظم المحاور حمین جناب پطرس)  
الحمد لله ثم الحمد لله! حضرات گرامی! توجہ فرمائیے حقیقت کھل گئی۔ رسالہ اعمال کا دوسرا باب نکال کر واقعہ نزول روح القدس مطالعہ کیجئے کہ عید پینتیکست پر سب حواری ایک جگہ جمع تھے کہ اچانک آگ کی سی زبانیں پھٹتی ہوئی ان کو نظر آئیں۔ جوان پر آ کر ٹھہریں۔ جس پر وہ حواری ہر قسم کی زبانیں بولنے لگے۔ (عبرانی، رومی، مصری وغیرہ) جب عام لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ نشہ میں آ کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس پر جناب پطرس نے کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا کہ اے یہودیو اور دوسرے سب لوگو! توجہ سے سنو! یہ لوگ نشہ میں نہیں بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جو خدا نے یو۔ ایل نبی کی معرفت فرمائی کہ:

(ملاحظہ ہو بائبل کا اٹھائیسواں رسالہ یو۔ ایل ب ۲، آیت ۲۸)

خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی۔ ملاحظہ ہو رسالہ (اعمال ب ۲، آیت ۱۸) اب ایمان داری سے فیصلہ کیجئے کہ جب بقول شامس علیہ السلام نے روح القدس کی بشارت سنائی۔ مگر جب روح القدس نازل ہوا تو پھر بقول جناب یوحنا کو اپنی انجیل میں لازماً ذکر کرنا چاہئے تھا اور بالخصوص بوقت نزول، سردار شاگردان جناب پطرس کو تو ضرور وضاحت کرنی چاہئے تھی کہ یہ مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔

مگر اس کے برعکس وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس پیش گوئی کا مصداق ہے جو یو ایل نبی کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ اسے فارقلیط کا مصداق قرار نہیں دیتے تو کیا روز روشن کی طرح واضح نہ ہو گیا کہ تمہارے اسلاف نوید مسیح کا مصداق اس واقعہ کو قرار نہ دیتے تھے۔ یہ محض آپ حضرات کی سینہ زوری ہے۔

جناب پطرس کے واقعہ نزول کو نوید مسیح کا مصداق قرار نہ دینے کی وجہ:

۱..... اس لئے وہاں تو مسیح علیہ السلام نے لفظ احمد فرمایا تھا۔ یا بقول (یوحنا ب ۱۶، آیت ۱۳) وہ نبی۔

۲..... اس بشارت میں نازل ہونے کا ذکر نہ تھا۔ بلکہ بھیجنے اور آنے کا ذکر تھا۔

۳..... یہ آمد مسیح علیہ السلام کے جانے پر موقوف تھی اور روح القدس تو بیشتر مواقع پر آپ کی موجودگی میں بھی نازل ہو چکا تھا۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ روح القدس کے واقعہ نزول کو انجیل یوحنا والی بشارت کا مصداق قرار دینے سے تمام اناجیل مروجہ اور غیر مروجہ بمع خطوط حواریاں ساکت اور خاموش اور کتاب اعمال میں پطرس نے اس واقعہ کو بجائے بشارت مسیح علیہ السلام کا مصداق قرار دینے کے یوایل نبی کی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا۔ جس پر کوئی حواری معترض نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بشارت کا مصداق فارقلیط بمعنی احمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور یہ حواریوں کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے عیسائی پادری اس کے خلاف کہہ کر مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس کا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔

پھر صرف مینس نے ہی دعویٰ فارقلیط نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ ۱۶۸۳ء تک چوبیس اور حضرات نے بھی یہ دعویٰ کر کے قسمت آزمائی کی۔ ملاحظہ ہو:

(تفسیر رومن اسکاٹ مطبوعہ آباء ص ۱۸۶ بحوالہ تفسیر حقانی ج ۲ ص ۷۰)

یہ زور آزمائی اور قسمت آزمائی محض اس لئے ہوتی رہی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نہایت اہتمام کے ساتھ ایک فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس سے پہلے بائبل کے اردو تراجم میں لفظ فارقلیط موجود تھا۔ مگر جب عیسائیوں کا واسطہ ہندوستان میں مسلمانوں سے پڑا تو انہوں نے اس میں کتر بیونت شروع کر دی۔ کیونکہ یہ آنحضرت ﷺ کے حق میں واضح پیش گوئی تھی۔ اس لئے وہ لوگ اس کا ترجمہ کبھی تسلی دینے والا، کبھی معین و مددگار، کبھی وکیل، کبھی شفیع اور کبھی دوسرا مددگار یعنی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ یعنی روح حق بریکٹ میں لکھا پھر بریکٹ بھی اڑا دی۔ مگر ان تمام چال بازی کے باوجود اصلی حقیقت پر پردہ نہ ڈال سکے۔

فیصلہ کن بحث فارقلیط

حضرات! جیسا کہ آپ اس رسالہ میں مدلل طور پر ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ از روئے بائبل اور قرآن مجید سرور دو عالم ﷺ کی آمد اور تشریف آوری کی اطلاع شروع سے ہی بواسطہ انبیاء کرام علیہم السلام دی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بڑے اہتمام سے اس خوشخبری کو اپنی دعوت کا جزو قرار دیا۔ سورۃ صف آیت ۶ اس پر شاہد عدل ہے اور دوسری طرف

حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلان اوّل کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ خدا کی بادشاہت قریب آگئی ہے۔ پس توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ (انجیل مرقس ب، آیت ۱۵) پھر قریہ قریہ اس آسمانی بادشاہت کا اعلان فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ اپنی امت کو جو خاص دعاء تلقین فرمائی اس میں بھی خدائی بادشاہت یعنی دور رسالت آخر الزمان ﷺ کے آنے کی طلب و آرزو کو اصل مدعا قرار دیا۔

اس خوشخبری سے مراد خدا کی بادشاہت یعنی آنحضرت ﷺ کے دور رسالت کے آنے کی اطلاع ہے۔

فرمایا! پس تم اس طرح دعاء کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے (یعنی) تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ (متی ب، ۶، آیت ۹، لوقا ب، ۱۱، آیت ۲) یہ دعاء آج تک عیسائی مانگ رہے ہیں۔

اور سنئے کہ: حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت کے لوگ تین ہستیوں کے منتظر تھے۔

(۱) ..... ایلیاہ۔ (۲) ..... مسیح۔ (۳) ..... النبی یا وہ نبی۔

(انجیل یوحنا ب، آیت ۱۹، ۲۳)

پھر ایلیاہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بقول متی یحییٰ علیہ السلام کو قرار دیا اور مسیح خود تھے۔ باقی النبی رہ گئے۔ جس کو آج بھی تمام جہان آنحضرت ﷺ اور آنحضرت ﷺ کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ تو اس ہستی کی آمد کی حضرت مسیح علیہ السلام بشارت دے گئے کہ میرے بعد احمد نام ایک عظیم الشان رسول آئیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے عبرانی زبان میں یہی لفظ ”احمد“ ادا ہوا تھا۔ مگر یہود و نصاریٰ کی عادت ہے کہ وہ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت اسوں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تیسری صدی میں سینٹ جیروم نے جب لاطینی زبان میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ بھی پیریکلیطوس کر دیا۔ جس کو عربی زبان میں فارقلیط کر دیا گیا۔ ملاحظہ ہو پادری خیر اللہ کی مشہور کتاب (قاموس الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمد ہے جو کہ ۱۸۳۱ء اور پہلے تراجم میں موجود تھا۔

ایک اور اس معنی پر زبردست دلیل یہ ہے کہ اب تک بعض عبرانی نسخوں میں اسم گرامی احمد موجود ہے۔ ملاحظہ ہو پادری پارکھرت کی یہ عبارت۔ و باو حمد حل بگوئیم!

(منقول از حمایت اسلام مطبوعہ بریلی ۱۸۷۳ء بحوالہ تفسیر حقانی ج ۳ ص ۷۱)

ایسے ہی اس بشارت کے سید المرسل ﷺ کے حق میں ہونے اور فارقلیط کا معنی احمد

۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

جناب حاجی یوسف صالح عرف پوپا اپنے رسالہ (دعوت اسلام مطبوعہ ۱۳۰۳ھ ص ۴) پر لکھتے ہیں کہ: ”اصل یونانی زبان میں لفظ پاراقلیت ہے۔ اس کو عربی میں ڈھال کر فارقلیط بنایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو توارخ محمدی (از سر ولیم میورج ص ۱۷) اور گاڈفری ہلنس اپنے رسالہ کے (ص ۱۷۷) پر بحوالہ کیورن پا کر سٹ لکھتے ہیں کہ مراد اس پیش گوئی سے حضرت محمد ﷺ ہیں اور ریکورن چل ایل ایل ڈی اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۶۹ء کے (ص ۲۰۶) اور جارج سیل اپنے (ترجمہ قرآن ص ۳۳۵) میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے در باب حضرت محمد ﷺ خبر دی ہے اور فارقلیط کا لفظ ۱۸۱۹ء کی اردو بائبل مطبوعہ لنڈن موجود ہے۔“

انجیل یوحنا کی ذاتی تصدیق بھی ملاحظہ ہو۔ لیکن وہ یعنی روح حق آئے گا۔ (ب ۱۶، آیت ۱۳) لفظ وہ کی جگہ وہ نبی تھا۔ جیسا کہ اسی یوحنا کے (ب ۱، آیت ۲۱) کا آخری جملہ ہے۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ مگر یہاں نبی کا لفظ حذف کر کے اس کی دوسری صفت ”روح حق“ بمعنی سچا پیغمبر ذکر کر دی گئی۔ مگر اصل مصداق وہی ذات آخر الزمان ﷺ ہے۔

آخری بات بھی سماعت فرمائیجئے کہ اگر ہم تمہارے کہنے کے مطابق فارقلیط کا معنی روح حق بھی تسلیم کر لیں تو پھر بھی آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ روح حق کا معنی خود خط یوحنا اول کے باب چہارم میں ”سچا پیغمبر“ مراد لیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اور (مکافقہ ب ۱۹، آیت ۱۱) کے مطابق سید کائنات ﷺ ہی امین اور صادق کے القاب مطہرہ سے مشہور ہیں۔ ایسے ہی دوسری الفاظ وکیل، شفیع، تسلی دینے والا وغیرہ نمایاں طور پر آپ ہی کی ذات اقدس پر صادق آتے ہیں۔ لہذا اپنی کامیابی اور حصول نجات کے لئے دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستگی ہی دونوں جہاں کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات!

دوسرا مددگار..... عیسائی پادریوں کو ایک قیمتی مشورہ اور ایک اہم سوال مسیحی علماء انجیل یوحنا کی بشارات کے متعلق کہتے ہیں کہ: ”دوسرے مددگار“ کا مصداق وہ روح القدس ہے جو کہ واقعہ صلیب مسیح کے پچاس دن بعد حواریوں پر آگ کی سی زبانوں کی صورت میں نازل ہوا۔ (اعمال ب ۲) مگر علمائے اسلام واضح اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے مندرجہ بالا طور میں ملاحظہ فرمالیا ہے۔

عیسائی علماء کی اس ناحق سیدہ زوری پر مجھے بہت تعجب ہے کہ باوجود دعویٰ علمی کے وہ

اس سو فیصد غلط مصداق پر وہ کیوں اڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس روح القدس کی بجائے اس سے واضح ترین مصداق کا دعویٰ کرتے تو شاید ان کے اس دعویٰ میں کچھ جان ہوتی۔ وہ ہے جناب پولوس۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج تک یہ بات کسی بھی پادری صاحب کو نہیں سوجھی۔

جناب پولوس وہ ہستی ہے کہ جس نے مسیحی مکاشفہ کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ مسیح علیہ السلام کے خاص تربیت یافتہ حواری بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ بلکہ تکمیل مسیحیت صرف اپنی ذات سے ہی وابستہ کر لی۔ انا جیل اربعہ کے بعد صرف خطوط پولوس ہی تمام مسیحیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سے بھی پہلے مرتب ہو گئے۔ حتیٰ کہ جناب پولوس نے صاف اعلان بھی کر دیا کہ میرے سوا جو کوئی اور انجیل سناوے چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ”وہ ملعون ہو“ (گلیتوں ب ۱، آیت ۸، ۹)

حالانکہ مسیح علیہ السلام کے حواری ایسے برگزیدہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بارہ تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کی عدالت کرو گے اور فرمایا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے۔ ان کے معاف ہوں گے۔ (یوحنا ب ۲۰، آیت ۲۳) ان کو بدر روحمیں نکالنے اور معجزات دکھانے کا اختیار بخشا۔ ان کے لئے خدائی حفاظت کی خصوصی دعاء فرمائی۔ (یوحنا ب ۱۷، آیت ۱۵) خاص کر سردار حواریاں جناب پطرس کو تو آسمان وزمین کے اختیارات کی چابیاں عطا فرمائیں۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا۔ نیز اپنی امت کا خاص رکھوالا مقرر فرمایا۔ (یوحنا ب ۲۱، آیت ۱۵) تمام حواریوں کو روح القدس سے نوازا۔ (یوحنا ب ۲۰، آیت ۲۲) اور بقول شہان پر روح القدس نازل بھی ہوا۔

(اعمال ب ۲)

ان تمام فضائل کے باوجود جناب پولوس آگے بڑھ کر تمام مسیحیت کی قیادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اصولاً رسول بھی نہیں بنتا۔ (اعمال ب ۱) مگر اس نے بذریعہ مکاشفہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ دھڑلے سے کیا۔

ملاحظہ ہو شان پولوس:

- ۱..... ہر خط کے ابتداء میں اپنا رسول من اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔
- ۲..... فرمایا: میں مسیح علیہ السلام کے ساتھ مصلوب ہو کر مر گیا۔ اب میں مسیح علیہ السلام ہی میں زندہ ہوں۔ (گلیتہ ب ۲، آیت ۲۰)
- ۳..... میں یقیناً غیر اقوام (غیر اسرائیلی) کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوں۔ (ٹیموتھی اب ۲، آیت ۷)



- ۴..... میں مسیح علیہ السلام کے لئے منادی کرنے والا اور استاد مقرر ہوا ہوں۔  
(ٹموتھی اب، آیت ۱۱)
- ۵..... مسیح علیہ السلام کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر آگے کمال کی طرف قدم بڑھانے والا۔  
(خط عبرانیوں ب، ۶، آیت ۱)
- ۶..... میں خدائی انتظام کے تحت اس کا خادم بنا، تاکہ ساری دنیا میں اس کی منادی کروں۔ یعنی اس بھید کی جو آج تک پوشیدہ رہا۔  
(کلیسیوں ب، ۱، آیت ۲۶ تا ۲۸)
- ۷..... یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس انجیل کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔  
(تیموتیس اب، آیت ۱۱، تھسلونیکی ب، ۲، آیت ۲، ۳)
- ۸..... وہ اصلی بھید جو مجھے بطور مکاشفہ حاصل ہوا۔ پہلے پوشیدہ تھا اب ظاہر ہوا۔  
(افیسوں ب، ۳، آیت ۵ تا ۵)
- ۹..... غیر اقوام کی طرف میں رسول ہوں۔  
(افیسوں ب، ۳، آیت ۶، ۷)
- ۱۰..... خدا نے اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا۔ جو انجیل مسیح علیہ السلام سپرد ہوا۔  
(ططس ب، ۱، آیت ۳)
- ایسے ہی مختلف انفرادی دعوے مثلاً (کرنٹھ اب، ۴، آیت ۱۵، ٹیموتیس ب، ۲، کرنٹھ ب، ۹، آیت ۵-۱۵، رومیوں ب، ۱۵، آیت ۱۵، ۱۸، ۲۰، کرنٹھ ب، ۹، آیت ۱) وغیرہ۔
- ملاحظہ ہو: کیسا نمایاں مقام ہے جناب پولوس کا۔ ایمان داری سے فرمائیے کہ دوسرے مددگار کا مصداق یہ عظیم الشان ہستی ہو سکتی ہے یا وہ ”آگ کی زبانیں“؟ آج تک تمہارے ذہنوں میں یہ قیمتی تجویز کیوں نہ آئی۔ اب بھی موقعہ ہے ہمت کرو اور آج سے ہی دوسرے مددگار کا مصداق جناب پولوس کو قرار دے کر علمائے اسلام کے ساتھ مقابلہ پر آؤ۔ پہلا مقابلہ تو بالکل ہی بے وزن تھا۔ مگر اس مقابلہ میں بظاہر کچھ وزن ہے۔
- بشارات سید الانبیاء علیہ السلام
- (عہد قدیم) کتاب پیدائش ب، ۱۲، آیت ۳ تا ۷، ب، ۷، آیت ۸، ب، ۲۲، آیت ۸ تا ۱۵، ب، ۳۹، آیت ۷،
- استثناء ب، ۱۸، آیت ۱۸، ب، ۳۳، آیت ۲،
- زبور ۷۷، ۶۸، ۷۲، ب، ۸۴، آیت ۷، ب، ۸۹، آیت ۸-۲۱، ب، ۶۶، آیت ۹ تا ۱۳، ب، ۹۷، ۱۱۸، آیت ۱۹ تا ۲۴،

یسعیاہ ۲۱، آیت ۱۳، ۲۸، ۳۲، آیت ۱۰، ۶۲، ۵۱، آیت ۱۶، ۵۹،

آیت ۲۱، ۵۲، آیت ۱، ۶۰، آیت ۱، ۶۵،

یرمیاہ ۳۱، آیت ۳۱،

غزل الغزلات ۵،

یوایل نبی ۳، آیت ۱۱،

صفیاہ ۲، آیت ۹-۱۱، ۲، آیت ۱۲،

حقوق ۳، ملاکی نبی ۳، حجی نبی ۲، آیت ۶، ۷،

تمام بشارات کے مصداق کی تشریف آوری

جب یہ ساری بشارتوں والے رسول معظمؐ آگئے تو چارواں تک عالم میں اعلان کر دیا گیا۔

”لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبه: ۱۲۸) يا ايها الناس قد جاءكم الرسل بالحق

(النساء: ۱۷۰)“ ﴿بلاشبہ وہ بشارتوں اور شانوں والا رسول معظمؐ پہنچا۔ وہ تمام رسولوں اور

کتابوں کی بشارتوں والا عہد کا رسولؐ آگیا۔ وہ توراۃ موسیٰ علیہ السلام والا رسولؐ وہ انجیل والا، تسلی،

تسلی دہندہ، مددگار، وکیل، شفیع اور غم خوار کائنات آگیا۔﴾

وہ بشارت یعقوب علیہ السلام کا مصداق (پیدائش ۳۹، آیت ۱۰) زبور داؤدی والا

محبوب اور دس ہزار میں ممتاز صحرا کا سوار (زبور ۶۷) ہمیشہ قائم رہنے والا صداقت کا علمبردار

(زبور ۷۷) وہ دنیا کا شہنشاہ (زبور ۹۷) کرہ ارض کی سچی عدالت کرنے والا (زبور ۹۶) وہ تاجستان کا

آخری رکھوالا (متی ۲۱، آیت ۳۳، لوقا ۲۰، آیت ۱۶)

عزیز علیہ ما عنتم! وہ تمہارا غم خوار کہ تمہاری ایک کانٹے کی تکلیف بھی اس کو

گوارہ نہیں اور تمہارے ہر قسم کے فوائد اور بہتریوں کا خواہش مند۔ مومن ہو یا کافر سب کی بھلائی

کا طلب گار اور آخرت میں اپنے دامن گیروں پر انتہائی شفقت اور مہربانی فرمانے والا سایہ گلن

ہو گیا۔ ”لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور

الرحيم (الزمر: ۵۳) وانيبوا الى ربكم واسلموا اله قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا

تنصرون (النور: ۵۴)“ ”مژدہ نجات کا اعلان کرنے والا“ ”النذير العريان“ ”اور“ ”وما

ارسلناك الا رحمة للعالمين“ ”والا تاجدار“ ”انا فرطكم على الحوض“ ”کامرت

آميز اور فکر انگیز پیغام دینے والا آگیا۔ لہذا آمینوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا (تغابن: ۸) اور سنو: ”تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً (فرقان: ۱) انا ارسلناک شہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیراً (الاحزاب: ۴۶، ۴۵)“

”لقد جاءکم نور وکتاب مبین (مائدہ: ۱۵) وارسلناک للناس رسولاً . قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفرلکم من ذنوبکم . فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً“

ورنہ خوب سن لو: ”ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ماتولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا (النساء: ۱۱۵)“

”الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالداً فیہا ذالک الخزی العظیم (توبہ: ۶۳)“

”فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ اویصیبہم عذاب الیم (النور: ۶۳)“ لہذا ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علینا ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین (النور: ۵۴)“

”ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ یتقہ فاولئک ہم الفائزون (النور: ۵۲)“ ورنہ اور سن لو: ”یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً یویلتی لم اتخذ فلاناً خلیلاً . لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطن للانسان خنولاً (الفرقان: ۲۷)“ اور ادھر ”وقال الرسول یرب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجوراً (الفرقان: ۳۰)“

مزید وضاحت: قرآن نے فرمایا کہ: ”الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندهم فی التورۃ والانجیل (الاعراف: ۱۵۷) التبی الامی“ کی عظیم الشان انجیل پیش گوئی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں تمام لوگ تین ہستیوں کی آمد کے منتظر تھے۔ ایلیا، مسیح علیہ السلام اور وہ نبی (عہد کا رسول)

جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو یہودی علماء نے ایک وفد ان کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر پوچھو کہ آپ ان تینوں میں سے کون ہیں؟ چنانچہ (انجیل یوحنا ۱) عربی میں ہے۔ ”وهذه شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اوله شليم كهنة ولا وبين ليسالوه من انت؟ فاعترف ولم ينكروا واقرانى لست انا المسيح فسالوه اذا ماذا؟ ايليا انت؟ فقال لست انا النبی انت؟ فاجاب لا فسالوه وقالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبی“ ﴿ازاردو بائبل﴾ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لادی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا۔ انکار نہ کیا۔ بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح علیہ السلام نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے۔ (یعنی عہد والا ختم المرسلین ﷺ)؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اگر تو نہ مسیح علیہ السلام ہے نہ ایلیا (الیاس) نہ وہ نبی تو پھر پتہ کیوں دیتا ہے؟ ﴿

ریفرنس بائبل میں ”وہ نبی پر“ (استہاب ۱۸، آیت ۱۸) کا حوالہ درج ہے۔ گویا وہ نبی مسیح علیہ السلام کے علاوہ ہے۔ جو بشارت موسوی کا مصداق ہے۔

(یوحنا ۱، آیت ۱۹-۲۷) میں ہے۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہ وہی نبی ہے۔ اوروں نے کہا یہ مسیح علیہ السلام ہے۔ مگر وہ تھے مسیح علیہ السلام نہ کہ وہ نبی۔ لوگوں کو وہی نبی کہنا ان کا خیال ہے۔

ناظرین! دیکھئے کتنی وضاحت ہو رہی ہے کہ تینوں ہستیاں بنی اسرائیل کے انتظار کا مرکز تھیں۔ بقول مسیح علیہ السلام ایلیا آگیا اور مسیح علیہ السلام خود آ گئے۔ باقی وہ نبی جس کو ہمارے محاورہ میں آنحضرت اور آنحضور ﷺ کہتے ہیں وہ کہاں اور کب تشریف لایا؟ اے توراۃ والے یہودیو! ذرا بتاؤ سہی..... اے انجیل والے عیسائیو! تم بھی ذرا غور کر کے بتاؤ کہ وہ ”النبی“ کون ہے؟ آؤ میں بتاؤں کہ وہ ”النبی“ وہی ہے جو اب بھی آنحضرت ﷺ اور آنحضور ﷺ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ وہ وہی روح حق وکیل و شفیع، مددگار، تسلی دینے والا اور دنیا عالم کا ابد تک رہنے والا سردار اور نجات دہندہ ہے۔ جس کا اعلان حضرت مسیح علیہ السلام نے آتے ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر آؤ اقرار کر لو کہ یہ وہی ہے۔ جس نے آکر اعلان فرمایا (اور تانستان کا آخری رکھوالا قراردیا) (انجیل متی ۲۱، آیت ۳۳)

## سرتاج الانبیاء ﷺ کا عالمگیر اعلان رسالت

”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموات والارض ، لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون (الاعراف: ۱۵۸)“ اس آیت میں یوں یکلمہ کا جملہ نہایت توجہ طلب ہے۔

### چند نکات علمیہ

آیت: ”یا ایہا الناس“ میں اگلا جملہ ”الذی لہ ملک السموات“ نہایت ہی معنی نثر ہے۔ کہ جیسے خدا کی بادشاہت تمام کائنات پر ہمیشہ حاوی ہے۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت بھی تمام کائنات کو حاوی ہے۔ (سجاء ب ۴۲، آیت ۱۰ سے ب ۶۲، آیت ۱۲ تا ۱۵، ب ۶۵، حقوق نبی ب ۳) نکات علمیہ

۱..... ”الست بربکم“ والی آیت میں کلمہ طیبہ کے جزو اول یعنی توحید کا سب سے عہد لیا اور اس آیت میں ایک عجیب انداز سے دوسرے جزو محمد رسول اللہ ﷺ کا عہد لیا۔ گویا لا انبیاء علیہ السلام کا کلمہ مرتب کر کے اور تصدیق کروا کے کائنات کی پیشانی پر لکھ دیا۔ پھر سلسلہ انبیاء کو شروع فرمایا۔ ایسے ہی پہلے اس مقصود کائنات کا عبادت خانہ (کعبۃ اللہ) بنوایا۔ پھر اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ فرمایا: ”ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکاً (آل عمران: ۹۶)“ اسی لئے فرمایا کہ وہ اپنے پہلے میں اچانک آ موجود ہوگا۔ یعنی اس کا عبادت خانہ پہلے ہی بنا دیا گیا۔ بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے۔

۲..... توحید والے عہد میں انداز سادہ ہے کہ صرف سوال ہے کہ: ”الست بربکم“ جواب بھی لوگوں سے ہی لیا۔ ”قالوا بلی“ بخلاف اس کے کہ اس کی ابتداء ہی اخذ میثاق کے لفظ سے ہے۔ پھر مخاطبین کو تاکید احکام دیئے کہ: ”للتؤمنن بہ ولتنصرنہ“ کہ اس رسول معبود کی آمد پر ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لام تاکید اور نون ثقلیہ سے مؤکد فرمایا کہ تم نے ضرور بضر و ایمان لانا ہوگا۔

۳..... انبیاء علیہم السلام معمولی معصیت سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ مگر اتنی تاکیدات فرمائیں کہ عقل انسانی حیران ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”اء قد رتم“ ان کے جواب سے پہلے خود ہی فرمایا۔ ”واخذتم علی ذالکم اصری“ پھر ذالک بھی نہیں فرمایا۔ بلکہ ذالکم فرمایا۔ گویا تینوں لفظ اخذتم، ذالکم، اصری، برائے استیثاق اور تاکید ہیں۔

۴..... جب سب نے اقرارنا کہا تو پھر بطور تاکید مزید فرمایا: ”فاشہدوا“ اے  
 مردہ انبیاء علیہم السلام تم اس عہد پر گواہ رہنا۔ کتنی تاکید ہے۔ پھر اسی پر ہی اکتفا نہیں۔ بلکہ فرمایا:  
 ”انا معکم من الشاہدین (آل عمران: ۸۱)“ کہ صرف تمہاری گواہی اور اقرار نہیں بلکہ میں  
 بھی تمہارے ساتھ اس عہد پر گواہ ہوں کہ محمد مصطفیٰ ﷺ خدا کے آخری رسول ہوں گے اور ان کی  
 نصرت و حمایت سب پر فرض ہے۔ ”سبحان اللہ ما اعظم شانہ قد صدق اللہ  
 ورفعدالك ذکرك“

۵..... باوجود کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں۔ مگر شان  
 رسالت اور مسئلہ ختم نبوت کو مستحکم کرنے اور اہمیت دینے کے لئے فرمایا کہ: ”ومن کفر بعد  
 ذالك فاولئك هم الفاسقون (آل عمران: ۸۲)“ حالانکہ ان سے صدور انحراف و عصیان  
 محال ہے۔ صرف عہد کی پختگی اور امتوں کی تلقین مؤکد کرنا مقصود ہے۔ امکان صدور فسق و کفر در حق  
 انبیاء علیہم السلام معاذ اللہ مراد نہیں۔ جیسے کہ در بارہ ملائکہ مقررین فرمایا: ”ومن یقل منهم انی  
 الہ من دونہ فذالك یخزیہ جہنم کذالك یخزی الظالمین“

تو جیسے ملائکہ جیسی معصوم مخلوق سے اس قول ”انی الہ من دونہ“ کا صدور محال  
 ہے۔ محض قباحت شرک بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اہمیت مسئلہ ختم نبوت  
 بیان کرنا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کو تسلیم کرنا نہایت ضروری  
 ہے۔ اس کے بغیر تکمیل ایمان نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا تشریحی یا غیر تشریحی نبی  
 نہیں بنایا جاسکتا۔ ہاں پہلا اگر کوئی زندہ موجود ہو اور وہ آجائے تو وہ اس ختم نبوت کے مفہوم  
 کی مخالفت نہیں۔

کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ہمارے ایمان کا جزو ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے  
 سیریل نمبر میں آچکے ہیں۔ مگر اب جو نیا آئے گا وہ سیریل نمبر میں اضافہ کا باعث بنے گا اور یہ  
 اضافہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ چونکہ یہ تمام انبیاء آچکے ہیں۔ حتیٰ کہ آخری نمبر پر آنے والے پر  
 ختم نبوت کی مہر لگا کر بھیجا گیا۔ لہذا اب یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔

### مرزائی عقیدہ

حضرات آئیے! مندرجہ بالا آیات کے تحت تمام تفصیل قرآن و حدیث اور بائبل سے  
 ملاحظہ فرمائیں کہ مسئلہ ختم نبوت کو کس اہتمام سے تمام کائنات میں پھیلا یا گیا ہے اور سید  
 المرسلین ﷺ کا مقام خاتمیت کس قدر وسیع پیمانے پر اجاگر فرمایا گیا ہے۔ مگر زندہ لائقوں نے اس مقام

پر بھی حیا نہیں کی۔ بلکہ نہایت بے حیائی سے بکنے لگے کہ اس آیت کا مصداق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ  
قادیانی دجال ہے۔ دیکھئے:

لیا تھا جو میثاق سب انبیاء " سے  
(العیاذ باللہ) وہی عہد حق لیا مصطفیٰ سے  
وہ نوح و خلیل " و کلیم " و مسیحاً  
سبھی سے یہ پیغام محکم لیا تھا  
مبارک وہ امت کا موعود آیا  
وہ میثاق ملت کا مقصود آیا  
کریں اہل اسلام اب عہد پورا  
بنے آج ہر ایک عبداً شکورا

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۶۷ ص ۱، مورخہ ۲۶ فروری ۱۹۲۳ء)

یہی مضمون مزید تفصیل سے (الفضل ج ۳، نمبر ۳۸، ۳۹، ص ۶، مورخہ ۱۹، ۲۱ ستمبر ۱۹۱۵ء) میں

بھی مذکور ہے۔

یہی نہیں بلکہ ہر وہ آیت جو مقام مصطفیٰ ﷺ کو بیان کرتی ہے یہ لعین قادیان کہتا ہے  
کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ دیکھئے (حقیقت الوحی ص ۷۰ تا ۱۱۰) تک بے شمار آیات قرآنیہ کو اپنی  
وحی بتلاتا ہے۔ مرزا قادیانی انتہائی عیار اور خبیث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان جیسے دجال اپنی  
شیطانی وحی پیش کر کے منہ کی کھا چکے ہیں اور جگ ہنسائی کرا چکے ہیں۔ لہذا اس نے قرآنی  
آیات میں بعینہ یا تھوڑی سی تحریف کر کے اپنی وحی کا عنوان دے دیا۔ تاکہ وہ خفت نہ اٹھانی  
پڑے جو اس کے پیش رواٹھا چکے ہیں۔ "لعنہم اللہ اجمعین واعاذنا اللہ منهم  
برحمته وفضله تعالیٰ"

قادیانی عوام کو دعوت اسلام دینے کے لئے جدید فارمولا

مبلغین اسلام کو چاہئے کہ یہی آیات سنا کر سمجھائیں کہ ہر وہ آیت جو مقام مصطفیٰ ﷺ  
کو بیان کرتی ہے۔ وہ مرزا قادیانی اپنے بارہ میں بتلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سا کفر ہو سکتا  
ہے اور پھر صاف لکھا کہ: "قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

حالانکہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق..... ایسے ہی لکھا کہ: ”آسمان سے بہت سے تخت اترے۔ مگر میرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“ (حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

حالانکہ سب سے اونچا تخت سرور انبیاء ﷺ کا ہے۔ کیا اب بھی مدعی نبوت ہونے میں شبہ ہے؟

اہل اسلام ذرا قلب و جگر کو تھام کر اور سنئے: مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ:

”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۵)

”لولاک لما خلقت الافلاک“ (حقیقت الوحی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

”انا ارسلنا الیکم رسولاً شأهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولاً“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

”انا اعطیناک الکوثر“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۲، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

”اراد اللہ ان یبعثک مقام محموداً“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۲، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

”یس . انک لمن المرسلین“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

”انا فتحنا لک فتحاً مبیناً لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک وما تاخر“ (حقیقت الوحی ص ۹۳، خزائن ج ۲۲ ص ۹۷)

”انی لا یخاف لدی المرسلون“ (حقیقت الوحی ص ۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۹۴)

”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ“ (حقیقت الوحی ص ۷۹، خزائن ج ۲۲ ص ۸۲)

”دنئی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی“ (حقیقت الوحی ص ۷۶، خزائن ج ۲۲ ص ۷۹)

”سبحان الذی اسرئ بعبدہ لیلاً“ (حقیقت الوحی ص ۷۸، خزائن ج ۲۲ ص ۸۱)

”وداعیاً الی اللہ وسراجاً منیراً“ (حقیقت الوحی ص ۷۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

”محمد رسول اللہ والذین معہ“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

”هو الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین“ (حقیقت الوحی ص ۷۱، خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)

کلہ

اے محمد رسول اللہ ﷺ کے پیارے امتیو۔ ایمان داری سے بتاؤ کہ کیا یہ تمام آیات قرآنی آپ کا منصب بیان نہیں کرتیں؟



ہاں ہاں یہ آیات صرف اور صرف محمد رسول اللہ ﷺ کے حق میں ہیں۔ پھر جو شخص اٹھ کر کہے کہ یہ آیات میرے بارہ میں اتری ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے کفر و ارتداد میں کسی قسم کا شبہ رہ سکتا ہے؟

اہل اسلام ہوش کرو، اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کرو۔ جو زبان منصب خاتم الانبیاء ﷺ کے خلاف کھلتی ہے۔ اس کو گدی سے پکڑ کر کھینچ دو ورنہ روز محشر شفاعت کی امید مت رکھو۔

بشارات خاتم الانبیاء ﷺ در عہد جدید

انجیل متی ب ۳، آیت ۱۰، ب ۳، آیت ۷، ب ۶، آیت ۹، ب ۲۱، آیت ۳۳ تا ۴۴

مرقس ب ۱، آیت ۱۵، لوقا ب ۱۱، آیت ۱

یوحنا ب ۱، آیت ۲۱، ب ۱۴، آیت ۲۶، ب ۱۴، آیت ۳۰، ب ۱۵، آیت ۲۶، ب ۱۶،

آیت ۷ تا ۱۵، اعمال ب ۳، آیت ۱۹ تا ۲۶، ب ۷، آیت ۳۷

عبرانیوں ب ۸، آیت ۸، مکاشفہ ب ۱۴، آیت ۶، ب ۷، آیت ۱۱

استدراک

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں کئی سر کردہ مترجمین بھی مسامحت کے مرتکب ہوئے۔ جملہ ”ثم جاء کم رسول“ کا ترجمہ ان بزرگوں نے کیا۔ پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول۔ حالانکہ یہ ترجمہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس لئے کہ ابتداء ہی آیت میں جو اہتمام اس عہد اور میثاق کا کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ خداوند قدوس نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک طرف رکھا اور اس جملہ ”ثم جاء کم رسول“ کو ایک طرف رکھا۔ گویا تمام نبیوں سے اس مخصوص رسول کے متعلق ایک عہد لیا جا رہا ہے۔ یہ انداز بیاں ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی عام رسول نہیں۔ بلکہ ایک خاص اور ذیشان رسول ہے۔ جس کو سب کے بعد الگ کر کے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جس کے متعلق سب سے ایک خاص عہد لیا جا رہا ہے۔ پھر عہد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتمم بالشان ہیں کہ اس کی اہمیت خود بخود ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ مثلاً ان الفاظ کو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ لایا گیا۔ ”لَتَقُومَنَّ بَہْ وَلَتَنْصُرَنَّهُ“ پھر اسی اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ مکرر سہ کر راسی عہد پر سب کی گواہی اور پھر اپنی گواہی مرتب کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس سے قبل اقرار عہد کروایا جا رہا ہے۔ ”اَءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰی ذَالِكُمْ اٰصْرٰی قَالُوا اَقْرَرْنَا (آل عمران: ۸۱)“ اس کے بعد اس عظیم الشان عہد میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کو نا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا

جا رہا ہے۔ گویا جیسے اپنی الوہیت میں کسی قسم کی کوتاہی و تقصیر ناقابل برداشت ہونا بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اس رسول معظم پر ایمان و نصرت میں معمولی کوتاہی کا ناقابل گنجائش ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسی ہی مطابقت اس رسول معظم ﷺ کے اعلان رسالت عامہ کے بارہ میں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو: ”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموات والارض (اعراف: ۱۵۸)“

یثاق النبین میں الف لام استغراقی ہے۔

اس آیت کا سیاق و سباق بھی پوری تائید کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو اس سے پہلے آیت نمبر ۷۸: ”ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا“

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقین اور عقیدت مندی کا دعویٰ کرنے والے نہ یہود ہو سکتے ہیں نہ نصاریٰ اور نہ ہی مشرکین مکہ۔ بلکہ سب سے زیادہ حق دار آپ کے وہ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور بالخصوص یہ نبیؐ اور اس نبیؐ پر ایمان لانے والے۔

اہل اسلام! پھر آیت نمبر ۷۳ بھی قابل توجہ ہے۔ ایسے ہی نمبر ۸۶: ”کیف یرید اللہ قوماً کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق“ میں اسی رسول معظم کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر ۱۰۱ میں بھی خاص کر اسی ذات مقدسہ کا ذکر ہے۔ گویا اس آیت کے پہلے اور بعد میں بھی اسی رسول معظم ﷺ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس مضمون کی تائید اور مکمل وضاحت کے لئے ملاحظہ فرمائیے: محدث کبیر سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ کی نادر کتاب عقیدۃ الاسلام ص ۲۶ سے ص ۳۶ تک۔

نیز اس ترجمہ اور مفہوم کی تصدیق کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر جمع الجوامع از علامہ طبری شیعہ۔ درس نظامی کی یگانہ روزگار تفسیر جلالین۔ جامع البیان، روح المعانی، مدارک وغیرہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ اور حواشی اور ان کی کتب تجلی الیقین وغیرہ۔ مزہ کی بات یہ ہے کہ بعینہ بلکہ اس سے کھول کر یہ ترجمہ مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳) پھر یہ ترجمہ (کوئی رسول) اس لئے بھی کامل نہیں کہ اسی رسول (التوین للعظیم) کا تذکرہ سارے قرآن مجید میں اسی انداز سے کیا جا رہا ہے۔

ملاحظہ ہو دعائے خلیل علیہ السلام۔ ”ربنا وابعث فیہم رسولاً (البقرہ: ۱۲۹)“ پھر اس کی قبولیت کا اعلان ”هو الذی بعث فی الامیین رسولاً (الجمعة: ۲)“

اہل ایمان (امت مسلمہ) جو کہ دعائے ظلیل علیہ السلام کی ہی قبولیت کا مصداق ہے) پر اظہار احسان ہو رہا ہے۔ ”لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا (آل عمران: ۱۶۴)“ کہیں امت مرحومہ پر بطور اتمام نعمت مثل جہت قبلہ کے طور پر فرمایا: ”کما ارسلنا الیکم رسولا منکم“ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ ”انا ارسلنا الیکم رسولا شاهداً (المزمل: ۱۰)“ کہیں آپ کی تشریف آوری کو بطور محسن اعظم یوں فرمایا: ”لقد جاءکم رسول من انفسکم (التوبہ: ۱۲۸)“ کہیں ”هذا النبی و فیکم رسولہ (آل عمران: ۱۰۱)“ ان الرسول حق (آل عمران: ۸۶) وغیرہا من الآیات الکثیرہ ”جیسے“ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً (الفتح: ۲۸)“

پھر اسی عہد و میثاق والے رسول معظمؐ کا اعلان ہر پیغمبر سے کروانے کے بعد آخری مبشر حضرت مسیح علیہ السلام سے یوں اعلان کروایا جا رہا ہے۔ ”یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدق لما بین یدی من التوراة و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینت قالو هذا سحر مبین (الصف: ۶)“ پھر اسی کی تشریف آوری پر اہل کتاب کے رد عمل کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ”ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدقاً لما معہم نبذ فریق من الذین اوتو الكتاب کتاب اللہ و راء ظہورہم (البقرہ: ۱۰۱)“

گویا سارے قرآن میں اور ساری کائنات میں اسی رسول معظمؐ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تقریباً اسی تخوین کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزیز ہم سب کو اور تمام کائنات کو اسی رسول معظمؐ کے دامن اطہر سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین!

سید المرسلین ﷺ کی ایک نمایاں بشارت

”اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو۔ اے جزیرو اور اس کے باشندو، خداوند کے لئے نیابت گاؤ۔ زمین پر سرتاسر اسی کی ستائش کرو۔ پیابان اور اس کی بستیاں، قیدار کے آباد گاہوں، اپنی آواز بلند کریں۔ سلع (مدینہ طیبہ کا ایک پہاڑ) کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ وہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ جزیروں میں اس کی ثناء خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا۔ وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت دکھلائے گا۔ وہ غرہ مارے گا۔ ہاں وہ للکارے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔“ (یسعیاہ: ۴۲، آیات ۱۰-۱۳)

الحمد لله الذي جعل القرآن  
مكتوباً على لوحٍ من نور  
مبيناً للناس ما كانوا  
في غمٍّ من

# آئینہ قادیانی

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup>

## آئینہ قادیانی

”الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى“ اما بعد . قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ۳) وقال النبي ﷺ انا خاتم النبيين لا نبي بعدى (ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۸)“

حضرات! یہ جہاں ایک میدان کا راز رہے۔ جس میں حق اور باطل کی ٹکر ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ غلبہ حق ہی رہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش و خروش سے اٹھتے ہیں۔ مگر لشکر حقانی اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی اس میدان میں نمرود ابراہیم نبرد آزما ہوئے تو کبھی موسیٰ اور فرعون ٹکرائے۔ مگر نتیجہ دنیا کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہر زمانہ کے اندر حق و باطل کے معرکے ہوئے۔ بڑے بڑے دجال اور گمراہ پیدا ہوئے۔ مگر حق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور ہی کامیاب ہوتا ہے۔ چونکہ حق کو تائید ایزدی میسر ہے۔ اس لئے ہمیشہ غالب رہا۔ کفر و دجل ہمیشہ بے سہارا ہونے کی وجہ سے ناکام ہوا۔ باطل نئے نئے روپ کے اندر رونما ہوتا رہا۔ مگر حق ہمیشہ ایک ہی صورت میں ظاہر ہو کر اس کو بخ دین سے اکھاڑ پھینکتا۔ غرض یہ بات طول طلب ہے۔ اپنے ہی زمانہ کو ملاحظہ فرمائیے کہ باطل کن کن بہرہ و پوں میں ظاہر ہو رہا ہے اور کیا کیا حربے حق کو ناکام کرنے کے استعمال کر رہا ہے۔ کہیں بغض صحابہؓ ہے تو کہیں انکار حدیث۔ کہیں ختم نبوت کا انکار ہے کہیں قرآن کا انکار ہے۔ کسی طرف تجدید اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ الغرض فتنے بے شمار ہیں۔ مگر دفاع بڑا کمزور ہے۔ ہم میں شعور ختم ہو چکا ہے۔ کوئی کچھ کر جائے ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مزید یہ مصیبت کہ اس بے غیرتی کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں جو ختم ہونے کی نہیں۔ مگر اس وقت جو یہاں مقصود ہے وہ فتنہ قادیانی ہے۔ جس نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی بڑی تنگ و دو کی ہے۔ عقائد سے لے کر اعمال تک دسترس کی ہے اور اس کا بانی بھی ایک عجیب انسان ہے۔ آج تک دیدہ عالم نے ایسے انسان کی صورت نہ دیکھی ہوگی نہ آئندہ امکان ہے۔ اس کے پناہ سے ہر ایک چیز تم کو مل جائے گی۔ اتنے روپ بدلتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آج مجدد ہے تو کل مثل مسیح، کبھی عیسیٰ ہے تو کبھی موسیٰ، کبھی ابراہیم، کبھی نوح، کبھی رتبہ رسالت پر براجمان ہے تو کہیں تخت الوہیت پر جلوہ گر، کبھی مرد ہے تو کبھی عورت، کبھی معدنیات میں سے ہے تو کبھی حیوانات میں۔ الغرض نسلیں ہیں اس کی بے شمار۔ بلکہ اصیلیں ہیں اس کی بے شمار۔

ایک عقل مند انسان تان مختلف دعووں سے ہی جان جائے گا کہ یہ قادیانی جھوٹا ہے یا سچا۔ مگر ان لوگوں کے طبقات مختلف ہیں۔ کوئی زیرک ہوتا ہے۔ کوئی ذرا موٹی عقل کا ہوتا ہے۔ لہذا ایک کسوٹی کی ضرورت ہے کہ جس پر اس کا صدق و کذب پرکھا جاسکے تو گزارش ہے کہ انسان کی سیرت اور حالات زندگی سے بڑھ کر کوئی کسوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جب فخر الرسل ﷺ نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو پہلے فرمایا۔ اے لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مجھے سچا سمجھو گے تو قوم کا جواب سنو! ”قالو نعم ما جرت بنا علیک الا صدقاً“ یعنی کہنے لگے ہاں ضرور مان لیں گے۔ اس لئے کہ ہم نے آپ سے سچ کے سوا کچھ ہی نہیں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قرآن میں پیغمبر کا قول نقل کر رہے ہیں۔ ”لبثت فیکم عمراً“ میں تم میں ایک زندگی کا عرصہ گزار چکا ہوں۔ جس کے پیش نظر تم میرے متعلق فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا دعویٰ سچا ہے یا کچھ اور (العیاذ باللہ) غرض کہ سیرت ایک عمدہ کسوٹی ہے۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی کے سچایا جھوٹا جاننے کے لئے ان کی سیرت کے چند اقتباس پیش کر رہے ہیں اور وہ سب قادیانی مذہب سے لئے گئے ہیں۔

اب فیصلہ عوام کریں گے کہ اس سیرت مقدسہ کے آئینہ سے کیا کچھ نظر آرہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے دعوائی بھی پیش کریں گے۔ جن سے آپ اس متضاد الصفات اور گرگٹ نما انسان کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اگر سیرت پاک نگلی تو باقی دعاوی مقبول۔ ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہوں گے۔ بلکہ اس میں بھی ٹوکری کی توہین ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

### ذاتی سوانح

”اب میرے سوانح اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطاء محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ سکھوں کے ابتدائی زمانے میں میرے پردادا صاحب مرزا گل محمد ایک نامور اور مشہور رئیس اس نواح کے تھے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میرے پردادا صاحب فوت ہوئے تو بجائے ان کے میرے دادا صاحب یعنی مرزا عطاء محمد فرزند رشید، ان کے گدی نشین ہوئے۔ ان کے وقت میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی میں سکھ غالب آئے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں پر بڑی تباہی آئی اور وہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ان ہی دشمنوں کے منصوبے سے میرے دادا

صاحب کو زہری گئی۔ پھر رنجیت سنگھ کی سلطنت کے آخری زمانے میں میرے والد صاحب مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ قادیان میں واپس آئے اور مرزا قادیانی موصوف کو اپنے والد صاحب کے دیہات میں سے پانچ گاؤں واپس ملے۔ پھر بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کا یا سترہویں برس میں تھا اور ابھی ریش وروت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مصائب دیکھے۔ لیکن میری پیدائش کے دنوں میں ان کی تنگی کا زمانہ فراخی کی طرف بدل گیا تھا۔ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریب اسی برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدائے تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی۔ اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مرصعہ کو جہاں تک خدائے تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہئے۔ کیوں کہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے اور نیز ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں اس شغل سے الگ ہو کر ان کے غموم و ہوموم میں شریک ہو جاؤں۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ میرے والد صاحب اپنے بعض آباؤ اجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے تھے۔ انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میرا ان بیہودہ جھگڑوں میں ضائع

ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی نگرانی میں مجھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔ اس لئے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کا نشانہ رہتا تھا۔ ایسا ہی ان کے زیر سایہ ہونے کے ایام میں چند سال تک میری کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔ (یعنی سیالکوٹ میں کچہری میں ماہوار ۵ روپے کے محرر تھے) آخر چونکہ میرا جدار ہٹا میرے والد پر بہت گراں تھا۔ اس لئے ان کے حکم سے جو عین میری منشاء کے موافق تھا میں نے استفادے کراپے تئیں اس نوکری سے جو میری طبیعت کے مخالف تھی سبکدوش کر دیا اور پھر والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا..... اور جب میں حضرت والد صاحب مرحوم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا تو بدستور ان ہی زمینداری کے کاموں میں معروف ہو گیا۔ مگر اکثر حصہ وقت کا قرآن شریف کے تدبر اور تفسیروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا ہے..... میری عمر قریباً چونتیس یا پینتیس برس کے ہو گئی۔ جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا۔ جب مجھے یہ خواب آیا تھا تب میں جلدی سے قادیان پہنچا اور ان کو مرض پچیس میں مبتلا پایا..... اور میرے والد صاحب اسی دن بعد غروب آفتاب فوت ہو گئے..... غرض میری زندگی قریب قریب چالیس برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کے گذری۔ ایک طرف ان کا دنیا سے اٹھایا جانا تھا اور ایک طرف بڑے زور شور سے سلسلہ مکالمات الہیہ کا مجھ سے شروع ہوا۔“

(کتاب البریہ ص ۱۳۲ تا ۱۷۷ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۶۲ تا ۱۹۵)

۲..... ”بچپن کی بات: ”بیان کیا مجھ سے والدہ نے کہ ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) سناتے تھے کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے بیٹھا لاؤ۔ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھے کے ایک برتن میں سے سفید پورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی۔ بس پھر کیا تھا۔ میرا دم رک گیا اور بڑی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید پورا کچھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ پورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔“ (سیرۃ النہدی حصہ اول ص ۲۳۲، روایت نمبر ۲۳۳، مولفہ: شریحہ قادیانی)

۳..... ادھر ادھر: ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پیشین وصول کر۔ نے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلے گئے۔ جب آپ نے پیشین وصول کر لی تو وہ آپ کو پکڑا اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر جب آ۔ نے سارا روپیہ اٹھا کر



ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے چارے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا۔ ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۳، روایت نمبر ۴۹، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

۴..... بھئی لوگ: ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ مرزا امام الدین اپنے مکان میں کسی کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ بھئی (یعنی بھائی) لوگ (حضرت صاحب کی طرف اشارہ تھا) دوکانیں چلا کر نفع اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی کوئی دوکان چلاتے ہیں۔ والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ پھر اس نے چوہڑوں کی پیری کا سلسلہ جاری کیا۔“

۵..... توبہ توبہ: ”(خاکسار مرزا بشیر احمد) کے ماموں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کے چوزہ کے ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت گھر میں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہ تھا۔ اس لئے حضرت (مرزا قادیانی) اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کر خود ذبح کرنے لگے۔ مگر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ جس سے بہت خون گیا اور آپ توبہ توبہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ چوزہ کسی اور نے ذبح کیا۔..... حضرت مسیح موعود (مرزا) نے چوں کہ کبھی جانور وغیرہ ذبح نہ کئے تھے۔ اس لئے بجائے چوزہ کی گردن کے انگلی پر چھری پھیر لی۔“

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۴۷، روایت نمبر ۳۰، مصنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

”والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہ ہوتا تو تیز سر کندے سے ہی حلال کر لیتے تھے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۵، روایت نمبر ۵۱، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

”بیان کیا مجھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہاری دادی ایمہ ضلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں۔ حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بچپن میں کئی دفعہ

ایمہ گئے ہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملتا تھا تو سر کنڈے سے ذبح کر لیتے تھے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۴۵، روایت نمبر ۵۱، مؤلفہ بشیر احمد قادیانی)

۶..... جیبی گھڑی: ”بیان کیا مجھ سے عبد اللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تحفہ دی۔ حضرت صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کر وقت کا پتہ لگاتے تھے اور انگلی رکھ رکھ کر ہندسہ گنتے تھے اور منہ سے بھی گنتے جاتے تھے۔ میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح وقت شمار کرنا مجھے بہت ہی پیارا معلوم ہوتا تھا۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۱۸۰، روایت نمبر ۱۶۵، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

۷..... لباس: ”جراہیں آپ سردیوں میں استعمال فرماتے اور ان پر مسح فرماتے۔ بعض اوقات زیادہ سردی میں دو دو جراہیں اوپر تلے چڑھا لیتے۔ مگر بارہا جراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر تک ٹھیک نہ چڑھتی۔ کبھی تو سرا آگے ٹکلتا رہتا اور کبھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی اور کبھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی۔“

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۱۲۷، روایت نمبر ۴۴۴، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

”کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تکیہ کے نیچے ہی رکھ لیتے اور رات بھر تمام کپڑے جنہیں محتاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ جگہ کھوٹی پر ٹانگ دیتے تھے۔ وہ بستر پر سر اور جسم کے نیچے ملے جاتے اور صبح کو ان کی ایسی حالت ہو جاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سر پیٹ لے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۱۲۸، روایت نمبر ۴۴۴، مؤلفہ بشیر احمد قادیانی)

”صدری کی جیب میں یا بعض اوقات کوٹ کی جیب میں آپ کا رومال ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ بڑا رومال رکھتے تھے..... اسی کے کونوں میں آپ مشک اور ایسی ہی ضروری ادویہ جو آپ کے استعمال میں رہتی تھیں اور ضروری خطوط وغیرہ باندھ رکھتے تھے اور اسی رومال میں نقدی وغیرہ جو نذر لوگ مسجد میں پیش کرتے تھے باندھ لیا کرتے تھے۔“

(سیرۃ المہدی حصہ دوم ص ۱۲۷، روایت نمبر ۴۴۴، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

”خاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) معمولی نقدی وغیرہ اپنے رومال میں

جو بڑے ساز کا ملل کا بنا ہوا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ سلوا لیتے یا کاج میں بندھوا لیتے تھے اور جابیاں آزار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ سے بعض اوقات لٹک آتا تھا اور والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود عموماً ریشمی آزار بند استعمال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیشاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشمی آزار بند رکھتے تھے۔ تاکہ کھولنے میں آسانی ہو اور گرہ بھی پڑ جائے تو کھولنے میں دقت نہ ہو۔ سوتی آزار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔“

(سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۵۵، روایت نمبر ۶۵، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

۸..... بوٹ کا تحفہ: ”ایک دفعہ ایک شخص نے بوٹ تحفہ میں پیش کیا۔ آپ (مرزا قادیانی) نے اس کی خاطر سے پہن لیا۔ مگر اس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں بائیں طرف کی بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کی بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر اس غلطی سے بچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پر سیاہی سے نشان لگانا پڑا۔“

(سیرت المہدی حصہ اول ص ۶۷، روایت نمبر ۱۸۲)

۹..... خاص اذیتیں: ”نئی جوتی جب پاؤں میں کانٹی تو جھٹ ایڑی بٹھا لیتے تھے اور اسی سبب سے سیر کے وقت گرداڑ کر پنڈلیوں پر پڑ جایا کرتی تھی۔ جس کو لوگ اپنی پکڑیوں وغیرہ سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ حضور (مرزا قادیانی) کی توجہ دنیاوی امور کی طرف نہیں ہوا کرتی۔ اس لئے آپ کی واسکٹ کے بٹن ہمیشہ اپنے چاکوں سے جدا ہی رہتے تھے اور اسی وجہ سے اکثر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سے شکایت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بٹن تو بڑی جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ شیخ رحمت اللہ صاحب یا دیگر احباب اچھے اچھے کپڑے کے کوٹ بنوا کر لایا کرتے تھے۔ حضور کبھی تیل سر مبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سر مبارک اور داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سینہ تک چلا جاتا۔ جس سے قیمتی کوٹ پر دھبے پڑ جاتے۔“

(اخبار الحکم قادیان ج ۳۸ نمبر ۶، مورخہ ۲۱ فروری ۱۹۳۹ء، شخص سیرت المہدی حصہ دوم ص ۱۲۸، ۱۲۹، روایت نمبر ۴۴۴)

۹..... مرزا قادیانی کی سیر: ”میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل سکنہ لاہور نے بیان کیا کہ حضور صبح کو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر احباب کو اپنے الہامات و رؤیا سنایا کرتے تھے اور پھر دوستوں میں سے کوئی روایا دیکھتا تو اسے بھی سنانے کے لئے فرماتے۔ پھر حضور گھر تشریف لے جاتے تھے اور آٹھ بجے کے قریب گھر سے باہر نکلتے۔ پہلے چوک میں مہمانوں کا انتظار کرتے پھر حضرت مولوی نور الدین صاحب کو اطلاع بھجواتے۔ مولوی صاحب جو بھی کام کر

رہے ہوتے اسے وہیں چھوڑ کر حاضر ہو جاتے۔ یوں معلوم ہوا تھا کہ شاید حضور کے حکم کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ سیر قریباً تین میل ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ جب تھک جاتے تو سوچتے کہ اب واپسی کی کیا تدبیر کریں۔ عرض کرنے کی تو جرات نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے ہم چند نو جوان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑتے اور پھر تھوڑی دور چل کر قادیان کی طرف رخ کر لیتے۔ حضور بھی پیچھے ہو لیتے۔ پھر ہم پیچھے ہو جاتے۔ راستہ میں احباب کی کثرت کی وجہ سے اس قدر گرداڑی کہ سر اور منہ مٹی سے بھر جاتے۔ حضور اکثر پکڑی کے شملہ کو بائیں جانب منہ کے آگے رکھ لیتے۔ حضور کے دائیں ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی۔ جو بعض اوقات لوگوں کی ٹھوکر سے گر بھی جاتی۔ مگر حضور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ جب کوئی چھڑی پکڑا دیتا تھا تو پکڑ لیتے۔ بعض اوقات حضور کے پاؤں کو بھی ٹھوکر لگ جاتی تھی۔ اگر دوران سیر کسی وقت پیشاب کی حاجت پیش آتی تو حضور احباب سے دور نکل جاتے۔ وٹوانی حضور بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی حضور کو کھڑے ہو کر وٹوانی کرتے نہیں دیکھا۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲ ص ۲۵۰، مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۹ء)

”اسی موقعہ پر حضور ایک مرتبہ سیر کے لئے باہر تشریف لائے۔ ساتھ بہت ہجوم تھا۔ حضور بڑے درخت کے قریب کھڑے ہو گئے۔ احباب چاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے تھے۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گرداڑ رہی تھی۔ حضور کی طبیعت ہجوم اور گرد کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ دھوپ تھی اور گرمی کا آغاز تھا۔ کچھ ناسازی ہوئی۔ ایک دوست نے کہا کہ احباب جگہ کھلی چھوڑ دیں اور حضور کے نزدیک زیادہ ہجوم نہ کریں اور ایک دوسرے پر نہ گریں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی قریب تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی بچارے کیا کریں۔ تیرہ سو سال کے بعد ایک نبی کا چہرہ دیکھنے کو ملا۔

(روایت قادیانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان نمبر ۱۸ ج ۳ ص ۳۳۳، مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۳۶ء)

”اس طرح ابتداء میں حضرت مسیح موعود سیر کے لئے تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کے ساتھ چلے جاتے۔ آپ کی باتیں سنتے لیکن آخری جلسہ سالانہ کے موقعہ پر جب آپ سیر کے لئے نکلے تو لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ لوگوں کے پیر لگنے کی فرجہ سے کبھی آپ کی چھڑی گر جاتی اور کبھی آپ کی جوتی اتر جاتی۔ (سیر کیا تھی خاصاً تماشا تھا۔ للمؤلف برنی) آپ ریتی چھلہ تک تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے۔ اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ اب تو جماعت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سیر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد سات سو تھی۔ (تعداد تو کچھ ایسی زیادہ نہ تھی۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اپنے مریدوں سے مرزا قادیانی کا

ناک میں دم آ گیا تھا کہ سیر سے دل بیزار ہو گیا اور نادانستہ طور پر موت کی آرزو دل میں آنے لگتی (اخبار الفضل قادیان ج ۳۲ نمبر ۳۰ ص ۳۲، مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۴۶ء، میاں بشیر الدین محمود)

۱۰..... مرزا قادیانی کی شکر گزاری: ”دعوے سے قبل کا واقعہ ہے کہ حضور

(مرزا قادیانی) باغ میں تشریف لے گئے۔ ساتھ چند اور بھی دوست تھے۔ کسی دوست نے ایک پھلدار درخت پر حضرت اقدس کا عصا مبارک پھینکا۔ وہ عصا وہیں لٹک کر رہ گیا۔ دوستوں نے پتھروں اور ڈھیلوں سے ہر چند کوشش کی مگر وہ عصا نیچے نہ گرا میں (حافظ نبی بخش قادیانی) نو جوان لڑکا تھا۔ میں اپنا تہہ بند کس کر درخت کے اوپر چڑھ گیا اور عصا مبارک اتار لیا۔ حضرت اقدس کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ بار بار فرماتے میاں نبی بخش تم نے بڑا اکمال کیا۔ تم نے تو آج میرے والد صاحب کا سونٹا نیا لا کر مجھے دیا ہے۔ باغ سے واپس لوٹے تو راستے میں جو ملے ان سے بھی ذکر کیا کہ میاں نبی بخش نے مجھے آج نیا سونٹا لا کر دیا ہے۔ پھر مسجد میں آ کر بھی اسی شکر گزاری کا ذکر فرماتے رہے۔“ (ذکر حبیب از سردار مصباح الدین، اخبار الحکم قادیان خاص نمبر، مورخہ ۲۱ مئی ۱۹۳۳ء)

۱۱..... نامردی کا یقین: ”بخدمت اخویم مخدوم مکرم مولوی حکیم نور الدین

صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.....!

جس قدر ضعف دماغ کے عارضہ میں عاجز مبتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی ہو۔ جب میں نے شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ (پھر شادی کس بھروسہ کی، اول صحت درست کرنا لازم تھا۔ ورنہ فتنہ کا اندیشہ تھا۔ للمؤلف برنی) آخر میں نے صبر کیا (آپ سے زیادہ صبر آپ کی اہلیہ صاحبہ پر لازم ہوتا۔ پھر بھی معلوم ہوا کہ اولاد شادی کے بعد جلد ہی شروع ہو گئی) اور دعا کرتا رہا تو اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ضعف قلب تو اب بھی اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔“

(خاکسار غلام احمد قادیان ۲۲ فروری ۱۸۸۷ء، مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۲۱، خط نمبر ۱۳)

”دوسرا بڑا نشان یہ ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھے پر مقدس وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنخ قلب کے دق کی بیماری کا اثر بھی بالکل دور نہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا۔ کیوں کہ میری حالت مردی کا عدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا۔ جواب تک موجود ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنا چاہئے تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے۔ مگر باوجود ان کمزوریوں کے مجھے پوری

قوت صحت اور طاقت بخشی اور چار لڑکے عطاء کئے۔“ (نزدول المسح ص ۲۰۹، خزائن ج ۸ ص ۵۸۷)

۱۲..... پہلا دورہ: ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود (یعنی مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سر اور سر مل گیا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کہتے تھے یا اور پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ مگر یہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمایا۔ نہ گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامد علی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گال گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھو میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حامد علی نے کہا کہ خراب ہو گئی ہے۔ میں پردہ کرا کر مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے جب میں پاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن اب آفاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی اور آسمان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اور غشی کی سی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو باقاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ خاکسار نے پوچھا دو روں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور بدن کے پٹھے بھنج جاتے تھے۔ خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اپنے بدن کو سہارا نہیں دے سکتے تھے۔ شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ دوروں کی ایسی سختی نہ رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئی۔ خاکسار نے پوچھا کہ اس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا پہلے معمولی سردی کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا حضرت صاحب پہلے خود نماز پڑھاتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر درودوں کے بعد چھوڑ دی۔“ (سیرت المہدی حصہ اول ص ۱۶، ۱۷، روایت نمبر ۱۹، بشیر احمد قادیانی)

۱۳..... خطرناک: ”پھر آپ نے (یعنی مرزا قادیانی نے) فرمایا میں کیا کروں میں نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھر آپ محبت الہی پر تقریر فرمانے لگ گئے اور قریباً نصف گھنٹے تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ لیکن پھر یک لخت بولتے بولتے آپ کو ابکاٹی آئی اور ساتھ ہی قے ہوئی۔ جو خالص خون تھی۔ جس میں کچھ خون جما ہوا تھا اور کچھ بہنے والا تھا۔ حضرت نے قے سے سر اٹھا کر رومال سے اپنا منہ

پونچھا اور آنکھیں بھی پونچھیں۔ جوتے کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ قے میں کیا نکلا ہے۔ کیونکہ آپ نے ایک لخت جھک کرتے کی اور پھر سر اٹھالیا۔ مگر میں اس کے دیکھنے کے لئے جھکا تو حضور نے فرمایا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور اس میں خون نکلا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور دوسرے سب لوگ کمرے میں آگئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور قے دیکھ کر خواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اس طرح خون کی قے آنا خطرناک ہے۔ پھر اس نے کہا یہ آرام کیوں نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے کہا آرام کس طرح کریں۔ مجسٹریٹ صاحب قریب قریب کی پیشیاں ڈال کر تنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ معمولی مقدمہ ہے جو یوں ہی طے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اس وقت آرام ضروری ہے۔ میں شوقلیٹ لکھ دیتا ہوں کتنے عرصے کے لئے شوقلیٹ چاہئے۔ پھر خود ہی کہنے لگا میرے خیال میں دو مہینے آرام کرنا چاہئے۔ خواجہ صاحب نے کہانی الحال ایک مہینہ کافی ہوگا۔ اس نے فوراً ایک مہینہ کے لئے شوقلیٹ لکھ دیا اور لکھا کہ میں اس عرصہ میں ان کو کچھری میں پیش ہونے کے قابل نہیں سمجھتا۔“ (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۹۷، روایت نمبر ۱۰۷، مؤلفہ بشیر احمد قادیانی)

۱۴..... مراق کا سلسلہ: ”مراق کا مرض حضرت مرزا قادیانی کو موروثی نہ تھا بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تفکرات، غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ دماغی ضعف تھا۔ جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعہ ہوتا تھا۔“ (رسالہ ریویو قادیان ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۱۰، بابت اگست ۱۹۲۶ء)

”میری بیوی کو مراق کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ ان کے ساتھ چند خادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پورا التزام ہوتا ہے۔ ہم باغ تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔“

(مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان عدالت مندرجہ اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۲۹ ص ۱۲، مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

”بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کے ایک حقیقی ماموں تھے۔ جن کا نام مرزا جمعیت بیگ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا تھا لڑکے کا نام مرزا علی شیر تھا اور لڑکی کا حرمت بی بی۔ لڑکی حضرت صاحب کے نکاح میں آئی اور اسی کے لطن سے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد پیدا ہوئے۔“

(سیرت المہدی حصہ اول ص ۲۲۵، روایت نمبر ۲۱۲، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

”مراق کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ورثہ میں ملا ہو۔ طبعی میلان اور عصبی کمزوری ہے۔ عصبی امراض ورثہ میں ملتے ہیں اور لمبے عرصہ تک خاندان میں چلتے ہیں۔“

(بیاض نور الدین ج ۱ منقول از اخبار پیغام صلح لاہور ج ۳۶ نمبر ۴۷، مورخہ یکم دسمبر ۱۹۴۰ء)

”جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر اگلی نسل میں بے شک یہ مرض منتقل ہوا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی (میاں محمود احمد) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کبھی کبھی مراق کا دورہ ہوتا ہے۔“ (مضمون ڈاکٹر شاہنواز قادیانی مندرجہ رسالہ ریویو قادیان ج ۲۵ نمبر ۸ ص ۱۱، بابت اگست ۱۹۱۶ء)

”اکثر یہ مرض (مراق) تہارنے یا زیادہ خوض علم میں کرنے یا محنت شدید یا ریاضت شدید یا مجاہدہ نفس سے پیدا ہوتا ہے۔“ (تذکرۃ الوفاق فی علاج المراق ص ۶۰، مصنفہ حکیم اصغر حسین خان)

۱۵..... مانیو لیا کے کرشمے: ”مانیو لیا خیالات و افکار کے طریق طبعی سے متغیر

بخوف و فساد ہو جانے کو کہتے ہیں..... بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے..... اور بعض میں یہ فساد یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔“ (شرح الاسباب والعلامات امراض راس مانیو لیا، مصنفہ برہان الدین نفس)

”مریض کے اکثر ادوہام اس کام سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔“ (اکسیر اعظم ج ۱ ص ۱۸۸، مصنفہ حکیم محمد اعظم خان)

۱۶..... ہسٹریا: ”ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شبانہ روز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ پاؤں کا سرد ہو جانا، گھبراہٹ کا دورہ ہو جانا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی دم نکلتا ہے۔ یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آدمیوں میں گھر کر بیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگنا وغیرہ۔“

(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۵۵، روایت نمبر ۳۶۹)

”ہسٹریا کا بیمار جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو رحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ورنہ مردوں میں بھی یہ مرض ہوتا



ہے۔ جن مردوں کو یہ مرض ہوا ان کو مرقی کہتے ہیں۔“

(خطبہ جمعہ میاں محمود احمد، خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۸ نمبر ۸ ص ۶، مورخہ ۳۰ مارچ ۱۹۲۳ء)

”یہ درست ہے کہ مرگی اور ہسٹریا میں بھی مرقی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ مگر یہ نہیں

کہ ہر مرقی کو مرگی یا ہسٹریا کا مرض ہوتا ہے۔“

(بیاض نور الدین ج ۱ منقول از اخبار پیغام صلح لاہور ج ۳۶، نمبر ۷، یکم دسمبر ۱۹۲۸ء)

”ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ اس کو ہسٹریا مانجھو لیا یا مرگی کا

مرض تھا تو اس کے دعوے کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی

چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔“

(مضمون ڈاکٹر شبنواز قادیانی مندرجہ رسالہ ریو آف ریلیجز قادیان نمبر ۸ ج ۲۵ ص ۷، بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء)

۱۷..... دو چادریں: ”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش

گوئی کی تھی۔ جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صبح آسمان پر سے جب اترے گا تو

دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی

اور ایک نیچے کے دھڑکی یعنی مرقی اور کثرت بول۔“ (ارشاد مرزا غلام احمد قادیانی مندرجہ رسالہ تشہید

۱۱ ذی الحجہ نمبر ۲ ج ۵ ص ۵، ۱۹۰۶ء، اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۲۳، مورخہ ۷ جون ۱۹۰۶ء)

”دو مرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر حصہ میں اور دوسرا بدن کے نیچے

کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر ہے اور نیچے کے حصہ میں کثرت پیشاب ہے اور یہ

دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا

ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۰، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۰)

”صبح موعود دو زرد چادریوں میں اترے گا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی

اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں ہوگی۔ سو میں نے کہا کہ اس طرف اشارہ تھا کہ صبح

موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے اور وہ

دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں۔ یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی

بیماری۔ (عیسیٰ صبح کا معجزہ تھا کہ بیماروں کو تندرست بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور صبح موعود یعنی

بزعم خود مرزا قادیانی کی نشانی خود امراض ہیں۔ خاص کر سر کی بیماری اور پیشاب اور دستوں کی

بیماری۔ لیکن کیا عجب ہے یہ چودھویں صدی کا کمال ہو۔ جس سے اچھے اچھوں نے پناہ مانگی۔

للمؤلف برنی“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۴۴، خزائن ج ۲۰ ص ۴۶)

”مسح موعود کی نسبت حدیثوں میں دوزر درنگ چادروں کا ذکر ہے۔ ایسی ہی میرے لاحق حال دو بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری بدن کے اوپر کے حصہ میں جو اوپر کی چادر ہے اور وہ دوران سر ہے۔ جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گر جاتا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہو جاتا ہے اور ہولناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دیگر دماغی امراض خاص کر مرگی میں یہ کیفیت گذرتی ہے۔ درد سر میں تو بیشتر تکلیف رہتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی خرابی صحت میں ہسٹریا کا مرض بھی ظاہر کیا۔ (المؤلف برنی) اور دوسری بیماری بدن کے نیچے کے حصہ میں ہے۔ جو مجھے کثرت پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیابیطس کہتے ہیں اور معمولی طور پر مجھے ہر روز پیشاب کثرت سے آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ تک نوبت پہنچتی ہے اور بعض اوقات قریب سو دفعہ کے دن رات میں پیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہو جاتا ہے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۰۱، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۳)

۱۸..... تمیں برس: ”مجھے دو مرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سرد درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا۔ نبض کم ہو جانا اور دوسرے جسم کے نیچے کے حصہ میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریب تیس برس سے ہیں۔“

”یہ دونوں بیماریاں کبھی دعاء سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں۔ مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دعاء کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا..... مسح موعود کے لئے یہ بھی ایک علالت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دوزر چادروں میں اترے گا۔“

۱۹..... دائم المرض: ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں..... ہمیشہ درد سر اور دوران سر کی خواب اور تشنگ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ پہنچتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔“

(ضمیمہ اربعین نمبر ۳۲، ص ۴، خزائن ج ۱۷ ص ۷۷۰)

مخدومی کرمی اخویم..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے۔ کبھی غلبہ دوران سر اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی

نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ریگن ہو جاتی ہے اور زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریب چھ سات ماہ یا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کر اس وضع پر پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے اور قرأت میں شاید قل ہو اللہ بہ مشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہوتی ہے۔

(۵/ فروری ۱۸۹۱ء، مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۲ ص ۸۸، مکتوب نمبر ۶۲، از مکتوبات مرزا قادیانی)

۲۰..... چشم نیم باز: ”مولوی شیر علی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں حضرت (مرزا قادیانی) کی یہ عادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں..... ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو کھینچوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کر رکھیں ورنہ تصویر اچھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آنکھوں کو کچھ زیادہ کھولا بھی مگر وہ پھر اسی طرح نیم بند ہو گئیں۔“

(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۷۷، روایت نمبر ۴۰۳، ۴۰۴، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

۲۱..... خرابی حافظہ: کمری اخویم سلمہ

میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تو تب بھی بھول جاتا ہوں یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی یہ باتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔

خاکسار! غلام احمد از صدر انبالہ حاطہ ناگ پھنی

(مکتوبات احمدیہ ج ۵ نمبر ۳ ص ۲۱، ملفوظ نمبر ۳۹، مجموعہ مکتوبات مرزا قادیانی)

۲۲..... بے توجہی: ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مسیح

موعود اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے توجہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا بن دوسرے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگابی (جوتا) ہدینہ لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دیسی جوتہ پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس وقت پیہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیچے آ جاتا ہے۔“

(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۵۸، روایت نمبر ۳۷۵، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

۲۳..... جیب کے ڈھیلے: ”آپ کو (یعنی مرزا قادیانی) شرابی سے بہت پیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے لگی ہوئی ہے۔ اسی زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اسی میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جو اس بات پر شاہد ناطق ہیں کہ آپ کو اپنے یار ازل کی محبت میں ایسی محویت تھی کہ جس کے باعث اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو رہے تھے۔“ (البتہ کھانے میں مرغ، شیر، مقویات، مشک، عنبر، مفرح، عنبری اور خاص مجربات اور مشاغل میں سرکار عظمت مدار کی توصیف و تائید اور دین میں تاویلات اور نبوت کے دعوے دنیا کی طرف صرف اسی قدر توجہ باقی رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ نہیں۔ للمؤلف)

(مرزا قادیانی کے حالات مرتبہ معراج الدین عمر قادیانی، ملحقہ براہین احمدیہ چہار حصص ص ۶۷)

۲۴..... انہماک: ”باوجود یہ کہ مجھے اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں۔ مگر جس وقت پاخانے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ اسی طرح جب روٹی کھانے کے لئے کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند لقمے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھا رہا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔“ (ارشاد مرزا قادیانی مندرجہ اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۴۰، مورخہ ۳ اکتوبر ۱۹۰۱ء، منقول از کتاب منظور الہی ص ۳۴۹، مولف محمد منظور الہی)

۲۵..... روٹی کے ٹکڑے: ”حضرت مسیح موعود جب کھانا کھایا کرتے تھے تو بمشکل ایک پھلکا آپ کھاتے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورہ آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی کہ روٹی توڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاتے۔ پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے۔ معلوم نہیں مسیح موعود ایسا کیوں کرتے تھے۔ مگر کئی دوست کہا کرتے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا مسیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔“

(میاں محمود احمد، خلیفہ قادیان کا خطبہ جمعہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۱۰۵، ص ۷، ۸، مورخہ ۳ مارچ ۱۹۳۵ء)

۲۶..... خرابی صحت: ”عرصہ تین چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہو گئی ہے۔ بجز دو وقت ظہر و عصر کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھ لکھوں یا فکر کروں تو خطرناک دوران سر شروع ہو جاتا ہے اور دل ڈوبنے لگتا ہے۔ جسم بالکل بے کار ہو رہا ہے اور جسمانی قوی ایسے مضلل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ گویا مسلوب القوی ہوں اور آخری وقت ہے۔ ایسا ہی میری بیوی دائم المریض ہے۔ امراض رحم و جگر

دا انگیر ہیں۔“ (ارشاد مرزا قادیانی مندرجہ اخبار بدر قادیان ج ۲ نمبر ۲۱ ص ۲، مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۶ء، منقول از آئینہ احمدیت حصہ اول ص ۱۸۶، مولفہ دوست محمد قادیانی لاہوری)

۲۷..... سخت بیمار: ”بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد نے بواسطہ مولوی رحیم بخش صاحب (حال عبدالرحیم ورد قادیانی) ایم۔ اے کہ ایک دفعہ والد صاحب (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) سخت بیمار ہو گئے اور حالت نازک ہو گئی اور حکیموں نے ناامیدی کا اظہار کر دیا اور نبض بند ہو گئی۔ مگر زبان جاری رہی۔ والد صاحب نے کہا کہ کچھ لا کر میرے اوپر اور نیچے رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس سے حالت رو باصلاح ہو گئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) نے لکھا ہے کہ یہ مرض قولنج زحیری کا تھا۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ میں قولنج زحیری سے سخت بیمار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا۔ جہ بیان باہر ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۳۳، خزائن ج ۲ ص ۲۳۶)

۲۸..... ایفون: ”مجھے اس وقت ایک اپنا سرگذشت قصہ یاد آیا ہے اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس بیماری ہے۔ پندرہ بیس مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے اور بعض وقت سوسودفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے..... اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لئے ایفون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ ایفون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی۔ لیکن اگر میں ذیابیطس کے لئے ایفون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا ایفونی۔“ (نیم دعوت ص ۶۹، خزائن ج ۱۹ ص ۴۳۳، ۴۳۵) ”مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے ایفون دیتے تھے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے۔ مگر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت (مرزا قادیانی) نے فرمایا خدا نے چھڑا دی ہے تو اب نہ دو۔“

(ارشاد میاں محمود احمد، خلیفہ قادیان مندرجہ منہاج الطالبین ص ۷۴، مصنفہ میاں صاحب) ۲۹..... سکھیا: ”جب مخالفت زیادہ بڑھی اور حضرت مسیح موعود کو قتل کی دھمکیوں کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو کچھ عرصہ تک آپ نے سکھیا کے مرکبات استعمال کئے۔ تاکہ خدا نخواستہ آپ کو زہر دیا جائے تو جسم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو۔“

(ارشاد میاں محمود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان نمبر ۹۴ ج ۲۲ ص ۴، مورخہ ۵ فروری ۱۹۳۵ء)

۳۰..... دو بوتل برانڈی: ”حضور (مرزا قادیانی) نے مجھے لاہور سے بعض

اشیاء لانے کے لئے ایک فہرست لکھ دی۔ جب میں چلنے لگا تو پیر منظور محمد صاحب نے مجھے روپیہ دے کر کہا کہ دو بوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لئے پلومر کی دوکان سے لیتے آویں۔ میں نے کہا کہ اگر فرصت ہوئی تو لیتا آؤں گا۔ پیر صاحب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے برانڈی کی بوتلیں نہیں لائیں گے۔ حضور ان کو تاکید فرماویں۔

حقیقت میرا ارادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پر حضور اقدس (مرزا قادیانی) نے مجھے بلا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برانڈی کی باتیں نہ لے لو لاہور سے روانہ نہ ہونا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب میرے لئے لانا لازمی ہے۔ میں نے پلومر کی دوکان سے دو بوتلیں برانڈی کی غالباً چار روپیہ میں خرید کر پیر صاحب کو لادیں۔ ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹروں نے بتلائی ہوں گی۔“

(اخبار الحکم قادیان ج ۳۹ نمبر ۲۵، مورخہ ۷ نومبر ۱۹۳۱ء)

۳۱..... ٹانک وائٹن: محی الخویم، حکیم محمد حسین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.....!

اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائٹن کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ مگر ٹانک وائٹن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے والسلام۔ مرزا غلام احمد غفری عنہ۔

(خطوط امام بنام غلام ص ۵، مجموعہ مکتوبات مرزا قادیانی بنام حکیم محمد حسین)

”لاہور میں پلومر کی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔“

ڈاکٹر صاحب جو با تحریر فرماتے ہیں۔ حسب ارشاد پلومر کی دوکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

”ٹانک وائٹن ایک قسم طاقت ور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند بوتلوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت ۸ ہے۔ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۳ء۔“

(سودائے مرزا ص ۳۹، مصنفہ حکیم محمد علی پرنسپل کالج امرتسر)

۳۲..... ٹانک وائٹن کا فتویٰ: ”پس ان حالات میں اگر حضرت مسیح موعود

برانڈی اور رم کا استعمال بھی اپنے مریضوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹانک وائٹن جو ایک دوا ہے۔ اگر اپنے خاندان کے کسی ممبر یا دوست کے لئے جو کسی لمبے مرض سے اٹھا ہوا اور کمزور ہو یا بالفرض محال خود اپنے لئے بھی منگوائی ہو اور

استعمال بھی کی ہو تو اس میں کیا حرج ہو گیا۔ آپ کو ضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے۔ نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا تو اطباء یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹانگ وائٹن کا استعمال اندرین حالات کیا ہو تو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ بڑھاپا بھی پڑتا تھا تو اندرین حالات اگر ٹانگ وائٹن بطور علاج پی بھی لی ہو تو کیا قباحہ لازم آگئی۔“ (از ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی فریق لاہوری مندرجہ اخبار پیغام صلح ج ۲۳ نمبر ۱۵، مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۳۵ء، ج ۲۳ نمبر ۶۵، اکتوبر ۱۹۲۵ء)

۳۳..... پنجابی حلق: ”بے شک یہ درست ہے کہ پنجابی حلق ہر ایک لفظ کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعودؑ پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ یہ تو قرآن کا صحیح تلفظ عربی لہجہ میں ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا شخص کہاں مسیح ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سید عبداللطیف صاحب شہید نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ مگر مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت مسیحؑ نے بھی انہیں روک دیا۔“

(تقریر میاں محمود احمد، خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۲۰ء، نمبر ۶۲ ج ۱۷)

”حضرت مسیح موعودؑ کے پاس ایک دفعہ ایک لکھنؤ کا آدمی آیا۔ آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا تو کہنے لگا۔ اچھے مسیح موعود بنے ہو کہ ق اور ک میں فرق بھی نہیں جانتے۔“

(خطبہ جمعہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۶، نمبر ۲۲ ص ۷، مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۹۲۸ء)

۳۴..... اب پنجاب میں: حاجی (ریاض الدین احمد) فقط وحشت دل کا علاج کرنے اور سیر سپاٹے کو گئے تھے۔ دل میں آئی کہ چلو ذرا مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی مل لیں۔ دیکھیں کس قماش کے بزرگ ہیں۔ لاہور سے روانہ ہو کے قادیان میں پہنچے۔ مرزا قادیانی مرحمت و اخلاق سے ملے۔ اپنے کانگری گیشن کے رکن اعظم حکیم نور الدین مرحوم سے ملایا اور پھر مرزا قادیانی نے اپنے حجرے میں جو مسجد سے ملحق تھا اپنی خلوت خاص میں جگہ دی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور مرزا قادیانی اپنے حجرے ہی میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کی ایک رکعت ہوئی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں مرزا قادیانی نیت توڑ کر گھر کے اندر چلے گئے اور حاجی صاحب سخت حیران! کیا افتاد پیش آئی جو مرزا قادیانی کو نماز کی نیت توڑ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ نماز کے بعد حاضرین مسجد سے یہ واقعہ بیان کیا اور اس کا سبب پوچھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مرزا قادیانی پر نماز میں جب

وحی نازل ہوتی ہے تو آپ بیتاب ہو کے اندر چلے جاتے ہیں۔“ (رسالہ دگلد از لکھنؤ بابت مارچ ۱۹۱۶ء)  
 نماز: ”بیان کیا ہے کہ حضرت ایک رکعت کے بعد نماز کی نیت توڑ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ اگر کسی بیماری کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو غل اعتراف نہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق دوران سر اور ابردا اطراف کا مرض تھا اور زرد چادریں تھیں جو روز ازل سے خدا نے اپنے مسیحا کے لئے بطور خلعت خاص مقدر فرمائی تھیں۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۷۰، مورخہ ۱۸ اپریل ۱۹۱۶ء)

۳۵..... زنانی نماز: ”حضور (مرزا قادیانی) کسی تکلیف کی وجہ سے جب مسجد نہ جاسکتے تھے تو اندر عورتوں میں نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور حضرت بیوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی اہلیہ) صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں۔ بلکہ حضرت (مرزا قادیانی) کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔“  
 (تقریر مفتی محمد صادق قادیانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۲ نمبر ۷۰، ص ۸، مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۲۵ء)

۳۶..... ایک سخت بیماری: ”اگر آپ احمد (یعنی مرزا قادیانی) کی ڈائری کو اخبار بدر کے پرچوں سے ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جاوے گا کہ آپ کی موت ناگہانی ہوئی۔ آپ آخردن تک اپنی معمولی صحت کی حالت میں رہے۔ اس شام سے پہلے جب آپ بیمار ہوئے۔ آپ سارا دن ایک رسالہ لکھنے میں مشغول رہے جس کا نام پیغام صلح ہے اور تاریخ مقرر کی گئی کہ اس پیغام کو ٹاؤن ہال میں ایک بڑے مجمع کے سامنے پڑھا جاوے اور اس دن کی شام کو حسب معمول سیر کے لئے باہر تشریف لے گئے اور کسی آدمی کو خبر نہ تھی کہ یہ آپ کا آخری سیر تھا۔ رات کو وہ ایک سخت بیماری میں (یعنی دست اور تے میں) مبتلا ہو گئے اور صبح دس بجے کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات کی خبر احمدی جماعت کے لئے بالکل ناگہانی تھی۔ چنانچہ جس جگہ خبر پہنچی لوگوں کو اس کی صداقت پر اعتبار نہ آیا۔“  
 (رسالہ ریویو آف ریلیجنز قادیان ج ۱۳ نمبر ۶، ص ۲۳۱، جون ۱۹۱۳ء)

”حضرت مسیح موعود ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء کو لاہور تشریف لے گئے۔ اسی روز بوقت ۴ بجے صبح آپ پر یہ وحی ہوئی۔ جو آپ کی وفات پر دلالت کرتی تھی۔ مباحث ایمن از بازی روزگار اس وحی کے بعد قادیان میں کوئی موقع نہ ملا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو۔ اس لئے قادیان میں یہ آخری وحی تھی۔“  
 (اخبار الحکم قادیان کا خاص نمبر ج ۳، نمبر ۱۹، ص ۱۸، مورخہ ۲۱، ۲۸ مئی ۱۹۳۳ء)

”بمقام لاہور آپ (یعنی مرزا قادیانی) کا قیام قریباً ایک ماہ تک رہا اور اس عرصہ میں آپ نے کئی تقریریں فرمائیں۔ ملنے والوں اور نئے نئے ملاقاتیوں کے ساتھ گفتگو میں کیں اور روزمرہ نمازوں میں شامل ہوتے رہے اور ہر روز سیر کے واسطے جاتے رہے۔ جس روز حضور کا



واقعہ وصال ہوا۔ اس سے ایک روز پہلے حضور نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام پیغام صلح رکھا۔ یہ پیغام آپ نے اس غرض سے لکھا تھا کہ لاہور ناؤن ہال میں مختلف مذاہب کے وکلاء کو ایک عام جلسہ میں مدعو کر کے سنایا جاوے۔ جب وہ یہ پیغام لکھ چکے تو شام کے وقت وہ سیر کے لئے تشریف لے گئے۔ مگر واپسی پر ان کی طبیعت نا ساز ہو گئی بیمار ہو گئے۔ (یعنی دست اور تے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے) اور دوسرے دن قریباً ساڑھے دس بجے کے وقت راہی ملک بقا ہو گئے۔ ”انّا للہ وانا الیہ راجعون“ (رسالہ ریویو آف ریلیجز قادیان ص ۳۴۱، ۳۴۲، نمبر ۹ ج ۱۳ جون ۱۹۱۴ء)

”باوجود اس کے کہ زمانہ وفات کے قریب ہونے کی خبر متواتر وحیوں سے ملتی رہی۔ مگر پھر بھی جب حضرت حجتہ اللہ علی الارض۔ خلیفہ اللہ فی حلال الانبیاء حضرت احمد علیہ الف الف صلوة و سلام کے حسب وعدہ الہی متوفی ہو کر حیات طیبہ سے رفیع المرتبت ہونے کا وقت آیا تو بالکل اچانک ہی آ گیا۔ جس مشن کے پورا کرنے اور جس عظیم الشان کام کے انصرام کے لئے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ اس کام میں وہ برابر آخر وقت تک نہایت مستعدی سے مصروف رہے۔ یہاں تک کہ بیماری (دست اور تے) کے شدید حملے نے عاجز کر دیا اور قریباً ۱۲ گھنٹے کی بیماری کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ (رسالہ ریویو آف ریلیجز قادیان ص ۳۴۱، ۳۴۲، نمبر ۹ ج ۱۳ جون ۱۹۱۴ء)

۳۷..... مرض الموت: ”خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود ۲۵ مئی ۱۹۰۸ء یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا۔ یا شاید لوگوں کو چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اسہال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔“ (سیرۃ المہدی حصہ اول ص ۹، روایت نمبر ۱۲، از شیر احمد)

۳۸..... وقت آخر: ”خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے۔ جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھاتے وقت آیا تھا۔ مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر

سو گئے اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حالت محسوس ہوئی اور غالباً ایک دو دفعہ حاجت کے لئے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانے نہ جاسکتے تھے۔ اس لئے چار پائی کے پاس ہی بیٹھ کر آپ فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرکوں ہو گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا ”اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے“ تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئیں تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشاء ہے؟ والدہ صاحب نے فرمایا کہ ”ہاں“ (سیرۃ المہدی ج ۱، ص ۱۱، روایت نمبر ۱۲، از بشیر احمد قادیانی)

باب ۲:

## مرزا کے دعوے

عقلمند انسان گذشتہ سیرت کا باب پڑھ کر ہی نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر خرید وضاحت کے لئے مرزا قادیانی کے متضاد دعوے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ تعصب کی عینک اتار کر سطا لے کریں اور حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ دیں۔ آخرت کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہئے۔ اب سلسلہ دار دعوے اور ان کے نقائص ملاحظہ فرمائیے۔

## محدث ہونے کا دعویٰ

یاد رکھیں کہ محدث اور مہم آپسے ٹھنک کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں آئندہ ہونے والی بات پہلے ہی آجائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے رہے۔ اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہیں اور وہ امور جو حضرت کے دل میں واقع ہوئے سے پہلے آئے وہ محدثین نے سولہ تک شمار کئے ہیں۔ مثلاً حضرت عمرؓ نے خواہش کی کہ پردہ کا حکم ہونا چاہئے تو لہذا پردہ کا حکم نازل ہو گیا۔ شراب کے متعلق خیال آیا کہ حرام ہونا چاہئے تو وہ بھی آئندہ چل کر حرام ہو گیا۔ مرزا قادیانی بھی محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

”ہمارے سید و رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت ﷺ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔“

(شہادت القرآن ص ۲۸، خزائن ج ۶ ص ۳۲۳)

”میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، خزائن ج ۵ ص ۳۸۳)

”میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی..... میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین سے۔“ (حماتہ البشری ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۶، ۲۹۷)

”لوگوں نے میرے قول کو نہیں سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا قول قطعاً جھوٹ ہے۔ جس میں سچ کا شائبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں۔ لیکن بالقوۃ، بالفعل نہیں تو محدث بالقوۃ نبی ہے اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو وہ بھی نبی ہو جاتا۔“

(حماتہ البشری ص ۸۱، خزائن ج ۷ ص ۳۰۰)

”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔ جو خدائے تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۴۲۲، خزائن ج ۳ ص ۳۲۰)

”محدثیت..... کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۴۲۲، خزائن ج ۳ ص ۳۲۱)

”محدث جو مرسلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی، امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ پہلی تابع شریعت رسول اللہ مشکوٰۃ رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے۔ مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جو اس نبی کا نام ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۶۹، خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

”ماسوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے

لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں با واز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے اور نبوت کے معنی بہ جز اس کے کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔“

(توضیح المرام ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۶۰)

مجددیت اور ولایت کا دعویٰ

”ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے قائل ہیں اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو ریسایہ نبوت محمدیہ اور باتباع آں جناب ﷺ اولیاء اللہ کو ملتی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگائے وہ تقوے اور دیانت کو چھوڑتا ہے..... غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف دلالت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۹۷، ۲۹۸، اشتہار مرزا قادیانی)

”اور خدا کلام اور خطاب کرتا ہے۔ اس امت کے ولیوں کے ساتھ اور ان کو انبیاء کا رنگ دیا جاتا ہے۔ مگر وہ حقیقت میں نبی نہیں ہوتے کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجتوں کو مکمل کر دیا ہے۔“

(مواہب الرحمن ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۲۸۵)

”میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے، میں تو محمدی اور کامل طور پر اللہ اور رسول کا قبیح ہوں اور ان نشانیوں کا نام معجزہ رکھنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہمارے مذہب کی رو سے ان نشانیوں کا نام کرامات ہے۔ جو اللہ کے رسول کی پیروی سے دیئے جاتے ہیں۔“

(جنگ مقدس ص ۷۴، خزائن ج ۶ ص ۱۵۶)

”اڈل اس عاجز کی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ معجزے کا لفظ اس محل پر بولا کرتے ہیں۔ جب کوئی خوارق عادت کسی نبی یا رسول کی طرف منسوب ہو۔ لیکن یہ عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ صرف اپنے نبی معصوم محمد مصطفیٰ ﷺ کا ایک ادنیٰ خادم اور پیرو ہے اور اسی رسول مقبول کی برکت اور متابعت سے یہ انوار و برکات ظاہر ہو رہے ہیں۔ سو اس جگہ کرامت کا لفظ موزوں

ہے۔ ”مجزرے کا۔“ (مرزا غلام احمد قادیانی کا ارشاد، مندرجہ اخبار الحکم قادیان نمبر ۲۳ ج ۵ ص ۵، مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۱ء، منقول از قمر الہدیٰ ص ۵۸، مؤلفہ قمر الدین چٹلمی قادیانی)

”چنانچہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے ارشاد کی رو سے آپ کی امت کے مجددین میں سے ہر ایک مجدد کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث ہوا اور حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) جو مجدد اعظم ہیں۔ ”جری اللہ فی حلل الانبیاء“ کی شان کے ساتھ سب انبیاء کے کمالات کے مجموعی طور پر وارث بنائے گئے۔ بلکہ اس لحاظ سے کہ آنحضرت ﷺ بھی آل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ مسیح موعود آل محمد میں سے ہونے کی وجہ سے ”کما صلیت“ اور ”کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم“ کے الفاظ سے آنحضرت ﷺ کے کمالات اور برکات کے بھی ظنی طور پر کامل وارث ہوئے۔“ (تمہ رسالہ درود شریف ص ۱۲، مؤلفہ غلام رسول قادیانی)

”رسول کریم ﷺ کی پیش گوئیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ بھی کئی تغیرات ہوں گے۔ مہدی کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی مہدی ہوں گے۔ ان مہدیوں میں سے ایک مہدی تو خود حضرت مرزا قادیانی ہیں اور آئندہ بھی کئی مہدی آسکتے ہیں۔“ (مکالمہ میاں محمود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ۲۷ فروری ۱۹۲۷ء، نمبر ۶۸ ج ۱۴)

مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مجددیت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس کا ہونا بروئے حدیث ہر صدی میں ضروری ہے۔ اس صدی میں دوسرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا مرزا قادیانی ہی مجدد ہیں تو جواب یہ ہے کہ اول تو مجددیت کا اعلان و دعویٰ ضروری نہیں۔ جیسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ: ”مجدد کا دعویٰ کوئی علیحدہ دعویٰ نہیں۔ بلکہ اس کے لئے بعض لکھتے ہیں۔ دعویٰ کی بھی ضرورت نہیں اور اس کے کام سے دوسرے اس کو مجدد قرار دیتے ہیں۔ ہاں جو مجدد مامور ہوتا ہے وہ ضرور دعویٰ کرتا ہے۔“ (ڈائری خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۸ نمبر ۶۱، مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۲۱ء)

باقی مامور کے متعلق کہ وہ دعویٰ کرتا ہے یہ اپنا ڈھکوسلا ہے۔ اصل بات پہلی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کے دوسرے دعوے بھی ہیں۔ جب مریم عیسیٰ، مثیل کرشن، نبی، رسول کا دعویٰ کیا تو پہلا دعویٰ باطل ہو گیا۔

مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ

سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ تشریف فرما ہیں اور قرب قیامت دوبارہ دنیا پر تشریف لائیں گے اور آکر دجال کو قتل کریں گے۔ عدل و انصاف سے تمام جہان کو بھر دیں گے۔ اسلام ہی اسلام جمیع اقطار میں پھیل جائے گا۔ کوئی کافر باقی

کا لڑنے کا۔ جزیہ اور جنگ کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ تمام اہل کتاب جو اس وقت ہوں گے۔ وہ  
 حضرت پرایمان لے آئیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے۔ ”وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَاثِمِينَ  
 لَبَّ قَبْلَ مَوْتِهِ“ یعنی ہر اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پرایمان لے آئیں گے۔

اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ شیعہ اور معتزلہ جیسے فرقے بھی اس کو تسلیم  
 کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے اور ستر حدیثیں بھی اس باب میں وارد  
 ہوئیں۔ جمیع مسلمان اس کو مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ”لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي  
 عَلَى الضَّلَالَةِ“ کہ میری ساری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی تو معلوم ہوا کہ یہ بات بالکل  
 صحیح ہے۔ خود مرزا قادیانی بھی اس کو تسلیم کرتے تھے۔ جیسا کہ (حقیقت الوحی ص ۱۴۹، خزائن ج ۲۲  
 ص ۱۵۳) میں فرماتے ہیں اور (براہین احمدیہ ص ۴۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) میں نزول مسیح کے قائل  
 ہیں۔ مگر بعد میں خود یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ ان کی آمد سے مراد ان  
 جیسے کامراد ہے اور وہ میں ہی ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ چور دُل میں کھٹکار ہا تو یہ بھی کہہ دیا کہ ممکن ہے  
 کہ کوئی اور بھی مثیل یا خود ہی حضرت مسیح آجائیں اور وجہ پھر ساتھ بیان کر دی یہ سب قسم کے  
 حوالے مندرجہ ذیل ہیں۔

”اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجددِ وقت ہے اور روحانی طور پر اس  
 کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بہ شدت مناسبت  
 و مشابہت ہے۔“ (اشہار مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۵، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۲)

”جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں  
 آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے  
 دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی  
 غربت اور انکساری اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کے رو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور  
 اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی مشابہ واقع ہوئی ہے۔ گویا ایک جوہر کے دو  
 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بے حد نے احساس ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک  
 امتیاز ہے۔“ (براہین احمدیہ ص ۴۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

”مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ تبلیغ کا قائل ہوں۔ بلکہ مجھے تو فقط مثیل  
 مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیتِ نبوت سے مشابہ ہے۔ ایسا ہی میری روحانی حالت  
 مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے مشابہت رکھتی ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۱)

”اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بہ تصریح درج کر دیا تھا۔ جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے۔ وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدائے تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

”یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے..... میں اسی الہام کی بناء پر اپنے تئیں وہ موعود مثیل سمجھتا ہوں۔ جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مثیل مسیح بھی آنے والا ہو۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۰۷)

”میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو اور شاید سچ و مشق میں کوہ مثیل مسیح نازل ہو۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۰۸)

”اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۹۲، خزائن ج ۳ ص ۲۵۱)

”میں نے صرف مثیل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار بھی مثیل مسیح آ جائیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل مسیح ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔ پس اس بیان کی رو سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۹، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

”بالا خر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثل بن کر آوے۔ کیونکہ نبیوں کے مثل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں، رہائی دے گا۔ فرزند دل بند، گرامی وار جند۔“ مظهر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء“ (ازالہ وہام ص ۱۵۵، ۱۵۶، خزائن ج ۳ ص ۱۷۹، ۱۸۰)

”ہم اپنی کتابوں میں بہت جگہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ عاجز جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے رنگ میں بھیجا گیا ہے۔ بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک ندرت تھی۔ اس عاجز کی پیدائش میں ایک ندرت ہے اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور یہ امر انسانی پیدائش میں نادرات سے ہے۔ کیونکہ اکثر ایک ہی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔“ (تحفہ گلزارِ دیہ ص ۶۸، خزائن ج ۷ ص ۲۰۲)

”اس امت کے مسیح موعود کے لئے ایک اور مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل سے نہ تھے۔ بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ایسا ہی اس عاجز کی بعض دادیاں سادات میں سے ہیں۔ گو باپ سادات میں سے نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خدا نے جو پسند کیا کہ کوئی حضرت مسیح کا باپ نہ تھا۔ اس میں یہ بعید تھا کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی کثرت گناہوں کی وجہ سے ان پر سخت ناراض تھا۔“ (مرزا قادیانی کا لیکچر سیا کلوث ص ۱۷، خزائن ج ۲۰ ص ۲۱۵)

”چودھویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا۔ مگر بایں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں ہوا۔ ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوں اور سب سے آخر ہوں۔“ (تذکرہ ائمہ دین ص ۳۳، خزائن ج ۲۰ ص ۳۵)

”سویقینا سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا۔ جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔ پس مثالی



صورت کے طور پر یہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے۔ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربعہ میں سے کسی سلسلے میں یہ داخل ہے۔ پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۵۹، خزائن ج ۳ ص ۱۵۶)

عین مسیح ہونے کا دعویٰ

اس سے ترقی کر کے مرزا قادیانی خود ہی عین مسیح بن گئے اور یہ طریقہ بناوٹ بھی عجیب ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔ ”مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے۔ تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار یہ تصریح لکھا گیا ہے۔“ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۱)

”اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کو نشان بنادیں گے اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض ناہنجی سے ہے۔“ (کشتی نوح ص ۴۸، خزائن ج ۱۹ ص ۵۲)

”سو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نکتہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی۔ اس لئے گواہوں نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پردہ پوشی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بہ ذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے مجھے مریم ہے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سرخشی کی مجھے خبر نہ دی۔“

(کشتی نوح ص ۴۶، ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

”حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ ماننا شرک ہے۔ لیکن پہلے براہین احمدیہ میں خود یہ عقیدہ بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ پھر آپ بھی شرک کے مرتکب ہوئے ہیں تو ہمارا یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ آپ نے اس وقت یہ خیال ظاہر کیا تھا۔ جب قرآن کریم اور الہام الہی سے وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ شرک کے مرتکب وہ ہیں جو اس وضاحت کے بعد ایسا کرتے ہیں۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۶، نمبر ۱۵۵ ص ۹، مورخہ ۹ جولائی ۱۹۳۸ء)

”جب میرا حب ختم کر کے تو اس دعویٰ پر دلالت پیش کئے ملاحظہ ہو۔“ ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مسیح موعود کا ظہور چودھویں صدی سے پہلے یا چودھویں صدی کے سر پر ہوگا اور اس سے تجاوز نہیں کر سکتے گا۔ چنانچہ ہم نمونہ کے طرز پر کسی قدر اس مسئلہ میں بھی لکھ آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی شخص دعویٰ ادا یا اپنی منصب کا نہیں ہوتا۔“ (الزوال و ہام ص ۶۸۵، خزائن ج ۳ ص ۳۶۹)

”ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور مسیح موعود کا وقت ہے۔ کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ بلکہ اس مدت تیرہ سو برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں۔“ (الزوال و ہام ص ۶۸۳، خزائن ج ۳ ص ۳۶۹)

”آئے والے مسیح موعود کا نام جو مسیح و غیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ نکلا ہے۔ وہ ان ہی مجازی معنوں کی رو سے ہے۔ خصوصاً کرام کی کتابوں میں مسلم ایک معمولی محاورہ کلمات الہیہ کا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔“

(انجام آئین حاشیہ ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۱۸)

پھر باگ دہل عین مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ملاحظہ ہو۔ ”مجھے اس خدا کی قسم ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا۔“ (اشہاد ایک قطعی کا ازالہ و ملاحظہ علیٰ صحیح دہم ص ۱۸، مجموعہ اشہادات ج ۳ ص ۳۵)

”میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔ کہ وہ آخری زمانہ میں حاضر ہوگا۔“

(ضمیمہ فقہ کراچی ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۱۸)

”میں نے اسے مسیح موعود کا حلیہ بخشا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ اس کا ان ہی حدیثوں سے یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور امتی ہوگا۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۹، خزائن ج ۲ ص ۳۱)

”اس لحاظ سے مسیح میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ جیسے غیب کی خبریں پانچے ملا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر ملاؤں کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اگر اس کا نام محدث رکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کی لغت کی کتاب میں انگریزی غیب نہیں ہے۔ مگر حدیث کے معنی انگریزی غیب ہے۔“ (قطعی کا ازالہ ص ۱۸، خزائن ج ۱ ص ۱۸)

مگر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حالت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ وہ بالکل آپ میں نہ تھیں۔ لہذا اول میں لکھا رہا۔ جس کے پیش نظر مثیل مسیح کا بھی دعویٰ کیا اور پھر ان

علامات کی تاویل کرنے لگے۔ مثلاً مسیح سے مثیل مسیح مراد ہے۔ مشرقی منارہ سے مراد میری مسجد کا منارہ مراد ہے۔ کیونکہ یہ بھی دمشق کے مشرق میں ہے۔ دو چادروں سے مراد میری دو بیماریاں مراد ہیں۔ یہ ساری قلابازیاں مندرجہ ذیل حوالوں سے ملاحظہ کریں۔

### دمشق سے قادیان تک

”اب یہ بھی جاننا چاہئے کہ دمشق کا لفظ جو مسلم کی حدیث میں وارد ہے۔ یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید مشرقی کے پاس اتریں گے۔ یہ لفظ ابتداء سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے..... پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر مغائب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے۔ جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ و رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں۔ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا معبود ہونا ان کی نگاہوں میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جو انہیں سمجھ نہیں آتا اور چونکہ طبیب کو بیماروں ہی طرف آنا چاہئے۔ اس لئے ضرور تھا کہ مسیح ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو۔ غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے..... خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرمادیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں۔ دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ بسا اوقات ایک ادنیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جز میں مشارکت کے باعث ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں..... سو خدا تعالیٰ کے اس عام قاعدے کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی اور اس بارے میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ: ”اخرج منه الیزیدیون“ یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کئے گئے۔ اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مثیل مسیح پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص دمشق میں کوئی مثیل مسیح پیدا ہو جائے۔ مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۳ تا ۷۳، خزائن ج ۳ ص ۱۳۴ تا ۱۳۸)

## مسح آنے کا اقرار

”هو الذی ارسل رسول بالهدی و دین الحق یہ آیت سیاسی اور ملکی طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے (نہ کہ مرزا کے ہاتھ سے) دین اسلام جمیع اقطار میں پھیل جائے گا۔“ (براین احمد ج ۳ ص ۳۹۸، ۳۹۹، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) اسی طرح اسی کتاب (ص ۵۰۵، خزائن ج ۱ ص ۶۰۱) کے حاشیہ میں ہے کہ حضرت مسیح جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔ یہ زمانہ (یعنی میرا) بطور ارہاس واقع ہے۔“

## تشریحی نبوت کا دعویٰ

یہاں سے ترقی کی تو مقام نبوت پر براجمان ہونے کا ارادہ کیا۔ چند دن یہاں رہ کر حقیقی اور تشریحی نبوت کا اعلان فرمادیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے قائل تھے اور ملاحظہ فرمائیے:

## ختم نبوت پر ایمان ایقان

”کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی ﷺ کا بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تفسیر اپنے ”قول لا نبی بعدی“ میں واضح طور پر فرمادی اور اگر ہم اپنے نبی ﷺ کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول ﷺ کے بعد نبی کیوں کر آ سکتا ہے۔ درآں حالے کے آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔“

(حملۃ البشری ص ۲۰، خزائن ج ۷ ص ۲۰۰)

”آحضرت ﷺ نے بار بار فرمادیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لانی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے۔ اپنی آیت ”ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔“ (کتاب البریہ ص ۱۹۹، خزائن ج ۳ ص ۲۱۷)

”ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعدہ ہے اور جو آیت خاتم النبیین

میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتفریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں صحیح اور صحیح ہیں تو پھر کوئی





”میں جانتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو مخالف ہے قرآن کے وہ کذب اور الحاد و زندقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

(حماتہ البشریٰ ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

”میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“ (تبلیغ رسالت ج ۲ ص ۲۲، اشتہار مورخہ ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰)

”مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور

کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔“ (حماتہ البشریٰ ص ۷۹، خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

”اے لوگو! دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔ اس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔“

(آسمانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۴ ص ۳۳۵)

”ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔“ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آنحضرت ﷺ کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۹۷)

”ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرائیل لاویں اور پھر چپ ہو جائیں۔ یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تبصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ و صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی ﷺ کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۴۱۱، ۴۱۲)

### غیر تشریحی اور بروزی نبوت کا دعویٰ

”غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آنحضرت ﷺ کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کہ: ”واخرین منهم لما يلحقوا بهم“ (اشہار ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۵)

”ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولا آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بے دین اور مردود ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے کمالات معتد بہ کے اظہار و اثبات کے لئے کسی بھی شخص کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکس طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے۔ سو اس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہوگئی اور ظلی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا۔ تاہم آنحضرت ﷺ کے فیوض کا کامل نمونہ ٹھہروں۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۲۳، خزائن ج ۲۳ ص ۳۲۰)

”مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیین تھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر خمیت ٹوٹتی ہے۔ کیوں کہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت ”واخرین منهم لما يلحقوا بهم“ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت ﷺ کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیوں کہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد (ﷺ) ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی۔ کیوں کہ محمد ﷺ کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یعنی بہر حال محمد ﷺ ہی نبی رہا۔ نہ اور کوئی یعنی جب کہ میں بروزی طور پر آنحضرت ﷺ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ظلمت میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۵)

”یہ مسلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالمقابل اپنا دین پیش کر سکتے ہیں..... تاوقتیکہ وہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت پر ایمان نہ لائیں۔ جو فی الحقیقت وہی ختم المرسلین تھا کہ خدائی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین میں مبعوث ہوا..... وہ وہی فخر اولین و آخرین ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمۃ اللعالمین بن کر آیا تھا اور اب اپنی بحیثیت تبلیغ کے ذریعہ ثابت کر گیا کہ واقعی اس کی دعوت جمیع ممالک و ملل عالم کے لئے تھی۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۳۱ ص ۳، مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۱۵ء)



”مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بناء پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے۔ بلکہ محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔ اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی۔ محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلوٰۃ والسلام۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۶)

”پس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں۔ مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے وعظ و اور بنے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر امواس میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔“ (نزول المسح ص ۲، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۰)

”اس فقرہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں۔ یعنی باعتبار نئی شریعت اور دعوے اور بنے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں۔ یعنی باعتبار ظہیریت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے اور میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرا نام محمد اود احمد اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا۔“ (نزول المسح ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۱)

”بروز کے معنی حضرت مسیح موعود نے خود لکھے ہیں کہ اصل اور بروز میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ یہی وجہ ہے کہ آپ جب آنحضرت ﷺ کے ساتھ غلامی کی نسبت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں ایک قطرہ ز آب زلال محمد لیکن جب آپ بروز کی رنگت میں جلوہ نما ہوتے تو فرماتے ”من فرق بینی و بین المصطفیٰ فمعا عرفنی و ما راہی“ کہ جو مجھ میں اور آنحضرت ﷺ میں ذرا بھی فرق کرتا ہے۔ اس لئے نہ مجھ کو دیکھا اور نہ مجھے پہچانا۔“

(تقریر سید سرور شاہ قادیانی محمد رجب اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۸۲، موریہ ۲۶ جنوری ۱۹۱۶ء)

”تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد ﷺ کو اتارا تا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔“ (کلمۃ الفضل ص ۱۰۵، معنفہ مرزا بشیر احمد قادیانی)

”اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت ”وآخرین منهم“ سے ظاہر ہے کہ پس مسیح موعود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔“

(کلمۃ الفضل ص ۱۵۸، اصاحزادہ بشیر احمد)

محمد پھر آئے ہیں ہم میں  
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل  
غلام احمد کو دیکھتے قادیان میں

(از قاضی ظہور الدین اکمل صاحب قادیانی، اخبار بدر نمبر ۳۳ ج ۲ ص ۱۲، ۱۳، ۲۵، اکتوبر ۱۹۹۶ء)

”اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیانی نہ پرانا بلکہ خود محمد رسول

ﷺ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔“

(اخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۳۳ ص ۲، مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۹۰ء، منقول از جماعت مبالحین کے عقائد)

”اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا

چاہئے۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے۔ اگر مسیح موعود کا منکر کافر

نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا

انکار کفر ہو۔ مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود آپ کی روحانیت اقویٰ اور اکمل

اور اشد ہے۔ آپ کا انکار کفر نہ ہو۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۳۶، ۱۳۷، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

”پس ان معنوں میں مسیح موعود (جو آنحضرت کے بعثت ثانی کے ظہور کا ذریعہ ہے)

کے احمد اور نبی اللہ ہونے سے انکار کرنا گویا آنحضرت کے بعثت ثانی اور آپ کے احمد اور نبی اللہ

ہونے سے انکار کرنا ہے۔ جو منکر کو دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر بنا دینے والا ہے۔ نیز مسیح

موعود کو احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا، یا امتی گروہ میں سمجھنا گویا آنحضرت کو سید

المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر

ہے۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۳، مورخہ ۲۹ جون ۱۹۱۵ء)

”اور آنحضرت کی بعثت اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج

قرار دینا۔ لیکن آپ کی بعثت ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا یہ آنحضرت کی ہتک

اور آیات سے سہوا ہے۔ حالانکہ خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود نے آنحضرت کی بعثت اول

و ثانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعثت

ثانی کے کافر کفر میں بعثت اول کے کافروں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ مسیح موعود کی جماعت ”واخر

منہم“ کی صداق ہونے سے آنحضرت کے صحابہ میں داخل ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۱۰، مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۱۵ء)

تشریح نبوت اور عین محمد ہونے کا دعویٰ

”یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی

بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا..... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغفوا من ابصارهم ویحفظوا افروجہم ذالک انکسی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ان هذا الفی صحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ“ یعنی قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔“ (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۴۳۵، ۴۳۶)

”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا..... اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو معیار نجات ٹھہرایا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔“ (اربعین نمبر ۴ ص ۶، خزائن ج ۷ ص ۴۳۵)

”ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا نام سنایا جاتا ہے۔ بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود محمد است وعین محمد است۔ میں اس سے بالکل بے بہرہ تھا کہ مسیح موعود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ: ”منم محمد واحمد کہ محبتی باشد“ پھر میں اس سے بالکل بے علم تھا کہ خدا کا برگزیدہ نبی اپنے آپ کو بروز محمد کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ پھر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں خدا کے اولوالعزم نبی حضرت مسیح موعود کو ماننے سے خدا کے نزدیک صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں۔ حالانکہ وہ خدا کا نبی..... الہامی الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ جو میری جماعت میں شامل ہو درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ پھر مجھے ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی وحی پاک میں مسیح موعود کو محمد رسول اللہ کر کے مخاطب کرتا ہے۔ میرے کانوں نے یہ الفاظ نہ سنے تھے کہ حضرت مسیح موعود کا آنا بعینہ محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن سے صراحتہ ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ دوبارہ مسیح موعود بروزی شکل اختیار کر کے آئیں گے۔ جیسے کہ: ”وآخرین منہم“ سے ثابت ہے۔ خدا کے ارادے نے میرے دل پر کسی بزرگ کے منہ سے مسیح موعود محمد است عین محمد است کے الفاظ کندہ کروائے۔ وہ فرد کامل تھا جس کی تعریف میں حضرت مسیح موعود

نبی اللہ نے خود بھی صفحوں کے صفحے لکھے ہیں۔ یعنی وہ میرا پیارا اور احمدیت کے عین بچپن کے زمانہ میں خضر راہ بننے والا حضرت شاہزادہ عبداللطیف شہید کا بل تھا۔ جس نے قادیان سے واپس آتے ہوئے..... مسجد گمنی والی (لاہور) میں..... دورانِ تقریر میں بڑے زور سے فرمایا: ”مسح موعود محمد است وعین محمد است“

وہ خدا کا پیارا (مرزا قادیانی) جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو بروز محمد کہتا تھا کہ: ”میرا وجود خدا کے نزدیک محمد رسول اللہ کا ہی وجود قرار پایا ہے۔“ اس لئے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں کوئی دوئی یا مغائرت باقی نہیں رہی اور جو کہتا تھا کہ میں خدا سے ہوں اور مسیح مجھ سے ہے اور جو کہتا تھا کہ جمع انبیاء کی صفات کاملہ کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ جس کے آگے موسیٰ اور عیسیٰ وہی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ کے آگے رکھتے ہیں۔ مسیح موعود کے عین محمد ہونے کی اول دلیل یہ ہے جو حضرت مسیح موعود الہامی شان کے الفاظ میں یوں تحریر فرماتے ہیں اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور نبی کریم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا۔ یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں شامل ہوا۔ درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یہی معنی ”وآخرین منهم“ کے بھی ہیں..... اور جو شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق پکڑتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے۔ پس ہمارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا مسیح موعود کے عین محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیہی دلیل ہے۔ پھر یہ الفاظ کہ جو شخص مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ صاف پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود کو فضائل اور نعماء حضرت احدیہ کے لحاظ سے عین محمد اگر نہ مانا جائے تو سب کہنا باطل ہو جاتا ہے۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۲۲، مورخہ ۷ اگست ۱۹۱۵ء)

”حضرت مسیح موعود نام کام اور مقام کے اعتبار سے گویا آنحضرت ﷺ کا ہی وجود ہیں اور آپ میں اور آنحضرت ﷺ میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں۔ سوائے اس کے کہ مسیح موعود شاگرد اور آنحضرت ﷺ استاد ہیں۔ لیکن یہ فرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے ہے۔ اب میں اس مضمون میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے بصراحت اس امر کو لکھا ہے کہ مسیح موعود درحقیقت محمدی حقیقت کا مظہر تام اور آپ کے وجود کا آئینہ ہے اور جیسا کہ آنحضرت ﷺ اپنی قوت قدسیہ اور افاضہ روحانیہ کے ساتھ اولین میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ایسا ہی وہ آخرین میں بھی اس قوت قدسیہ اور افاضہ روحانیہ کے ساتھ مبعوث ہوئے اور جیسا کہ فیض آنحضرت ﷺ کا صحابہ پر جاری ہوا۔ ایسا ہی بغیر کسی فرق ایک ذرہ کے مسیح موعود

کی جماعت پر فیض ہوگا۔ چنانچہ آپ (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔ پس جب کہ یہ امر بہ نص صریح قرآن شریف سے ثابت ہوا ہے کہ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا فیض صحابہ پر جاری ہوا ایسا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے مسیح موعود کی جماعت پر فیض ہوگا۔ تو اس صورت میں آنحضرت ﷺ کا ایک اور بعث ماننا پڑے گا۔ جو آخری زمانہ میں مسیح موعود کے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا اور اس تقریر سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آنحضرت ﷺ کے دو بعثت ہیں یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنحضرت ﷺ کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا۔ جو مسیح موعود اور مہدی معبود کے ظہور سے پورا ہوگا۔ اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت درحقیقت آنحضرت ﷺ کے ہی صحابہ میں کی ایک جماعت ہے اور جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا فیض صحابہ پر جاری ہوا۔ ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے مسیح موعود کی جماعت پر بھی آنحضرت ﷺ کا فیض ہوا۔ پس یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت کا عین صحابہ میں کی ایک جماعت ہونا اور آپ کی جماعت پر عین بعین وہی آنحضرت ﷺ کا فیض جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا۔ اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ مسیح موعود درحقیقت محمد اور عین محمد ہیں اور آپ میں اور آنحضرت ﷺ میں باعتبار نام کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مغایرت نہیں۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۷، مورخہ یکم جنوری ۱۹۱۶ء)

”آج تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات آنحضرت ﷺ کی شان کے متعلق بیان نہیں کی اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسا ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دو بعثتیں ہیں۔ تمام دنیائے اسلام میں صرف آپ ہی کا ایک وجود ہے۔ جس نے آنحضرت ﷺ کی شان کا اظہار آپ کی دو بعثتوں کی حیثیت میں کیا۔ چنانچہ آپ (یعنی مرزا قادیانی) (تحفہ گلزدیہ ص ۹۴، خزائن ج ۱ ص ۲۳۹) پر تحریر فرماتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے دو بعثت ہیں۔ یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنحضرت ﷺ کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا۔ جو مسیح موعود اور مہدی معبود (مرزا قادیانی) کے ظہور سے پورا ہوا۔ پھر (مرزا قادیانی) (تحفہ گلزدیہ ص ۹۶) پر فرماتے ہیں۔ جیسا کہ مؤمن کے لئے دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے ایسا ہی اس بات پر ایمان لانا بھی فرض ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دو بعثت ہیں۔ پھر (تحفہ گلزدیہ ص ۹۹) پر فرماتے ہیں۔ غرض آنحضرت ﷺ کے لئے دو بعثت مقدر تھے۔ ایک بعث تکمیل ہدایت کے لئے دوسرا بعث تکمیل اشاعت ہدایت کے لئے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۸ نمبر ۸۶، ص ۱۰، مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۳۱ء)

”پس حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) وہی نور ہیں جس کا سب نوروں کے آخر میں  
آنا مقدر ہو چکا تھا اور وہی نبی ہیں جس کا آنا سب سے آخر ہوا۔ اس لئے ہونے لگتا کہ وہ سوائے  
آنحضرت ﷺ کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت میں پیش کئے جاسکیں۔ کیونکہ آخری ہونا  
ہمارے نبی ﷺ کی ہی شان ہے۔ پس اس لئے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو ظلی طور پر  
آنحضرت ﷺ ہی کا تمام کمال یعنی نام کام اور مقام عنایت کیا تا اس کا آنا کسی غیر کا آنا نہ سمجھا  
جاوے۔ بلکہ خود آنحضرت ﷺ کا ہی آنا متصور ہو۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۵۵، مورخہ ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۵ء)

”ہم نے مرزا قادیانی کو بحیثیت مرزا نہیں مانا بلکہ اس لئے کہ خدا نے سے محمد رسول اللہ  
فرمایا۔ کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ نہ پرانے نبیوں میں سے بلکہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی۔ یہی وجہ  
ہے کہ حضور (مرزا) نے اپنی نبوت کو ظلی اور مجازی نبوت کہا ہے اور حقیقی و مستقل نبوت نہ کہا۔ بعض  
لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھے..... میرا ایمان ہے کہ اگر مرزا قادیانی مستقل اور حقیقی نبی ہوتے تو ہرگز  
ہرگز یہ درجہ نہ پاتے۔ جو محمد رسول اللہ ﷺ ہو کر پایا..... تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی  
ساری جائیدادیں سارے اموال اور جانیں قربان کر دیتے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔  
یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غوث قطب ولی جتنے بزرگ امت محمدیہ میں گزرے ہیں ان کا ایمان  
صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا..... اللہ نے تمہیں محمد رسول کا چہرہ مبارک دکھا کر اس کی صحبت  
سے مستفاد کر کے صحابہ کرام کے گروہ میں شامل کر دیا۔“

(تقریر سید سرور شاہ صاحب قادیانی، مہندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۸۳، ص ۷، مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۱۴ء)

”جس بناء پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی  
ہم کلامی سے مشرف ہوں اور میرے ساتھ بکثرت بولتا اور ہم کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب  
دیتا ہے۔ بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر  
کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دوسرے پر وہ اسرار نہیں  
کھولتا اور ان ہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ سو میں خدا کے حکم کے  
موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی  
رکھتا ہے تو میں کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک جو اس دنیا سے گذر  
جاؤں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹، مرزا قادیانی کا خط، مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء، نام اخبار عام لاہور)

”پس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سو پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر

”پچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں۔ تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی سے ڈروں۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

”اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ دو ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے..... لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔“

(چشم معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

”خدا نے میرے ہزار ہا نشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی۔ لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہر ہے وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔“ (تمتہ حقیقت الوحی ص ۱۳۸، ۱۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۷)

”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اسی نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۶۸، خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

”در حقیقت خدا کی طرف سے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قرآن کریم کے بتائے ہوئے معنی کی رو سے جو نبی ہو اور نبی کہلانے کا حقدار ہو تمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک پائے جاتے ہوں۔ جس حد تک نبیوں میں پائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان معنوں کی رو سے حضرت مسیح موعود حقیقی نبی تھے۔“ (القول الفصل ص ۱۲، محمود احمد قادیانی)

”پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“

(حقیقت الدعوة حصہ اول ص ۱۸۰، مصنفہ محمود احمد قادیانی)

”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) رسول اللہ اور نبی اللہ جو کہ اپنی ہر ایک شان میں اسرائیلی مسیح سے کم نہیں اور ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر ہے۔“

(کشف الاختلاف ص ۷، مصنفہ سید محمد سرور شاہ قادیانی)

”حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں میں نے اپنی کتاب انوار اللہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود بموجب حدیث صحیح حقیقی نبی ہیں اور ایسے ہی نبی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام و آنحضرت ﷺ ہیں۔ ”لا نفرق بین احد من رسلہ“ ہاں صاحب شریعت جدیدہ نبی نہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت نبی نہ تھے۔ یہ کتاب حضرت مسیح موعود نے پڑھ کر فرمایا آپ نے ہماری طرف سے حیدر آباد دکن میں حق تبلیغ ادا کر دیا ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۳۸، ۳۹، ص ۶، مورخہ ۲۱، ۱۹ ستمبر ۱۹۱۵ء)

”میں حلفی بیان دیتا ہوں کہ خدا ایک اور محمد رسول اللہ اس کے سچے نبی خاتم النبیین ہیں اور حضرت مرزا قادیانی اسی طرح نبی اللہ ہیں۔ جس طرح دوسرے ایک لاکھ ۲۴ ہزار نبی اللہ تھے۔ ذرہ فرق نہیں۔ فقط بابو غلام محمد صاحب قادیان ریٹائرڈ فورمین۔“

(مندرجہ رسالہ فرقان قادیان ج ۱، نمبر ۱۰، بابت ماہ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

”مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد“ آیت مرقومہ الصدر کے الفاظ میں مسیح نے خدا کی طرف سے ایک پیش گوئی کی ہے کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا آنا میرے بعد ہوگا۔ اس کا نام احمد ہے۔ پیش گوئی میں آنے والے رسول کا اسم احمد بتلایا گیا ہے۔ جس کے مصداق حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ قرآنی وحی میں کسی مقام سے آپ کا نام نامی احمد ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں محمد آپ کا اسم گرامی ضرور ہے۔ جیسا کہ آپ قبل از دعویٰ نبوت محمد کے نام سے ہی مشہور تھے اور ایسا ہی قرآنی وحی میں بھی بار بار آپ کو محمد ہی کے نام سے یاد فرمایا گیا اور تورات میں بھی آپ کی پیش گوئی میں آپ کا نام محمد ہی بتایا گیا۔ جیسا کہ سورہ فتح میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ جہاں فرمایا: ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ لیکن اسم احمد کا ذکر تمام قرآن میں ایک جگہ صرف سورہ صف میں ہی پایا جاتا ہے اور وہ بھی حکایت مسیح کی پیش گوئی کے الفاظ ہیں۔ جس کا مصداق حضرت مسیح موعود کے الہامات میں بار بار آپ کو ہی قرار دیا اور بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر مسیح کی پیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیانی ہی ہیں اور اگر احمد والی پیش گوئی کے مصداق آنحضرت ﷺ رسول اللہ ﷺ ہی تھے تو ضروری تھا کہ آپ کی وحی بھی آپ کو احمد ٹھہرا کر اس امر کی تصدیق کرتی۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۲۵، مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۱۵ء)

”اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا



اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا۔ بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفہ الاول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا قادیانی احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درسوں کے فوٹوں میں یہی چھپا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت ”اسمہ احمد“ کے مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں۔“ (انوار خلافت ص ۲۱)

”جب اسی آیت ”اسمہ احمد“ میں ایک رسول کا جس کا اسم ذات احمد جو ذکر ہے۔ دو کا نہیں اور اس شخص کی تعین ہم حضرت مسیح موعود پر کرتے ہیں تو اس سے خود نتیجہ نکل آیا کہ دوسرا اس کا مصداق نہیں اور جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دوسرا کوئی شخص اس کا مصداق نہیں۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۳۳، ۳۴ ص ۵، ۵، مورخہ ۲، ۵ دسمبر ۱۹۱۶ء)

### خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ

ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو سمجھ سکتا سوائے اس کے جو خود حضرت خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا سمجھنا اس کے اہل پر موقوف ہوتا ہے اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محمد ﷺ ہیں یا حضرت مسیح موعود۔“

(قادیانی رسالہ تحفۃ الاذہان ج ۱۲ نمبر ۸ ص ۱، بعنوان محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت، اگست ۱۹۱۷ء)

”محمدی ختم نبوت سے بالکل باب نبوت بند نہیں ہوا۔ کیونکہ باب نزول جبرائیل پہ پیرایہ وحی الہی بند نہیں ہوا۔“ (تحفۃ الاذہان قادیان نمبر ۸ ج ۱۲ ص ۳۶، اگست ۱۹۱۷ء)

”آئینہ حضرت ﷺ کے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکومت میں رخنہ واقع کرتا ہے۔“

(تحفۃ الاذہان قادیان نمبر ۸ ج ۱۲ ص ۱۱، بابت ماہ اگست ۱۹۱۷ء)

”پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آسکتے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے۔ جو مسیح موعود ہے اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے۔ بلکہ لانی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس امت میں نبی صرف ایک ہی آسکتا ہے جو مسیح موعود ہے اور قطعاً کوئی نہیں آسکتا۔ جیسا کہ دیگر احادیث پر نظر کرنے سے یہ امر



## ترک نبوت کا معاہدہ

”صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہئے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے۔“ (انجام آتھم ص ۲۷، خزائن ج ۱ ص ۲۷)

”جو مباحثہ لاہور میں مولوی عبدالحکیم صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان چند روز سے بابت مسئلہ دعویٰ نبوت مندرجہ کتب مرزا قادیانی کے ہو رہا تھا۔ آج مولوی صاحب کی طرف سے تیسرا پرچہ جواب الجواب کے جواب میں لکھا جا رہا تھا۔ اثنائے تحریر میں مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل کے بیان کرنے پر جلسہ عام میں فیصلہ ہو گیا جو عبارت درج ذیل ہے۔“ (المرقوم ۳ فروری ۱۸۹۲ء)

”الحمد لله والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين“ اما بعد! اتمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتوضيح المرام، ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگی سے ان کے معنوں کی رو سے بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ کتاب (ازالہ اوہام ص ۱۳۷) میں لکھ چکا ہوں۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں..... وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آنحضرت ﷺ نے مکلم مراد لئے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کے لئے اس لفظ کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ سو دوسرا پیرایہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کھٹا ہوا خیال فرمائیں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۳۱۲، ۳۱۳)

ختم نبوت کی توہین

”تیرہ سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ

کیا اور اس کے بعد اب مدت دراز کے گزرنے سے لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر پر بخت ہو گئے تھے کہ آنحضرت ہی خاتم الانبیاء ہیں اور اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے تو اس سے آنحضرت کی شان میں فرق بھی نہیں آتا۔ اس لئے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لئے ظاہر بھی بول دیا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں پر صاف صاف نبی اللہ ہونے کے واسطے دو امور مد نظر رکھنے ضروری تھے۔ اول عظمت آنحضرت دوم عظمت اسلام۔ سو آنحضرت کی عظمت کے پاس کی وجہ سے ان لوگوں پر تیرہ سو برس تک نبی کا لفظ نہ بولا گیا تا کہ آپ کی ختم نبوت کی توہین نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیفوں یا صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بعد لوگوں پر بولا جاتا رہا۔ تو اس میں آپ کی ختم نبوت کی توہین تھی اور کوئی عظمت نہ تھی۔ سو خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد تیرہ سو برس تک اس لفظ کو آپ کی امت سے اٹھا دیا۔ آپ کی نبوت کی عظمت کا حق ادا ہو جائے اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آنحضرت کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جائے اور تا پہلے سلسلے سے اس کی مماثلت پوری ہو۔ آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا اور اس طرح پر نہایت حکمت اور بلاغت سے دو متضاد باتوں کو پورا کیا۔ موسوی سلسلے کی مماثلت بھی قائم رکھی اور عظمت نبوت آنحضرت بھی قائم رکھی۔“

(اخبار الحکم قادیان مورخہ ۱۸ اپریل ۱۹۰۳ء، منقول از رسالہ ختم نبوت ص ۱۰، از فخر الدین ملتانی)

مہر کا معنی

”جس کا مل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اور وہ خاتم الانبیاء بنے مگر انی معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے روحانی فیض نہیں ملے گا۔ بلکہ اس معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے۔ بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لئے امتی ہونا لازمی ہے اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا۔“ (گویا مرزا قادیانی نبی نہ مانے جائیں تو امت محمدیہ ناقص اور نبی کریم ﷺ کی ہمت و ہمدردی بھی ناقص قرار پائی ہے) (حقیقت الہی ص ۲۷، خزائن ج ۲۲ ص ۲۹، ۳۰)

”خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ”خاتم النبیین“ کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔“

(ملفوظات احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۹۰، مرتبہ محمد منظور الہی قادیانی لاہوری)

ہمارا ایمان کہ ہماری مقدس شریعت کا ایک ایک حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک حکم بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ جمیع حکم امنٹ ہیں۔ مگر مرزا قادیانی چونکہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس لئے احکام میں تبدیلی بھی کی۔ بلکہ سارا ڈھانچہ ہی بدل دیا۔ نہ وہ خدا ہے، نہ فرشتہ، نہ وہ زبان۔ ہر ایک چیز بدل کر رکھ دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

### قرآن کے متعلق

”خدا تعالیٰ نے حضرت احمد (مرزا قادیانی) کے بہیت مجموعی الہامات کو الکتاب المبین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کو آیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ الہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وحی بھی جدا جدا آیت کہلا سکتی ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا نام دیا ہے اور مجموعہ الہامات کو الکتاب المبین کہہ سکتے ہیں۔ پس جس شخص یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب لانا ضروری شرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہو یا کتاب المبشرات والمندرات ہو تو ان کو واضح ہو کہ ان کی اس شرط کو بھی خدا نے پورا کر دیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموعہ الہامات جو مبشرات اور مندرات ہیں۔ الکتاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلو سے بھی نبی ثابت ہیں۔“ ”ولو کرہ الکفرون“

(رسالہ احمدی نمبر ۶، ۷، موسوم النبوة فی الہام ص ۴۳، ۴۴، مؤلفہ قاضی محمد یوسف پشاور، قادیانی)

”اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جزو سے کم

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۷)

نہیں ہوگا۔“

### حدیث کے متعلق

”اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں۔ بلکہ قرآن اور وحی ہے۔ جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“ (نزل المسح ص ۳۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۴۰)

”اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کر لے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔“

(تختہ کوثر ویس ۱۰، خزائن ج ۱۷ ص ۵۱)

### جہاد کے متعلق

”جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت

مویٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی ﷺ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔“

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۴۴۳)

”آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۵)

اب چھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال  
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ و قتال  
اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے  
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے  
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے  
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے  
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد  
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۹۷، ۲۹۸)

نیاج

اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا وہ جلسہ سالانہ شروع ہونے والا ہے۔ جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت رکھی اور جس میں شامل ہونے کی یہاں تک تاکید کی کہ آپ نے فرمایا: ”اس جگہ نفی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیوں کہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۵۲، خزائن ج ۵ ص ۳۵۲)

نیا کلمہ

”اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس

لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش آتی کیوں، مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ وہ (مرزا قادیانی) خود فرماتا ہے۔ ”صار وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و مارائی“ اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خود محمد رسول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۵۸، مصنفہ صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی)

### مرزا قادیانی کی وحی

”اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں۔ جو مجھے ہوئی۔ جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اور اسی خدا کا کلام ہے۔ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف پر خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)

”میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ تورات اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۵۴)

”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر۔“

(اربعین نمبر ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۴)

”ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود اپنے الہامات کو کلام الہی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ بلحاظ کلام الہی ہونے کے ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید اور تورات اور انجیل کا۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۲۲ نمبر ۸۴، مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۳۵ء، مکرین خلافت کا انجام ص ۴۹)

”حضرت مسیح موعود اپنی وحی جماعت کو سناتے رہے۔ جماعت احمدیہ کو اس وحی

اللہ پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ وحی اللہ اسی غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے۔  
ورنہ اس کا سنانا اور پہچاننا ہی بے سود اور لغو فعل ہوگا۔ جب کہ اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا  
مقصود بالذات ہو۔ یہ شان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان کی وحی پر ایمان لایا جائے۔  
حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو ملا۔ پس یہ امر بھی آپ کی (مرزا قادیانی) کی نبوت کی دلیل ہے۔“  
(رسالہ احمدی نمبر ۶۵، ۷۶، بابت ۱۹۱۹ء موسومہ النبوۃ فی الالہام ص ۲۸، مؤلفہ قاضی محمد یوسف قادیانی)

### دروود شریف

”پس آیت ”یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما“ کی رو سے اور  
ان احادیث کی رو سے جن میں آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود  
(مرزا قادیانی) پر درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ جس طرح آنحضرت ﷺ پر بھیجنا از بس  
ضروری ہے۔ اس کے لئے کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تاہم ذیل میں چند فقرات  
حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی وحی الہی کے بطور نمونہ نقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ پر درود  
بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔“ (رسالہ درود شریف مصنفہ محمد اسماعیل قادیانی)  
”تمہیں اصحاب الصفہ (کی ایک عظیم الشان جماعت) دی جائے گی اور تمہیں کیا  
معلوم کہ اصحاب الصفہ کس شان کے لوگ ہیں۔ تم ان کی آنکھوں سے بکثرت آنسو بہتے دیکھو گے  
اور وہ تم پر درود بھیجیں گے۔“ (اربعین نمبر ۲ ص ۲، خزائن ج ۷ ص ۳۵۰)

”وہ لوگ تم پر درود بھیجیں گے جو (اس جماعت میں) مثیل انبیاء یعنی اسرائیل پیدا  
ہوں گے۔“ (الہام مرزا قادیانی مندرجہ رسالہ درود شریف ص ۱۳۷، مؤلفہ محمد اسماعیل قادیانی)  
”خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود  
بھیجتے ہیں۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۲۴، خزائن ج ۷ ص ۳۱۱)

”سلام علی ابراہیم“ ابراہیم پر السلام (یعنی اس عاجز پر)  
(اربعین نمبر ۲ ص ۲، ۹، خزائن ج ۷ ص ۳۵۵، ۳۶۸)  
”ان الہامات کے کئی مقامات میں اس خاکسار پر خدا تعالیٰ کی طرف سے صلوة اور  
سلام ہے۔“ (اربعین نمبر ۲ ص ۲۱، خزائن ج ۷ ص ۳۶۸)

نئے فرشتے

(حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲ ص ۳۳۶)

(ترباق القلوب ص ۹۴، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱)

ٹیچی ٹیچی

خیراتی، شیر علی۔





”کسی عقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔“

(ست پکن ص ۳۰، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۲)

”ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“

(ست پکن ص ۳۱، خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۳)

”اس شخص کی حالت ایک مجبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلتا متناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۱)

”جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵)

## ہندوؤں سے جواز نکاح

”میاں محمود احمد قادیانی نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھ بھی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کا ہی بگڑا ہوا فرقہ ہے۔“

(میاں محمود احمد قادیانی کی ڈائری، مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۵ ص ۵، مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۲۲ء)

”ہندوستان میں ایسی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے بہت کم ہیں۔ مجارٹی ایسے لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ پر عمل کرنے میں زیادہ دقتیں نہیں۔ سوائے سکھوں اور جینیوں کے عیسائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ (یعنی ہندوؤں کی عورتوں سے) نکاح جائز ہے۔“

(میاں محمود احمد قادیانی کا فتویٰ مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر ۶ ص ۸، مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۰ء)

جب سب کچھ نیا بن گیا تو مسلمانوں سے کیا تعلق رہا۔ اس لئے کہ نبی کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ کتاب بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ لہذا جیسے پہلے مستقل نبوت کا دعویٰ نہ تھا کہ کہہ دیا کہ میرا منکر کافر نہیں۔ جیسے (تریق القلوب ص ۱۳۰، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲) میں فرمایا کہ: ”ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث گذرے ہیں وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔“

مگر جب مستقل دعویٰ نبوت کر دیا تو منکروں کا انجام بھی واضح ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

”قادیانی محمودی تمام دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں کو جنہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت نہیں کی کافر اور خارج از دائرہ اسلام سمجھتے ہیں اور اس طرح محمد رسول اللہ ﷺ کے کلمہ کو منسوخ ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ اس کو پڑھ کر اب کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر اور اسلام سے خارج کر کے تیرہ سو برس کی آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ اور تمام امت کی محنت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔“ (جماعت لاہور کا اخبار پیغام صلح لاہور ج ۲۳ نمبر ۲، مورخہ ۵ جنوری ۱۹۳۵ء)

”قادیانی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے اپنے اس عقیدہ کو ظاہر کرنے کے خیال سے ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنے عقیدہ تکفیر کی تائید کے لئے کہیں سے کوئی معقول دلیل نہیں ملتی۔ جب ان پر ان کے مخصوص عقائد کے متعلق کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی عملی کیفیت یہ ہے کہ قرآن دانی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اشاعت کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لے دے کے ان کے خلیفہ نے ایک تفسیر لکھی جسے عیب کی طرح چھپا رکھا ہے۔ یہ باتیں یقیناً سب کی تذلیل کا باعث ہیں۔“

(قادیانیوں کی لاہوری جماعت کا اخبار پیغام صلح ج ۲۲ نمبر ۶۵ ص ۳، مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۴ء)

”تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون“ ان کتابوں کو سب مسلمان محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر بدکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۱)

”واعلم ان كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل الدجال فيفعل امرا من امرين“ اور جاننا چاہئے کہ ہر ایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے۔ وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرے گا۔

(نور الحق حصہ اول ص ۱۲۳، خزائن ج ۸ ص ۱۶۳)

علی ہذا مرزا قادیانی ایک دوسرے موقع پر اپنے مخالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کو عربی میں گالی دے کر خود ہی اس کا اردو ترجمہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو: ”رقص بخت کر قص بغية في مجالس“ تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا۔

(حجۃ اللہ عربی ص ۸۷، خزائن ج ۱۲ ص ۲۳۵)

اس کے سوا ملاحظہ ہو:

۱..... ”و یتزوجون البغایا“ و در نکاح خودی آرند زنان بازاری را۔

(لجۃ النور ص ۹۲، خزائن ج ۱۶ ص ۴۲۸)

۲..... ”فلا شك ان البغایا قد خربن بلداننا“ پس بیچ شک نیست کہ

زنان فاحشہ ملک مارا خراب کردہ اند۔ (لجۃ النور ص ۹۳، خزائن ج ۱۶ ص ۴۲۹)

۳..... ”ان البغایا حزب نجس فی الحقیقۃ“ زنان فاحشہ و ر حقیقت

پلید اند۔ (لجۃ النور ص ۹۵، خزائن ج ۱۶ ص ۴۳۱)

۴..... ”ان النساء داران کن بغایا فیکون رجالها دیوثین

دجالین“ اگر در خانہ زنان آن فاسق باشند۔ پس مردان آن خانہ دیوث و جال مے باشند۔

(لجۃ النور ص ۹۶، خزائن ج ۱۶ ص ۴۳۲)

اذتیننی خبثاً فلست بصادق

ان لم تحت بالخزی یا بن بغایا

مرا بختا بدست خود اید او ہی پس من صادق نیم اگر تو اے نسل بدکاراں بذات نمیری۔

(انجام آتھم ص ۲۸۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۲)

”اور جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے

اور حلال زادہ نہیں۔“ (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن ج ۹ ص ۳۱)

”یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۵، خزائن ج ۱۱ ص ۳۰۹)

”دشمن ہمارے بیانوں کے جنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں۔“

(نجم الہدی ص ۱۰، خزائن ج ۱۳ ص ۵۳)

## مسلمانوں سے اختلاف

”حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔

آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل

میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم ﷺ، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض

کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۹ نمبر ۱۳، مورخہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء)

(برائین احمد یہ حصہ پنجم ص ۸۲، ۸۳، خزائن ج ۲ ص ۱۰۸، ۱۰۹) میں آپ (یعنی مرزا قادیانی) تحریر فرماتے ہیں کہ: ”ان ہی دنوں میں آسمان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خدا اپنے منہ سے اس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک قرنا بجائے گا اور اس قرنا کی آواز پر ہر ایک سعید اس فرقہ کی طرف کھینچ آئے گا۔ بجز ان لوگوں کے جو شقی ازلی ہیں جو دوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔“

ایسا ہی اشتہار حسین کامی سفیر سلطان روم میں آپ لکھتے ہیں۔ ”خدا نے یہ ہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمان مجھ سے الگ رہے گا وہ کاٹا جائے گا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۱۶)

پھر ایک حضرت مسیح موعود کا الہام ہے جو آپ نے اشتہار (معیار الاخیار مورخہ ۲ مئی ۱۹۰۰ء ص ۸) پر درج کیا ہے اور وہ یہ ہے: ”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جنم ہی ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۷۵)

”اختصار کے طور پر اتنے حوالے دیئے جاتے ہیں۔ ورنہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے بیسیوں جگہ اس مضمون کو ادا کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول (حکیم نور الدین) کا بھی یہی عقیدہ تھا۔“ چنانچہ جب ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مرزا کے ماننے کے بغیر نجات ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا: ”اگر خدا کا کلام سچ ہے تو مرزا قادیانی کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔“ (دیکھو اخبار بدر نمبر ج ۲ ص ۱۲، مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۱۲ء)

”اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۲۹، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

## خدا کے ساتھ تعلقات

”انت منی بمنزلة ولدی“ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۸۶، خزائن ج ۲ ص ۸۹)

”انت منی بمنزلة اولادی“ (تذکرہ ص ۳۹۹)

”اسمع ولدی“ اے میرے بیٹے سن۔ (البشری ج ۱ ص ۴۹)

”یا قمر یا شمس انت منی وانا منك“ اے چاند اے خورشید تو مجھ سے ظاہر ہو

(حقیقت الوحی ص ۷۷، خزائن ج ۲ ص ۷۷)

اور میں تجھ سے۔

”انت منی وانا منك ظهورك ظهوری“ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے

(تذکرہ ص ۷۰۴)

ہوں۔ تیرا ظہور میرا ظہور ہے۔

”انت منی بمنزلة بروزی“ اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ظاہر ہو گیا۔ یعنی تیرا ظہور بعینہ میرا ظہور ہو گیا۔ (تذکرہ ص ۶۰۴)

”انت من ماء ناولهم من فشل“ تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ (انجام آتھم ص ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً) (بزدلی) سے۔

”یحمدك الله من عرشه ويمشي اليك“ خدا عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ (انجام آتھم ص ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ایضاً)

خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ (البشری ج اول ص ۵۶، تذکرہ ص ۴۳۷)

”انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلی كان الله نزل من السماء“ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا ہی آسمان سے (حقیقت الوحی ص ۹۵، خزائن ج ۲۲ ص ۹۸) اتر آیا۔

”میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے۔ یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی تو مجھ سے ایسا ہے۔ جیسا کہ اولاد تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔“ (دافع البلاء ص ۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

”میرا لوٹا ہوا مال تجھے ملے گا۔ میں تجھے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا اور پھر انتقال ہوگا۔ تیرے پر میرے انعام کامل ہیں..... آواہن (خدا تیرے اندر اتر آیا تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے)

(کتاب البریہ ص ۸۳، ۸۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۱، ۱۰۲، تذکرہ ص ۳۱۱)

اللہ تعالیٰ نے دستخط کر دیئے

”۱۰ جنوری ۱۹۰۶ء ایک رویا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو آئے ہیں اور ایک کاغذ پیش کیا کہ اس پر دستخط کر دو۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پبلک نے کر دیئے ہیں۔ میں نے کہا میں پبلک نہیں یا پبلک سے باہر ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے کو تھا کہ کیا خدا نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہو گئی۔“

(مکاشفات ص ۴۸، بدرج ۲ نمبر ۲، ۱۹۰۶ء)

”ایک میرے مخلص عبداللہ نام پٹواری غوث گڑھ علاقہ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے یہ نشان الہی ظاہر ہوا کہ اول مجھ کو کشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے

بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معاً جھاڑنے کے ساتھ ہی اسی سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چوں کہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصہ رکھتا ہے۔ اس لئے مجھے جب کہ ان قطروں سے جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے بہ چشم خود ان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تہہ تر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہ تھی۔ جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔ جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی تھی۔“

(تریاق القلوب ص ۳۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۷، حقیقت الوحی ص ۲۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۷)

### انگریز فرشتہ

”ایک فرشتہ کو میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل انگریزوں کے تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں درشنی ہوں۔“

(تذکرہ ص ۳۰، ۳۱، طبع اول)

### الہامات کی زبان

”اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

”زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“

(نزل اسح ص ۵۷، خزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵)

مخدومی مکرمی اخویم میر عباس علی شاہ صاحب سلمہ!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد ہذا چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ





نا واتبع الهدی الناصح المشفق“  
 (اشتہار مندرجہ تبلیغ رسالت ج دوم ص ۸۵، مجموعہ اشتہارات ج ص ۳۰۱)

..... ۲۷ بروز ستمبر ۱۸۹۱ء۔ ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

(البشری ج دوم ص ۱، مجموعہ الہامات مرزا قادیانی)

..... ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔

(تبلیغ رسالت ج دوم ص ۸۵، مجموعہ اشتہارات ج ص ۳۰۱)

”ہفتہ ختمہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء میں حالت کشفی میں جب کہ حضور (مرزا قادیانی) کی طبیعت ناساز تھی۔ ایک شیشی دکھائی گئی۔ جس پر لکھا ہوا تھا۔ ”خاکسار پیپر منٹ“

(تذکرہ ص ۵۲، اخبار الحکم قادیان ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء، مکاشفات ص ۳۸)

”۵ مئی ۱۹۰۶ء روایا۔ ایک شخص نے ایک دوائی کولاوائن کی ہے اور اس پر رسیاں لٹٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر دیکھنے میں تو بوتل ہی نظر آتی ہے۔ مگر جس شخص نے دی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب دیتا ہوں۔“

”ایک روز کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعائیں مانگ رہا تھا اور وہ بزرگ ہر ایک دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔ اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔ اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی۔ تب اس صاحب بزرگ سے بہت کشتم کشتا ہوا۔ تب اس مرد نے کہا مجھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔ تب اس بزرگ نے آمین کہی۔“ (لیکن افسوس کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پانچ سال کے بعد ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی فوت ہو گئے۔ شاید بزرگ صاحب نے آمین دل سے نہ کہی ہو۔ للمؤلف)

(مندرجہ اخبار الحکم ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱۔)

## خدا کا نیا نام

”انسی انسا الصاعقة“ (مرزا قادیانی کا یہ الہام سن کر) مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نیا اسم ہے۔ آج تک کبھی نہیں سنا۔ حضرت اقدس (مرزا قادیانی) نے فرمایا بے شک۔“

## پیش گوئیاں

”اس در ماندہ انسان (مسیح) کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہ ہی کہ زلزلے آئیں گے۔ قحط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت۔ جنہوں نے ایسی ایسی پیش گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۴، خزائن ج ۱۸ ص ۲۸۸)

”میرے پر خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا کہ سخت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیاں چلیں گی اور بعد اس کے سخت زلزلے آئیں گے۔ چنانچہ ان بارشوں سے پہلے وہ وحی الہی بدر اور الحکم میں شائع کر دی گئی تھی۔ چنانچہ ویسا ہی ظہور میں آیا اور کثرت بارشوں سے کئی گاؤں ویران ہو گئے اور وہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ مگر دوسرا حصہ اس کا یعنی سخت زلزلے ابھی ان کی انتظار ہے۔ سو منتظر رہنا چاہئے۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۱۴، خزائن ج ۲۲ ص ۳۷۸)

## منکوحہ آسمانی

”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص (احمد بیگ) کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لئے درخواست کر اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کرے اور پھر تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے بہہ کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ میرے اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے۔ تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبردار ہو۔ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لئے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لئے ایسی صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مر جاؤ گے۔ بلکہ تمہاری موت قریب ہے اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا۔ یہ

حکم اللہ ہے۔ پس جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے۔ پس وہ (مرزا احمد بیگ) تیوری چڑھا کر چلا گیا۔“  
(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷۲، ۵۷۳، خزائن ج ۵ ص ۵۱۵)

”خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے۔ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصہ بلکہ اس کے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ نکاح کرے گا۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔“  
(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸، مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۲ء، تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۶۱)

”چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف (اس پیش گوئی کے) انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس دن یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بے وقوفوں کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہرے کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳، خزائن ج ۱ ص ۳۳۷)

”یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی تو میں ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمقو! یہ انسان کا افتراء نہیں نہ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳، خزائن ج ۱ ص ۳۳۸)

”میں (مرزا قادیانی) بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ (سلطان محمد) کی تقدیر مبرم (قطع) ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔“

(انجام آتھم ص ۳۱، خزائن ج ۱ ص ۳۱)

”اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم! اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں۔ جیسا کہ مخالفوں نے سمجھ رکھا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۱۶، مورخہ ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۲ء، مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۸۶)

”جب یہ پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ اب تک ۱۶ اپریل ۱۸۹۶ء سے پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد اس عاجز (مرزا قادیانی) کو ایک سخت بیماری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا یہ پیش گوئی آنکھوں کے سامنے آئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے۔ جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت میں بھی مجھے الہام ہوا۔ ”الحق من ربك فلا تكن من الممتقرين“ یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے؟ اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن میں کہا کہ تو شک مت کر۔ سو میں نے سمجھ لیا کہ درحقیقت یہ آیت ایسے نازک وقت سے خاص ہے۔ جیسے یہ وقت جنگی و نوامیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تجھے کیوں نوامید کر دیا تو نوامید مت ہو۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۹۸، خزائن ج ۳ ص ۳۰۶)

کوئی امید بر نہیں آتی  
کوئی صورت نظر نہیں آتی

”اور یہ امر کہ الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت (محمدی بیگم) کا نکاح آسمان پہ میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسمان پر پڑھا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی۔ جو اس وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ: ”اینتها المرأة توبی توبی فان البلاء علی عقبك“ پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فتح ہو گیا۔ یا تاخیر میں پڑ گیا۔ (تاہم فی الحال تاخیر کی امید بہتر ہے۔

بس ہجوم ناامیدی خاک میں مل جائے گی

وہ جو اک لذت ہماری سنی لا حاصل میں ہے)

”احمد بیگ کے داماد (مرزا سلطان محمد) کا یہ تصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پہ خط بھیجے گئے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیگ نے ترک تعلق نہ چاہا۔ بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی تصور تھا کہ پیش گوئی سن کر پھر ناٹھ کرنے پر راضی ہو گئے اور شیخ بالوی کا یہ کہنا

کہ نکاح کے بعد طلاق کے لئے ان کو فہمائش کی گئی تھی۔ یہ سراسر افتراء ہے۔ بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا۔ جب کہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔“  
(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۹۵، مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۳ ص ۱۶۶)

مسجد اقصیٰ

”سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ“ کی آیت کریمہ میں مسجد اقصیٰ سے مراد قادیان کی مسجد ہے۔ جیسے فرمایا اس معراج میں آنحضرت ﷺ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر فرما ہوئے اور وہ مسجد اقصیٰ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے جو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی برکات اور کمالات کی تصویر ہے۔ جو آنحضرت ﷺ کی طرف سے بطور موہبت ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۲۲، مورخہ ۲۱ اگست ۱۹۳۲ء)

”پس اس پہلو کی رو سے جو اسلام نے انتہاء زمانہ تک آنحضرت ﷺ کا سیر کشفی ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے۔ جو قادیان میں واقع ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۹ حاشیہ)

”اور اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ اللہ عزاسمہ نے اپنے اس قول میں ”سبحان الذی اسراء بعبدہ ایلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ“ اور مسجد اقصیٰ وہی ہے جس کو بنایا مسیح موعود نے۔“  
(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۹)  
”اس مسجد کی تکمیل کے لئے ایک تجویز قرار پائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی شرقی طرف جیسا کہ احادیث رسول ﷺ کا منشاء ہے۔ ایک نہایت اونچا منارہ بنایا جائے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۸۳، مندرجہ تبلیغ رسالت ج ۹ ص ۲۳، مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۰۰ء)

## معجزات

”اور جو میرے لئے نشانات ظاہر ہوئے وہ تین لاکھ سے زیادہ ہیں اور کوئی مہینہ بغیر نشانوں کے نہیں گذرتا۔“ (اخبار البدو قادیان ج ۲ نمبر ۲۹ ص ۴، مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء، اخبار الفضل ج ۱۹ نمبر ۸۸، مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۳۲ء)

”میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ اگر میں ان کو فرداً فرداً شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن ج ۲۲ ص ۷۹)

”تین ہزار معجزات ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔“

(تحفہ گوڑیہ ص ۴۰، خزائن ج ۷ ص ۱۵۳)

”اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی میں تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدا نے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہا نشان ایک جگہ جمع کر دیئے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۲)

مرزا قادیانی کے نام

کل بستر مرگ پہ لیٹے لیٹے خیال آیا کہ خدائے تعالیٰ کے ۹۹ نام حدیث میں آئے ہیں اور آنحضرت ﷺ کے بھی ۹۹ نام کتابوں میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ مسیح موعود کے کتنے الہامی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے ہیں۔ میں نے وہ سب جمع کئے تو ۹۹ ہی بن گئے۔ ان ناموں میں بھی ایک علم ہے۔ اس لئے اسے احباب کے فائدہ کے لئے شائع کیا جاتا ہے۔

(۱) احمد۔ (۲) محمد۔ (۳) مہدی۔ (۴) یسین۔ (۵) رسول۔ (۶) مرسل۔ (۷) نبی اللہ۔ (۸) نذیر۔ (۹) مجدد وقت۔ (۱۰) محدث اللہ۔ (۱۱) گورنر جزل۔ (۱۲) حکم۔ (۱۳) عدل۔ (۱۴) امام۔ (۱۵) امام مبارک۔ (۱۶) غلام احمد۔ (۱۷) مرزا غلام احمد۔ (۱۸) مرزا۔ (۱۹) عیسیٰ۔ (۲۰) مسیح۔ (۲۱) مسیح موعود۔ (۲۲) مسیح اللہ۔ (۲۳) مسیح الزمان۔ (۲۴) الشیخ المسیح۔ (۲۵) مسیح ابن مریم۔ (۲۶) مسیح محمدی۔ (۲۷) روح اللہ۔ (۲۸) مریم۔ (۲۹) ابن مریم۔ (۳۰) آدم۔ (۳۱) نوح۔ (۳۲) ابراہیم۔ (۳۳) اسماعیل۔ (۳۴) یعقوب۔ (۳۵) یوسف۔ (۳۶) موسیٰ۔ (۳۷) ہارون۔ (۳۸) داؤد۔ (۳۹) سلیمان۔ (۴۰) یحییٰ۔ (۴۱) جبری اللہ فی حلل الانبیاء۔ (۴۲) عبد اللہ۔ (۴۳) عبد القادر۔ (۴۴) سلطان عبد القادر۔ (۴۵) عبد الحکیم۔ (۴۶) عبد الرحمن۔ (۴۷) عبد الرافع۔ (۴۸) محمد مفلح۔ (۴۹) ذوالقرنین۔ (۵۰) سلمان۔ (۵۱) علی۔ (۵۲) منصور۔ (۵۳) حجۃ اللہ القادر۔ (۵۴) سلطان احمد مختار۔ (۵۵) حب اللہ۔ (۵۶) خلیل

اللہ۔ (۵۷) اسد اللہ۔ (۵۸) شفیع اللہ۔ (۵۹) آریوں کا بادشاہ۔ (۶۰) کرشن۔  
 (۶۱) رودرگوپال۔ (۶۲) امین الملک جے سنگھ بہادر۔ (۶۳) برہمن اوتار۔ (۶۴) آواہن۔  
 (۶۵) مبارک۔ (۶۶) سلطان القلم۔ (۶۷) مسرور۔ (۶۸) النجم الثاقب۔ (۶۹) رچی  
 الاسلام۔ (۷۰) حمی الاسلام۔ (۷۱) غالب۔ (۷۲) مبشر۔ (۷۳) خیر الانام۔  
 (۷۴) اسعد۔ (۷۵) شیر خدا۔ (۷۶) شاہد۔ (۷۷) خلیفۃ اللہ سلطان۔ (۷۸) نور۔  
 (۷۹) امین۔ (۸۰) رجل من فارس۔ (۸۱) سراج منیر۔ (۸۲) متوکل۔ (۸۳) الجمع الناس۔  
 (۸۴) ولی۔ (۸۵) قمر۔ (۸۶) شمس۔ (۸۷) اول المؤمنین۔ (۸۸) سلامتی کا شہزادہ۔  
 (۸۹) مقبول۔ (۹۰) مرد سلامت۔ (۹۱) الحق۔ (۹۲) ذوالبرکات۔ (۹۳) البدر۔ (۹۴) حجر  
 اسود۔ (۹۵) مدینۃ العلم۔ (۹۶) طیب۔ (۹۷) مقبول الرحمن۔ (۹۸) کلمتہ الازل۔  
 (۹۹) غازی۔  
 (بحوالہ قادیانی مذہب ص ۲۸۴، ۲۸۵)

### خدا کے کام

اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے کہا ”میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ جاگتا ہوں  
 اور سوتا ہوں۔“  
 ”خدا نے فرمایا میں روزہ بھی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔“

(تبلیغ رسالت ج ۱۰ ص ۱۳۲، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۲)

”انی مع الاسباب الیک بغفۃ۔ انی مع الرسول اجیب اخطی  
 واصیب انی مع الرسول محیط“ میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا  
 کروں گا اور بھلائی کروں گا۔ میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔“

(البشری ج ۲ ص ۷۹، تذکرہ ص ۴۶۲)

### وحدۃ الوجود

”آنحضرت ﷺ کی امت کا ایک فرد اور واحد وجود ایسا بھی ہوگا۔ جو آپ کی اتباع  
 سے تمام انبیاء کا واحد مظہر اور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ نما ظاہر  
 ہوگا۔ وہ حسب کلام سے اپنے نطق حقیقت کو بیان فرمائے تو کچھ خلاف نہ ہوگا۔ یعنی:

زندہ شد ہر نبی بہ آدم  
 ہر رسولے نہاں بہ پیرانہم

اور یہ کہ۔  
میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں  
نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

اور یہ کہ۔  
منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا  
من محمد واحد کہ مجتبیٰ باشد

(اخبار الفضل قادیان مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۳۰ء نمبر ۶۵، ج ۱ ص ۱۱)

”اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت ﷺ کے نام کا میں مظہر اتم ہوں۔ یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۷۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

”کمالات متفرقہ جو تمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم ﷺ میں بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم ﷺ سے ظلی طور پر ہم کو عطاء کئے گئے۔ اس لئے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے۔ نبی کریم ﷺ کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم تمام ان صفات میں نبی کریم ﷺ کے ظل ہیں۔“

(اخبار الحکم قادیان اپریل ۱۹۰۲ء، منقول از جماعت مابین کے عقائد صحیحہ ص ۳۳)

### عدالتی معاہدہ

”اور یاد رہے کہ یہ اشتہار مخالفین کے لئے بھی بطور نوٹس ہے۔ چونکہ ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے سامنے یہ عہد کر لیا ہے کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔ اس لئے حفظ امن کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مخالف بھی اس عہد کے کار بند ہوں۔“ (تبلیغ رسالت ج ۶ ص ۱۶۸، مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۸۹۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۷۷۰)

”حضرت مسیح موعود نے اسی مقدمہ میں اندازی پیش گوئیوں کے متعلق جو بیان عدالت میں دیا اس میں صفائی کے ساتھ یہ لکھا کہ:

عدالت میں میری نسبت یہ الزام پیش کیا گیا ہے کہ میرا قدیم سے ہی یہ طریقہ ہے کہ خود بخود کسی کی موت یا ذلت کی پیش گوئیاں کرتا ہوں اور پھر اپنی جماعت کے ذریعہ سے پوشیدہ



طور پر اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ کسی طرح یہ پیش گوئی پوری ہو جائے اور گویا میں اس قسم کا ڈاکو ہوں یا خونخوار ہزن اور گویا میری جماعت، بھی ایک قسم کی اوباش اور خطرناک لوگ ہیں۔ جن کا پیشہ اسی قسم کے جرائم ہیں۔ لیکن میں عدالت میں ظاہر کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء سے خمیر کیا گیا ہے اور نہایت بری طرح سے میری اور میری معزز جماعت کی ازالہ حیثیت عرفی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک برس سے کچھ زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ میں نے اس عہد کو شائع کیا ہے کہ میں کسی کی موت وغیرہ کی نسبت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔“

(اخبار صلح پیغام لاہور ج ۳۵ نمبر ۱۶، مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۴۷ء)

”اقرار نامہ مرزا غلام احمد قادیان صاحب بمقدمہ فوجداری اجلاس مسٹر جے۔ ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور۔ مروجہ ۵ جنوری ۱۸۹۹ء فیصلہ ۲۵ فروری ۱۸۹۹ء، نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ ۲/۱، سرکار دولت مدار بنام مرزا غلام احمد قادیانی ساکن قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور۔ ملزم الزام زیر دفعہ ۱۰۷، مجموعہ ضابطہ فوجداری۔

میں مرزا غلام احمد قادیانی بخضور خداوند تعالیٰ باقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ:

۱..... میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا۔ جس کے یہ معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کئے جاسکیں کہ کسی شخص کو (یعنی مسلمان ہو خواہ ہندو یا عیسائی وغیرہ) ذلت پہنچے گی یا وہ مور و عتاب الہی ہوگا۔

۲..... میں خدا کے پاس ایسی اپیل (فریاد و درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو (کہ خواہ مسلمان ہو یا ہندو، عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ مور و عتاب الہی ہے یہ ظاہر کرے کہ مذہبی مباحثہ میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔

۳..... میں کسی چیز کو الہام بنا کر شائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا یہ منشاء ہو یا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہوں کہ فلاں شخص (یعنی مسلمان یا ہندو، عیسائی وغیرہ) ذلت اٹھائے گا یا مور و عتاب الہی ہوگا۔

۴..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کو جن پر کچھ میرا اثر یا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خود اس طریق پر عمل کریں۔ جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ نمبر ۵۵ میں اقرار کیا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی بقلم خود خواجه کمال الدین بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی

دستخط جے۔ ایم ڈوئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ۲۳ فروری ۱۸۹۹ء

”سواگر مسٹر ڈوئی صاحب (ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور) کے روبرو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو (مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی) کو کافر نہیں کہوں گا۔ تو واقعی میرا یہی مذہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافر نہیں جانتا۔“

(تزیان القلوب ص ۱۳۱، خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۳)

ملزم نمبر ۱: (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھتا ہے۔ ”اگر اس کے اس میلان طبع کو نہ روکا گیا تو غالباً امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۷ء میں پکتان ڈگلن صاحب نے ملزم کو ہجو قسم کی تحریرات سے باز رہنے کے لئے فہمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء میں مسٹر ڈوئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ ہجو قسم نقص امن والے فعلوں سے باز رہے گا۔“ (روئیداد مذکورہ ص ۱۶۰)

عدالت کا بیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعاً شہدہ دہان ہونے میں مشہور تھے اور اس سے پہلے دو عدالتیں انہیں روک بھی چکیں ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی راقم ہیں کہ: ”ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے یہ عہد کر لیا ہے کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔“

(اشتہار مرزا ۲۰ دسمبر ۱۸۹۷ء، مندرجہ کتاب البریہ دیباچہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۱۳)

سید المرسلین پر برتری

”آنحضرت ﷺ معلم ہیں اور مسیح موعود ایک شاگرد۔ شاگرد خواہ استاد کے علوم کا وارث پورے طور پر بھی ہو جائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے۔ مگر استاد بہر حال استاد ہی رہتا ہے اور شاگرد شاگرد ہی۔“ (اخبار الحکم قادیان ۲۸ اپریل ۱۹۰۲ء، منقول از مہدی نمبر ۲، ص ۳۹)

”مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظلی نبی کہلائے۔ پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم ﷺ کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۱۳، مصنفہ بشیر احمد قادیانی)

لہ خسف القمر المنیر وان لی

غسا القمر ان المشرق ان اتنکر

”اس کے یعنی نبی کریم ﷺ کے لئے صرف چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا اور

میرے لئے چاند اور سورج دونوں کے گرہن کا۔ اب تو انکار کرے گا۔“

(اعجاز احمدی ص ۷۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

## حضرت مریم علیہا السلام کی توہین

”اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔“ (کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین

”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار تھیں اور کئی عورتیں بھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

## تمام انبیاء پر برتری

انبیاء	گرچہ	بودند	بے
من	بعر فان	نہ	کترم
آچہ	دادست	ہر	نبی
داداں	جام	را	مراہ
کم	نیم	زاں	ہمہ
ہر	کہ	گوید	دروغ
			ہست
			لعین

(نزول المسح ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

## موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر برتری

”حضرت مسیح موعود کے مرتبہ کی نسبت مولانا محمد احسن صاحب امر وہی قادیانی اپنے مکتوب موسومہ میاں محمود احمد قادیانی خلیفہ قادیانی میں لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء اولوالعزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گذرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کے اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی عیسیٰ و موسیٰ ہوتے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی ضرور اتباع کرنی پڑتی۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ نمبر ۹۸، مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۱۶ء)

## ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کی توہین

”پھر انہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والا فقرہ بولا کہ ابوبکرؓ و عمرؓ کیا تھے۔ وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کے کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ ان فقروں نے مجھے ایسا

دکھ دیا اور ان کے سنتے ہی مجھے ایسی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میں جو تو قیر اور عزت اہل بیت مسیح موعود میں سے ہونے کی نسبت تھی وہ سب جاتی رہی۔“ (المہدی ص ۳۲، حکیم محمد حسین قادیانی لاہوری) مرزا کی دعاء

”رب تجل رب تجل اے اللہ تجلی فرما اے اللہ تجلی فرما۔“ (تذکرہ ص ۲۰۸)

## باپ سچا ہے یا بیٹا؟

### مرزا قادیانی

.....۱ ”کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ“ تیری بخششوں نے ہمیں گستاخ کر دیا۔

(براہین احمدیہ ص ۵۵۴، ۵۵۵، خزائن ج ۱ ص ۶۶۲، ۶۶۳)

.....۲ ”صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نبی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے۔ اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی رو سے بالکل ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ ”وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ“ یعنی ہر ایک رسول مطاع امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع ہو۔“ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۶۹، خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

.....۳ ”انبیاء اس لئے آتے ہیں۔ تاکہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کر دیں اور بعض احکام کو منسوخ کر دیں اور بعض نئے احکام لائیں۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹، خزائن ج ۵ ص ۳۳۹)

.....۴ ”میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے بالکل بند ہیں۔ اب نہ کوئی حقیقی معنوں کی رو سے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔ مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے۔“ (سراج المنیر ص ۳، خزائن ج ۱۲ ص ۵)

### خليفة ثانی

.....۱ ”کا فرمان ہے وہ شخص جس نے کہا ہے۔ ”کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ“ کیوں کہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“ (الفضل ۲۳ جنوری ۱۹۲۷ء)

.....۲ ”بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کسی دوسرے کا متبع نہیں ہو سکتا اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ۔ ”وما ارسلنا من رسول

الا ليطاع باذن اللہ“ اور اس آیت سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ سبب بسبب قلت تدبیر ہے۔“ (حقیقت النبوة ص ۱۵۵)

۳..... ”نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبوت پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعہ اس غلطی کو دور کر دیا۔“ (حقیقت النبوة ص ۱۳۳)

۴..... ”اور یہی محبت تو ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ باب نبوت کے ہکلی بند ہونے کے عقیدہ کو جہاں تک ہو سکے باطل کر دوں کہ اس میں آنحضرت ﷺ کی ہتک ہے۔“ (حقیقت النبوة ص ۱۸۶)

### مسیحیت کا سخت انکار

”اس عاجز نے جو مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام مجھ پر لگا دے۔ وہ مفتری اور کذاب ہے۔ میں مثیل مسیح ہوں۔“ (ازالہ ص ۱۹۰، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

### حضرت مہدی عیسیٰ دوا لگ الگ بزرگ

”ایک فرقہ برآں رفتہ اند کہ مہدی آخر الزمان عیسیٰ ابن مریم است و این روایت بغایت ضعیف است زیرا کہ اکثر احادیث صحیح و متواتر از حضرت رسالت پناہ و درود یافتہ کہ مہدی از بنی فاطمہ خواہد بود و عیسیٰ بن مریم با و قداء کردہ نماز خواہد گزار و جمیع عارفین صاحب تمکین برین متفق اند۔ (ایام الصلح ص ۷۲)

ایک فرقہ کا خیال یہ ہے کہ مہدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ مگر یہ حدیث بڑی ضعیف ہے۔ اس لئے کہ اکثر احادیث صحیح اور متواترہ از حضرت رسالت مآب میں آیا ہے کہ حضرت مہدی بنی فاطمہ میں سے ہوں گے اور عیسیٰ بن مریم ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے اور تمام عارفین معتدین اس پر متفق ہیں۔“

### مدعی نبوت مسیلمہ کا بھائی ہے

”مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے۔“ (انجام آقہم ص ۲۸، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸)

### مکہ اور مدینہ کی توہین

”قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹ جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر

ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔“  
(حقیقت الروایا ص ۴۶)

## مرزا قادیانی کی قرآنی بشارتیں

”چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے۔“ ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلہ“ (براہین احمدیہ ص ۴۹۸) اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے۔ ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ اس وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی..... اسی طرح براہین احمدیہ میں کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۴۲، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶، ۲۰۷، مجموعہ اشہارات ج ۳ ص ۴۳۱، ۴۳۲، تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۱۴)

”قل ینآیہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً وای رسل من اللہ“ کہہ (اے غلام احمد) اے تمام لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ (تذکرہ ص ۳۵۲، البشری ج ۲ ص ۵۶)

”مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیات کا مصداق ہے۔“ ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق ولیظهره علی الدین کلہ“ (اعجاز احمدی ضمیمہ نزول انسج ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ اور ہم نے دنیا پر رحمت کے لئے تجھے بھیجا ہے۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۲، خزائن ج ۱ ص ۴۲۱)

## مرزا قادیانی کے بشارتی نام

”صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔ خدا کی مانند۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۵، خزائن ج ۱ ص ۴۱۳)

”ہے کرشن جی روور۔ گوپال“

(تذکرہ ص ۳۸۱، البشری ج ۱ ص ۵۶، مجموعہ الہامات مرزا غلام احمد قادیانی)

## ”امین الملک جے سنگھ بہارڈ“

(تذکرہ ص ۶۷۲، البشری ج ۲ ص ۱۱۸، مجموعہ الہامات مرزا غلام احمد قادیانی)

### مرزا قادیانی کا مبارک زمانہ

”اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے۔ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص (مرزا قادیانی) کو تم نے دیکھ لیا۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو۔“

(اربعین نمبر ۴، ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۴۴۲)

”یہ ایک ایسا مبارک وقت ہے کہ تم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا صد ہا سال سے امتیں انتظار کر رہی تھیں اور ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے۔“

”اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جو اس نے کبھی دکھائے نہیں۔ گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر کے ذریعہ سے اپنے جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھائے گا۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۴، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

### تفسر مرزا سیت میں تنزل

(یہی نہیں کہ قادیانی جماعت میں اندرونی اتاری پھیل گئی۔ بلکہ چل چلاؤ شروع ہو گیا اور قادیانیت کو بچانا دشوار ہو گیا۔ شدت اضطراب میں پردہ اٹھ گیا۔ ورنہ ایسے راز بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر حال اس بالچل کا ایک مختصر خاکہ ملاحظہ ہو) ہمیں نظریہ آتا ہے کہ ہم دشمن کے عمل سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی غلطیاں بار بار ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ہم میں سے جو کمزور لوگ ہیں۔ بسا اوقات وہ ان غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور دشمن کے بد اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری جماعت کے نوجوانوں اور کمزور طبع لوگوں میں نقص پیدا کرتا رہتا ہے اور ہمارا سارا وقت اس اندرونی اصلاح ہی میں صرف ہو سکتا ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۳ نمبر ۲۷ ص ۲۷۳، مورخہ ۲ جون ۱۹۳۶ء)

”غرض عقیدے کی جنگ میں جہاں ہم نے دشمن کو ہر میدان میں شکست دی ورنہ صرف میدانوں میں اس کو شکست دی۔ بلکہ اس کے گھروں پر حملہ آور ہوئے اور ہم نے اسے ایسا لتاڑا ایسا لتاڑا کہ اس میں سر اٹھانے کی بھی تاب نہ رہی۔ دشمن کے ہر گھر میں گھس کر ہم نے اس

کے باطل عقائد کو کچلا اور اسے ایسے شکست دی کہ دشمن کے لئے اس سے زیادہ کھلی اور ذلت کی شکست اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہاں عمل کے میدان میں ہم دشمنوں میں محصور ہو گئے اور ہمارے لئے ان سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچواں آدمی وہ ہم سے نقائص اور عیوب میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ سے بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہ امن ملے گا مگر وہاں بھی نقص آ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے بھاگ کر تیسری طرف جاتے ہیں۔ مگر وہاں بھی دشمن موجود ہوتا ہے۔ تیسری جگہ سے بھاگ کر چوتھی طرف جاتے ہیں تو اس جگہ بھی دشمن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جب آگ لگ جاتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرے۔ یہی اس وقت ہماری حالت ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲۳ نمبر ۷۹ ص ۵، مورخہ ۲ جون ۱۹۳۶ء)

### فخر الرسل ﷺ پر بہتان

(خاتمہ چشمہ معرفت ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۳۸۲) پر فرماتے ہیں۔ ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا۔ تو آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا: ”کان فی الہند نبی اسود کان اسمہ کاهنا“ یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا۔ یعنی گھنیا جس کو کرشن کہتے ہیں۔“ مندرجہ بالا عبارت مرزا قادیانی نے حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالانکہ یہ عبارت تمام احادیث قدسیہ میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔

### انگریزی الہامات

I Love you. میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

I am with you. میں تمہارے ساتھ ہوں۔

Yes I am happy. ہاں میں خوش ہوں۔

Life is pain. زندگی دکھ ہے۔

I shall help you. میں تمہاری مدد کروں گا۔

I can what I will do. میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔

We can what will do. ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔



خدا تمہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلا آتا ہے۔

**God is coming by his army.**

وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔

**He is with you to kill enemy.**

وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔

**The days shall come God shall help you.**

**Glory be to the lord.** خدائے ذوالجلال۔

(حقیقت الوحی ص ۳۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۶) آفرینندہ زمین و آسمان۔

**God maker of earth and heaven.**

(تذکرہ ص ۱۱۷) تمہیں امرتسر جانا پڑے گا۔

**You have to go to Amritsar.**

(تذکرہ ص ۱۱۷) وہ ضلع پشاور میں ٹھہرتا ہے۔

**He helts in the Zila Peshaw**

(تذکرہ ص ۵۹۳) ایک کلام اور دو لڑکیاں۔

**Word and to Girls.**

(تذکرہ ص ۳۸۴) معقول آدمی۔

**Though all men should be angry, But God is**

**with you. He shall help you words of God can not**

**Exchange.**

بحث حیات عیسیٰ علیہ السلام

جیسے پہلے گذر چکا ہے کہ سب امت اوّل سے لے کر آخر تک اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے اور ان کی علامات بھی احادیث رسول کے اندر وارد ہیں۔ مگر جب مرزا قادیانی کو مراقب نے مرتبہ مسیحیت یا مثیلت پر براجمان کر دیا تو حیات مسیح علیہ السلام کے دلائل کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ ملاحظہ فرمائیے:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”یا عیسیٰ انسی متوفیک ورافعک الیٰ ومطہرک من الذین کفرو وجاعل الذین اتعبوک فوق الذین کفرو الیٰ یوم القیامہ (آل عمران: ۵۵)“ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور پھر کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک برتری دوں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ کے دشمن یہود آپ کو گرفتار کر کے سزا دلانا چاہتے تھے تو جواباً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ گرفتار نہیں کر سکتے میں تمہیں اپنے قبضہ میں لوں گا اور یہ سولی پر نہیں دے سکتے۔ میں تمہیں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔

دوسری دلیل: ”وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه (نساء: ۱۵۷، ۱۵۸)“ یعنی نہ تو یہود نے قتل کیا اور نہ سولی دے سکے۔ لیکن ان کو شبہ پڑ گیا کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ لیکن قدرت کاملہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھالیا۔ ایک دوسرے آدمی پر آپ کا حلیہ طاری کر دیا۔ جسے انہوں نے عیسیٰ ہی سمجھ کر سولی دے دی اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ سوال تو یہ تھا کہ قتل یعنی سولی دی گئی یا نہیں۔ تیسری بات جو قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے کشمیر آ گئے اور وہیں آپ بیس سال عمر پاکر فوت ہوئے اور ان کی قبر موجود ہے۔ یہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہ تھی تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ قتل یقیناً نہ ہوا۔ بلکہ کچھ اور ہی ہوا اور وہ ہے۔ رفع الیٰ السماء پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ رفع سے مراد رفع درجات ہے۔ مگر یہ بات بڑی ہی حقیر ہے۔ اس لئے یہ رفع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ پھر پیغمبرؐ کی شان کی کیا فضیلت ہوگی۔ یہ تو سبھی کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”یرفع الذین آمنوا“ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ بھلا یہ بات بھی کوئی نامعلوم تھی کہ رفع درجات ہوا کہ نہیں، تو اللہ نے اطلاع دے دی۔ پھر جہاں رفع درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں یہاں وہ بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ رفع بحمدہ ہی ہوا ہے۔

تیسری دلیل: ”وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موتہ (نساء: ۱۵۹)“ یعنی سب اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ کیونکہ سارے اہل کتاب ان پر ابھی ایمان نہیں لائے۔ بلکہ یہ اس وقت ہوگا۔ جب آنحضرت ﷺ دوبارہ دنیا میں تشریف

لائیں گے۔ غرض کہ قرآن اور اسی طرح ستر احادیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس عقیدہ کو اختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ آیات قرآنی کے علاوہ بیسٹار احادیث ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی تحریف کرتے ہیں۔ قرآن میں تو لفظ ”توفی“ سے موت مراد لے کر وفات عیسیٰ کا عقیدہ نکالا اور خود مسیح موعود کا لفظ ہے۔ اس میں تاویل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں تینوں لفظوں کے معنی قرآن و حدیث اور لغت عربی اور خود مرزا قادیانی کے کلام سے پیش کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اول ایک قانون سنئے جو مرزا قادیانی کا اپنا ہے۔ فرماتے ہیں ”والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاهر لا تاویل فیہ ولا استثناء“

(حماۃ البشری ص ۱۴، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

یعنی جس بات پر قسم کھائی جائے وہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی تاویل اور استثناء کی گنجائش نہیں۔ یہ قانون ذہن میں رکھئے؟ بس فیصلہ قریب ہے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ ”والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب یقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنيا وما فیہا“ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بے شک قریب ہے کہ تم میں مسیح بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یعنی شرح محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ جنگ کو ختم کریں گے۔ مال کی اتنی زیادتی کر دیں گے کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔

(بخاری ج ۱ ص ۴۹۰، باب نزول عیسیٰ بن مریم)

اس حدیث میں حضور ﷺ نے قسم کھا کر حضرت مسیح کا نزول اور علامات بیان کی ہیں تو اپنے قانون کے لحاظ سے نہ تو مسیح میں تاویل کرو کہ مراد مثیل ہے جو میں ہوں۔ نہ نزول میں اختلاف کرو کہ اس کے معنی آنا ہے۔ بلکہ ذیل کی علامات دیکھ کر فیصلہ کرلو۔ مرزا قادیانی میں ایک بھی نشانی نہیں۔

.....۱ ابن مریم (مسیح موعود) عدل و حکومت کے ساتھ آئے گا۔

.....۲ مسیح ابن مریم (مسیح موعود) کسر صلیب کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کا لحدم ہو جائے گی۔

- ۳..... مسیح ابن مریم (مسیح موعود) خنزیر کو قتل کرے گا۔ یعنی ہر جانور جو قتل کیا جائے دین حق میں حرام ہے۔ ایسا ہی خنزیر کے قتل سے اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔
- ۴..... مسیح ابن مریم (مسیح موعود) کے مبارک وقت میں لوگ اس قدر مستغنی اور عابد ہوں گے کہ ایک ایک مجتہد کو ہزاروں دیناروں سے بہتر سمجھیں گے۔
- ۵..... مسیح ابن مریم جزیرہ جو مشرکین سے لیا جاتا ہے معاف کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حمید کی وہ آیت جو ابو ہریرہؓ نے اس کے استدلال میں پیش کی ہے۔ بتلائی ہے مشرک کوئی باقی ہی نہ رہے گا۔ بلکہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی دین حنیف کو قبول کر لیں گے۔ پھر جزیرہ کیسا۔
- ۶..... ابن مریم (مسیح موعود) مقام فج الرواح سے احرام باندھیں گے۔
- ۷..... ابن مریم حج کریں گے۔
- ۸..... مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ زمین پر اتریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین پر نہیں۔ کیونکہ زمین آسمان کی ضد ہے۔
- ۹..... مسیح ابن مریم پینتالیس برس زمین پر رہیں گے۔ نکاح کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے۔
- ۱۰..... مسیح ابن مریم مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے۔ کیونکہ اس کی تصدیق نمبر ۱۱ سے ہوتی ہے۔
- ۱۱..... مسیح ابن مریم میرے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہوں گے۔
- ۱۲..... مسیح ابن مریم قیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ اٹھیں گے۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ کے درمیان ہوں گے۔ ان بارہ اوصاف میں سے ایک بھی مرزا قادیانی کے حق میں نہیں۔
- اول..... آپ فرماتے ہیں کہ میں (مرزا قادیانی) درویشی و غربت کے لباس میں آیا ہوں۔
- دوم..... کسر صلیب نہیں ہوئی بلکہ نصاریٰ ترقی پر ہیں۔
- سوم..... خنزیر کا کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے توازن حدارزانی کر دی ہے۔
- چہارم..... لوگ زرد رہم کے بھوکے ہیں اور خود ذات شریف کی چندوں میں کٹی۔

پنجم ..... جز یہ معاف نہیں ہوا۔  
 ششم ..... مقام فح الروح ایک آنکھ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔  
 ہفتم ..... آپ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ (حالانکہ حج کے متعلق الہام ہو رہا ہے)  
 ہشتم ..... آپ قادیان میں غلام مر قاضی کے ہاں پیدا ہوا۔  
 نہم ..... آپ نے نکاح کی از حد کوشش کی۔ مگر ..... آہ ..... ناکامی و نامرادی نصیب ہوئی۔  
 دہم ..... آپ نے لاہور میں پران توڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی۔  
 یازدہم ..... آپ قادیان کی بنجر زمین میں دفن ہوئے و روضہ نبوی میں ابھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔  
 دوازدہم ..... مرزا قادیانی قادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ روضہ اطہر سے اٹھیں گے۔

بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے

مسح کی علامت قتل خنزیر ہے۔ مگر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خاص لندن میں ہزار دوکان خنزیر بیچنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ بچپس ہزار خنزیر لندن سے مفصلات کے لئے بھیجا جاتا ہے۔

۲ ..... اسلام عام ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی۔ لیکن سب کے سامنے ہے۔ خود فرمایا کہ عیسائیت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ پیغام صلح ۶ مارچ ۱۹۲۸ء ضلع گورداسپور کی مردم شماری دیکھئے۔ ۱۸۱۹ء میں عیسائی ۲۲۴۰۰، ۱۹۰۱ء میں ۴۴۷۱، ۱۹۱۱ء میں ۲۳۳۶۰، ۱۹۲۱ء میں ۳۲۸۳۲، ۱۹۳۱ء میں ۴۳۲۳۳۔ (ماخوذ از محمدیہ پاکٹ بک صفحہ ۳۵۰، چشمہ معرفت ص ۳۱۲، خزائن ج ۲۳ ص ۳۲۷)

اسی طرح کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اس لئے نزول مسیح کے قائل ہیں۔ جیسے پہلے گذر چکا ہے۔ مزید دیکھئے اسلام کی ترقی کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ جو مسیح موعود کو کرنا چاہئے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“ (بدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء) مگر ہوا کیا؟

## لفظ توفی کا معنی

یہ لفظ توفی، نفی سے بنا ہے۔ جس کا معنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کر دیا۔ یعنی پورا کر دیا۔ یہ توفی باب تفعّل سے ہے۔ جس کے معنی لزوم کے لحاظ سے پورا پورا لینا ہے کیا جاتا ہے۔ ”توفیت المال منه اذ اخذته كله“ یعنی میں نے اپنا مال پورا پورا لے لیا۔ ”توفیت عدد القوم اذ اعددتهم کلهم“ یعنی میں نے قوم کی پوری پوری گنتی کر لی نہ یہ کہ ساری قوم کو مار دیا۔ (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۵۹)

یہی معنی (السنجد عربی، اردو ص ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، مفردات ص ۵۵۰) اساس البلاغہ وغیرہ نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”واما توفون اجورکم يوم القيامة (آل عمران: ۱۸۵)“ یعنی قیامت کے دن تم کو تمہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گے۔ نہ یہ کہ تمہارا اجر مار لیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بیشمار آیات اس قسم کی مل جاتی ہیں۔ ”اللہ يتوفى الانفس“ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے نہ کہ مارتا ہے۔ روحيں تو نہیں مرتیں۔ یہی معنی (تفسیر کبیر ج ۲۶ ص ۲۸۳، بیضاوی ج ۲ ص ۲۵۸، جامع البیان ج ۲۳ ص ۹، ابن کثیر ج ۹ ص ۹۱، فتح البیان، والخازن ج ۶ ص ۶۲) وغیرہ میں ملیں گے۔ ہاں توفی کے مجازی معنی موت کے ہیں حقیقی نہیں۔ (تاج العروس ج ۲۰ ص ۳۰۱) میں ہے۔ ”معنى المجاز اور کتھ الوفاة ای الموت والمنية وتوفى اذا مات“ یعنی موت کا معنی مجازی ہے۔ اسی طرح (اساس البلاغہ ج ۲۰ ص ۲۳۱) میں ہے۔ (مفردات ص ۵۵۰) میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی نہیں لیا جاسکتا۔ جب کہ کوئی قرینہ نہ ہو۔ توفی کا معنی از زبان مرزا قادیانی کتاب (براہین ص ۵۲، خزائن ج ۱ ص ۶۲۰) آیت ”انسی متوفیک ورافعک الی“ کا معنی کرتا ہے۔ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ مرزا قادیانی راقم ہیں یہودیوں نے حضرت مسیح کے لئے قتل و صلیب کا حیلہ سوچا تھا۔ خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے بچاؤں گا اور تیرا اپنی طرف رفع کروں گا۔

(اربعین نمبر ۳ ص ۸، خزائن ج ۱ ص ۳۹۴)

یہ براہین ایسی کتاب ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں براہین کے وقت بھی من اللہ رسول تھا۔ (ایام الصلح ص ۵۷، خزائن ج ۱ ص ۳۰۹) نیز یہ کتاب رسول اللہ ﷺ کے دربار میں پیش ہو کر رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ہے۔ (براہین ص ۲۳۸، خزائن ج ۱ ص ۲۷۵) اسی

طرح (تذکرہ ص ۱۱۳) رات کو ایک اور عجیب الہام ہوا اور وہ یہ کہ: ”قل للضیفک انی متوفیک قل لا خیک انی متوفیک“ یہ الہام بھی دو مرتبہ ہوا۔ اس کے معنی بھی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تیرا مورد فیض یا بھائی ہے۔ اس کو کہہ دے کہ میں تیرے پر اتمام نعمت کروں گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں وفات دوں گا۔ معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ اس قسم کے تعلقات کے کم و بیش کئی لوگ ہیں۔ اس عاجز پر اس قسم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وارد ہوتے رہتے ہیں۔“ اسی طرح (سراج منیر ص ۲۱، خزائن ج ۱۲ ص ۲۳) میں ہے۔ ”برایں کا وہ الہام یعنی ”یا عیسیٰ انی متوفیک“ جو سترہ برس پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اس وقت خوب معنی کھل چکا۔ یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا۔ جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اس جگہ بجائے یہود کے ہنود کوشش کر رہے ہیں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعہ نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپاں کر دیا ہے۔“ یہ تین حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ جن سے معنی تو فی خوب کھل گیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرزا آخر تک یہی معنی لیتے رہے اور بھی بہت سے امور آخری حوالہ سے معلوم ہوئے ہیں۔

۲..... روپے درپے آ رہے ہیں۔ ہر ایک معمہ ہے جسے کوئی ماں کا لال حل نہیں کر سکتا۔ کھانا کب کھاتے۔ نماز کا کیا حساب تھا۔ دیگر ضروریات زندگی غرض صد ہا کام ہیں سمجھ میں نہیں (ایک معمہ) ریویو ماہ ستمبر ۱۹۰۲ء میں فرمایا۔ ”اب تک میرے ہاتھ پہ ایک لاکھ کے قریب انسان بدی سے توبہ کر چکا ہے۔ تقریباً تین برس فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ چار لاکھ انسان معاصی سے توبہ کر چکے ہیں۔ (تجلیات الہیہ ص ۵، خزائن ج ۲۰ ص ۳۹۷، مرقومہ ۱۵ مارچ ۱۹۰۶ء) اندازہ لگائیے ہر گھنٹہ ۱۹ آدمی بیعت کرنے والے بنتے ہیں۔ ادھر دن یا رات میں سو مرتبہ پیشاب ہے۔ جو ہر سات منٹ بعد آتا ہے ادھر ۱۹۰۶ء تک تین لاکھ سے زیادہ نشان بھی آچکے ہیں تو بتلایئے مرزا قادیانی بیعت کیسے لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر الہامات بھی۔

### لفظ نزول کا معنی

اس کا حقیقی معنی اوپر سے نیچے اترنے کے ہیں۔ مگر مجازاً آمد کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھئے نزول فرود آمدن اور انزال فرود آوردن (صراح) منشی الارب میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی نیچے آنا، مفردات میں ہے۔ ”النزول فی الاصل هو الانحطاط من علوه“ یعنی نزول کا حقیقی معنی اوپر سے نیچے آنا ہے۔

## لفظ رفع کا معنی

رفع سے مراد امت قادیانیہ رفع روح لیتی ہے اور یہ ان کی بے علمی اور جہالت ہے صراح میں ہے۔ ”رفع برداشتن وهو خلاف الوضع (ص ۲۵۰)“ یعنی رفع کا معنی اوپر کواٹھانا ہے۔ بخلاف وضع کے کہ اس کا معنی نہادن یعنی نیچے رکھنا ہے۔ (مصابح منیر مصری ج ۱ ص ۱۱۷) میں ہے۔ ”والرفع فی الاجسام حقيقة فی الحركة والانتقال وفی المعانی علی ما یقضیه المقام“ یعنی رفع جسموں میں حقیقت میں حرکت اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور اعراض میں حسب موقع و مقام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جسم والے تھے۔

لہذا: حرکت الی السماء ہی مراد ہوگی۔ جب تونی نزول، رفع کا معنی واضح ہو چکا تو تونی کے لئے مراد موت نہیں اور نزول حقیقی ہے اور رفع بھی حقیقی ہی ہوا تھا۔ حیات مسیح علیہ السلام ہی ساری مرزائیت کے کالب لباب ہے۔ اس لئے جب ہم نے تمام وجوہ سے حیات عیسیٰ ثابت کر دی اور دوبارہ نزول بھی۔ مرزا قادیانی کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی اور اس ساری بحث کا دار و مدار لفظ تونی ہے۔ وہ بھی بیان ہو گیا۔ اب سنئے کہ حیات مسیح کا عقیدہ ایمانیات میں ہے۔ مگر مرزا کے ہاں یہ عقیدہ کوئی چیز نہیں۔ ملاحظہ ہو: ”اول تو یہ جاننا چاہئے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہمارا ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش گوئیاں میں سے ایک پیش گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیش گوئیاں بیان نہیں کی گئیں تھیں۔ اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہوا۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۴۰، خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

اعتماد

حضرات میں کوئی ادیب نہیں ہوں۔ محض جذبہ دینی کے پیش نظر چند باتیں پیش کی ہیں۔ تاکہ ہر ایک آدمی پڑھ کر اپنی عاقبت کا فیصلہ کر سکے اور رسالہ مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تاکہ ہر خاص و عام پڑھ سکے۔ لہذا کوئی ادبی غلطی پکڑنے سے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ حق شناس معافی کو دیکھتے ہیں نہ کہ الفاظ کو۔

ضمیمہ

میں صرف مسلمان ہوں

(توضیح المرام ص ۱۷، خزائن ج ۳ ص ۵۹) پر فرماتے ہیں کہ: ”اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے



کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہئے۔ کیوں کہ مسیح نبی تھا۔ تو اس کا اول جواب یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لئے ہمارے سید مولا نے نبوت شرط نہیں فرمائی۔ بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمان کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ظاہر کرے گا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔“

ایک معمر

”تیسری پیش گوئی یہ تھی کہ لوگ کثرت سے آئیں گے۔ سو اس کثرت سے آئے کہ اگر ہر روز آمدن اور خاص وقتوں کے مجموں کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لاکھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے..... اب تک کئی لاکھ انسان قادیان میں آچکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں تو شاید اندازہ کروڑ تک پہنچ جائے۔“

(براہین احمدیہ جہد پنجم ص ۵۷، ۵۸، خزائن ج ۲۱ ص ۷۲، ۷۳، ۷۴)

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء سے علمی و مذہبی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کہ براہین احمدیہ کا اعلان کیا اور ۱۹۰۸ء میں انتقال ہوا۔ گویا کل ۲۷ سال یہ مشغلہ رہا ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریک نے بتدریج ترقی شروع کی ابتداء میں چند سال کام ہلکا رہا۔ بعد کو فروغ ہوا۔ تاہم اگر کل ۲۷ سال مساوی مان لئے جائیں تو بھی مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق خطوں اور مہمانوں کا روزانہ اوسط بلاناغہ ایک ہزار پڑتا ہے۔ اگر حسب واقعہ سال غیر مساوی مانے جائیں تو آخری سالوں کا روزانہ اوسط کئی ہزار پڑتا چاہئے۔ خوب حساب ہے۔

سب کچھ زندہ ہوا

”حضرت مرزا قادیانی کے ذریعہ اسلام زندہ ہوا۔ قرآن کریم زندہ ہوا۔ محمد ﷺ کا نام زندہ ہوا۔ خدا کی توحید زندہ ہوئی۔ ہر نیکی زندہ ہوئی۔ ہر نبی زندہ ہوا۔ ہر راست باز نے دوبارہ حیات پائی۔ پس حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ آپ نے رسولوں اور ان کی تعلیموں کو زندہ کیا ہے۔ پہلے مسیح نے تو بقول غیر احمدی چند ماچھیوں کو زندہ کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کون سی خوبی اور کون سی صداقت ہے۔ جو کسی نبی میں پائی جاتی ہے۔ مگر حضرت مرزا قادیانی میں نہیں۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۱۱ نمبر ۸۹ ص ۱۰، مورخہ ۱۶ مئی ۱۹۲۳ء)

## قادیانی رنگروٹ

”جو گورنمنٹ ایسی مہربان ہو اس کی جس قدر بھی فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر مجھ پر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں مؤذن بنتا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والد الطیر ہو کر جنگ (یورپ) میں چلا جاتا۔“ (انوار خلافت ص ۹۶)

”لارڈ جمیسفورڈ نے میرے نام اپنی چھٹی میں اس کا ذکر کیا کہ حکومت نے ایک کمیونک شائع کیا ہے کہ آپ کی جماعت نے بہت مدد دی ہے۔ پھر کابل کی لڑائی ہوئی اور اس موقع پر بھی میں نے فوراً حکومت کی مدد کی اپنے چھوٹے بھائی کو فوج میں بھیجا۔ جہاں انہوں نے بغیر تنخواہ کے چھ ماہ کام کیا۔“

(اخبار الفضل ج ۲۲ نمبر ۹۱ ص ۶، مورخہ ۲۹ جنوری ۱۹۳۵ء)

ابوبکر کے ہم پلہ

”آج تمہارے لئے ابوبکر و عمرؓ کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ بہشتی مقام موجود ہے۔ جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آقاؐ مسیح الموعود کے قدموں میں دفن ہو سکتے ہو اور چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود رسول کریمؐ کی قبر میں دفن ہوگا۔ اس لئے تم اس مقبرہ میں دفن ہو کر خود رسول اکرمؐ کے پہلو میں دفن ہو گے اور تمہارے لئے اس خصوصیت میں ابوبکرؓ کے ہم پلہ ہونے کا موقع ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۲ نمبر ۹۹ ص ۶، مورخہ ۲ فروری ۱۹۱۵ء)

معجزہ شق القمر

”ایک صاحب نے (مرزا قادیانی) سے پوچھا شق القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ہماری رائے میں یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھ دیا ہے۔“

(اخبار بدر قادیان ج ۷ نمبر ۱۹ ص ۵، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء)

قرآن میں قادیان کا نام

”اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے۔“ انا انزلناہ قریباً من القادیان “ اس جگہ مجھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اسی روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر با واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا ”انا انزلنا قریباً من القادیان“ تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے..... تب میں نے دل میں کہا کہ واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج

ہے اور میں نے کہا تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قادیان۔ یہ کشف تھا کہ کئی سال ہوئے مجھے دکھلایا گیا تھا۔“

(ازالہ ابہام ص ۷۳، ۷۷، خزائن ج ۳ ص ۱۳۸، ۱۴۰)

## گول مول الہامات

.....۱ ”بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ (حیض) بچہ ہو گیا۔ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔“

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

.....۲ ”میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور عیسیٰ کی روح مجھ پر نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ ٹھہرایا گیا۔ آخر کئی مہینہ کے بعد جو (مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

.....۳ مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد اپنے ٹریکٹ نمبر ۳۴ موسومہ ”اسلامی قربانی“ میں لکھتا ہے۔ ”حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔“

.....۴ ”بستر عیش“ (تذکرہ ص ۳۹۹، البشری ج ۲ ص ۸۸، بحوالہ البدیع ج ۳ نمبر ۱، تاریخ الہام ۵ دسمبر ۱۹۰۳ء) غالباً منکوحہ آسانی کے وصال کی امید ہے۔

.....۵ ”جد ہر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔“ (تذکرہ ص ۵۰۸) ”زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں۔“ (۵۰۹) ”تفسیر عنقریب سنا جاوے گا کہ بہت سے مفسد جو مخالفان اسلام ہیں۔ ان کا خاتمہ ہو جاوے گا۔“ (البشری ص ۹۰ ج ۲، بحوالہ البدیع ج ۳ نمبر ۱۶، ۱۷ ص ۶۱ کالم ۳) تعین کوئی نہیں کی۔ مطلب یہ کہ جو مخالف مرے گا۔ اسے اس کی لپیٹ میں لیتے جاویں گے۔

.....۶ ”چوہدری رستم علی“ (تذکرہ ص ۵۳۲، البشری ج ۲ ص ۹۴، بحوالہ الحکم ج ۹ نمبر ۱۲) ۷..... ”زندگیوں کا خاتمہ“ (تذکرہ ص ۵۷۷، البشری ج ۲ ص ۱۰۳، بدیع ج ۱ ص ۳۶) کن کن کی زندگیوں کا خاتمہ کب ہوگا کیسے ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں۔

.....۸ ”لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ امین الملک جے سنگھ بہادر۔“ (تذکرہ ص ۶۷۲، البشری ج ۲ ص ۱۱۸، بحوالہ بدیع ج ۲ نمبر ۳۷)

.....۹ ”لاہور میں ایک بے شرم ہے۔“ (تذکرہ ص ۷۰۴) تعین کوئی نہیں۔

- .....۱۰ ”ایک امتحان ہے بعض اس میں کزے جائیں گے۔ بعض چھوڑے جائیں گے۔“  
(تذکرہ ص ۷۰۴)
- .....۱۱ ”گورنر جنرل کی پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔“  
(تذکرہ ص ۳۴۲، البشری ج ۲ ص ۵۷، حصہ اول بحوالہ الحکم ج ۳ نمبر ۴۰)
- .....۱۲ بعد ۱۱۔ انشاء اللہ۔ (تذکرہ ص ۴۰۱) تشریح تفہیم نہیں ہوئی کہ اس کیا مراد ہے۔ گیارہ دن یا گیارہ ہفتے یا کیا؟ یہی ہندسہ اکا دکھایا گیا۔  
(ص ۶۶ بحوالہ بالا)
- .....۱۳ ”آج سے یہ شرف دکھائیں گے۔“  
(تذکرہ ص ۴۰۷، البشری ج ۲ حصہ ۱ ص ۶۸، بحوالہ الحکم ج ۵ نمبر ۱۸)
- .....۱۴ ”اس کتے کا آخری دم“ فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتا بیمار ہے۔ میں اسے دوا دینے لگا ہوں تو میری زبان پر یہ جاری ہوا۔  
(تذکرہ ص ۴۱۷)
- .....۱۵ ”افسوس صد افسوس“ (تذکرہ ص ۴۱۹، البشری ج ۲ ص ۷۱، بحوالہ الحکم ج ۱۷)
- .....۱۶ ”فیرمین“ (Fair Man) معقول آدمی۔  
(تذکرہ ص ۴۸۴)
- .....۱۷ ”فضل الرحمن نے دروازہ کھول دیا۔“  
(تذکرہ ص ۵۰۹)
- .....۱۸ ”ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا۔“ (تذکرہ ص ۵۳۳) کوئی روح کہتی ہے۔  
(البشری ج ۲ ص ۹۵، بحوالہ البدیع سلسلہ جدید ج ۱ نمبر ۱)
- .....۱۹ ”ایک ناپاک روح کی آواز آئی میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔“  
(تذکرہ ص ۵۳۵)
- .....۲۰ ”کیا عذاب کا معاملہ درست ہے۔ اگر درست ہے تو کس حد تک۔“  
(تذکرہ ص ۵۳۸، البشری ج ۲ ص ۹۷، بحوالہ بدرج انمبر ۶)
- .....۲۱ ”رؤیا۔ ایک عورت زمین پر بیٹھی ہے۔ جو مخالفانہ رنگ میں ہے۔ میں اس کے برابر گزرا تو آواز آئی۔ ”لعنة الله على الكاذبين“ ساتھ ہی یہ الہام ہوا۔ اس پر آفت پڑی اس پر پڑی۔“  
(تذکرہ ص ۵۵۵، مکاشفات ص ۴۱، البدیع ج ۱ نمبر ۱۰)
- .....۲۲ ”آتش فشاں۔ مصالح العرب۔ بامراد۔ رد بلا۔“ (تذکرہ ص ۵۶۳، مکاشفات بدرج انمبر ۳۲) ایک کاغذ دکھائی دیا اس پر لکھا تھا۔

.....۲۳ ”ایک دانہ کس کس نے کھانا۔“

(تذکرہ ص ۵۹۵، البشرى ج ۲ ص ۱۰۷، بدر ج ۷)

.....۲۴ ”شر الذین انعمت علیہم“ (تذکرہ ص ۵۵۰)

خدائی کے دعوے

.....۱ ”خدا کی مانند۔“ (اربعین نمبر ص ۲۵، خزائن ج ۱ ص ۳۱۳)

.....۲ ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں

وہی ہوں۔“ (آئینہ کمالات ص ۵۶۴، خزائن ج ۵ ص ۵۶۴)

.....۳ ”یوم یأتی ربك فی ظلل من الغمام“ اس دن بادلوں میں تیرا

خدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر (مرزا قادیانی) کے ذریعہ اپنا جلال ظاہر کرے گا۔“

(حقیقت الوحی ص ۵۴، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)

.....۴ ”انت منی بمنزلہ اولادی“ اے مرزا تو مجھ سے میری اولاد جیسا

(اربعین نمبر ص ۴، ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۴۵۲)

ہے۔

.....۵ ”خدا نکلتے کو ہے۔“ ”انت منی بمنزلہ بروزی“ تو مجھ سے ایسا ہے

(سرورق آخر یو یو ج ۵ نمبر ۳، مارچ ۱۹۰۶ء)

جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا۔“

.....۶ ”اعطیت صفة الافناء والاحیاء من رب الفعال مجھے خدا کی

سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۵۵، ۵۶، خزائن ج ۱۶ ص ۱۶۱)

.....۷ ”انت منی بمنزلہ توحیدی وتفریدی تو مجھ سے میری توحید کی

(تذکرۃ الشہادتین ص ۳، خزائن ج ۲۰ ص ۵)

مانند ہے۔“

.....۸ ”انما امرت اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون یعنی اے

مرزا تیری یہ شان ہے کہ تو جس چیز کو کن کہہ دے وہ فوراً ہو جاتی ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

.....۹ ”مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے الہام کیا کہ: ”تیرے گھر ایک لڑکا

پیدا ہوگا۔“ ”کأن الله نزل من السماء“ گویا خدا آسمانوں سے اتر آیا۔“

(تذکرہ ص ۱۳۹، اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء)

”اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے۔ مگر خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔

خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔“ (براین احمد یہ حاشیہ نمبر ۴ ص ۵۵۴، خزائن ج ۱ ص ۶۶۱)

”اس کے بعد دو فقرے انگریزی ہیں۔ جن کے الفاظ کی صحت باعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں۔ ”آئی لو یو۔ آئی شیل گو۔ یو لارج پارٹی اوف اسلام“ چونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خواں نہیں اور نہ اس کے پورے معنی کھلے ہیں۔ اس لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔“ (براین احمد یہ حاشیہ نمبر ۴ ص ۵۵۷، خزائن ج ۱ ص ۶۶۴)

### افرا تفری

حضرت مرزا قادیانی کی دورنگی چال بھی غضب کی تھی۔ ایک طرف انگریزوں کو دجال اور اپنے آپ کو اس کا قاتل قرار دیتے ہیں اور اپنے معیار صداقت میں جہاں تک کہہ گزرے ہیں کہ: ”اگر مجھ سے ہزار کا مسمیٰ سرزد ہوں مگر عیسائیت کا ستون بنج و بن سے نہ اکھاڑ سکوں تو یہ سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں بلکہ جھوٹوں کا جھوٹا ہوں۔“ (رسالہ دعوت قوم ملحق انجام آتھم ص ۴۷، خزائن ج ۱ ص ۱۱۵) پر فرماتے ہیں کہ: ”دجال اکبر یہی پادری لوگ ہیں اور یہی قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور مسیح موعود کا کام ان کو قتل کرنا ہے۔“ (انجام آتھم ص ۴۱، خزائن ج ۱ ص ۱۱۵)

”مریم کا بیٹا کشلیا کے بیٹے رام چند سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔“

”حضرت مسیح کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۲۹۱)

(ازالہ اوہام ص ۱۳۲، خزائن ج ۳ ص ۱۶۶) پر فرماتے ہیں کہ: ”خدا ابر رحمت کی طرح ہمارے لئے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور تلخی اور مرآت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم بھول گئے اور ہم پر اور ہماری ذریت پر فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار ہیں۔“

ستارہ قیسریہ، تریاق القلوب میں تحریر کرتے ہیں۔ خلاصہ ملاحظہ فرمائیں: ”پچاس ہزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چھپوا کر میں نے اس ملک اور بلاد اسلامیہ تمام ملکوں میں یہاں تک کہ اسلام کے مقدس شہروں، مکہ، مدینہ، روم و قسطنطنیہ، بلاد شام، مصر، کابل، و افغانستان جہاں تک ممکن تھا شائع کئے۔ تیرے رحم کے سلسلہ نے آسمان پر ایک رحم کا سلسلہ پکایا۔ خدا کی نگاہیں اس ملک پر ہیں۔ جس پر تیری نگاہیں ہیں۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۴، ۸، خزائن ج ۱ ص ۱۱۴، ۱۱۹)

کہ: ”میری عمر کا بیشتر حصہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدح و ستائش میں گزرا اور میں نے ان کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کو ابدی غلامی کی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر ممالک میں لاکھوں ٹریکٹ اور اشتہار وقتاً فوقتاً بھیجے اور اگر ان کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو پچاس الماریاں بھی ان کے لئے ناکافی ہی رہیں گی۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

**اصل حقیقت**

”افسوس کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ابھی شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہیں۔ مگر پھر بھی اپنی خوابوں اور الہاموں پر بھروسہ کر کے اپنے ناراست اعتقادوں کو ناپاک مذہبوں کو ان خوابوں اور الہاموں کے ذریعہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ بطور شہادت ایسی خوابوں اور الہاموں کو پیش کرتے ہیں..... اور بعض محض فضولی اور فخر کے طور پر اپنی خوابیں سناتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں کہ چند خوابیں یا الہام جو ان کے نزدیک سچے ہو گئے ہیں۔ ان کی بناء پر وہ اپنے تئیں اماموں یا پیشواؤں یا رسولوں کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو اس ملک میں بہت بڑھ گئی ہیں اور ایسے لوگوں میں بجائے دینداری کے بے جا تکبر اور غرور پیدا ہو گیا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲، خزائن ج ۲۲ ص ۴)

”ایک اور امر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور ظالم اور غیر متدین اور چور اور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی کبھی کبھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جو قوم کی چوہڑی یعنی بھنگن تھیں۔ جن کا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کا تھا۔ انہوں نے ہمارے روبرو بعض خوابیں بیان کیں اور وہ سچی نکلیں۔ اس سے بھی عجیب تر یہ کہ بعض زانیہ عورتیں اور قوم کے کجتر جن کا رات دن زنا کاری کام تھا۔ ان کو دیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جو نجاست شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آ گئیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۲، خزائن ج ۲۲ ص ۵)

”مالخو لیا کے بعض مریض بظاہر صحیح الدماغ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر جب ان کی طویل اور بے سرو پاتیاں سنی جائیں تو حاذق طبیب سمجھ لیتا ہے کہ وہ مالخو لیا میں مبتلا ہیں۔“

(سوائے مرزا ص ۱۳، مصنفہ حکیم محمد علی)

”طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں

ہوتی۔“ (تحقیقات ڈاکٹر شاہ نواز قادیانی، اسٹنٹ سرجن مندرجہ رسالہ ریو یو قادیان بابت مئی ۱۹۲۷ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَدَنی آفسری مشرقی طرہ، مسعودہ ہمدانی شریف

# مسلم ذرا ہوشیار رہنا

وقت کی ضرورت اور تقاضا

حضرت مولانا عبداللطیف مسعودؒ



# مسلم ذرا ہوشیار باش

## وقت کا تقاضا اور ضرورت

فطری اور طبعی طور پر ہر ایک انسان میں ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ضروریات یا مفاد پر زد پڑتی ہے، کوئی دوسرا انسان ان کو چھیننے یا پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص ان کا دفاع کرتا ہے۔ عملاً یا قلباً! یعنی بس چلنے پر عملاً اور بالفعل کوشش کرتا ہے اور نہ چلنے پر دل ہی میں مضطرب تو لازمی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ شخص بے حس اور بے غیرت کہلاتا ہے۔ یہ ضروریات اور مفادات مادی ہوں یا غیر مادی یعنی مذہبی یا نظریاتی ہوں۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نظریات اور عقائد کے لئے بہ نسبت مادی مفادات کے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ شخص جذبہ کا اظہار کر گزرتا ہے۔ چاہے یہ نظریات و عقائد فی نفسہ غلط اور نادرست ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک پکا مسلمان اسی اصول کے تحت اپنے نظریات اور عقائد کے تحفظ کے لئے ہمہ قسم کی قربانی دینے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ مثلاً:

۱..... مسلمان کا نظریہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ یہ اس نظریہ کو دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے کے لئے شب و روز محنت اور کوشش کرے گا۔ کفار و مشرکین کے خلاف ہمہ قسم کا جہاد کرے گا اور یہ اس کے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔

۲..... ایک صحیح مسلمان کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم اور آخری نبی ﷺ ہیں۔ تمام انسانیت کے ہادی اور راہنماء ہیں تو یہ اس نظریہ کی تبلیغ و ترویج کے لئے اپنی تمام تر کوششوں اور جذبات کو بروئے کار لا کر دین و آخرت میں سرخرو ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کے خلاف کسی بات کو ذرا بھی نہ سنے گا۔ کسی مدعی نبوت کو ہرگز برداشت نہ کرے گا۔ اس کے تمام تر احساسات و جذبات، عقیدت و محبت آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی وابستہ ہوں گی۔ وہ شخص اپنے عقیدہ کا اعلان و اظہار قول سے کرے گا اور فعل سے بھی اور جدوجہد سے بھی۔

۳..... ایک صحیح مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید ہی تمام خیر و برکات کا حامل ہے۔ تمام کامیابیوں اور سعادتوں کا قرینہ یہی کتاب ہدیٰ ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی دوسری کتاب اس کی خانہ پری نہیں کر سکتی۔ اس کے خلاف وہ کسی کتاب کے متعلق یا دوسرے کسی بھی نظریہ کے بارہ میں، دوسری کسی بھی تہذیب و کلچر کے متعلق ہرگز وہ نظریہ اور عقیدہ قائم نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ صحیح عقیدہ کی ترویج کے لئے کوشاں رہے گا۔

۴..... ایک صحیح اور راسخ الاعتقاد مسلمان انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ عظام

رضوان اللہ علیہم کو ہی تمام بزرگیوں کا حامل قرار دیتا ہے۔ خدا کی توحید، رسول اللہ ﷺ کی اور قرآن مجید کی عظمت و شان کے جاننے پہچاننے اور اس کے تقاضے پورے کرنے والا یہی مقدس گروہ تھا جو کہ انتہائی قابل تعظیم اور معیاری ایمان و عمل کے حامل تھے۔ ان میں سے کسی کی توہین و تحقیر نا قابل برداشت حرکت ہے۔ ان سے کوئی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ برابری یا فضیلت کا مدعی ہو۔ جو شخص ان کے مقام عالی کے خلاف کوئی حرکت کرے گا۔ وہ سزا کا مستوجب ہوگا۔ ان کے اس مقام کا تحفظ ہمارے ایمان اور غیرت کا تقاضا ہوگا۔

۵..... ایک کامل مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات ایک خاص الخاص عظمت و عفت کی مالک اور انتہائی حساس رفعت و مقام رکھتی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو ”وازا جہ امہاتہم (احزاب: ۶)“ فرمایا۔ لہذا جب ہماری مادی ماؤں کا مقام دین نے انتہائی مقدس قائم فرمایا ہے تو ان روحانی ماؤں کے تقدس و طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لہذا ان کا احترام و اکرام صحیح مسلمان کے لئے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ ان کی توہین و تحقیر کسی بھی صورت میں نا قابل برداشت ہے۔ ایک حساس اور با غیرت مسلمان کے لئے ان کے تقدس و احترام کا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس کے خلاف وہ ذرا سی حرکت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

۶..... اسی طرح ایک صحیح الاعتقاد اور حساس مسلمان کے لئے اپنے تمام شعائر دینی کا احترام و عقیدت نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنے ایمان کے لئے چیلنج سمجھتا ہے اور وہ اپنے تمام تر جذبات و احساسات اور جدوجہد کو اپنے شعائر دینی کی توہین و تحقیر کے خلاف بروئے کار لائے گا۔ یہ مؤمن نہ تو اپنے کلمہ پر کسی کا قبضہ برداشت کرے گا اور نہ اذان پر۔ اسی طرح نہ وہ مسجد پر کسی غیر کا تسلط برداشت کرے گا اور نہ دیگر اسلامی اصطلاحات پر۔ جیسے السلام علیکم، خطبہ، جنازہ، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں کسی دوسری کے دخل برداشت کرے گا۔ ویسے بھی مذہب کے شعائر اور خصوصیات کا مسئلہ ہر مذہب میں یہی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی مثال کسی کمپنی یا ادارہ کے ٹریڈ مارک کا مسئلہ ہے کہ قانونی طور پر کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے ادارے کا ٹریڈ مارک خاص کر منظور شدہ اور رجسٹرڈ ٹریڈ مارک قانونی طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی کاروباری ساکھ کو خطرہ ہوگا۔ جعل سازی کا دروازہ کھل جائے گا کہ دوسرا ادارہ ناقص میٹرل کا سامان بنا کر اسے اصل ریٹ پر فروخت کر کے اصل ادارہ کے نقصان کا سبب بنے گا۔ لہذا قانونی طور پر اس ادارہ کو اپنا کیس عدالت میں دائر کر کے دوسرے ادارہ کے خلاف ہرجانہ کا حقدار ہوگا۔

اسی طرح کوئی بھی مذہب اپنے شعائر یا خصوصیات کسی دوسرے مذہب والوں کو

استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح اس کے مذہبی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کا مذہبی نشان صلیب ہے یا اسم مسیح ہے جو وہ اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ صلیب کا نشان دوسرے مذہب والوں کو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سکھوں کے شعائر کا مسئلہ ہے۔ ہندوؤں یا بدھوں کے شعائر کا مسئلہ ہے کہ اس مذہب والوں کی خصوصیت ہے اور اسی نشان سے اس مذہب کی شناخت ہوگی۔ جن کے استعمال کے تحت اس کی مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل اسلام کی خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ کوئی ہندو کبھی اذان نہ دے گا۔ کلمہ نہ پڑھے گا، نہ محمد رسول اللہ ﷺ کو خدا کا سچا اور آخری نبی جانے گا اور نہ قرآن مجید کو اپنائے گا۔ نہ ہی وہ السلام علیکم کا استعمال کرے گا۔ نہ ہی بسم اللہ وغیرہ کا استعمال کرے گا۔ کیونکہ یہ تمام خصوصیات مذہب اسلام کی ہیں۔ نہ ہی وہ مسجد کا لفظ یا مینارہ اور محراب کا استعمال کرے گا۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کی خصوصیات اور دینی اصطلاحات ہیں۔

### قادیانی اور شعائر اسلام

مندرجہ بالا اصول کے تحت قادیانی جو کہ صراحۃً غیر مسلم ہیں۔ جن کو تمام امت کے فتاویٰ نے اور تمام دنیا کی اعلیٰ عدالتوں نے مکمل تحقیق کے بعد مسلمانوں سے الگ طبقہ قرار دیا ہے اور خود سر ظفر اللہ قادیانی نے کہہ دیا تھا کہ اگر قادیانی غیر مسلم ثابت ہو جائیں تو پھر ان کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کوئی ہندو یا سکھ کسی بھی مسجد کا متولی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اسی طرح قادیانی بھی کسی مسجد پر قابض یا لفظ مسجد یا صورت مسجد استعمال نہیں کر سکے گا کہ یہ اہل اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہی ان شعائر کا اختیار کرنے کے مجاز اور مستحق ہیں۔

پس ہمارا اہل اسلام کا اور قادیانیوں کا یہی جھگڑا ہے کہ وہ باوجود غیر مسلم قرار دیئے جانے کے اسلامی شعائر و اصطلاحات کے استعمال پر بضد ہیں اور مسلمان اس کی اجازت دینے کے کسی صورت میں روادار نہیں۔ بلکہ یہ تو کھلم کھلا مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی اور ڈاکہ ہے۔ قادیانیوں کو چاہئے کہ دیگر مذاہب کی طرح وہ بھی اپنی اصطلاحات مرتب کر کے استعمال کریں۔ ہم اہل اسلام سے جھگڑا اور حق تلفی کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر ہمارا ان کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی تنازعہ نہیں۔ بات یہاں تک نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہی ہم ہیں۔ یہ رواجی اور نام کے مسلمان ہیں۔ یعنی وہ ہمارے قدیمی نام پر بھی قابض ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے بھی لکھ دیا کہ: ”خدا نے میرے مخالفوں کو یہودی، عیسائی اور مشرک کہا ہے۔“ (نزول المسیح

ص ۴۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲) اب بتائیے کہ اس ڈاکہ زنی کو کون برداشت کرے گا؟

جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں نے اسلام کے اصل نظریات اور قادیانیوں کے عقائد کا بغور جائزہ لے کر فیصلہ کر دیا کہ واقعتاً قرآن وحدیث اور اسلامی لٹریچر کے تحت یہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو یہ ان لوگوں کی محض سینہ زوری ہے کہ ہمارا نام اور ہمارے تمام شعائر مخصوصہ استعمال کر رہے ہیں۔ بخلاف دوسرے کفار کے کہ وہ ہماری کوئی خصوصیت اور خصوصیت کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ یہی قادیانیوں اور دوسرے کفار میں فرق ہے۔

مسئلہ کا حل یہ ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار و بیدار ہوں اور اپنے عقائد و نظریات، شعائر و اصطلاحات کا کما حقہ تحفظ کریں تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ آج کل تمام دنیا میں حقوق کی جنگ کا میدان کارزار گرم ہے۔ ہر مذہب و ملت والے، ہر طبقہ انسانی وغیرہ اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر تمام مسلمان بھی بیدار ہو کر اپنے حقوق کے محفوظ کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ ایک دن میں حل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے مذہب اسلام کی تمام خط و خال کو صحیح صحیح جان کر ان کو خود اپنائیں اور دوسرے کو کسی بھی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جیسے دوسرا کوئی مذہب اپنے مذہب کی خصوصیات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر مسئلہ حل ہے۔

مگر جب قوم میں بے توجہی، بے حسی، بے پرواہی اور بے غیرتی عام ہو تو پھر فتاویٰ اور عدالتی فیصلوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بھلا مسائل صرف قائل ہونے سے بھی کبھی حل ہوئے ہیں۔ بلکہ مسائل عامل ہونے اور انہیں اپنانے سے حل ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اس پہلو پر توجہ دینے اور اپنے تمام تر مسائل زیر عمل لانے، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام عالم سے ہمارے مسائل الگ ہیں اور تمام مذاہب سے نمایاں اور فائق تر ہیں۔ لہذا ہمیں کسی کو کہنے کی بجائے خود اپنے مسائل کو عملاً دنیائے عالم کے سامنے ان کو فائق تر نمایاں طور پر براہین کی روشنی میں پیش کر کے اپنی فوقیت اور سرفرازی ثابت کرنی چاہئے۔ دشمن سے اپنے حقوق کے تحفظ کی بھیک مانگنا ایک مضحکہ خیز حرکت ہے۔

یا اخوة الاسلام! ہم ملت اسلامیہ ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں تمام جہان سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ ہمارا منصب اقوام عالم کی قیادت اور رہنمائی ہے نہ کہ ان کی غلامی اور در یوزہ گری۔ لہذا ہمیں اپنی اس پوزیشن کو واضح اور جاگ کر کر کے اقوام عالم کو ان کی رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، امن و سکون اور عدل و انصاف فراہم کرنا چاہئے۔ تاکہ اللہ کریم کا منشاء اور مقصد پورا ہو ورنہ ہم خود بھی آخرت میں اپنی ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے اور تمام انسانیت کی تباہی اور ناکامی کے بھی۔

یا اخوة الاسلام! اپنے منصب کو پہچانو۔ تم آئے کس لئے تھے اور کر کیا رہے ہو؟ یاد رکھو تم لوگ تمام انسانیت کی قیادت کے لئے آئے تھے۔ مگر تم آہستہ آہستہ اپنا آپ گنوا بیٹھے۔ اپنے نفع و نقصان کی تمیز تم سے جاتی رہی۔ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لہذا آج تم بھی انسانیت سے دور اقوام جیسے ہو گئے۔ انسانیت، مفاد پرستی اور مادہ پرستی کے چکر میں خوب پھنس گئے۔ اپنے ذاتی نقصان پر تو تم دوسرے مسلمان بھائی کے گلے پڑ جاتے ہو۔ مگر دین کے نقصان پر تم انتہائی بے حس اور غافل ہو جاتے ہو کہ گویا یہ تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ اصل ضرورت یہی تھی۔ کوئی توحید کے خلاف کہہ جائے۔ قرآن کے خلاف بڑی سے بڑی حرکت کر جائے۔ مگر تمہارا ضمیر نہیں جاگتا۔ بھلا مسلم ملک پاکستان کی گلیوں میں، نالوں میں، جوہڑوں میں، نہیں نہیں خود گھروں میں، مساجد میں، قرآن کی توہین ہو جائے۔ مگر تمہارا ضمیر مردہ ہی رہتا ہے۔ وہ ذرا بھی حرکت میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ایک واقعہ ہونے پر تمام عالم میں کھرام مچ جاتا۔ صرف مسلم ممالک میں نہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی احتجاج کی گونج پڑ جاتی۔ مجرم کو پتہ چلتا کہ میں نے یہ حرکت کر دی ہے۔ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ حرکت بند ہو جاتی اور ہمیشہ کے لئے اس طرف سے سکون ہو جاتا۔ تو بین رسالت ﷺ کے ارتکاب کا تصور بھی دنیائے عالم میں نہ ہوتا۔ ہر بد بخت کو یقین ہوتا کہ ابھی عاشقانِ مصطفیٰ ﷺ زندہ اور بیدار ہیں۔ اگر میں نے یہ حرکت کی تو بھی اس کا رد عمل ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے غیض و غضب کا مقابلہ اور غیرت و حمیت کا سامنا ناممکن ہوگا۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی حرکت پر کنٹرول کر لیتا۔ مگر افسوس صد افسوس! قوم اس حالت میں ہو چکی ہے کہ مسلمان کہلانے والے بے غیرت وکیل اور جج پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجرم نے جرم کا ارتکاب کس طرح اور کن الفاظ میں کیا تھا؟ حالانکہ اگر اس خبیث وکیل اور جج کے والد کو وہی الفاظ کوئی کہہ دے تو اس کی قوت برداشت بھی ختم ہو جائے۔ مگر وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ ہائے افسوس صد افسوس۔ ماحول مسلمانوں کا ہو اور عشق و محبت کی گونج خوب ہو پھر ایسی حرکات ہوں؟ یہ ناقابل فہم ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ۱۰۰ سال ہو گئے کہ ابھی تک مسلمان قوم مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ سکی۔ بڑے بڑے کورس تو کر لئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، جج اور جسٹس بن گئے، صنعت کار اور سیاست دان تو بن گئے۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ ہمارے آقائے نامد ﷺ کا مقام کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ جج صاحب کو تو بین عدالت تو خوب یاد ہے۔ پروفیسر کو کلاس کے قواعد اور آداب تو آتے ہیں۔ اگر نہیں معلوم تو مقامِ مصطفیٰ ﷺ معلوم نہیں۔ ایک صنعت کار کو اپنے نفع و نقصان تو خوب معلوم ہے۔

اس کے لئے وہ تو جان کی بازی لگا دے گا۔ مگر اسے اپنے ایمان کے تقاضے کی کوئی خبر نہیں۔ ایک سیاستدان اور سپیکر کو اپنے انا کے سارے اصول تو یاد ہیں۔ سیاست تو خوب جانتا ہے مگر اسے معلم کائنات ﷺ کے احترام و تقدس کے تقاضے ذہن نشین نہیں۔ اسے قبر و حشر میں کام آنے والے امور کا قطعاً کوئی علم نہیں۔ قبر میں تین سوال اور حشر کے پانچ سوالوں کا کوئی پتہ نہیں۔ موقع آنے پر یہ بے نصیب اور بے نوا انسان ”ہاء ہاء لا ادری“ کے سوا کیا کہے گا؟ مگر یہ افراد اس عالم دنیا سے جیسا اگلے جہاں میں منتقل ہوں گے، پھر حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ اس کو اپنی حقیقی ضروریات کا پتہ چلے گا تو سوال ”مانقول فی هذا الرجل“ کے جواب میں کوئی بھی ڈاکٹر کام نہ آئے گا۔ کوئی انجینئرنگ کا ضابطہ مفید نہ ہوگا۔ کوئی سیاسی داؤ پیچ کام نہ آئے گا۔ کوئی عہدہ اور سروس رتی بھر مفید نہ ہوگی۔ وہاں وہ پھر بے بسی کے عالم میں یہ کہنے پر مجبور ہوگا۔ ”ہاء ہاء لا ادری“ تو ہائے میری بدبختی مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہستی کون تھی۔ میں تو دنیا میں ان چیزوں سے بالکل بے بہرہ تھا۔ تجھے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کا پتہ تھا۔ کالج کے پرنسپل کا نام پوچھ لو۔ اسمبلی کے سپیکر کا نام پوچھ لو۔ انجینئرنگ کے کسی اعلیٰ فرد کا نام پوچھ لو، عدالت کے چیف جسٹس کا نام پوچھ لو۔ آرمی کے چیف کا نام پوچھ لو۔ سب سے بڑے صنعت کار کا نام پوچھ لو۔ یہ سب کچھ معلوم ہے۔ مگر تجھے معلوم نہیں کہ اس عظیم ہستی کا کیا تعارف ہے؟ تو پھر اس وقت اس بدبخت اور بے نوا انسان کی حالت قابل دید ہوگی۔ مگر تب کوئی تلافی و تدارک کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ جب کہ ہم ابھی دور دنیا میں ہی ہیں۔ اس کا تعارف اور اس وقت حاصل ہو سکتا ہے۔

مسلمانو! ہوش کرو، سنہلھو اور توجہ کرو۔ اٹھو کہ ہم موجودہ اعمال و افعال کے لئے نہیں آئے۔ ہم تو اسی سوال کا جواب اس دنیا میں فراہم کرنے کے لئے آئے تھے۔ اسی کو یاد کرو اور تمام انسانیت کو یاد کرو تاکہ تم بھی بچ جاؤ اور انسانیت بھی بچ جائے۔ جیسے تم اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لئے سردھڑکی بازی لگا دیتے ہو۔ اس سے کہیں بڑھ کر آخرت کی ضروریات کا احساس کرو اور ان کو فراہم کرو۔ اس کے حصول کے لئے ان تھک محنت کرو۔ کوئی شخص تمہارے دین کے شعائر کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ اسے پتہ ہو کہ میری آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ کوئی شخص ہمارے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ کوئی انسان رحمت عالم ﷺ کے دین کے شعائر کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے مسجد کی توہین کی، اذان کے خلاف کچھ بکا تو میری خیر نہیں۔ کوئی فرد صحابہ کرامؓ اور ازواج مطہراتؓ کے خلاف زبان یا قلم استعمال کرنے سے قبل اس کے رد عمل کا تصور کر

کے جرأت ہی نہ کر سکے۔ اس کے جسم و جان عمل کے تصور ہی سے کانپ اٹھے اور وہ اپنے ارادہ بد سے باز آ جائے۔ ہاں ہاں بلکہ تمہارے ذمہ یہ لازمی بات ہے کہ تم ان مقدس شعائر کی عظمت ہی ایسے انداز سے دنیا عالم کے سامنے رکھتے کہ تمام اپنے اور غیر ان کا احترام کرنے والے بن جاتے۔ اپنے دین کے عقائد و اصول عملی طور پر ایسے طور پر ان کو اپنائیں کہ تمام افراد انسانی ہمارے اور ہمارے شعائر کے احترام و تقدس کے قائل ہو جائیں۔ مگر ہم تو خود ان کی حرکات بد میں ان کا تعاون و شمولیت کئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیسے ان کا احترام کریں گے۔ وہ کیسے ان کا لحاظ کریں گے۔ یہ کبھی نہ ہوگا۔

یا اخوة الاسلام! مندرجہ بالا گزارشات سے شاید آپ اصل حقیقت پا چکے ہوں گے کہ تمام عالم ہمارا مخالف اور دشمن ہے۔ ہمارے عظیم دین اور اس کے تقدس کا دشمن ہے۔ وہ تو پہلے بھی اس کے مٹانے پر تلا کھڑا ہے۔ اسے جب ہماری جانب سے سستی اور غفلت کا پتہ چلے گا تو وہ مزید دلیہ ہو کر اپنے مشن میں فعال ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا تشخص اور وجود برقرار رکھیں بلکہ اسے تمام طبقہ ہائے انسانی سے ممتاز اور نمایاں رکھیں۔ تمام اقوام کی قیادت اور رشد و ہدایت فراہم کرنے کے منصب پر سرفراز ہو کر باوقار زندگی گزاریں تو ہمیں اپنے عظیم دین، اعلیٰ اور ممتاز تہذیب و کلچر کو صحیح معنوں میں پہلے اس پر خود کار بند ہونا پڑے گا۔ پھر دنیا کے عالم کو اس کی دعوت دینا ہوگی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کو ہر شعبہ زندگی میں سب سے عظیم راہنما اور ہادی ثابت کرنا ہوگا۔ جیسے پانچویں وقت مینارہ مسجد سے ”اشھدان محمد رسول اللہ“ کی دلواز آواز گونجتی ہے۔ اسی طرح ہر قلب انسانی میں اس کی رفعت و عظمت محیط ہو جائے اور ہر انسان کے اعضاء و جوارح سے ہی ذات اقدس کے ارشادات و فرمودات کے مطابق ہی حرکت و سکون اختیار کریں۔ ہر زبان آپ ﷺ کی ہی عظمت و تقدس کے گن گائے۔ دنیا میں کوئی مشن، کوئی تحریک، کوئی ادارہ آپ ﷺ کے خلاف متحرک نہ ہوتا، کہ جب ہم اس دنیا کے سفر کو پورا کر کے عالم برزخ میں پہنچیں تو ”ما تقول فی هذا الرجل“ کے سنتے ہی ہماری زبان سے بلکہ ہمارے جسم و جان کے روئیں روئیں سے ”اشھدان محمد عبده ورسوله“ کی ہی آواز نکلے اور اس کے آگے میدان حشر میں ہم نہایت سرخروئی سے آپ ﷺ کے جھنڈے تلے ہی کھڑے ہوں۔ خدا کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے۔ آپ ﷺ کے فرمان اقدس ”انا فرطکم علی الحوض“ کے مطابق ہم قبر سے اٹھتے ہی سیدھے آپ ﷺ کے ہی دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ آپ ﷺ کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ آپ ﷺ کی شفاعت کبریٰ نصیب

ہو اور پل صراط کی کٹھن منازل سے بہ سہولت گزر کر آپ ﷺ کی ہی قیادت میں سیدھے جنت الفردوس میں جا پہنچیں۔ یہی ہم سب کا ہدف ہو۔ یہی ہمارا مقصود ہو۔ مولائے کریم، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور یہ تمام اعزاز و اکرام بھی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ”انک علی کل شئی مقتدر“ اے مولائے کریم تیری توفیق اور رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہی ہماری دستگیری فرما۔ ”انت مولانا نعم المولیٰ ونعم النصیر۔ آمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه واهل بيته واتباعه اجمعين وسلم“

جب قوم شموذ کا ایک بد بخت پیغمبر کے مشن کو ناکام کرنے کے لئے اٹھا

یا اخوة الاسلام! قرآن کی عظمت و شان کسی بیان و وضاحت کی محتاج نہیں۔ ”آفتاب آمد دلیل آفتاب“ سے بھی نمایاں حقیقت ہے۔ یہ کتاب ہدیٰ اپنے تعارف، اپنی حقانیت، اپنے اثر و تاثیر اور افادیت میں بے مثال ہے۔ دیکھئے کتب سابقہ بھی دنیا کی راہنمائی کے لئے ہی نازل ہوئی تھیں۔ مگر ان کی آمد ابتدائی اور ایک خاص وقت اور خاص حلقہ انسانیت کے لئے تھیں اور یہ کتاب کامل تمام انسانیت کے لئے اور ہمیشہ کے لئے کامل راہنماء ہے اور خدائی ہدایت کا اختتام ہے۔ یہ کتاب ہدیٰ اپنے تعارف میں یکتا اور انوکھی شان رکھتی ہے۔ اپنا مکمل تعارف خود کراتی ہے۔ نام، کام، زمانہ نزول، زبان وغیرہ مکمل تعارف میں خود کفیل ہے۔

قرآن مجید کا دعویٰ ہے ”ذالک الکتاب لا ریب فیہ (البقرہ: ۲)“ کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے ہر قسم کے شک و شبہ سے منزہ ہے۔ پھر اس کی وضاحت و صراحت بار بار کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ: ”ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله (البقرہ: ۲۳)“ اے دنیاۓ انسانیت اگر تم اس کتاب کے لاریب ہونے اور بے مثال دائمی ہدایت نامہ ہونے میں شک یا تردد کرتے ہو تو اے فصحاء وبلغا اور زبان آور! تم سب مل کر کسی جگہ کسی بھی زمانہ میں اس جیسا کلام تو لے آؤ۔ اور یاد رکھو ہمارا چیلنج ہے کہ باوجود پوری جدوجہد کے قیامت تک اس کی مثال اور نظیر پیش کرنے سے قاصر رہو گے۔ پھر اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو آؤ پھر اس کی دعوت قبول کر کے سعادت مندی کا انعام حاصل کر لو۔ اپنے آپ کو اس دائمی عذاب کے لئے تیار کر لو۔ جس کا ایندھن لکڑی یا گھاس پھوس نہیں بلکہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ ”وقودھا الناس والحجارة اعدت للكافرين (البقرہ: ۲۴)“ جو کہ اس کے منکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

آگے فرمایا: ”یسئلونک احق هو“ کہ یہ منکرین قرآن پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن



برحق ہے؟ ”قل ای وربی انه لحق (یونس: ۵۳)“ آپ فرمادیجئے ہاں مجھے میرے رب کی قسم کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اس کے الفاظ، معانی، مفاہیم، عقائد و نظریات، اصول و ضوابط سب کچھ برحق ہے۔ اس کی دعوت قیامت تک چلتی رہے گی اور تم اے منکرو، اس کی پیش رفت روک نہیں سکتے۔ اے مخالفین و معاندین تم اس کی تعلیمات کو ناکام نہیں کر سکتے۔

کفار کا مطالبہ یہ تھا۔ ”ائت بقران غیر هذا اوبدلہ (یونس: ۱۰)“ کہ اے قرآن پیش کرنے والے آپ ذرا اس کی تعلیم و تربیت میں نرمی پیدا کر لیجئے یا اس کو کچھ بدل دیجئے۔ ”قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی (یونس: ۱۰)“ کہ اے منکرین قرآن، تمہارے خیالات درست نہیں ہیں کہ شاید یہ قرآن میرا اپنا مرتب کردہ ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو۔ میں تمام کائنات سے فصیح ہوں۔ لیکن یہ قرآن میرا نہیں بلکہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ میرا رب ہی تمام کائنات سے عجیب اور عظیم و بے مثال ہے۔ اس کا کلام ہی بے مثال و بے نظیر، اس کی نظیر لانا ناممکن ہے۔ اچھا تم سارے عالم کے زبان آور مل کر اور جنات کو بھی ساتھ ملا کر کوشش کر دیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ اتنے کھلے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کی دعوت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

”قل لئن اجتمعت الانسن والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا (بنی اسرائیل: ۸۹)“ کہہ دو کہ اگر جن و انس اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی کلام بنالیں تو نہیں بنا سکیں گے۔ چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ﴿﴾  
دنیا ئے عالم دامن کی چیلنج

اے مکہ کے فصحاء و بلغاء، تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء تمام کائنات کے عربی ادیبو، اور لغت نویسو، اپنا اور بے گانو، ایمان لانے والو اور منکرو، عقیدت مند اور معاندین، عیسائیو، ملحدو اور معاندو، انسانو اور جنو! تم سب مل کر جہاں چاہو اور جب چاہو، اس کلام کی دس سورتیں یا ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ زبانی کہنا کہ اس میں یہ کی ہو گئی، یہ زیادتی ہو گئی۔ یہ ترکیب ایسی چاہئے اور یہ ایسے۔ آسان بات ہے مگر اصل صورت یہی ہے کہ تم اس جیسی ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآنی دعویٰ اور چیلنج چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی ہار مان لی، دنیا ئے عرب نے اس کے مقابلے میں اپنی خفت اور عاجزی تسلیم کر لی۔ بعد کے ملحدین و منکرین نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اقرب الموارد اور المنجد جیسی ضخیم عربی ڈکشنریاں تو وجود میں آ گئیں لیکن قرآن عظیم کی نظیر کا ایک

صفحہ اور ایک سورت پیش کرنے سے سب کے سب عاجز اور قاصر ہو گئے۔ قرآن نے اعلان کر دیا۔  
 ”انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل

من حکیم حمید (فصلت: ۴۱، ۴۲)“

یہ نادر نایاب کتاب ہے کہ جس کے ارد گرد بھی باطل بھٹک نہیں سکتا۔ اس میں داخل ہونا تو دور اور ناممکن بات ہے۔ یہ تو حکیم حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ تو لکھنے کا بھی محتاج نہیں بلکہ ”ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم (عنکبوت: ۴۹)“ یہ تو واضح آیات ہیں جو کہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ بالفرض آج کوئی دشمن قرآن اس کو قرطاس سے ختم کر دے تو لاکھوں کروڑوں سینے اس کے محافظ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بے مثال کلام رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ جو کہ: ”بینات من الہدی والفرقان“ ہے۔ یہ لازوال کلام ہدایت کا صافی سرچشمہ اور منبع ہے اور حق و باطل کے مابین روشن ترین حد فاصل ہے۔ ”یا ایہا الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فلیفرحوا (یونس: ۵۹)“

”تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا (الفرقان: ۱)“ ﴿یہ لازوال کتاب بابرکت پروردگار نے اپنے بندہ کامل پر تمام جہان والوں کے لئے نازل فرمائی۔﴾

فرمایا: ”انا انزلناہ فی لیلة القدر . وما ادراک ما لیلة القدر . لیلة القدر خیر من الف شهر“ ﴿یعنی ہم نے یہ لازوال و بے مثال کتاب (رمضان المبارک کی مرکزی رات) لیلتہ القدر میں اتاری اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلتہ القدر کس قدر عظمت و شان کی حامل ہے۔ یہ تو ایک ہزار مہینہ سے بہتر و افضل ہے۔﴾

گویا ”انا انزلناہ“ ضمیر کا مرجع وہی ”شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن“ ہے اور لفظ شہر بھی اسی مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کی برتری دیگر مہینوں پر مسلم ہے۔ پہلے فرمایا: ”قل ای وربی انہ لحق“ کہ یہ قرآن برحق ہے۔ تم اس کی پیش رفت کو روک نہیں سکتے۔ آخر میں منکرین کا انجام بھی واضح کر دیا۔ ”ذالک الکتاب لا ریب فیہ“ کا نتیجہ بھی بتلا دیا کہ سورہ نصر اور تبت کو اخیر میں اکٹھا رکھا۔ ایک میں ”ذالک الکتاب“ کا نتیجہ اور دوسری میں اس کے نمایاں مخالف، معاند اور دشمن ابولہب کا ذکر ہے کہ یہ مخالفت کا انجام ہے۔ تو داعی قرآن اور اس کی مخالفت کرنے والوں دونوں کا انجام سامنے بالفعل پیش کر دیا۔ ایک

کا انجام ”اذا جاء نصر الله“ اور مخالف و معاند کا ”ثبت ید ابا لہب“ ہوا۔

یا اخوة الاسلام! مندرجہ بالا تفصیل کو دیکھئے اور قرآن کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیے۔ اپنے آپ کو چھوڑیے کہ ہم اس عظیم حقیقت کے کہاں تک حقوق ادا کر رہے ہیں اور کہاں تک اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ مزید سنئے! تمام امت کا فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ: ”القرآن کلام الله غیر مخلوق“ کہ قرآن خدا کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ بے پناہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور اس عقیدہ کی تصدیق و صحت پر مہر ثبت فرما کر آج تک امت کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں اور ان کے اس کارنامے کو دیکھ کر ہر شخص کی زبان سے بے ساختہ ان کے حق میں رحمت اللہ علیہ کی پر عظمت دعاء نکلتی ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر امت نے اس عقیدہ کو اجماعاً و اتفاقاً حرز جاں بنا کر مستقل طور پر علم کلام میں اور عقائد نامے میں شامل کر لیا۔ انہی قربانیوں کے پیش نظر ان کے شیخ امام شافعیؒ نے اس دوران ان کی قیص کا دھون پیا اور فرمایا میں اپنی نجات کے لئے یہ دھون پی رہا ہوں اور ان کے جنازے کے انوار کو دیکھ کر اس دن بیس ہزار غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ان کے جنازہ پر پرندوں نے سایہ کیا۔

اب سنئے: ”اذ انبعث اشقاہا“ امت میں رخنہ اندازی کرنے والے بڑے بڑے خناس اور دجال آکر بڑے بڑے چکر چلاتے رہے۔ انہوں نے اپنا کلام بنایا اور ”الفیل ما الفیل وما ادراك ما الفیل له ذنب قصیر وخرطوم طویل“ ”قسم کے معجزہ خیز کلام پیش کر کے خفت اٹھائی۔ آج تک کسی نے وہ کام نہیں کیا جو کہ مسلمان پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہ اس نے قرآنی آیات کو اپنا الہام قرار دیا یا کچھ الفاظ کا حصہ یا اپنا جملہ ملا کر الہام بنالیا اور اس سلسلہ الہامات میں اس نے مقامات نبوت پر جی بھر کر ڈاکے ڈالے۔ مثلاً: ”سبحان الذی اسری بعبده لیلاً . انا ارسلنا الیکم رسولاً کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً . انی متوفیک ورافعک وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیٰ یوم القیامۃ . ثلثۃ من الاولین وثلثۃ من الاخرین“ دیکھئے اس نے انی متوفیک نقل کی مگر اس دجال نے ایک جملہ کم کر کے قرآن میں تحریف کا ارتکاب کیا۔ وہ ہے ”مطہرک من الذین کفروا“ اور پہلی دونوں آیات میں سید دو عالم ﷺ کا مقام ہے۔ اگلی آیت کو بھی ادھورا نقل کیا جو کہ تحریف فی القرآن ہے۔ ”یس والقرآن الحکیم . هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق لیظہرہ علی الدین کلہ . لا مبدل لکلمتہ . ہیہات ہیہات لما توعدون . وما انت بنعمۃ ربک بمجنون . انا فتحنا لک مبیناً . اذا جاء

نصر اللہ “ اسی طرح متعدد آیات میں تحریف کر کے انہیں اپنا الہام قرار دیا اور قہر بھی اپنے سر لیا۔ (حقیقت الوحی ص ۱۰۸ تا ۱۰۹، خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۳ تا ۳۲۷)

اور ساتھ کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی طرف سے بھی گھسیڑ دیئے۔ مثلاً: ”یحمدک اللہ ویمشئ الیک“ جو کہ فضول قسم کا کلام ہے۔ غرضیکہ ایسی وحی اور الہام کا ملغوبہ بنا کر لوگوں کو الوہیتا تھا۔ یعنی اس نے وہ حرکت کی جو کسی اور دجال نے آج تک نہیں کی۔ یہ ہے اس کی بلاغت جو کہ ہر زبان عربی، اردو، فارسی میں چوں چوں کا مرہبہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر اس نے خدا کے ناموں میں بھی تحریف کی۔ اس نے خدا کا نام یلاش اور صاعقہ بھی بتلایا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں ایسے فضول اور بے معنی کلام کا نام و نشان نہیں ہے اور اس حرکت بد کو الحالی قرار دیا ہے۔

۱..... پھر اس نے دعویٰ کیا کہ قرآن کی فصاحت کے بعد میری فصاحت کا نمبر۔

(بجۃ النور ص ۱۲۸، خزائن ج ۱۶ ص ۳۲۶)

۲..... پھر کہہ دیا کہ قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔

(حقیقت الوحی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

اس کے بعد علماء امت کو بھی للکارنے لگا کہ مجھ سے عربی نویسی کا مقابلہ کرلو۔ اب آپ توجہ کریں کہ یہ ازلی شقی اپنے دعوؤں میں کیسے کیسے ذلیل و خوار اور کذاب ثابت ہوا ہے۔

سید دوعالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ: ”انا افصح العرب“ اور فرمایا: ”اوتیت بجوا مع الکلم“ اس خبیث نے اس کے مقابلے میں دعویٰ کر کے اپنی ازلی شقاوت پر مہر لگا دی۔ پھر وہ یہ کہہ کر مزید ذلیل ہو گیا کہ قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ کیونکہ قرآن تو خدا کا کلام ہے وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ بھی نہیں۔ چہ جائیکہ اس ازلی بد بخت کے منہ کی باتیں ہوں۔ اسی لئے اس سلسلہ میں علماء امت کو چیلنج کر کے خود ہی قدم قدم پر ذلیل و خوار ہوا۔ چنانچہ مولانا محمد حسین فیضی نے ایک ۱۳۲ شعرا کا بے نقط قصیدہ لکھ کر مرزا قادیانی کو پیش کیا کہ لو پڑھ کر ہی سنا دو۔ مگر مرزا قادیانی وہ پڑھ بھی نہ سکا۔ اسی طرح کا اور عربی کلام بھی ہے جو مرزا قادیانی کی تذلیل کے لئے بہت کافی ہے۔ پھر اس نے المنار کو اپنا کلام بھیجا تو اس نے بھی خوب اس کی درگت بنائی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کا کلام ”یورث السل والدق سل“ اور دق (ٹی۔ بی) کی بیماری کا باعث ہے۔ لہذا ماہر بن کر اس کا علاج کرنا چاہئے۔ اسی طرح اس نے اپنے دعویٰ کی وجہ سے انتہائی ذلت اٹھائی۔ یہ بھی کہا کہ: ”کلام افصح من لدن رب کریم“

اور یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ کلام مذکر ہے۔ اس کا فعل بھی مذکر ہوگا۔ مگر اس نے مونث لگا کر اپنی تذلیل کرائی۔ کیونکہ یہ ازلی محروم القسمت اور بد بخت انسان ہر موقع پر خوب ذلیل و خوار ہوا۔ اس نے لکھا: ”ما قلت کلمۃ فیہ“ دیکھئے کلمہ مونث ہے۔ مگر اس نے ضمیر مذکر لکھ دی۔ حالانکہ فیہا چاہئے تھا۔ اسی طرح بندہ نے کچھ عرصہ پیشتر مرزا قادیانی کی عربی دانی پر ایک جاندار بحث کی تھی اور وہ مضمون ہفت روزہ ”ختم نبوت“ میں شائع بھی ہو چکا ہے اور قابل دید ہے۔ اس میں اس کی عربی کے نمونے موجود ہیں۔ جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر دعویٰ ہر بات اور ہر فعل میں سو فیصد فیل تھا۔ فصاحت میں تو تذکیر و تانیث کی تمیز سے بھی عاری ہے۔ واحد جمع کے فرق سے محروم۔ الغرض مرزا قادیانی ہر طرح شقی اور بد بخت تھا۔ اس کی بد بختیاں بے شمار ہیں۔ یہ ازلی محروم القسمت انسان قرآن کی توہین اور تحریف کا بھی مرتکب ہوا۔ قرآنی نظریات و عقائد مثلاً ختم نبوت، حیات مسیح، عظمت انبیاء وغیرہ کا یہ نہایت کھلا دشمن ہے۔ بالخصوص توہین مسیح میں اس نے حد کر دی۔ کون سی شق ہے جس کا یہ منکر نہ ہو۔ آپ کی عظمت شان، ولادت بلا پدر، معجزات عظمیہ، عظمت مریم بتول، نیز ہر ایک چیز کا یہ خمیشت منکر ہے۔ پھر حد یہ کر دی کہ خود مسیح علیہ السلام کا مثیل بھی بن بیٹھا۔ عجیب انسانی ڈھانچہ ہے۔ توہین انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ عظام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ غرضیکہ کسی بھی محترم شخصیت کی عظمت و تقدس اس کے قلب و ذہن میں بالکل نہیں ہے۔ قرآن وحدیث، ائمہ دین، علماء امت اور عام اہل اسلام کی عظمت کا یہ ازلی شقی کھلا دشمن ہے۔ کردار، اخلاق، ظاہر و باطن کا نہایت رذیل اور محروم الخیر ہے۔ گویا ایک فیصد بھی انسانیت اس میں نہیں ہے۔ بلکہ تمام پیمانوں میں یہ مردود ازلی مقام زیرو سے بھی ڈاؤن ہے۔ اللہ کریم تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ علم و فکر سے یکسر محروم، عقل و زیرکی سے خالی، کائنات کا نہایت رذیل اور محروم ترین انسانی ڈھانچہ ہے۔ تو جیسے قوم شمود کا وہ بد بخت تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کوچیں (بوجہ شقاوت) کاٹ کر دائمی عذاب اپنے اور قوم کے سر لیا۔ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ اس زمانہ میں ظاہر ہوا۔ جس کو صلیبی دشمن نے کھڑا کیا ہے۔ اس کی بد بختی اور شقاوت و محرومی کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ جس نے خدا کے آخری اور برحق دین سے ٹکر لے کر اپنا اور اپنے پیروکاروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی بد بخت ذلیل نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کو ایسے مکاروں، دجالوں اور نوسر بازوں سے محض اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے اور دین مصطفیٰ ﷺ سے ہی وابستہ رکھے۔ قبر و حشر میں ہماری وابستگی سرور انبیاء علیہم السلام سے ہی قائم رکھے۔ آمین! ہر خطیب کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اس خمیشت فتنہ سے آگاہ کرے۔ ”اللھم احفظنا من فتنۃ الدجال“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مجلد ۶۰  
۱۳۷۷ھ  
۱۹۵۷ء

مرزا غلام احمد قادیانی کے

60

شاہکار جھوٹ

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود<sup>رح</sup>

مرزا قادیانی کے ساتھ (60) شاہکار جھوٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

جھوٹ کسی بھی مذہب و ملت میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن دین حق میں تو اسے منافی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا: ”لعنة الله على الكاذبين“ اور رحمۃ اللعالمین نے فرمایا: ”والكذب يهلك“ کہ جھوٹ ایک ہلاکت خیز بیماری ہے۔

اور تو اور خود تمہارے مخاطب مرزا قادیانی بھی اس کی مذمت میں لکھتے ہیں کہ:

.....۱ ”وہ کج خلق جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔“

(شخصہ حق ص ۶۰، خزائن ج ۲ ص ۳۸۶)

.....۲ ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(اربعین ص ۳۴، نمبر ۳، خزائن ج ۱ ص ۴۰۷، تحفہ گولڑیہ ص ۱۳، خزائن ج ۱ ص ۵۶)

.....۳ ”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲ ص ۲۱۵، ضمیمہ انجام آقہم ص ۳۰۵، خزائن ج ۱ ص ۳۴۳)

.....۴ ”جھوٹ بولنا ام النجاست ہے۔“

(تبلیغ رسالت ص ۲۸ ج ۷، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۱)

.....۵ ”خدا کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جب انسان حیاء کو

چھوڑ دیتا ہے تو جو چاہے بکے کون اس کو روکتا ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۳، خزائن ج ۱ ص ۱۰۹)

.....۶ ”میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو۔“

(ضمیمہ گولڑیہ ص ۹، خزائن ج ۱ ص ۵۰)

فیصلہ: مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

”جب ایک بات میں کوئی جھمکا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر

اعتبار نہیں رہتا۔“ (چشمہ معرفت ص ۲۲، خزائن ج ۲ ص ۲۳۱)

مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ لہذا اب ذیل میں خود

مرزا قادیانی کے چند درجن جھوٹ ۱ ج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو سچ ثابت کر دے تو ایک لاکھ

روپیہ نقد حاصل کرے۔ ورنہ قادیانیت پر صرف تین حرف (ل، عین، ن) بھیج کر دائرہ اسلام میں

آجائے۔ تاکہ آخرت کی تباہی سے محفوظ ہو جائے۔

اعلان عام: ہر اس شخص کو ایک لاکھ روپیہ نقد انعام جو اس رسالہ میں مذکورہ حوالہ جات کو غلط ثابت کرے گا۔

مؤلف عبداللطیف مسعود خیر خواہ قادیانیت  
خادم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈسکہ ضلع سیالکوٹ  
چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی مسیحیت و نبوت لکھتے ہیں کہ:  
جھوٹ نمبر: ۱..... ”ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر  
آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۱۸۸، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۹)  
جھوٹ نمبر: ۲..... ”چودھویں صدی کے سر پر مسیح موعود کا آنا جس قدر حدیثوں سے  
قرآن سے اولیاء کے مکاشفات سے پایہ ثبوت پہنچتا ہے حاجت بیان نہیں۔“

(شہادت القرآن ص ۵۹، خزائن ج ۶ ص ۳۶۵)  
جھوٹ نمبر: ۳..... ”احادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد  
ظہور مسیح ہے۔“ (آئینہ کمالات ص ۳۴۰، خزائن ج ۵ ص ۳۴۰)

ف..... یہ سب باتیں سو فیصد جھوٹ اور آنحضرت ﷺ پر بہتان عظیم ہے۔  
آپ ﷺ نے کہیں بھی چودھویں صدی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ہمارا چیلنج ہے کہ اگر کوئی قادیانی  
جیالا صرف ایک ہی حدیث (صحیح یا ضعیف) سے چودھویں صدی کا لفظ ثابت کر دے تو اسے منہ  
مانگا انعام دیا جائے گا۔

جھوٹ نمبر: ۴..... ”خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر  
سری نگر کشمیر میں ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۴)

ف..... یہ بھی بالکل جھوٹ اور قرآن مجید پر بہتان ہے۔ اگر کوئی قادیانی جیالا  
قرآن مجید سے مسیح کا مرنا اور قبر کا سری نگر کشمیر میں ہونا دکھا دے تو اسے مبلغ دس ہزار روپیہ نقد انعام  
دیا جائے گا۔

جھوٹ نمبر: ۵..... ”قرآن بضرر دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام)  
رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا۔ آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں۔“

(تختہ گولڑویہ ص ۴۷، خزائن ج ۱۷ ص ۱۶۵)  
ف..... دیکھئے کتنی خبیث گپ ہے جو قرآن حکیم کے ذمہ لگائی گئی۔ میرا چیلنج ہے  
کہ اگر کوئی قادیانی جیالا قرآن شریف سے مسیح کا زمین میں دفن ہونا اور آسمان سے نفی دکھا دے تو



مبلغ ۱۰ ہزار روپیہ نقد انعام حاصل کرے۔ ورنہ بصورت دیگر قادیانیت پر صرف تین حرف بھیج کر سچا پکا مسلمان بن جائے۔

جھوٹ نمبر: ۶..... ”قرآن شریف..... آخر زمانہ میں بڑے بڑے خوفناک حوادث عیسیٰ پرستی کی شامت سے ہوں گے..... نیز قرآن شریف میں کھلے کھلے طور پر مسیح موعود کی پیش گوئی ثابت ہوتی ہے۔“ (تمتہ حقیقت الوحی ص ۶۴، خزائن ج ۲۲ ص ۳۹۹)

ف..... یہ بات بھی سراسر قرآن مجید پر بہتان ہے کہ کوئی مرزائی مربی اسے قرآن مجید سے دکھا کر ایک ہزار روپیہ نقد انعام حاصل کرے۔ ورنہ مرزائیت سے تائب ہو کر صحیح العقیدہ مسلمان بن جائے۔

جھوٹ نمبر: ۷..... ”کتب سابقہ سے..... صریح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ نام لے کر بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں۔“

(چشمہ معرفت ص ۷۵، خزائن ج ۲۳ ص ۸۳)

ف..... کسی بھی سابقہ صحیفہ یا کتاب میں یہ صراحت موجود نہیں ہے۔ جھوٹ نمبر: ۸..... ”قرآن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔“ (کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

جھوٹ نمبر: ۹..... ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپؐ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا: ”کان فی الہند نبیا اسود اللون اسمہ کاہنا“ یعنی ہندوستان میں بھی ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن یعنی کنہیا جس کو کرشن کہتے ہیں اور آپؐ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے۔ جیسا کہ وہ اس زبان میں فرماتا ہے۔ این مشیت خاک را گر نہ بخشم چہ کنم!“

(ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۳۸۲)

ف..... یہ دونوں باتیں سراسر آنحضرت ﷺ پر محض بہتان ہیں۔ کوئی قادیانی مربی مع مرزا طاہر کسی بھی معتبر کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا۔ ”ہل من مبارز“

جھوٹ نمبر: ۱۰..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”سو جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ علماء اسلام مہدی کی تکفیر کریں گے اور کفر کے فتوے لکھیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی آثار اور احادیث میں موجود ہے۔“ (ضمیمہ انجام آہٹم ص ۱۱، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۵)

ف..... یہ خالص بہتان اور افتراء ہے کسی بھی حدیث میں یہ بات مذکور نہیں۔ محض مرزا قادیانی کا من گھڑت جھوٹ ہے۔ دجل و فریب اور سیاہ جھوٹ۔

جھوٹ نمبر: ۱۱..... جناب قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”سید دو عالم ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ہے یعنی صدی کا سر اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صلیب کے غلبہ کے وقت ایک شخص پیدا ہوگا جو صلیب کو توڑے گا۔ ایسے شخص کا نام آنحضرت ﷺ نے مسیح بن مریم رکھا۔“

جھوٹ نمبر: ۱۲..... ”قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ (تحریر) موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔“

(لیکچر لاہور ص ۳۹، خزائن ج ۲۰ ص ۱۸۵)

ف..... یہ تمام باتیں سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں۔ ایک بھی ثابت نہیں۔ ہے کوئی قادیانی جیلا لامع مرزا طاہر کہ ان کو صحیح ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر: ۱۳..... ”اللہ تعالیٰ..... نے بشر کے لئے آسمان پر مع جسم جانا حرام کر دیا ہے۔“

ف..... یہ بھی محض خدا تعالیٰ پر بہتان اور افتراء ہے۔ ”فلعننت اللہ علی

الکاذبین المغترین والاہاتو برہانکم“

جھوٹ نمبر: ۱۴..... مرزا قادیانی اپنے رسالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ کے صفحہ اوّل پر لکھتا ہے کہ: ”میری وحی مندرجہ براہین ص ۴۹۸ پر ”ہو الذی ارسل رسولہ“ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔“

ف..... یہ قرآنی آیت ہے۔ اگر کوئی مرزائی اس کا مصداق کسی سابقہ تفسیر سے مرزا کو ثابت کر دے تو میں اسے فی الفور دس ہزار روپیہ نقد انعام پیش کر دوں گا۔ ورنہ وہ قادیانیت پر لعنت بھیج کر پکا سچا مسلمان بن جائے۔

جھوٹ نمبر: ۱۵..... ”چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی امت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے در پے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے۔“

(نزل المسیح ص ۴۱، خزائن ج ۱۸ ص ۴۱۹)

ف..... یہ سب افتراء علی اللہ کی بدترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسی باتیں ارشاد نہیں فرمائیں۔

جھوٹ نمبر: ۱۶..... اللہ نے صاف فرمادیا کہ: ”عیسیٰ فوت ہو گیا اور آنحضرت ﷺ نے گواہی دے دی کہ میں اس کو مردہ روحوں میں دیکھ آیا ہوں اور صحابہؓ نے اجماع کر لیا کہ سب نبی فوت ہو گئے اور ابن عباسؓ نے بخاری میں توفی کے معنی بھی موت کر دیئے۔“

(نزل المسیح ص ۳۳ حاشیہ، خزائن ج ۱۸ ص ۴۱۰)

ف..... یہ امور اربعہ محض جھوٹ اور بہتان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ مات عیسیٰ یا توفی عیسیٰ (بصیغہ ماضی) کہ وہ مر گئے جو کوئی یہ لفظ یعنی مات یا توفی عیسیٰ بن مریم دکھادے اسے فی الفور دس ہزار روپیہ نقد انعام دیا جائے گا۔

جھوٹ نمبر: ۱۷..... مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ:

۱..... ”امام مالک جیسا عالم حدیث و قرآن متقی قائل ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے۔

۲..... امام ابن حزم جن کی جلالت عظمت شان محتاج بیان نہیں قائل وفات مسیح ہیں۔

۳..... امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب اللہ اصح الکتاب ہے وفات مسیح کے قائل ہیں۔

۴..... ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔

۵..... ایسا ہی رئیس المصنفین شیخ ابن عربیؒ صاف اور صریح لفظوں میں وفات کے قائل ہیں۔“

(کتاب البریہ ص ۲۰۳ حاشیہ، خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۱)

ف..... یہ تمام دعوے محض جھوٹ اور بہتان کا پلندہ اور دجل و فریب کا مجموعہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ صحیح ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ہے کوئی قادیانی جیالا یا ناوٹ؟

جھوٹ نمبر: ۱۸..... ”کتب سابقہ اور احادیث نبویہ ﷺ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام ہوگا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔“

(ضرورت الامام ص ۵، خزائن ج ۱۳ ص ۴۷۵)

ف..... یہ محض قادیان کے چنڈ و خانے کی گپ ہے۔ جسے حقیقت کے ساتھ ذرا بھی واسطہ نہیں۔ ورنہ الہام والی عورتیں اور صاحب نبوت بچوں کے نام پیش کریں۔ ہے کوئی قادیانی جیالا مرزا کی لاج رکھنے والا۔

جھوٹ نمبر: ۱۹..... ”لکھرام کا قرآن مجید میں ذکر۔“

(سراج منیر ص ۶۷، خزائن ج ۱۲ ص ۶۹)

ف..... قرآن سے نکال کر دکھائیے یا سابقہ کسی تفسیر کا حوالہ ہی پیش کر کے منہ مانگا انعام حاصل کریں۔

جھوٹ نمبر: ۲۰..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”براہین احمدیہ ص ۵۵۶ پر یہ الہام لکھا ہے ”یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی“ یعنی اے عیسیٰ میں تجھے طبعی وفات دوں گا۔“

(سراج منیر ص ۴۱، خزائن ج ۱۲ ص ۴۳)

ف..... اگر کوئی مرزائی مربی بمع مرزا طاہر براہین احمدیہ میں اسی طرح لکھا دکھا دے تو منہ مانگا انعام پیش کیا جائے گا۔

جھوٹ نمبر: ۲۱..... ”حضرت عیسیٰ ایک مالدار آدمی تھے۔ کم از کم ہزار روپیہ ان کے پاس رہتا تھا۔ جس کا خزانچی یہود اسکر یوٹی تھا۔“ (ایام الصلح ص ۱۴۰، خزائن ج ۱۳ ص ۳۸۵)

ف..... یہ محض سیاہ جھوٹ اور ایک الوالعزم نبی کی تحقیر ہے۔ اسے صحیح ثابت کرنے والے کو دس ہزار روپیہ نقد انعام پیش کیا جائے گا۔ ورنہ قادیانیت پر صرف تین حرف بھیج کر اپنی عاقبت سنوار لی جائے۔

جھوٹ نمبر: ۲۲..... ”کسوف و خسوف والی حدیث نہایت صحیح ہے۔“

(ایام الصلح ص ۱۷۱، خزائن ج ۱۳ ص ۴۱۹)

ف..... یہ سب جھوٹ ہے۔ ہے کوئی قادیانی بمع مرزا طاہر جو اس کو بواسطہ محدثین کرام یا بلا واسطہ موافق اصول حدیث کے صحیح ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر: ۲۳..... ”اب دیکھو کہ آثارِ صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ مسیح موعود کو نالائق بد بخت پلید طبع مولوی کافر ٹھہرائیں گے اور دجال کہیں گے اور کفر کا فتویٰ ان کی نسبت لکھا جائے گا۔“ (ایام الصلح ص ۱۶۵، خزائن ج ۱۳ ص ۴۱۳)

ف..... یہ سب محض گپ ہے کوئی ثبوت نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ یہ تو ان خرافات کی آڑ میں علمائے امت کو گالیاں دے کر اپنی عاقبت تباہ کی گئی ہے۔ لہذا جب یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تو خود مرزا قادیانی ہی اپنے فتوے کی بناء پر نالائق بد بخت اور پلید طبع ثابت ہو گیا۔

جھوٹ نمبر: ۲۴..... ”میری (مرزا) نسبت ہی خدائے نے فرمایا اے اکابر اللہ ليعذبهم و انت فيهم“ (ایام الصلح ص ۱۵۶، خزائن ج ۱۳ ص ۴۰۳)

ف..... فرمائیے اس گپ اور بکواس کو کون تسلیم یا برداشت کرے گا۔ یہ اعلان تو سید دو عالم ﷺ کے بارہ میں ہے۔ جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کی موجودگی میں تو آزمائش ہی آتی رہی۔ بلکہ اس نے خود اپنے زمانہ میں زلزلوں اور طاعون وغیرہ کی پیش گوئی کر رکھی تھی۔ پھر اب کس منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔

جھوٹ نمبر: ۲۵..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوں۔ جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے۔ اس کے قتل کے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اسے دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔“ (اربعین ص ۷ نمبر ۳ خزائن ج ۷ ص ۴۰۴)

ف..... یہ بھی محض قادیان کے چند و خانے کی نرالی گپ ہے۔ جس کا کوئی سرپیر نہیں۔ نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی احادیث میں ہے۔ کوئی قادیانی جیالا یا ٹاؤٹ مع مرزا ظاہر جو ان امور کو قرآن مجید اور حدیث صحیح یا ضعیف سے ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ ورنہ مرزائیت پر تین صرف تین حرف (ل، ع، ن) بھیج کر دین حق کو قبول کر لے۔

جھوٹ نمبر: ۲۶..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”ایسا ہی جب مولوی غلام دستگیر قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریق فیصلہ قرار دیا ہے کہ ہم دونوں (مولوی صاحب اور سر مرزا قادیانی) میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لئے لعنت کا نشانہ ہو جائے گا اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا منہ بھی کالا کرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنادے گا۔“ (ضمیمہ تحفہ گولڑیہ ص ۱۰ احاشیہ، خزائن ج ۷ ص ۵۲)

ف..... یہ محض قادیانی گپ ہے۔ کیونکہ نہ تو مولانا غلام دستگیر صاحب نے کوئی اس مضمون کی کتاب لکھی اور نہ ہی وہ مرزا کی اس بڑے مصداق بنے۔ یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جو قادیانی کی سرشت اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔

جست نمبر: ۲۷..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہ دونوں مسیح (اسرائیلی و محمدی) ایک دوسرے کا عین نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف

میں اسلام کے مسیح موعود کو موسوی مسیح کا مثیل ٹھہراتا ہے نہ عین۔ پس محمدی مسیح موعود کو موسوی مسیح کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔“ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۳، خزائن ج ۱ ص ۱۹۳)

ف..... یہ مرزا قادیانی کا فطری جھوٹ ہے ورنہ قرآن مجید میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں۔ نہ ہی حدیث یا کسی تفسیر میں کوئی عین غین کا مسئلہ مذکور ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث میں صرف ایک ہی مسیح کا ذکر ہے۔

جھوٹ نمبر: ۲۸..... سورہ فاتحہ کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”نماز کے بیچ وقت میں یہ دعاء شامل کر دی گئی اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حدیث لاصلوہ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔“ (تحفہ گولڑویہ ص ۷۷، خزائن ج ۱ ص ۲۱۹)

ف..... یہ اقتباس قادیانی کی حماقت وجہالت کا کھلا نشان ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ ہی حدیث کے نہیں بلکہ حسب عادت مرزا قادیانی نے خود ہی گھڑ کر من کذب علی متعمدا کا نتیجہ حاصل کر لیا ہے۔ ویسے سورہ فاتحہ واقعی نماز میں لازمی ہے۔ مگر بحالت اقتداء صرف امام پڑھے گا مقتدی کے ذمے استماع وانصات ہے۔ ”کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واذ اقرافانصتوا (مسلم)“ اور ”من کان له امام فقرأ الامام له قرآۃ“ لہذا آنجہانی کے الفاظ بھی غلط اور مفہوم بھی غیر صحیح۔

جھوٹ نمبر: ۲۹..... جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”اس زمانہ کے بعض نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی رو سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔“ (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۰۱، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۵۱)

ف..... یہ بھی بالکل جھوٹ ہے کہ آنجہانی نے کئی مسلمان علماء کو شکست دی۔ جب کہ حال یہ ہے کہ مباحثہ دہلی خود قادیانیوں کا مطبوعہ ہے۔ اس کو ملاحظہ کر کے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی اس مباحثہ سے از خود فرار ہو گئے۔ اسی طرح مباحثہ لدھیانہ اور مرزا قادیانی پیر مہر علی گولڑوی کے مقابلہ میں آئے ہی نہیں کہ مجھے سرحدی پٹھانوں سے ڈر ہے۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۵۰)

اور تو اور یہ آتھم کے مقابلہ میں بھی چپت ہوا۔ مولانا امرتسری تادم مرگ اس کی چھاتی پر مونگ دلتے رہے۔ آخر نام تو لیا جائے کہ یہ صاحب فلاں جگہ فلاں شخصیت کو واقعی شکست دے آئے۔ آخر بے باکی اور ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔

جھوٹ نمبر: ۳۰..... ”پھر قرآن شریف کے بعد حدیثوں کا مرتبہ ہے۔ سو تقریباً تمام

حدیثیں تصریح کے ساتھ قرآن کریم کے بیان کے موافق ہیں اور ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ وہی مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی جس کو قرآن شریف مار چکا ہے (بالکل غلط، قرآن میں کہیں ان کی فوتگی مذکور نہیں، کہیں مات عیسیٰ نہیں لکھا) جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں بار بار یہ لکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہمنام آئیں گے..... ہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مثل آئیں گے اور انہیں کے اسم سے موسوم ہوں گے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۳۴، خزائن ج ۳ ص ۳۹۲، ۳۹۳)

ف..... ملاحظہ فرمائیے جناب قادیانی کس طرح دھڑلے اور بے باکی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ اگر یہ صاحب واقعی مرزا غلام مرتضیٰ کے حلالی فرزند ہیں تو کسی ایک حدیث میں لکھا دکھادیں کہ صاحب انجیل اسرائیلی مسیح نہیں آئیں گے۔ بلکہ اسرائیلی نبیوں کے ہم نام مثلاً داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، سعبہ، یرمیاہ وغیرہ نام والے نبی آئیں گے۔ مریم کے فرزند نہیں آئیں گے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ یا جیالا جو مرد میدان بن کر اپنے قادیانی کی لاج رکھ سکے؟

جھوٹ نمبر: ۳۱..... ”امام بخاری نے اس جگہ اپنی تصحیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کم از کم سات ہزار مرتبہ توفی کا لفظ آنحضرت ﷺ کے منہ سے بعثت کے بعد آخر عمر تک نکلا ہے اور ہر ایک لفظ توفی کے معنی قبض روح اور موت تھی۔“

(ازالہ اوہام ص ۸۸۸، خزائن ج ۳ ص ۵۸۵)

ف..... امام بخاریؒ نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے اور نہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکتا ورنہ کوئی بھی قادیانی ٹاؤٹ کوشش کر کے اتنی گنتی پوری کر کے منہ مانگا انعام حاصل کر لے۔

جھوٹ نمبر: ۳۲..... ”اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بڑا فتنہ عیسیٰ پرستی کا فتنہ ٹھہرایا ہے اور اس کے لئے وعید کے طور پر یہ پیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے آسمان وزمین پھٹ جاویں اور اسی زمانہ کی نسبت طاعون اور زلزلوں وغیرہ حوادث کی پیش گوئی بھی کی ہے اور صریح طور پر فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں جب کہ آسمان وزمین میں طرح طرح کے خوفناک حوادث ظاہر ہوں گے۔ وہ عیسیٰ پرستی کی شامت سے ظاہر ہوں گے۔“ (ضمیمہ حقیقت الوحی ص ۶۴، خزائن ج ۲۲ ص ۴۹۸، ۴۹۹)

ف..... یہ قادیانی چندو خانے کی بے مثال گپ ہے۔ قرآن مجید میں بزمانہ مسیح طاعون وزلزلہ وغیرہ کی کہیں بھی پیش گوئی اجمالاً یا صراحتاً مذکور نہیں۔

جھوٹ نمبر: ۳۳..... قادیانی کذاب لکھتا ہے کہ: ”(مکی دور کے متعلق) انہوں نے

دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زمانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی۔ ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نور انسانی کے فخران شریہ درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کو چوں اور گلیوں میں ذبح کئے گئے..... ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذبح کئے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۲۲)

ف..... ملاحظہ فرمائیے جناب قادیانی کتنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں اہل اسلام کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر یہ مذکورہ مناظر پیش نہیں آئے۔ ان کو جسمانی تشدد سے تو سابقہ پڑا۔ مگر یہ نقشہ محض قادیانی شاخسانہ ہے۔ یہ کذاب بلا ضرورت کذب بیانی اور بے اصل لاف و گزاف سے بھی پرہیز نہیں کر سکتا۔

جھوٹ نمبر: ۳۴..... مرزا قادیانی آیت ”اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کو جو قتل کئے جاتے ہیں اور ناحق وطن سے نکالے گئے۔ فریاد سن لی اور ان کو مقابلہ کی اجازت دی گئی..... مگر یہ حکم مختص الزمان والوقت تھا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانہ کے متعلق تھا۔ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے۔ لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانہ کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں جس کی اصل جز آیت کریمہ مذکورہ ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں اور ناحق مخلوق کو تلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیا اور عجیب اتفاق ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عیسائی دین میں تو ایک عاجز انسان کو خدا بنا کر اس کا در و قیوم کی حق تلفی کی گئی..... اور مسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تلوار چلانے سے بنی کی نوع حق تلفی کی اور اس کا نام جہاد رکھا۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۲۲)

ف..... ملاحظہ فرمائیے قادیانی دجال کیسی الٹی چال چل رہا ہے۔ مسئلہ جہاد پر جو کہ اسلام کی عظمت اور امن عالم کا ضامن ہے۔ کیسا کچڑا اچھال کر اسے عیسائیوں کے قبیح ترین مسئلہ ابن اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جس سے قرآن و حدیث اور امت مسلمہ کی شدید ترین توہین و تحقیر ہو رہی ہے۔ مگر اس دجال کو تو صرف انگلش ایجنٹی کی دھن سوار ہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو ایسے شاطر دجالوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر یہی بات ہے؟ تو اس کا کیا مطلب کہ مسیح جہاد کو منسوخ کر دے گا۔

جھوٹ نمبر: ۳۵..... جناب قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”چاہو تو میری بات کو لکھ رکھو۔ کہ



آج کے بعد مردہ پرستی (مسج پرستی) روز بروز کم ہوگی۔ یہاں تک کہ نابود ہو جائے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۳۰۷)

ف..... یہ پیش گوئی بھی اسی طرح کی ایک بھنگی کی بڑ ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی کی مکہ و مدینہ کے درمیان ریل جاری ہونے اور خود اس کے وہاں مرنے کی پیش گوئی ہے۔

جھوٹ نمبر: ۳۶..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”ایک دفعہ میں نے مولانا محمد حسین بنالوی صاحب کی فرمائش پر یہ سنایا کہ بکرو شیب..... یعنی ایک کنواری اور دوسری بیوہ۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ میرے نکاح میں دو عورتیں لاوے گا۔ ایک باکرہ دوسری بیوہ۔ تو باکرہ تو آچکی ہے۔ (نصرت جہاں بیگم) دوسری کا انتظار ہے۔“ (تریاق القلوب ص ۳۴، خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۱)

یہ محض گپ ثابت ہوئی۔ نصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی بیوہ عورت تو کیا کوئی مردہ عورت بھی نہیں آئی ہے۔ کوئی قادیانی ٹاؤٹ جو نصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی بیوہ کی نشاندہی کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے ورنہ قادیانیت پر صرف تین حرف بھیج کر سیدھا دائرہ اسلام میں آ جائے۔

جھوٹ نمبر: ۳۷..... مرزا قادیانی اپنی مدت دعوت کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”سو اس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوئی ہے۔ جن میں دس دس کامل گزر گئے۔“

(نشان آسمانی ص ۱۴، خزائن ج ۳ ص ۳۷۴)

ف..... یہ کتاب ۱۸۹۲ء کی طبع شدہ ہے تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت ۱۹۲۲ء تک جانا چاہئے تھی۔ مگر آنجناب ۱۹۰۸ء یعنی ۱۴ سال قبل از میعاد ہی راہی ملک عدم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا الہام باقاعدہ خود بھی جھوٹا نکلا۔ ویسے مرزا قادیانی کا سارا تانا بانا ہی محض مکر و فریب تھا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ بیعت ۱۸۸۹ء سے شروع کی تھی تو اس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا چاہئے تھی۔ لیکن بقضائے الہی سرکار انگلشیہ کے لاڈلے ۲۱ سال قبل ہی جبری ریٹائرمنٹ کا شکار ہو گئے۔ اپنے کذب و افتراء پر مہر لگا گئے۔ گویا کہ منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل راستے میں دم توڑ گئے۔

جھوٹ نمبر: ۳۸..... ”یہ اشارہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو کنز العمال میں ہے یعنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر ایک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ یعنی کشمیر جس کے شہر سری نگر میں ان کی قبر موجود ہے۔“

(اشہار واجب الاظہار ملحق بہ تریاق القلوب ص ۱۰، خزائن ج ۱۵ ص ۵۴۰)

ف..... دنیا جہان میں کوئی ایسی کتاب حدیث نہیں جس میں صلیب سے بھاگ کر کشمیر میں جانے کا تذکرہ ہو یہ تو محض قادیان کے چند و خانے کی ایک حیرت انگیز گپ ہے۔ دیکھئے قادیانی کی بے باکی کہ خود ہی لفظ یعنی کا ٹوٹنے لگا کر کشمیر کے سری نگر میں مسیح کی قبر تیار کر دی۔ ”الا لعنة الله على الكاذبين“

جھوٹ نمبر: ۳۹..... مرزا قادیانی جھوٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ: ”ملہمیں کو کبھی اپنے الہام کے معنی خود اجتہادی طور پر کرنے پڑتے ہیں..... ایسا ہی ایک اور الہام متشابہات میں سے ہے جو ۲۴ اکتوبر ۱۸۹۹ء کو مجھے ہوا اور وہ یہ ہے کہ قیصرہ ہند کی طرف سے شکریہ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ حیرت میں ڈالتا ہے کہ میں تو ایک گوشہ نشین اور ہر ایک قابل پسند خدمت سے عاری اور قبل از مدت اپنے تئیں مردہ سمجھتا ہوں۔ میرا شکریہ کیسا۔“

(ایک الہامی پیش گوئی کا اظہار ملحق بہ تریاق القلوب ص ۲، خزائن ج ۱۵ ص ۵۰۳، ۵۰۴)

ف..... ملاحظہ فرمائیے جناب قادیانی کی عیاری اور مکاری! کیسے انجان بن رہے رہیں کہ مجھ جیسے غیر معروف انسان کا شکریہ کیسا؟ حالانکہ دیگر اپنے رسائل میں بار بار مضطرب و بے قرار ہو رہے ہیں کہ ملکہ معظمہ سے میری بے پناہ خدمات کے مقابلہ میں سادہ سا شکریہ کا اظہار بھی نہ ہو سکا اور اسی دھن میں شکریہ کا گھپلا لگا تو غیر معروف اور مردہ بن رہے ہیں۔

باقی رہی گمنامی کی بات تو یہ بھی محض گپ ہے۔ آپ جناب نے تو ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء تک براہین کے حوالہ سے سارے جہان میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ جس سے آپ کی شہرت آسمان تک پہنچ چکی تھی۔ پھر دعویٰ مجددیت و محدثیت پھر ۱۸۸۹ء میں سلسلہ بیعت کا افتتاح ۱۸۹۱ء میں دعویٰ مسیحیت کی بناء پر آپ شہر شہر اور قریہ قریہ ابلیس کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ غیر معروف اور مردہ کیسے؟

نیز ۹۳ء میں آتھم کے مقابلہ میں مناظرہ کر کے آپ بام شہرت پر پہنچ چکے تھے۔ نیز اس وقت آپ اسی کتاب کے حوالہ سے انگریز کی حمایت میں ”پچاس الماریاں“ کتابیں لکھ کر چار دانگ عالم میں پھیلا چکے تھے۔

(تریاق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵)

پھر گمنامی کیسی؟ نیز ستارہ قیصریہ اور تحفہ قیصریہ نامی دو مستقل رسالے لکھ کر ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ کیا اب بھی آپ غیر معروف ہی رہے تھے؟ صاحب اس سے بڑھ کر کذب بیانی اور جھوٹ کی مثال ممکن ہے؟ جس کی جسارت صرف مرزا قادیانی ہی کر سکتے ہیں اور کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔

جھوٹ نمبر: ۴۰..... بہتان عظیم۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”قرآن شریف نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان فرمادیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ کا ان ارواح میں داخل ہونا بیان فرمادیا ہے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور اصحاب نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھ اس فیصلہ پر اتفاق کر لیا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔“  
(ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۲۰۲، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۵)

ف..... ناظرین کرام مندرجہ بالا تینوں باتیں محض کذب و افتراء ہیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ رتی بھر تعلق نہیں۔ نہ تو قرآن مجید میں کہیں مات یا تو فی عیسیٰ کا لفظ مذکور ہے اور نہ ہی آنحضرت ﷺ نے مردہ روحوں میں داخلہ کی صراحت فرمائی اور نہ ہی صحابہؓ کے کسی اجماع میں کہیں وفات عیسوی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اس تمام واقعہ میں ایک دفعہ بھی ذکر مسیح یا ان کی وفات کا کہیں صراحت تو کجا اشارہ بھی نہیں ہے۔ کوئی قادیانی جیالا جو قرآن یا حدیث یا اجماع صحابہ کے ضمن میں کوئی صراحت دکھلا کر مبلغ ۱۰ ہزار روپیہ نقد انعام حاصل کرے۔  
جھوٹ نمبر: ۴۱..... ”امام بخاری نے اپنا مذہب یہی ظاہر کیا ہے۔ (یعنی وفات مسیح) کیونکہ وہ اس کی تائید کے لئے ایک اور حدیث ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۸)  
ف..... یہ محض دجل و فریب ہے۔ امام بخاری نے تو نزول مسیح کا مستقل باب منعقد کیا ہے۔ جس کے تحت حدیث ابو ہریرہؓ ”والذی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مریم“ لائے ہیں۔ پھر اور احادیث بھی لائے ہیں۔ بخلاف اس کے انہوں نے وفات مسیح کا کوئی باب منعقد نہیں فرمایا۔ پھر وہ وفات مسیح کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ سب قادیانی بڑے ہیں۔ جیسے وہ امام مالک کے ذمے یہ نظریہ لگاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اور کئی اکابرین امت کے ذمے بھی ایسے بے سرو پا الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو امام بخاری کا اس بارہ میں ان کا کوئی فیصلہ یا صراحت دکھا کر منہ مانگا انعام حاصل کرے؟

جھوٹ نمبر: ۴۲..... مرزا قادیانی رقمطراز ہیں کہ: ”یہود خود یقیناً یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔“  
(براہین پنجم ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۱ ص ۳۷۸)

ف..... العیاذ باللہ! فرمائیے اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خود قرآن نے نظریہ یہود کی صراحت فرمائی ہے۔ ”وقولہم انا قتلنا المسیح“ کہ ہم نے یقیناً مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ گویا قرآن مجید یہود کا پختہ عقیدہ نقل کرتا ہے کہ ہم نے مسیح کو یقیناً قتل کر دیا

ہے اور مرزا قادیانی اس کی نفی کر کے ”لعنة الله على الكاذبين“ کا طوق یا پھندہ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ فرمائیے اس سے بڑھ کر کوئی بے باکی کی مثال مل سکتی ہے؟  
 جھوٹ نمبر: ۴۳..... حیات موسیٰ کے متعلق قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ: ”بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے۔ یعنی کہ ”فلا تکن فی مریة من لقائه“ اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کو آتے ہیں۔“ (تحدہ گولڈ ویس ۹، خزائن ج ۱ ص ۱۰۱)  
 اسی طرح (نور القرآن ص ۵۰ حصہ اول، خزائن ج ۸ ص ۶۹) میں حیات موسیٰ کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔

ف..... ناظرین کرام! قادیانیوں سے دریافت کیجئے کہ اب تک کس مفسر نے اس آیت کا وہ مفہوم بیان فرمایا ہے جو یہ قادیانی لکھ رہا ہے۔ نیز دس ہزار حاجیوں والی حدیث کی کہیں نشان دہی ممکن ہے؟ یہ تو سب محض کذب و افتراء ہے جو قادیانی کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔  
 ہے کوئی قادیانی جیالا اور ناؤٹ جو ان مذکورہ امور کو اصلی کتب تفسیر و حدیث سے ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر: ۴۴..... مرزا قادیانی ایک جگہ کذب مرکب کا نمونہ یوں پیش کرتے ہیں کہ:  
 ”حدیث میں ہے کہ مدعی مہدویت و مسیحیت و نبوت کے لئے کسوف و خسوف ہوگا۔.....۱  
 محدثین کے فیصلہ کے مطابق میں چودھویں صدی میں آیا۔.....۲  
 حدیث میں ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔.....۳  
 حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت سورج پر ایک نشان ظاہر ہوگا۔ چنانچہ وہ اب دور بین سے دیکھا جاسکتا ہے۔.....۴

حدیث میں ہے کہ مسیح موعود اسی امت سے ہوگا۔ (اسرائیلی صاحب انجیل نہیں).....۵  
 حدیث میں ہے کہ وہ دمشق سے مشرق کی طرف سے مبعوث ہوگا۔.....۶  
 اور حدیث میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ جس میں اشارہ ہے کہ اس زمانہ میں مدینہ کی طرف سے مکہ تک ریل کی سواری جاری ہو جائے گی۔“ (ضمیمہ برائین احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۶، خزائن ج ۲ ص ۲۸۱، مختص)  
 ف..... یہ تمام امور بالکل غیر ثابت اور حقیقت سے الگ ہیں۔ آنحضرت ﷺ پر

خالص بہتان ہیں۔ بالکل آخری نمبر نمایاں ترین ہے۔ جس کو ہر فرد انسانی جھٹلا سکتا ہے کہ اب تک

مکہ و مدینہ کے درمیان ریل کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ جو یہ ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر: ۴۵..... امام الدجالین کا ایک عظیم شاہکار: ”جناب مرزا قادیانی نے ایک رسالہ اربعین نامہ چالیس حصے لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ مگر براہین کے پچاس حصوں کی طرح اس وعدہ پر بھی پورے نہ اتر سکے۔ بلکہ صرف چار حصے لکھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے چالیس رسالے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر اتفاقاً وہ زیادہ ہی طویل ہو گئے۔ لہذا اب ان کو چار پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ آئندہ کوئی رسالہ شائع نہ ہوگا۔ جس طرح ہمارے خدا عز و جل نے اول پچاس نمازیں فرض کی تھیں۔ پھر تخفیف کر کے بجائے پچاس کے پانچ پر اکتفاء کر دی۔ اسی طرح میں بھی اپنے رب کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ناظرین کے لئے تصدیق کر کے نمبر چار کو بجائے چالیس کے قرار دے دیتا ہوں۔ الختصر“

(اربعین ص ۱۲ نمبر ۴، خزائن ج ۱ ص ۴۴۲)

ف..... ملاحظہ فرمائیں اس ہوشیار و عیار مصنف کی چالاکی کہ کس طرح چالیس سے صرف ۴ پر ٹر خادیا۔ جیسا کہ پہلے بھی پچاس کا وعدہ کر کے اور قیمت لے کر صرف پانچ حصوں پر ٹر خادیا۔ اس ذات شریف سے پوچھئے کہ تمہیں کس ابلیس نے مجبور کیا تھا کہ تم لمبے لمبے رسالے لکھ کر وعدہ خلافی کرو۔ پھر اگر ایسا اتفاقا ہو گیا تو اربعین کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی نام رکھ لیتے۔ تاکہ جھوٹ کا الزام نہ آتا۔ پھر سب سے بڑھ کر قبیح بات پچاس نمازوں کی مثال دینا ہے جو کہ نہایت غیر معقول اور بددیانتی ہے۔ حالانکہ اس کی اتباع تو یہ تھی کہ پانچ جلدوں کی رقم لے کر پچاس جلدیں دیتے۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے پانچ نمازیں ادا کرنے پر پچاس کا ثواب عطاء فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اتباع معکوس عقل و فکر اور دیانتداری کے سراسر خلاف ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کا مال ہضم کر کے پھر انہی کو الو بنارہے ہیں۔

جھوٹ نمبر: ۴۶..... جناب قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”غرض میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک فاطمی اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخر الزمان کے متعلق یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا۔ ایک حصہ بدن کا اسرائیلی اور ایک حصہ محمدی۔“

(تحفہ گوڑویہ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۱۱۸)

ف..... ایسی ترکیب اور ایسے مرکب مہدی کا احادیث اور آثار میں کہیں نام و نشان نہیں۔ یہ محض قادیانی دجل و فریب کا انوکھا شاہکار اور شاخسانہ ہے۔

جھوٹ نمبر: ۴۷..... کذاب اعظم لکھتے ہیں کہ: ”اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گزر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جاویں، سو وہ میں ہوں۔“ العیاذ باللہ! (براہین ص ۹۰، خزائن ج ۲۱ ص ۱۱۷، ۱۱۸)

ف..... ملاحظہ فرمائیے کہ قادیانی کس قدر دجل و افتراء کا ارتکاب کر رہا ہے کہ میں جامع صفات مقدسین ہوں۔ جب کہ یہ مقام صرف خاتم الانبیاء ﷺ کا ہے۔ نیز پہلے انبیاء مستقل اور من جانب الہی نبی تھے۔ وہ ظلی یا قمع قسم کے نہ تھے۔ نیز ان پر شرائع بھی نازل ہوتی رہیں۔ انہوں نے جہاد و قتال بھی کئے۔ حکمرانیاں کیں، ہر قسم کے کفر و شرک اور گناہ اور برائی کے خلاف عملی طور پر مزاحمت کی۔ مگر ان صاحب میں یہ کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر تضاد کذب بیانی اور دجل و فریب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صاحب اپنی نبوت کو ظلی کہتے ہیں۔ غیر تشریحی بھی کہتے ہیں۔ جہاد کے سرے سے منکر ہیں۔ حکومت تو کجا اپنے محلہ کی نمائندگی بھی میسر نہ تھی۔ اپنی برادری کی سربراہی بھی میسر نہ تھی۔ بت پرستی اور شرک اور فسق و فجور کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا۔ پھر انبیاء سابقین کا نمونہ اور ترجمان کیسے ہو گئے۔ سچ ہے کہ جو بات بھی کی خدا کی قسم لا جواب کی۔

جھوٹ نمبر: ۴۸..... ”اس طرح خدا تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی میرے متعلق یہ وحی مقدس ہے۔“ جری اللہ فی حلل الانبیاء“ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے پیرایوں میں یہ چاہتی ہے کہ مجھ میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں۔ کیونکہ سورۃ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب وحی تھا..... قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی ہے۔ اس امت کا ذوالقرنین میں ہوں اور ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو دو صدیوں کو پالے اور میرے لئے عجیب بات یہ ہے کہ میں نے ہر سنہ کی دو صدیوں کو پایا ہے۔ ہجری، شمسی، بکرمی، وغیرہ اور بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ لہذا میں بنفس حدیث ذوالقرنین ہوں۔“

(براہین احمدیہ ج ۵ ص ۹۰، ۹۱، خزائن ج ۲۱ ص ۱۱۸، ۱۱۹، ملخص)

ف..... یہ تمام مذکورہ امور محض کذب و افتراء اور مکر و فریب کا شاہکار ہیں۔ نہ خدا نے مرزا کا نام ذوالقرنین رکھا اور نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی ذوالقرنین کا یہ مفہوم

ہے۔ بلکہ یہ سب باتیں چندو خانے کی گپیں ہیں۔ پھر ذوالقرنین تو صاحب جہاد تھا۔ مرزا وہ نہیں اس نے دنیا کے دونوں کنارے دیکھے۔ سفر کیا مگر مرزا ہندوستان کے کنارے بھی نہ دیکھ سکا۔ پھر اس زمانہ میں دیگر انسان بھی تھے۔ وہ بھی دو صدیوں کو پانے والے تھے۔ وہ ذوالقرنین کیوں نہ بن گئے۔ جناب والا ایسی باتیں تو تھیٹر میں مسخرے کرتے ہیں کوئی معقول انسان نہیں کرتے۔

جھوٹ نمبر: ۴۹..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا۔ جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادات کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پیئے گا۔ اور سور کا گوشت کھائے گا (العیاذ باللہ) اور اسلام کے حلال و حرام کی پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویر کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱)

ف..... ناظرین کرام اکفر و زندقہ کی حد ہوگئی۔ حرامزدگی کی انتہاء ہوگئی۔ ایسے بکواسی مرد و دیوانہ کی زبان گدی سے نکھنچ لی جائے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا ملعون انسان شاید ہی کسی ماں نے جنا ہو۔ اس کذاب سے پوچھئے کہ یہ صفات و حالات کون تسلیم کرتا ہے؟ ہمارے قرآن و سنت کے مطابق تو وہ آ کر اسی اسلام کی تبلیغ اور اتباع کریں گے نہ گرجا میں جائیں گے نہ انجیل کی تلاوت، نہ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں گے۔ وہ تو خود اس خاتم الانبیاء ﷺ کے متعلق پیش گوئی فرما گئے ہیں۔ پھر وہ کیسے تمہارے مذکورہ اعمال بجالائیں گے۔ پھر ان کی انجیل میں نہ شراب حلال ہے نہ خنزیر تو پھر یہ الزام دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ اس خبیث انسانی ڈھانچے نے اس اقتباس میں ایک اولوالعزم نبی معظم علیہ السلام کی زبردست توہین کا ارتکاب کر کے دائمی لعنت خرید لی ہے۔ ہمیشہ کی جہنم کا سودا کر لیا ہے۔ سچ کہا گیا ہے ”اذ افاتک الحیاء فافعل ماشئت“

جھوٹ نمبر: ۵۰..... جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ”جب سن ہجری کی تیرہویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے چودہویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے مامور کر کے بھیجا اور آدم سے لے کر آخر تک جس قدر نبی گزر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیئے اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود اور احمد اور محمد محمود رکھا اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا۔ ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور مہدی کر کے بیان کیا گیا۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۱۳، خزائن ج ۲۳ ص ۳۲۸)

ف..... مذکورہ اقتباس بھی محض کذب و افتراء کا پلندہ ہے۔ دجل و فریب کا طومار ہے۔ کیونکہ نہ تو قرآن وحدیث میں کہیں تیرھویں یا چودھویں صدی کا تذکرہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی ”جامع الاسماء“ ہستی کا کہیں اتنے پتہ ملتا ہے۔ کسی بھی کوئے کھدرے سے کسی ایسی ذات شریف کی آمد متوقع نہیں ہے۔ نہ ہی اب تک کوئی سابقہ نام کا ہنام ہوا ہے اور نہ ہی کسی عیسیٰ موعود یا محمد موعود اصطلاح کا کوئی نشان ملتا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنی جامع الاسماء والصفات ہستی پھر مہدی بن جائے۔ الغرض یہ تمام خرافات محض قادیان کے چنڈو خانے کی گکیں ہیں یا جناب عزازیل کا خصوصی شاہکار ہے۔ جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ ممکن نہیں ہے۔

جھوٹ نمبر: ۵۱..... جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ”میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ جو میرے پر پوری ہوگئی اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے ”چینی الاصل“ ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی..... ممکن ہے کہ یہ ابن العربی کا کشف ہو یا ان کو کوئی حدیث پہنچی ہو۔ بہر حال یہ میرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہوگئی اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ چینی الاصل بھی ہو اور توام بھی پیدا ہوا ہو اور پھر اس نے خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔“ (چشمہ معرفت ص ۳۱۵، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۱)

ف..... جناب قادیانی کی یہ ایک انمول اور بے نظیر مثالی گپ ہے۔ دیکھئے ابن العربی کی وہ پیش گوئی خود مرزا قادیانی کی کتاب (تزیین القلوب ص ۱۵۸، خزائن ج ۱۵ ص ۲۸۲) پر مذکور ہے جو کہ مرزا قادیانی کے حالات کے بالکل مخالف ہے۔ اس کے مطابق تو وہ خود پیدا ہی چین میں ہوا ہوگا۔ اس کی زبان بھی چینی ہوگی اور یہ صاحب پنجابی بولنے والے اور چینی کی ابجد سے بھی محض جاہل ہے۔ ان کو ہر زبان میں ”الہام“ ہوا ہے۔ مگر کبھی بھول کر بھی چینی زبان میں ”الہام“ نہیں ہوتا۔ تاکہ ان کی چینی الاصل ہونے پر گواہی ہو سکے۔ لہذا اس کو ابن العربی کی پیش گوئی سے کیا واسطہ؟ نیز وہ خلیفہ مسیح موعود ہونے کا مدعی نہ ہوگا اور نہ ہی مدعی مہدویت و نبوت پھر نہ ہی مرزا کے بعد نسل انسانی پر عقر پھیلا ہے۔ بلکہ شرح پیدائش افروز تر ہے۔ لہذا مذکورہ بالا اقتباس محض الحاد و زندقہ کا مظہر ہے۔

جھوٹ نمبر: ۵۲..... جناب قادیانی لکھتے ہیں کہ: ”اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر



بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“ العیاذ باللہ!

(چشمہ معرفت ص ۳۱۷، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

ف..... العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ!! ایک طرف ادعائے نبوت کو کفر و ارتداد قرار دینا اور دوسری طرف قاسم النبوة بننا۔ کمال درجہ کی عیاری ہے۔ پھر سابقہ نبیوں کی نبوت کی گواہی تو خود قرآن نے ہی دی ہے۔ مگر تیری نبوت خود تیری امت (مرزائی) نے بھی تسلیم نہیں کی۔ ان میں سے بھی ایک گروہ سرے سے منکر نبوت ہے اور دوسرا بھی فی زمانہ تیری مہدویت ہی کے عنوان سے دعوت پیش کرتا ہے۔ نیز تیرے معجزات تو وہی گرے پڑے ۱۸۷ ہیں۔ جن کو تو نے حقیقت الوحی میں درج کیا ہے۔ ص ۳۸۶، ۳۸۷ بتلائے معجزات ہزار نبی پر کیسے تقسیم کرو گے اور اس سے کیا ثابت ہوگا۔ پھر کیا ایسے ”لایعنی معجزات“ کسی بھی نبی کے ہوئے ہیں۔ آخر کچھ شرم و حیاء چاہئے۔ الغرض یہ نہ تو معجزات ہیں اور نہ ہی ان کی تقسیم معقول ہے۔ علاوہ ازیں آپ خود کہہ چکا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائبہ بھی ہو۔ اب پہلی تحریرات کے خلاف دعوے کر کے متناقض الکلام ہو کر کیوں پاگل بن رہا ہے؟

جھوٹ نمبر: ۵۳..... ”اور خدا نے میرے لئے یہ بھی نشان ٹھہرایا ہے کہ پہلے تمام نبیوں نے مسیح موعود کے ظہور کے لئے جس زمانہ کی خبر دی تھی اور جو تاریخی طور پر مسیح موعود کے ظہور کے لئے مدت مقرر تھی خدا نے ٹھیک ٹھیک مجھے اسی زمانہ میں پیدا کیا۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۱۸، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۳)

ف..... معاذ اللہ! یہ تو بہتان عظیم ہے انبیاء کرام پر، کہ انہوں نے بقید زمانہ مرزا کے ظہور کی خبر دی تھی اور تاریخی حد بندی بھی ہو چکی ہو۔ یہ دونوں باتیں ناقابل اثبات ہیں۔ خدا نے مرزا قادیانی کو کوئی منصب نہیں دیا۔ سوائے دجال و کذاب کے، دعاوی مرزا محض ابلیسی چکر بازی ہے جو انگریز بہادر نے چلوائی تھی۔

جھوٹ نمبر: ۵۴..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں یہ بھی میرے لئے ایک نشان ہے۔ کیونکہ انہیں کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی معبود جب ظاہر ہوگا تو اس کو لوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کر دیں گے اور قریب ہوگا کہ علمائے اسلام اس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد الف ثانی اور ابن العربی نے بھی ایک مقام پر یہی لکھا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۱۹، خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۴)

ف..... صاحب بہادر جھوٹ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ آپ کے مقابل صرف مسلمان ہی آپ کی مخالفت یا سب و شتم نہیں کرتے بلکہ دیگر اقوام مثلاً ہندو، آریہ، عیسائی وغیرہ بھی آپ کی خوب خبر لیتے ہیں۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ وہ بھی آپ کے مخالف اور دشمن ہیں۔ کیا ان سے کچھ لے کر کھا لیا ہے؟ پھر اہل اسلام کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی حدیث یا اثر مذکور نہیں کہ مسلمان امام مہدی کی تکفیر یا تفسیق کریں گے۔ ان سے منحرف ہو کر ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے۔ بلکہ احادیث رسول ﷺ میں بالوضاحت مذکور ہے کہ اہل اسلام باصرار ان کے دست اقدس پر بیعت کر کے ان کی متابعت میں نمازیں ادا کریں گے، جہاد کریں گے۔ ان کو اپنا دینی اور دنیوی پیشوا قرار دیں گے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس وقت کوئی قادیانی باقی رہ جائے تو وہ ضرور اس مہدی برحق کی مخالفت کرے گا۔ نیز مجدد الف ثانی یا ابن عربی نے کہیں بھی ایسا نہیں لکھا۔ یہ محض قادیانی چندو خانے کی انمول گپ ہے۔ صحیح ثابت کرنے والے کو منہ مانگا انعام۔

جھوٹ نمبر: ۵۵..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”تم نے سن لیا کہ امام مالک، ابن القیم، ابن تیمیہ اور امام بخاری اور دیگر بے شمار فاضل اکابرین امت آئمہ دین حضرت مسیح کی موت کے اقراری ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول ﷺ کے مطابق وہ نزول مسیح کے بھی قائل ہیں۔ اس طرح وہ دونوں باتوں (موت و نزول) کے قائل ہیں۔ لیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر ان کے نالائق پیروکار آئے (معاذ اللہ) جنہوں نے بلا علم ہی اس مسئلہ پر بحث و مجادلہ شروع کر دیا اور خدا کے نیک بندوں کی تکفیر کرنے لگے۔“ (یعنی مرزا قادیانی)

(سراج المصابیح ص ۵۰، خزائن ج ۸ ص ۳۷۷، ۳۷۸)

ف..... مذکورہ بالا آئمہ ہدی کا اقرار موت مسیح محض الزام باطل اور بدترین بہتان ہے۔ کیونکہ ان تمام اکابر نے بالاتفاق رفع جسمانی کی صراحت فرمائی ہے۔ اپنی کتب میں مستقل عنوان اور ابواب منعقد فرما کر اس نظریہ کو مدلل طور پر واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی ان تمام حقائق کو پہلے تسلیم کرتے تھے۔ تمام امت کا اجماع و اتفاق اس عقیدہ پر تسلیم کرتے تھے۔ جیسے (ازالہ ص ۵۵۷، خزائن ج ۳ ص ۴۰۰، شہادت القرآن ص ۲، خزائن ج ۶ ص ۲۹۸، ملفوظات احمدیہ ج ۱ ص ۳۰۰) اور چشمہ معرفت ص ۸۳، خزائن ج ۲۳ ص ۹۱) اس کے بعد ۱۸۹۱ء میں یہ عقیدہ بدل کر اور لفظ توفی کا مفہوم بدل کر خود ہی دعویٰ مسیحیت کر لیا۔ دیکھئے مرزا محمود کی کتاب (حقیقت النبوة ص ۲۸۶) جھوٹ نمبر: ۵۶..... مجدد الصلوات لکھتے ہیں کہ: ”حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو

خوب معلوم تھا کہ آخر زمانہ میں عیسائی بہت بگڑیں گے اور دوسرے نمبر پر مسلمان بھی دین سے کافی باغی ہو کر نئی نئی بدعات میں متفرق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسے مرسل کو مبعوث فرمایا جو ایک لحاظ سے عیسیٰ کا ہم نام تھا۔ تاکہ نصاریٰ کی اصلاح کرے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لحاظ سے احمد ہے اور آنحضرت ﷺ نے جیسے اس کو صفات عیسیٰ سے موصوف قرار دیا ہے۔ اس طرح اپنی ذات اقدس کی صفات سے بھی متصف قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا نام احمد رکھا تو گویا یہ دونوں نام (عیسیٰ اور احمد) اس کو دونوں امتوں کی اصلاح کے اعتبار سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔“ (سر الخلافہ ص ۵۱، خزائن ج ۸ ص ۳۷۸، ۳۷۹)

ف..... ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتنی انوکھی اور بے مثال خرافات کا پلندہ ہے۔ جن کے مرتب کرنے اور بیان کرنے میں رتی بھر خدا خونی، شرافت و دیانت اور انسانیت کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کہیں بھی بیان یا وحی نہیں فرمایا۔ نہ ہی ان خرافات کی تائید کلام ختم المرسلین ﷺ سے ممکن ہے نہ سابقہ کتب و صحائف اور نہ ہی آئمہ ہدیٰ اور صوفیاء متکلمین نے ایسی راز دار باتیں ظاہر کی ہیں۔ بلکہ اس اقتباس کی ایک ایک شق مرزا کے مراق و ہسٹریا کے کرشمے یا خیراتی شیر علی اور مٹھن لال کے وسوسے ہیں۔ اسی لئے خود مرزا قادیانی نے کہہ دیا کہ یہ راز صرف اور صرف مجھ پر ہی منکشف ہوا ہے۔ دیکھئے (ازالہ اوہام ص ۵۱، خزائن ج ۳ ص ۳۹۷) اسی طرح بقول قادیانی حیات و وفات کا مسئلہ بھی صرف اور صرف اسی پر منکشف ہے اور کسی بھی فرد امت پر نہیں ہوا۔ (اتمام الحجۃ ص ۲، خزائن ج ۸ ص ۲۷۵) ودیگر کتب کثیرہ۔

جھوٹ نمبر: ۵۷..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ”مندرجہ بالا فتنہ نصاریٰ اور فتنہ بدعات اہل اسلام بہت مضر اور گمراہی کے باعث تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے حاکم و قاضی بنا کر بھیجا۔ لہذا میں ہی وہ امام اور پیشوا ہوں جو کہ مومنین کے لئے محمد مصطفیٰ کے قدم پر اور عیسائیوں کے لئے عیسیٰ کے قدم پر آیا۔“

(سر الخلافہ ص ۵۲، خزائن ج ۸ ص ۲۸۳)

ف..... یہ دونوں دعوے محض ہذیان اور مراق پذیر ہوئے۔ بلکہ وہ مزید گمراہی میں بڑھتے چلے گئے اور نہ ہی مسلم معاشرے باہمی افتراق و اختلاف سے سبکدوش رہے۔ بلکہ فسق و فجور اور افتراق مزید ترقی پذیر ہے۔ بلکہ خود امت مزارعہ سرپرست انگریز کے اصول ”لڑاؤ

اور کام نکالو، اور واضح طور پر عمل پیرا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے سب دعوے محض چنڈ و خانے کی گپ ثابت ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے خود اس ناکامی اپنی کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔

(تمتہ حقیقت الوحی ص ۵۹، خزائن ج ۲۲ ص ۴۹۳)

اس کے برعکس جب حقیقی مسیح تشریف لائیں گے تو بارشاد صادق و امین ﷺ تمام فتنے اور تمام اختلافات اور محاذ آرائیاں ختم ہو کر چار دانگ عالم میں ایمان و تقویٰ و اخوت و محبت ہی کی فضاء قائم ہو جائے گی۔ صرف دین اسلام اور پیغام مصطفیٰ ﷺ ہی آفاق عالم پر سایہ فگن ہوگا۔ نہ کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی ہندو اور نہ عیسائی اور نہ ہی کوئی بہائی اور قادیانی نظر آئے گا۔ صرف اور صرف ملت اسلامیہ کا ہی بول بالا ہوگا۔

جھوٹ نمبر: ۵۸..... جناب کذاب اعظم تحریر فرماتے ہیں کہ: ”جب عیسائیوں کی گمراہی حد سے بڑھ گئی اور وہ توہین رسالت میں بے باک ہو گئے تو خدا کا غضب اور غیرت جوش میں آگئے تو اس نے مجھے فرمایا کہ: ”انسی جاعلک عیسیٰ بن مریم وکان اللہ علی کل شئی مقتدرا“ یعنی میں تجھے عیسیٰ ابن مریم بناتا ہوں۔“

(آئینہ کمالات ص ۴۲۶، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

ف..... یہ الہام یا اس کا مفہوم دیگر کتب قادیانی میں بھی مذکور ہیں۔ مگر یہ اسباب و مسبب کا رابطہ مشاہدہ کے سراسر خلاف ہے۔ حتیٰ کہ بیت التوحید (خانہ کعبہ) میں تین سو ساٹھ جعلی خداؤں کی پوجا ہو رہی تھی۔ ہندوستان میں ۳۲ کروڑ یعنی انسانی نفری سے بھی زیادہ مصنوعی خداؤں کا لاؤ لشکر پوجا جا رہا تھا۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء ﷺ کو یہ نہیں فرمایا کہ: ”انسی جاعلک ابراہیم خلیلا . انسی جاعلک موسیٰ“ کیونکہ یہ مقدسین پہلے تو حید الہی کے علمبردار اور پرچارک تھے۔ مگر کبھی بھی سابقہ نبی کے نام پر موجودہ نبی کا نام نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر نبی کا نام الگ تھا۔ تو پھر خدا نے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں اپنا ضابطہ بدل دیا۔ جب کہ آنجناب خود کئی مقامات پر ”ولن تجد لسنة اللہ تبديلا“ کا وعظ بھی سناتے رہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ قدم و دم کا چکر محض قادیان کے چنڈ و خانے کی گپ ہے۔ مراق و ہسٹریا کا کرشمہ ہے۔ اس کے نمائندہ جناب ٹھٹھن لال اور ٹیچی وغیرہ کرشن قادیانی سے محض دل لگی کر رہے ہیں۔ حقیقت کچھ بھی نہیں۔

جھوٹ نمبر: ۵۹..... مرزا قادیانی رقمطراز ہیں کہ: ”اسم عیسیٰ بعض آثار میں مختلف

معانی میں وارد ہوا ہے اور اکابر علماء کے نزدیک اس میں وسعت ہے اور تجھے بخاری کی حدیث ہی کافی ہے۔ جس کی تشریح و تفسیر امام زخمیری نے فرمائی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ: ”کل بنی آدم مسہ الشیطان یوم ولدته امہ الا مریم وابنہا عیسیٰ“ یعنی ہر بچہ کو بوقت پیدائش شیطان کچھ دیتا ہے۔ مگر مریم اور ان کے بیٹے مسیح اس سے محفوظ رہے۔ حالانکہ یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ ”ان عبادی لیس لك علیہم سلطان“ امام زخمیری لکھتے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں سے مراد ہر پاک باز انسان ہے۔“ (سر الخلافہ ص ۵۰، خزائن ج ۸ ص ۳۷۷)

تبصرہ: اس حوالہ میں مرزا قادیانی نے نہایت بے باکی سے دجل و فریب سے کام لیا ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی اثر میں اسم عیسیٰ کے معنی متعدد وارد ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی عالم نے اسے کثیر المعنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی تمام تر مغز ماری کے بعد صرف ایک ہی علامہ زخمیری ملے۔ مگر ظالم نے ان کو بھی زبردستی اپنی تائید میں ذکر کر دیا ہے۔ اس وقت علامہ زخمیری کی تفسیر کشف میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا یہ ڈھکوسلہ ہر گز نہیں ہے۔ بلکہ یہ آنجہانی کی روایتی دجالیت اور افتراء ہے۔ جب کہ امام زخمیری یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث ”ما من مویولد الا الشیطان یمسہ“ اس کی صحت خدا کو ہی معلوم ہے۔ (کیونکہ یہ نص قرآن سے متعارض ہے ناقل) بصورت صحت روایت کا معنی یہ ہوگا کہ ہر بچے کے متعلق شیطان اس کے اغوا و اضلال کی طمع و توقع کرتا ہے۔ مگر مریم و مسیح کے متعلق اس نے توقع نہیں رکھی۔ کیونکہ یہ دونوں معصوم تھے اور اس طرح ان کی طرح جو ان کے مقام (عصمت) پر ہوگا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے: ”لا غونیہم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین“ یعنی ہر پاک باز اور مقبول بارگاہ الہی۔ (نبی و رسول) شیطانی اغوا سے محفوظ رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر کشف تحت آیت ”وانی اعینہا بک وذریئہا من الشیطان الرجیم“

یہ عبارت اور اس کا مفہوم ہے جو علامہ زخمیری نے ذکر کیا ہے۔ باقی رہا مرزا قادیانی کی نقل کردہ عبارت کہ ”فقال الزمخشری ان المراد من عیسیٰ وامہ کل لہ جل تقی کان علی صفتہما وکان من التیقین المتورعین“ (خزائن ج ۸ ص ۳۷۷) محض من گھڑت ہے۔

(نوٹ از مرتب! افسوس جو رسالہ ہمیں میسر آیا اس کا آخری ورق نہ تھا۔ یہاں پر

مجبوراً بند کرنا پڑا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 سید آغاسی استادی علوم، مسجد کے مدرسہ کمالیہ مدرسہ  
 جامعہ اسلامیہ لاہور

# مرزا نیت کا الہامی ہیڈ کوارٹر

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup>

بسم الله الرحمن الرحيم!

## مرزائی خدا کی عملی پوزیشن

چونکہ یہ کوئی علیحدہ ہی ہستی ہے۔ لہذا وہ ”روزہ بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے۔“

(البشری ج ۲ ص ۷۱، تذکرہ ص ۴۲۰، طبع ۳)

”نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ غلطی بھی کرتا ہے اور درستی بھی۔“

(البشری ج ۲ ص ۷۹، تذکرہ ص ۴۶۰، ۴۶۲)

حتیٰ کہ اس نے مرزا قادیانی کی ”بیعت بھی کر رکھی ہے۔“

(البشری ج ۲ ص ۷۱، ۷۹، تذکرہ طبع ص ۴۲۰)

## منشی یا خدا؟

”وہ مرزا قادیانی کی تیار کردہ مسل پر بلا چون و چرا سرخ سیاہی سے دستخط بھی کر دیتا ہے۔ مگر بداحتیاطی سے قلم جھاڑتے ہوئے مرزا قادیانی کے کپڑوں پر چھینے بھی گرا دیتا ہے۔“

چنانچہ اب وہ قمیض میاں عبد اللہ کے پاس ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۷)

مرزا قادیانی کے خدائی معاملات اور دعویٰ الوہیت

”مرزا قادیانی کو خدا نے کہا کہ اے ٹمس و قمر تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔“

(البشری ج ۲ ص ۱۰۴، تذکرہ ص ۵۸۸)

”تو مجھے بمنزلہ میری توحید اور یکتائی کے ہے۔“

(تذکرہ ص ۶۶)

”خدا نکلنے کو ہے۔“

(البشری ج ۲ ص ۱۰۹، تذکرہ ص ۶۰۴)

”تو میرے بروز جیسا ہے۔“

(تذکرہ ص ۶۰۴)

”اسم یا ولدی اے میرے بیٹے سن۔“

(البشری ج ۱ ص ۴۹)

”آواہن خدا تیرے اندر اتر آیا۔“

(تذکرہ ص ۳۱۱، طبع ۳)

”خدا قادیان میں نازل ہوگا۔“

(البشری ج ۱ ص ۵۶)

”تو ہمارے پانی (نطفہ) سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے۔“

(تذکرہ ص ۲۰۴)

”آسمان وزمین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔“

(حقیقت الوحی ص ۷۵، خزائن ج ۲۲ ص ۷۸، تذکرہ ص ۶۳۲)

مرزا قادیانی نے فرمایا: ”حسب تصریح قرآن، رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہوں۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۳۲، خزائن ج ۳ ص ۳۸۷)

”رسول کی حقیقت و ماہیت میں یہ امر واضح ہے کہ وہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۱۴، خزائن ج ۳ ص ۴۳۲)

جیسی روح ویسے فرشتے۔ مگر یاد رہے کہ مرزا قادیانی کو وحی یلاش اور صاعقہ وغیرہ نامی خدا بھیجا کرتے تھے۔

مسلمہ کذاب (مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی) کے پاس صرف ایک فرشتہ وحی لاتا تھا۔ جس کا نام ”رجس“ تھا۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۶ ص ۳۷۷)

مگر ہمارے مرزا قادیانی کے پاس وحی وغیرہ لانے کے لئے کئی دیسی اور ولایتی کارکن فرشتے متعین تھے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کے الہامی عملہ کی تفصیل دیکھئے۔

نوٹ! یاد رہے کہ یہ تمام باتیں مرزائی کتب کے حوالہ سے درج ہیں بقید صفحہ۔

## مرزائی خدا کے نام

- ۱..... ”الصاعقہ۔“ (البشری ج ۲ ص ۷۶، تذکرہ ص ۴۴۷)
- ۲..... ”خدائے یلاش۔“ (تحفہ گولڑویہ ص ۶۹، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۰۳)
- ۳..... ”ربنا عاج۔ ہمارا رب عاجی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔“ (برائین ص ۵۵۵، خزائن ج ۱ ص ۶۶۲)
- ۴..... ”انگریزی خدا۔“ (برائین ص ۴۸۰، خزائن ج ۱ ص ۵۷۱)
- ۵..... ”آواہن۔ مرزا کے اندر اترنے والا“

(کتاب البریہ ص ۸۴، خزائن ج ۳ ص ۱۰۲)

## مرزائی فرشتے

- ”پچی پچی۔ وقت پر روپیہ لانے والا۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۳۲، خزائن ج ۲ ص ۳۴۶)
- ”مٹھن لال۔“ (تذکرہ ص ۵۶۰)
- ”خیراتی صاحب۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۹۴، خزائن ج ۱ ص ۳۵۱)
- ”شیر علی۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۹۵، خزائن ج ۱ ص ۳۵۲)



- ”انگریزی فرشتہ۔“ (تذکرہ ص ۶۴)
- ”ایل۔“ (تذکرہ ص ۳۵۰)
- ”دونا معلوم فرشتے۔“ (تذکرہ ص ۲۹)
- مرزا قادیانی کی بیماریاں
- ”بد ہضمی۔“ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۳۸)
- ”دق۔“ (حیات احمد نمبر اول ص ۷۹)
- ”سسل۔“ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۳۲)
- ”ہسٹریا۔“ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۶)
- ”غشی۔“ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۸، ۱۷)
- ”ذیابیطس۔“ (تذکرہ ص ۲۷۱، ۲۹۱)
- ”مراق۔“ (سیرت المہدی ج ۲ ص ۵۵)
- ”سلسل البول۔“ (تذکرہ ص ۳۶۶، ۵۶۵)
- ”کثرت اسہال۔“ (تذکرہ ص ۳۶۶)
- ”شدید درد سر۔“ (تذکرہ ص ۶۱۸، ۶۹۰)
- ”سخت قونج۔“ (تذکرہ ص ۳۲)
- ”دردناک جلن۔“ (تذکرہ ص ۳۲)
- ”درد گردہ۔“ (تذکرہ ص ۳۹۴)
- ”جسم بے کار، قوی مضحل، دل ڈوبنا، مسلوب القوی۔“ (تذکرہ ص ۶۱۷)
- ”حالت مردی کا عدم۔“ (تذکرہ ص ۱۲۴)
- ”خارش۔“ (تذکرہ ص ۴۰۶، ۸۰۶)
- ”کھانسی کی تکلیف۔“ (تذکرہ ص ۴۵۶)
- ”پیشاب کی راہ سے خون۔“ (تذکرہ ص ۵۳۰)
- ”دماغی کمزوری۔“ (تذکرہ ص ۶۱۸)
- ”قے و دست، ہیضہ۔“ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۱، ۹)

”نڈا۔“

(سیرت المہدی ج ۱ ص ۲۱۷)

”دانت خراب۔“

(سیرت المہدی ج ۲ ص ۱۲۵)

”داڑھوں کو کیڑا۔“

(سیرت المہدی ج ۲ ص ۱۲۵)

## قرآنی ضابطہ

”وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ“، یعنی ہم نے ہر رسول اس کی قومی زبان میں بھیجا ہے۔ قول مرزا: ”اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۰۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

سابقہ قاعدہ کے مطابق توحی پنجابی زبان میں آنی چاہئے تھی۔ کیونکہ مرزا قادیانی پنجابی تھے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ وحی ہر زبان میں آ رہی ہے۔ اردو، انگریزی، فارسی، پنجابی، عبرانی، عربی۔ تمام زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا سلسلہ رحمانی نہیں شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے ”ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء ہم لیجادلوکم“ انعام ۱۲۲ کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے مباحثے کریں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب یہ عملہ ہی خدائی اور سچے دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں سچ اور جھوٹ میں پرکھ ہو جانی چاہئے۔ اسی لئے مرزا قادیانی بھی حیران ہیں۔ فرمایا: ”زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ جیسے انگریزی، سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“

(نزل المسح ص ۵۷، خزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵)

باوجود اس تردد آمیز تعجب کے یہ بھی دعویٰ ہے کہ: ”مجھے اپنی وحی پر ویسا ہی ایمان ہے جیسا تورات، انجیل اور قرآن کریم پر۔“

(اربعین نمبر ۴، ص ۱۹، خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۴)

پھر لکھا کہ: ”اگر میں (اپنی وحی) میں ایک دم کے لئے بھی شک کروں تو کافر ہو جاؤں۔“

(تجلیات الہیہ ص ۲۹، خزائن ج ۲۰ ص ۳۱۲)

(اقراری کفر) (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) اس میں لکھا ہے کہ خدا کی وحی مجھے ۱۲ سال کہتی رہی کہ تو مسیح ہے تو مسیح ہے۔ مگر مجھے یقین نہ آیا۔ آئینہ کمالات میں دس سال لکھا

ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵۱، خزائن ج ۵ ص ایضاً)

مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ”اگر کوئی کلام مرتبہ یقین سے کم ہو تو وہ شیطانی کلام ہے۔

نہ کہ ربانی۔“ (نزل المسح ص ۱۰۸، خزائن ج ۱۸ ص ۴۸۶)

”جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں۔ جو ہم پر مستبدر ہتے ہیں کہ خدا کی طرف

سے ہیں یا شیطانی کی طرف سے وہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی

امیرش سے۔“ (نزل المسح ص ۱۱۴، خزائن ج ۱۸ ص ۴۹۲)

اب دیکھئے (براہین ص ۵۵۶، خزائن ج ۱ ص ۶۶۴) میں لکھا ہے۔ ”حوشعنا نغسا ابھی تک

اس عاجز پر اس کے معنی نہیں کھلے۔“ تو پھر وحی شیطانی ہوئی یا رحمانی؟ مرزا قادیانی کی وحی میں

چونکہ ابہام ہی ابہام ہیں۔ لہذا وہ شیطانی ہوئی۔

مرزا قادیانی کی عیاری

سابقہ تمام مدعی نبوت والہام کے کلام نہایت ہی رکیک فضول قسم کے تھے۔ لہذا اس

دجال نے ایک عجیب چال چلی کہ اکثر و بیشتر قرآنی آیات اپنی وحی میں داخل کر لیں یا پھر ادبی

کتب سے مثل مقامات وغیرہ سے سرقہ کیا۔ باقی اس کی خود اپنی اختراع ہے۔ وہ نہایت ہی رکیک

نظر آتی ہے اور بھونڈی بھی ہے۔

مرزا قادیانی کی ہسٹری

مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ ساکن قادیان قریباً ۱۸۴۰ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا

بچپن عجیب و غریب حماقتوں کا مرقع تھا۔ دائیں بائیں کی تمیز نہ تھی۔ نو جوانی بھی رنگیلی گزری۔

۱۵ روپے ماہوار پر کچہری میں چڑا سی ہوئے۔ مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں فیل ہو گئے اور

ملازمت ترک کر کے خاندانی مقدمات کی پیروی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے تعلیم تین حضرات

سے حاصل کی۔ جن میں ایک غیر مقلد، ایک حنفی اور ایک شیعہ تھا۔ آخر کار روزگار کی تلاش کے لئے

عیسائیوں اور آریوں سے مذہبی مباحثے شروع کئے۔ مگر ہر بار منہ کی کھائی۔ بالآخر مولانا محمد حسین

بنالوی کے مشورے سے میدان تالیف میں اترے۔ حتیٰ کہ ۱۸۸۰ء میں اپنے حواریوں اور گھر

والوں سے مشورہ کر کے لدھیانہ آ کر مسیحیت کا دعویٰ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مگر مخالفت کے پیش نظر

ہمت نہ ہوئی۔ تاہم مجددیت کی بیعت شروع کر دی گئی۔ اسی دوران میں ایک شخص کریم بخش سے سنا کہ ایک ملنگ گلاب شاہ نامی نے پیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے۔ لدھیانے میں آ کر (معاذ اللہ) قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ آخر ایک منصوبہ کے تحت لکھا کہ دو سال میں مریم بنا رہا۔ پھر مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی تو میں عیسیٰ سے حاملہ ہو گیا۔ دس ماہ حاملہ رہنے کے بعد عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ اسی طرح عیسیٰ ہو گیا۔ پھر ۱۸۹۱ء میں لدھیانہ آ کر دعویٰ کیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ ان کا مثیل آنا مراد ہے اور وہ میں ہوں۔ ”اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام آیات میری طرف منتقل کر دی ہیں۔“ (براہین حصہ پنجم ص ۸۵، خزائن ج ۲۱ ص ۱۱۱)

پھر کہا کہ عیسیٰ چونکہ نبی بھی تھے۔ لہذا میں بھی ظلی طور پر نبی ہوں۔ ۱۹۰۱ء میں ظلی، بروزی وغیرہ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میرے الہام میں ”محمد رسول اللہ والذین معہ“ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں مجھے رسول پکارا گیا ہے۔ لہذا میں رسول ہوں۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

دوران حمل بابوا الہی بخش نے مرزا قادیانی سے حیض دیکھنے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کہ اب وہ حیض نہیں بلکہ بچہ بن گیا ہے۔ جو اللہ کے بچوں جیسا ہے۔

(تجملہ حقیقت الوحی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۳ ص ۵۸۱)

اور ان کے ایک مرید نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کشفاً دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا۔ (اسلامی قربانی ص ۱۲)

فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایک خفیہ تعلق بھی ہے۔ پھر بچہ ہونے کا درد شروع ہوا تو مریمیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ (کشتی نوح ص ۴۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰، شخص)

دعویٰ نبوت کے دوران فتویٰ تکفیر اور دیگر مباحثات کا خوب بازار گرم رہا۔ جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء نے خوب حصہ لیا۔ جس پر کبھی مرزا سب کو بے نقط سناتے کبھی مباہلہ کا چیلنج کرتے۔ (انجام آتھم ص ۴۵، خزائن ج ۱۱ ص ۳۵)

آ کر تنگ آ کر ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء میں خود ہی دعاء کی کہ اے اللہ مولوی ثناء اللہ مجھے کذاب و دجال کہتا ہے۔ اگر میں ایسا ہی ہوں تو جھوٹے کو سچے کی زندگی میں نابود کر دے۔ جس

کے نتیجے میں مرزا قادیانی نے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بروز منگل بمرض وبائی ہیضہ لاہور میں وفات پائی اور پھر اس مثیل دجال اکبر کو ریزین دفن کر دیا گیا۔ قطع دابر القوم الظالمین!

مرزا غلام احمد قادیانی (باران وحی کے نرغہ میں) مثیل دجال اکبر (اسرائیلی)

(تقریر حقیقت الوحی ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۵۲۲)

”آریوں کا بادشاہ۔“

(تذکرہ ص ۶۲۰)

”برہمن اوتار۔“

(تذکرہ ص ۷۲۳)

”مرزا غلام احمد کی جے۔“

مرزا قادیانی کے دیگر نام

(لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳، خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۹)

”رودر گوپال۔“

(تذکرہ ص ۶۷۲)

”امین الملک جے سنگھ بہادر۔“

(تذکرہ ص ۳۳۲)

”گورنر جنرل۔“

(لیکچر سیالکوٹ ص ۳۳، خزائن ج ۲۰ ص ۲۲۸)

”کرشن۔“

(تذکرہ ص ۳۱۱)

”کلمۃ الازل۔“

(تذکرہ ص ۷۳)

”غازی۔“

(اربعین نمبر ص ۲۵، خزائن ج ۱ ص ۴۱۳)

”میکائیل۔“

(تذکرہ ص ۳۶)

”حجر اسود۔“

(تذکرہ ص ۳۶)

”بیت اللہ۔“

(براہین ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۷)

”کرم خاکی۔“

(تذکرہ ص ۲۰۴)

”نطقہ خدا۔“

(تذکرہ ص ۷۹۶)

”سلامتی کا شہزادہ۔“

(تذکرہ ص ۷۴۳)

”خیم الثاقب۔“

(تذکرہ ص ۱۱۲)

”حجتہ اللہ القادر۔“

(حقیقت الوحی ص ۷۳، حاشیہ، خزائن ج ۲۲ ص ۷۶)

”تمام نبیوں کا مظہر۔“

(براہین ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۷)

”انسان کی جائے نفرت۔“

(کتاب البریہ ص ۸۴، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۲)

”سورخ دار برتن۔“

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(برائین ص ۹۷، خزائن ج ۲۱ ص ۱۲۷)

## مبہم الہامات

”ایسوی الیشن۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۳۲، تذکرہ ص ۷۲۳)

”بستر عیش۔“ (البشری ج ۲ ص ۸۸)

”آتش فشاں۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرہ ص ۵۶۳)

”جنازہ۔“ (نزل المسح ص ۲۲۵، خزائن ج ۱۸ ص ۶۰۳)

”دو شہتیر ٹوٹ گئے۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرہ ص ۵۶۶)

”لائف۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۰۶، تذکرہ ص ۵۹۳)

”رشن الخمر۔“ (البشری ص ۹۹)

”ہوشعنا، نعسا۔“ (برائین ص ۵۵۶، خزائن ج ۱ ص ۶۶۴)

”عشم عشم عشم۔“ (تذکرہ ص ۳۱۹)

”انت منی بمنزلة لا يعلمها الخلق۔“ (برائین ص ۵۶۰، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۶۸)

”تیرا مجھ سے ایک پوشیدہ تعلق ہے۔“ (برائین ص ۵۶۰، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۶۸)

**I Love You. I shall help you. I can what I will  
do. This is a enemy. We can what we will do.**

”پھر انتہائی شدت سے الہام ہوا۔ جس سے بدن کانپ گیا۔“

(برائین ص ۴۸۰، خزائن ج ۱ ص ۵۷۱، ۵۷۲)

”الرحیل، الرحیل۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۴۱، تذکرہ ص ۷۵۵)

”موت قریب۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۳۶، تذکرہ ص ۷۴۰)

”موتا موتی لگ رہی ہے۔“ (ضمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵، خزائن ج ۲۱ ص ۱۵۷)

”ہیضہ کی آمد ہونے والی ہے۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۳۲، تذکرہ ص ۷۲۵)

”ہر ایک مکان سے خیر دعاء ہے۔“ (کتاب البشری ج ۲ ص ۱۳۳، تذکرہ ص ۶۹۳)

”اپنا مکان کشادہ کرلو۔“ (چندہ کی اپیل) کا بہانہ۔ (تذکرہ ص ۵۳)

”میںوں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسی آئی جس نے ایہہ مصمم ت پائی۔“

(البشری ج ۲ ص ۵۵)

”اس کتے کا آخری دم۔“ (البشری ج ۲ ص ۷۰)

”دھکے۔“ (البشری ج ۲ ص ۹۵، تذکرہ ص ۵۳۴)

انگریزی ایجنٹ

”میری دعوت کی مشکلات میں سے وحی اور رسالت اور مسیح موعود کا دعویٰ تھا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۳، خزائن ج ۲ ص ۶۸)

”خدا نے یہ پاک سلسلہ (مرزا سیہ) اس گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا۔“

(اشتہار واجب الاظہار ص ۳ ملحقہ، خزائن ج ۱ ص ۵۲۴، فہرست)

”یہ مرزا تیرے وجود کی برکت سے دنیا میں آیا۔“

(ستارہ قیسریہ ص ۹، خزائن ج ۱ ص ۱۱۸)

”(مملکتِ برطانیہ سے) تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے مجھے بھیجا۔“

(ستارہ قیسریہ ص ۹، خزائن ج ۱ ص ۱۲۰)

”تیرے نور نے میرے نور کو کھینچا۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۶، خزائن ج ۱ ص ۱۱۷، فہرست)

”میں اس گورنمنٹ کے لئے ایک تعویذ ہوں۔“ (نور الحق ازل ص ۳۳، خزائن ج ۱ ص ۳۵)

”جہاد کی حرمت اور انگریزی حکومت کی خدمت کے لئے پچاس الماریاں کتابیں

(ترباق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱ ص ۱۵۵)

لکھیں۔“

”جن کتابوں میں مسیح موعود کی آمد لکھی ہے اس میں صریح تیرے عہد کی طرف

(ستارہ قیسریہ ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۱۷)

اشارے پائے جاتے ہیں۔“

”اصل بھید یہ ہے کہ جیسے آسمان پر خدا کی طرف سے ایک تیاری ہوتی ہے۔ ویسے ہی

گورنمنٹ کے دل میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔“ (ستارہ قیسریہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۲۴)  
 ”اے قیسرہ و ملکہ معظمہ ملکہ ہمارے دل تیرے لئے دعاء کرتے ہیں اور حضرت  
 احدیت میں جھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے خدا کے دربار میں سجدہ  
 کرتی ہیں۔“ (تحفہ قیسریہ ص ۱۴، خزائن ج ۱۲ ص ۲۶۶)

ملکہ و کنوریہ کا نور

”اے ملکہ معظمہ..... تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں  
 ہے۔ جو صبح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو۔ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک  
 نور نازل کیا۔ کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو۔“

(ستارہ قیسرہ ص ۶، خزائن ج ۱۵ ص ۱۱۷)

خوشامد کی انتہاء

انگریز کی غلامی اور اپنی نمک حلائی جتانے کے لئے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں  
 کہ: ”وہ انگریز کی حکومت کو اپنے اولی الامر میں شامل کر لیں اور دل کی سچائی سے خطبہ جمعہ میں ان  
 کے احسانات کا تذکرہ شامل کر لیں۔“ (تبلغ رسالت ج ۷ ص ۱۹، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۱)

”اپنے آپ کو انگریز کا خود کا شتہ پودا بیان کیا ہے۔ اپنے تمام مریدوں مع سرکاری  
 ملازمین اور دینی تعلیم والے سب کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک  
 پروردہ ہے اور نیک نامی حاصل کردہ ہے۔“ (کتب البریہ ص ۳۳۱، خزائن ج ۱۳ ص ۳۴۹)

”یہ امن جو اس گورنمنٹ انگریزی کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے۔ یہ امن نہ مکہ میں مل  
 سکتا ہے۔ نہ مدینہ میں نہ قسطنطنیہ میں۔“ (تریاق القلوب ص ۱۵، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۶)

اقبالؒ نے ۱۹۳۲ء میں کہا کہ مرزائیت یہودیت کا چرہ بہ ہے۔ مرزائی اسلام اور ملک  
 دونوں کے غدار ہیں۔ کیا اب بھی ان کے انگریزی ایجنٹ ہونے میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ مگر  
 بے حیائی کا بھی اقرار ہے۔ خود لکھا کہ: ”کھلے کھلے جج کا منکر بے شرم اور بے حیاء ہے۔“

(ست بچن ص ۴۰، خزائن ج ۱۰ ص ۱۶۰)

نوٹ! انگریزی آکھنٹی کے ثبوت کے لئے تحفہ قیسریہ اور ستارہ قیسرہ دو خصوصی

رسالے ہیں۔ باقی کچھ نہ کچھ ہر کتاب میں یہ خرافات موجود ہیں۔



سرکار انگریزی کی انتہائی خوشامد اور کاسہ لیس اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ ہے کہ: ”زمین کی سلطنتیں میرے نزدیک نجاست کی مانند ہیں۔“ (کتاب البریہ ص ۳۱۷، خزائن ج ۱۳ ص ۳۳۵)

اب خود مرزا جی نجاست خور ہوئے کہ نہ؟

مرزائی غدار وطن ہیں

ایک موقع پر مرزا بشیر الدین خلیفہ دوم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ ان کے پاس گاندھی جی آئے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ایک چارپائی پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ (تیار کر کے لیٹ گئے) ذرا سی دیر کر کے اٹھ بیٹھے۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تقسیم عارضی ہے۔ اللہ سارے ہند کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت (مرزائیت) کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی لئے ہمارا الہامی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا وجود عارضی ہے۔ اگر کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدا رہیں۔ مگر یہ حالت عارضی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہو جائے۔ بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے۔

(الفضل ۱۵ اپریل ۱۹۴۷ء)

یہ اور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضا مند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر کوشش کریں گے کہ متحد ہو جائیں۔

(الفضل ۱۷ مئی ۱۹۴۷ء)

غدار ابن غدار

میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا۔ جن کو دربار میں گورنری کی کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گرینفن کی تاریخ ریسیان پنجاب میں ہے۔

(اشتہار واجب الاظہار کتاب البریہ ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۴۲، ملخص)

عوام اور حکومت کے کان کھل جانے چاہئیں اور ان کو سن لینا چاہئے کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اگر بقائے اسلام اور بقائے ملک کے خواہش مند ہو تو اس ناسور کو نکالنا ہوگا۔ ہر کلیدی اسامی سے برطرف کر کے جبراً ان کو اپنی حیثیت تسلیم کروائی جائے۔ پاکستان میں اصل تخریب کار یہی لوگ ہیں۔ اس لئے ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن  
موسمًا منسجيًا منسجيًا منسجيًا

# مرزا قادیانی کے رنگ برنگے شیطانی الہامات

حضرت مولانا عبد اللطیف مسعود<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup>

مرزا قادیانی کے رنگ برنگے شیطانی الہامات

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

رحمانی اور شیطانی الہامات کے بارہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے: ”اور نیز یاد رہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندر رکھتے ہیں اور چونکہ خدا سمیع و علیم و رحیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے متقی اور راست باز اور وفادار بندوں کو ان کے معروضات کا جواب دیتا ہے اور یہ سوال و جواب کئی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۲)

## شیطانی الہام کی علامت

”ماسوا اس کے شیطان گزگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روانگی نہیں رکھتا اور گنگے کی طرح وہ فصیح اور کثیر المقدار باتوں پر قادر نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک بد بودار پیرایہ میں فقرہ و فقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو ازل سے یہ توفیق ہی نہیں دی گئی کہ وہ لذیذ اور باشوکت کلام کر سکے..... اور نہ وہ بہت ریت تک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں تھک جاتا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۳۹، ۱۴۰، خزائن ج ۲۲ ص ۱۳۳، ۱۳۴)

اب اسی معیار پر درج ذیل قادیانی الہامات کو ٹٹ کر کے حق و باطل کا فیصلہ فرمائیے۔

## مرزا قادیانی کے الہام

- .....۱ ”تین استرے، عطر کی شیشی۔“ (تذکرہ ص ۷۷)
- .....۲ ”کچلہ، کونین فولاد۔ یہ ہے دوائے ہمزاد۔“ (تذکرہ ص ۹۲)
- .....۳ ”واللہ واللہ سدھا ہو یا اولاً۔“ (تذکرہ ص ۴۶)
- .....۴ ”کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں۔“ (تذکرہ ص ۶۱۵)
- .....۵ ”خطرناک۔“ (تذکرہ ص ۷۵۲)
- .....۶ ”ایک الہام جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔“ (تذکرہ ص ۷۴۱)
- .....۷ ”تامنی آئی، تار آئی۔“ (تذکرہ ص ۷۸۱)
- .....۸ ”تحفۃ الملوک۔“ (تذکرہ ص ۶۹۹)
- .....۹ ”امین الملک جے سنگھ بہادر۔“ (تذکرہ ص ۶۷۲)
- .....۱۰ ”خاکسار پیپر منٹ۔“ (تذکرہ ص ۵۲۷)
- .....۱۱ ”غلام احمد کی جے۔“ (تذکرہ ص ۷۲۳)
- .....۱۲ ”عمارت تو مفت میں تھک گئی۔“ (تذکرہ ص ۵۶۳)
- .....۱۳ ”بجلی کی طرح تیز الہام۔“ (تذکرہ ص ۴۶۳)
- .....۱۴ ”ایک دانہ کس کس نے کھایا۔“ (تذکرہ ص ۵۹۵)
- .....۱۵ ”لائف۔“ (تذکرہ ص ۵۹۳)

.....۱۶	”یہوداہ اسکر یوتی۔“	(تذکرہ ص ۲۹)
.....۱۷	”عظم، عظم، عظم۔ اے ورڈ اینڈ ٹوگرلز۔“	(تذکرہ ص ۵۹۳)
.....۱۸	”آئی لو یو۔“	(تذکرہ ص ۶۳)
.....۱۹	”موتا موتی لگ رہی ہے۔“	(برائین پنجم ص ۵، خزانہ ج ۲ ص ۱۵۷)
.....۲۰	”دو شہتر ٹوٹ گئے۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرہ ص ۵۶۶)
.....۲۱	”آتش فشاں، مصالح العرب، مسیر العرب۔“	(تذکرہ ص ۵۶۳)
.....۲۲	”ایسوی الیشن۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۳۲، تذکرہ ص ۷۲۳)
.....۲۳	”بامراد، رد بلا۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرہ ص ۵۶۳، ۵۶۴)
.....۲۴	”ہم مکہ میں سرس گے یادینہ میں۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۵، تذکرہ ص ۵۹۱)
.....۲۵	”کرئی نوٹ دیکھو میرے دوستو۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۷، تذکرہ ص ۵۹۶)
.....۲۶	”بشیر الدولہ۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۰، تذکرہ ص ۵۹۸)
.....۲۷	”عورت کی چال، ایللی ایللی لما سبتانی۔“	(تذکرہ ص ۵۹۷)
.....۲۸	”خدا نکلتے کو ہے۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۰۹، تذکرہ ص ۶۰۴)
.....۲۹	”کلیسا کی طاقت کا نسخہ۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۱۴، تذکرہ ص ۶۱۵)
.....۳۰	”ہر مکان سے خیر دعاء ہے۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۲۳، تذکرہ ص ۶۹۳)
.....۳۱	”بشیر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمتہ اللہ خان۔“	(تذکرہ ص ۶۳۶)
.....۳۲	”مبارک۔“	(البشری ج ۲ ص ۲۲۲، تذکرہ ص ۶۸۳)
.....۳۳	”لائف آف پین۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۲۸، تذکرہ ص ۷۱۲)
.....۳۴	”راز کھل گیا۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۲۹، تذکرہ ص ۷۱۲)
.....۳۵	”بلاء و مشق، سرک سری، ایک اور بلا پر پا ہوئی۔“	(تذکرہ ص ۷۱۴)
.....۳۶	”پوری ہو گئی۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۳۰، تذکرہ ص ۷۱۷)
.....۳۷	”زلزلہ اس طرف چلا گیا۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۳۰، تذکرہ ص ۷۱۵)
.....۳۸	”عبرت بخش سزائیں دی گئیں۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۳۲، تذکرہ ص ۷۲۶)
.....۳۹	”سریگ۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۴۱، تذکرہ ص ۷۵۵)
.....۴۰	”بستر عیش۔“	(البشری ج ۲ ص ۸۸، تذکرہ ص ۴۹۹)
.....۴۱	”شوخی شہک لڑکا پیدا ہوگا۔“	(البشری ج ۲ ص ۹۱، تذکرہ ص ۵۱۳)
.....۴۲	”چوہدری رستم علی۔“	(البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۲)
.....۴۳	”تازہ نشان، تازہ نشان کا دھکا۔“	(البشری ج ۲ ص ۹۵، تذکرہ ص ۵۳۳)

### مرزا قادیانی کے انجام کے متعلقہ الہام

.....۱	”اصبر سنفرغ لك يا مرزا۔“	(البشری ج ۲ ص ۸۸، تذکرہ ص ۱۲۹)
.....۲	”ہیضہ کی آمدن ہونے والی ہے۔“	(البشری ج ۲ ص ۱۳۲، تذکرہ ص ۷۲۵)

- ۳..... ”مکن بکلیہ بر عمرنا پائیدار۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۴۱، تذکرہ ص ۷۵۶)
- ۴..... ”زندگیوں کا خاتمہ۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۰۳، تذکرہ ص ۵۷۷)
- ۵..... ”الرحیل ثم الرحیل۔ موت قریب۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۴۱، تذکرہ ص ۷۵۵)
- ۶..... ”بہت سے حادثات کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔“ (تذکرہ ص ۵۲۲)
- ۷..... ”موت دروازہ پر کھڑی ہے۔“ (البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۲)
- ۸..... ”لاہور میں ایک بے شرم ہے۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۲۶، تذکرہ ص ۷۰۴)
- ۹..... ”ہن اس دالیکھا خدا نال جا پیا اے۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۲۸، تذکرہ ص ۷۰۹)
- ۱۰..... ”شکار مرگ۔“ (البشری ج ۲ ص ۹۴، تذکرہ ص ۵۳۰)
- ۱۱..... ”اس کتے کا آخری دم ہے۔“ (تذکرہ ص ۴۱۷)
- ۱۲..... ”بعد ارا نشاء اللہ۔“ (البشری ج ۲ ص ۶۵، تذکرہ ص ۴۰۱)
- ۱۳..... ”ایک ناپاک روح کی آواز آئی۔ میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔“ (البشری ج ۲ ص ۹۵، تذکرہ ص ۵۳۵)
- ۱۴..... ”پیٹ پھٹ گیا۔“ (تذکرہ ص ۶۷۲)
- ۱۵..... ”تامم کدہ۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۳۰، تذکرہ ص ۷۵۲)
- ۱۶..... ”ایک دم میں رخصت ہوا۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۱۷، تذکرہ ص ۶۶۶)
- ۱۷..... ”جنازہ۔“ (نزل اسح ص ۲۲۵، خزائن ج ۱۸ ص ۶۰۳)
- ۱۸..... ”کمترین کا بیڑا غرق ہو گیا۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۲۱، تذکرہ ص ۶۸۳)
- ۱۹..... ”وقت رسید۔“ (تذکرہ ص ۷۴۶)

ناظرین کرام! مندرجہ بالا بے سرو پا اور کٹے پھٹے الہامات کو ملاحظہ فرما کر فیصلہ کیجئے کہ یہ الہامات بقول بالامرزا قادیانی رحمانی ہیں شیطانی؟

قادیانی کے صدق و کذب کا ایک فیصلہ کن معیار

مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ: ”آپ منگل کے دن کو بڑا منحوس سمجھتے تھے اور منگل کے دن ہی فوت ہوئے۔“ (سیرت المہدی حصہ اول ص ۸، روایت نمبر ۱۱)

نتیجہ: رب رحیم نے اپنے ہر پڑھے اور ان پڑھ بندے پر مرزا قادیانی کا باطل پرست ہونا واضح کرنے کے لئے اس کو منگل کے دن ہی موت دی۔ تاکہ اس کا جھوٹا ہونا سب پر واضح ہو جائے۔

مرزا قادیانی کا چڑی مار الہام

۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸

۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱

(خزائن ص ۴۰ ج ۴، آسانی فیصلہ ص ۳۵۰) ۱۴-۱۳-۲۸-۱-۷

الحمد لله الذي جعلنا من آل أبي بكر  
محبين إليه ومحبين إلى آل أبي بكر

# مرزا قادیانی کے بائیس (۲۲) جھوٹ

حضرت مولانا عبداللطیف مسعود

بسم اللہ الرحمن الرحیم!

## جھوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کا فتویٰ

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں  
عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(برائین احمدیہ ج ۵ ص ۱۱، خزائن ج ۲۱ ص ۲۱)

”وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شر مارتے ہیں۔“

(شخصہ حق ص ۶۰، خزائن ج ۲ ص ۲۸۶)

”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“ (اربعین نمبر ص ۳۲، خزائن ج ۱ ص ۳۰۷)

”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵، ضمیرہ انجام آتھم ص ۳۰۵، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۳)

”جھوٹ ام النجاشہ ہے۔“ (تبلیغ رسالت ج ۷ ص ۲۸، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۱)

فیصلہ: ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی

(چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ مگر اب ذیل میں مرزا قادیانی

کے چند جھوٹ درج کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو سچ ثابت کرے تو ہر حوالہ پر مبلغ ایک سو روپیہ

نقد انعام حاصل کرے۔ ورنہ قادیانیت ترک کر کے دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے۔

## حق و باطل کا آسان فیصلہ

۲۲ ہزار روپیہ نقد انعام، جو ان حوالہ جات کو غلط ثابت کرے۔

۱..... ”قرآن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی موجود ہے کہ مسیح

(کشتی نوح ص ۵، خزائن ج ۱۹ ص ۵)

موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔“

۲..... ”قرآن شریف میں اشارہ ہے کہ مسیح موعود (وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ

کیا گیا ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ ایسا ہی احادیث صحیحہ

میں آیا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“

(برائین احمدیہ ج ۵ ص ۱۸۸، خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۹)

نوٹ! چودھویں صدی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔

۳..... ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ کسی بیماری

(کشتی نوح ص ۶۵، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱)

کی وجہ سے یا پرانی عادت کی بناء پر۔“

۴..... ”سچ بخاری میں ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو آسمان سے آواز

آئے گی کہ هذا خلیفة الله المهدی“ (شہادت القرآن ص ۳۲، خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)

۵..... ”احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔“ (ضرورت الایمان ص ۵، خزائن ج ۱۳ ص ۴۷۵)

۶..... ”اس سے پہلے صد ہا اولیاء نے گواہی دی کہ چودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا اور احادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔“

(آئینہ کمالات ص ۳۲۰، خزائن ج ۵ ص ۳۲۰)

نوٹ! مسیح موعود اور چودھویں صدی کا لفظ کہیں بھی نہیں۔

۷..... ”آثار اور احادیث میں مہدی معبود کی یہی نشانی تھی کہ پہلے اس کو زور شور سے کافر ٹھہرایا جائے گا۔“ (ضمیمہ انجام آقلم ص ۳۸، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۲، شخص)

۸..... ”صحیح بخاری میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔“ (ضمیمہ انجام آقلم ص ۳۸، خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۲)

۹..... ”قرآن شریف اور احادیث میں پیش گوئی ہے کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے۔“

(اربعین ص ۱۷ حصہ ۳، خزائن ج ۷ ص ۴۰۴)

۱۰..... ”اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“ (اربعین ج ۲ ص ۲۳، خزائن ج ۷ ص ۳۷۱)

۱۱..... ”صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آ گیا ہے اور دانیال نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل (خدا کی مانند) رکھا ہے۔“ (اربعین ج ۳ ص ۲۵، خزائن ج ۷ ص ۴۱۳ حاشیہ)

نوٹ! بالکل غلط ہے۔ ثابت کیجئے۔

۱۲..... ”عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے نبیوں نے بھی خواہش کی تھی۔“

(اربعین ج ۴ ص ۱۳، خزائن ج ۷ ص ۴۲۲)

۱۳..... ”حدیث بخاری میں اشارہ ہے کہ: ”اما کمکم منکم“ یعنی جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ بکلی ترک کرنا پڑے گا۔“

(اربعین ج ۳ ص ۲۸، خزائن ج ۷ ص ۴۱۷)

نوٹ: بالکل غلط ہے۔ آج تک کسی محدث نے یہ معنی نہیں کئے۔



۱۳..... ”آ نخصرت ﷺ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ

تھا اور اس کا نام کنھیا تھا۔ جس کو کرشن کہتے ہیں۔“ (چشمہ معرفت ص ۱۰، خزائن ج ۲۳ ص ۳۸۲)  
نوٹ! یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔

۱۵..... ”ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔“ (البشری ج ۲ ص ۱۰۵، تذکرہ ص ۵۹۱)

نوٹ! یہ بھی جھوٹ نکلا۔ کیونکہ مرزا قادیانی لاہور میں مرے۔

۱۶..... ”ایک میری وحی یہ ہے: ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین

الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ (براہین ص ۳۹۸) ”اس میں صاف طور پر مجھے رسول پکارا گیا ہے۔“  
(ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۸، خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶)

”حالانکہ وہاں اس آیت کو دوبارہ مسج لکھا ہے۔“

۱۷..... ”قرآن شریف میں تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ ہے۔ مکہ، مدینہ،

(ازالہ اوہام ص ۷۷، حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

قادیان۔“

۱۸..... ”آ نخصرت ﷺ سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا کہ آج

کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۵۲، خزائن ج ۳ ص ۲۲۷)

۱۹..... ”قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۳، خزائن ج ۲۲ ص ۸۷)

۲۰..... ”دیکھو زمین پر ہر روز خدا کے حکم سے ایک ساعت میں کروڑ ہا انسان مر

جاتے ہیں اور کروڑ ہا اس کے ارادہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔“ (کشتی نوح ص ۳۷، خزائن ج ۱۹ ص ۴۱)  
نوٹ! ناقابل تسلیم۔

۲۱..... ”آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔“

(حقیقت الوحی ص ۸۹، خزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

۲۲..... ”میں خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے نوروں میں

(کشتی نوح ص ۵۶، خزائن ج ۱۹ ص ۶۱)

سے آخری نور ہوں۔“

ف..... اس حوالہ میں ختم نبوت کا مکمل انکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں خود خاتم

الانبیاء بن رہا ہے۔ ”فلعنة الله على الكاذبین“

ناظرین کرام! مندرجہ بالا حوالہ جات کی روشنی میں مرزا قادیانی سو فیصد جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ لہذا ان کے کسی بھی دعویٰ کے متعلق سوچنا فضول ہے۔ اس بناء پر ہم تمام قادیانیوں کو مرزائیت سے توبہ کرنے اور صحیح اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔